

حیاتِ  
امام ابن عمر

سیرت و سوانح ❖ عصر و عہد ❖ افکار و آراء ❖ آثار

تصنیف  
ایشیخ محمد ابو زہرہ

ترجمہ و تفسیر  
پروفیسر غلام احمد قریری





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DATA ENTERED

حیات

ایم امین عمر

سیرت و سوانح • عصر و عہد • افکار و آراء • اتباع کتاب و سنت

تصنیف

ایشیخ محمد ابو زمرہ

پروفیسر لار کالج فراڈیونیورسٹی قاہرہ مصر

ترجمہ و تخریج

پروفیسر غلام احمد حریری

ایم۔ اے عربی (I) ایم۔ اے علوم اسلامیہ (I) ایم۔ او۔ ایل عربی (I)

فاضل السنۃ شرقیہ۔ فاضل درس نظامی (سابق) صدر شعبہ علوم اسلامیہ  
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور مندوب حکومت سعودیہ۔ ممبر شادری بورڈ حکومت پاکستان

شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پبلشرز

لاہور ○ حیدرآباد ○ کراچی

جملہ حقوق بحق شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ محفوظ

۲۹۷۹۹۱۲

۱۱۲

۹۵۵۵۹

شیخ نیاز احمد  
غلام علی پرنٹرز  
اشرفیہ پارک - اچھرہ - لاہور  
۱۹۸۹ء

طابع  
مطبع  
اشاعت اول

مقام اشاعت  
شیخ غلام علی اینڈ سنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ پبلشرز،  
۱۹۹ - سرگزر روڈ، چوک انارکلی، لاہور ۵۴۰۰۰/۲

## فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	نمبر شمار
۵۵	اسلامی افکار کی وحدت	۳۹	۱۴
۵۶	عصر ابن حزم میں علمی کتب کی فراوانی	۴۳	۱۵
۵۷	عصر ابن حزم میں سیاسی اضطراب	۴۴	۱۶
۵۸	انڈس کا پکٹشس ماحول	۴۴	۱۷
۵۹	ابن حزم کی نئی نثر	۴۵	۱۸
		۴۷	
۶۰	ابن حزم کی سرگزشتِ حیات ان کا دور و عصر	۴۸	۱۹
۶۱	ابن حزم کی سرگزشتِ حیات ولادت ۳۸۴-۳۵۶ھ	۴۹	۲۰
۶۲	ابن حزم کا نام و نسب	۵۰	۲۱
۶۳	تاریخ ولادت و وفات	۵۱	۲۲
۶۴	خاندانی نجابت و شرافت	۵۲	۲۳
۶۵	حسب و نسب میں اختلاف	۵۳	۲۴
۶۶	ابن حزم فارسی الاصل اموی الولاء تھے	۵۴	۲۵
۶۷	ابن حزم کے خاندان میں اسلام	۵۵	۲۶
۶۸	ابن حزم کا عہدِ طغولیت	۵۶	۲۷
۶۹	ابن حزم کا بچپن	۵۷	۲۸
	مقدمہ		
	تہیید		
۱	ابن حزم معاصر علماء کی نظریں		
۲	عداوت ابن حزم کے اباب		
۳	سلاطین و فقہاء کی کینہ توڑی		
۴	جامعیت اور وسعتِ مطالعہ		
۵	ابن حزم عالمِ نقیات کی حیثیت سے		
۶	ابن حزم کی شخصی زندگی		
۷	ابن حزم کے متباین رجحانات کے وجود و اسباب		
۸	ابن حزم کا علمی ورثہ		
۹	ابن حزم اور ظاہری فقہ		
۱۰	ابن حزم اور داؤد ظاہری کی فقہ کے مابین نقطہ امتیاز		
۱۱	ابن حزم کی فقہ کی خصوصیات		
۱۲	ابن حزم اور ان کا عصر و ماحول		
۱۳	عصر ابن حزم میں اہل اسلام اور عیسائیوں کا اختلاف		

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۲۶	سیاسیات سے کنارہ کشی	۶۷	۲۶	عبدالرحمن المستنصر تحت خلافت پر	۸۵
۲۷	ابن حزم کی حفاظت و نگہداشت	۶۷	۲۷	ابن حزم المعتضد باللہ کے وزیر کی	
۲۸	ابن حزم کی عفت و عصمت کا راز	"	"	حیثیت سے۔	۸۶
۲۹	ابن حزم آلام روزگار کی پیٹ میں	۶۹	۲۸	اندلس میں اموی خلافت کا خاتمہ	
۳۰	ابن حزم کی زندگی میں عسر و نسر کا امتزاج	۷۱	۲۹	اور ابن حزم۔	۸۷
	ابن حزم کا عبد طالب علمی	۷۲	۳۰	ابن حزم کی سیر و بیاحت	۸۹
۳۱	حدیث و فقہ کی تحصیل	"	۳۱	گردش زمان و نکبت دوراں	"
۳۲	طالب علم کا اولین محرک	۷۳	۳۲	بلاد اندلس میں ابن حزم کے ذاتی	
۳۳	واقعات پر نقد و جرح	۷۴	۳۳	مکانات	۹۰
۳۴	مزید تنقید و تبصرہ	۷۵	۳۴	سفر قیروان	"
۳۵	طلب علم کے بارے میں قطعی فیصلہ	"	۳۵	ابن حزم جزیرہ میورقہ میں۔	۹۲
۳۶	مقام بلنسیہ میں قیام اور تحصیل فقہ		۳۶	کثرتِ اسفار کی غرض و غایت	۹۳
	میں کامل توجہ	۷۶		ابن حزم کی تصانیف کا جلا یا جانا	
۳۷	ابن حزم اور فقہ امام مالک	۷۷	۳۷	اور مراجعت وطن	۹۵
۳۸	ابن حزم اور فقہ شافعی	۷۸	۳۸	ابن حزم کی اندلس نوردی	"
۳۹	مختلف علوم و فنون کی تحصیل	۷۹	۳۹	معتضد کا تصانیف ابن حزم کو	
۴۰	ابن حزم اور سند تدریس	۸۰	۴۰	نذر آتش کرنا۔	۹۶
۴۱	اندلس میں اسلامی سلطنت کا		۴۱	الوجہ منصور اور معتضد کی باہم	
	زوال	۸۱	۴۱	مشابہت و مماثلت	۹۷
۴۲	ابن حزم سکون و اطمینان کی تلاش میں	۸۲	۴۲	احراق کتب کے اسباب	۹۸
۴۳	ابن حزم بلنسیہ میں	۸۳	۴۳	ابن حزم کی تحریریں حکام کے سیاسی	
۴۴	کیا ابن حزم بنی امیہ کے حامی		۴۴	مقاصد میں حائل تھیں۔	۹۹
	تھے؟	۸۴	۴۴	عداوت ابن حزم کے دیگر اسباب	۱۰۰
۴۵	ابن حزم قید و بند میں	۸۵	۴۵	علم سے وابستگی	۱۰۱

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
	کی اہمیت و ضرورت	۱۰۲	آبائی گاؤں میں قیام اور علمی شاغل	۶۱
۱۱۷	ابن حزم کی بے مثال قوت حافظہ	۷۵	طلب معاش اور ابن حزم	
۱۱۸	حاضر جوانی اور بدیہہ گوئی	۷۶	فکر معاش سے آزادی	۶۲
۱۱۹	ابن حزم کی دقت لکھنے اور	۷۷	کثرت مال و منال	۶۳
۱۲۱	عجز و انکسار	۷۸	امام ابو حنیفہ اور ابن حزم کے مابین	۶۴
۱۲۲	طلب علم میں جدوجہد	۷۹	ممانعت	
۱۲۴	طلب علم میں اخلاص	۸۰	سلطانی ہدایا و عطایا کا شرعی حکم	۶۵
"	اعتسابِ نفس اور ابن حزم	۸۱	اور ابن حزم	
۱۲۶	آپ کی شدت و حدت کا راز	۸۲	سلطانی تحائف سے محترز رہنے	۶۶
۱۲۷	ابن حزم کی تیز طبیعی کے اسباب	۸۳	کے وجوہ و اسباب	
۱۲۸	ابن حزم کی صفا گوئی	۸۴	ابن حزم غنی تھے مگر مسرت اور	۶۷
۱۲۹	حدیثِ طبع کے ثمرات و نتائج	۸۵	عیاش نہ تھے	
۱۳۰	ابن حزم کی تیزی اور اک احساس	۸۶	ابن حزم کا علم و فضل	
۱۳۱	ابن حزم کی وفا شعاری	۸۷	ابن حزم ایک جامع عالم کی	۶۸
۱۳۳	عزتِ نفس اور ابن حزم	۸۸	حیثیت سے	
۱۳۴	خلاصہ مطالب سابقہ	۸۹	ابن حزم عالم ادیان و مملکت کی	۶۹
۱۳۵	ابن حزم کے شیوخ و اساتذہ		حیثیت سے	
"	شیوخ و اساتذہ کی کثرت	۹۰	ابن حزم کی توصیف میں معاصرین	۷۰
"	ابوالحسین الفاسی	۹۱	کے بیانات	
"	علم فقہ کی تحصیل	۹۲	ابن حزم کی وسعت علمی	۷۱
۱۳۶	درس حدیث میں عام طلبہ کے ساتھ	۹۳	فنِ خطابت اور ابن حزم	۷۲
۱۳۷	حاضری		عناصر اربعہ کا ذکر و بیان	۷۳
"	طلب حدیث سے طالب علمی کا	۹۴	ابن حزم کے اوصافِ خصوصی	
"	آغاز		طلب علم کے لیے خدا و اولاد جنتوں	۷۴

نمبر شمار	مضامین	صفحات	نمبر شمار	مضامین	صفحات
۹۵	شافعی فقہ کی طرف میلان	۱۳۸	۱۱۲	خلیفہ مہدی اور مستعین کی نبرہ آزمائی	۱۵۷
۹۶	کتب جن سے ابن حزم مستفید ہوئے۔	۱۳۹	۱۱۳	خلیفہ ہشام المودید اور مہدی کا قتل	۱۵۸
۹۷	علم ابن حزم کے مصادر ثلاثہ	۱۴۰	۱۱۴	فسادات اندلس کے اثرات ابن حزم پر	۱۵۹
۹۸	فقہ ظاہری اور ابن حزم	۱۴۱	۱۱۵	اندلس سے اموی حکومت کا خاتمہ	۱۶۰
۹۹	فقہ صحابہ و تابعین کی اہمیت	۱۴۲	۱۱۶	ترک سیاست کے اسباب اور ابن حزم۔	۱۶۱
۱۰۰	ابن حزم کی نگاہ میں۔	۱۴۳	۱۱۷	نصاری سے اختلاط کے اثرات	۱۶۲
۱۰۱	علوم عقلیہ اور ابن حزم	۱۴۴	۱۱۸	ابن حزم پر۔	۱۶۳
۱۰۲	ابن حزم کا استعراق فی العلم	۱۴۵	۱۱۹	عصر ابن حزم کے علمی احوال و کوائف	۱۶۴
۱۰۳	تحصیل علم کامل توجہ کے بغیر ممکن نہیں۔	۱۴۶	۱۲۰	اندلس میں نشات علمی کا ظہور	۱۶۵
۱۰۴	حیات ابن حزم کا تحلیل و تجزیہ	۱۴۷	۱۲۱	اموی خلفاء کی علم پروری	۱۶۶
۱۰۵	معاصر علماء سے ابن حزم کے مراسم	۱۴۸	۱۲۲	عبد الرحمن الناصر اور الحکم کی ادب پروری	۱۶۷
۱۰۶	ابن حزم کے ادبی مذاکرات	۱۴۹	۱۲۳	خلیفہ الحکم کی لائبریری	۱۶۸
۱۰۷	ابن حزم کے اعداء و انصار	۱۵۰	۱۲۴	خلاصہ کلام	۱۶۹
۱۰۸	ابن حزم کا عصر و عہد	۱۵۱	۱۲۵	عصر ابن حزم کے اجتماعی حالات	۱۷۰
۱۰۹	عصر و عہد سے اثر پذیر اور ابن حزم	۱۵۲	۱۲۶	ابن حزم کا معاشرہ	۱۷۱
۱۱۰	عصر ابن حزم کے سیاسی حالات	۱۵۳	۱۲۷	اندلس میں مختلف عناصر کا امتزاج	۱۷۲
۱۱۱	اندلس کا پُر سکون ماحول	۱۵۴	۱۲۸	باہمی امتزاج کے ثمرات و نتائج	۱۷۳
۱۱۲	اندلس میں فسادات کا دور دورہ	۱۵۵	۱۲۹	اہل اندلس کی خصوصیات	۱۷۴
۱۱۳	اندلس میں مروانی حکومت کا قیام	۱۵۶	۱۳۰	اندلس میں علوم و فنون کی فراوانی۔	۱۷۵
۱۱۴	عبد الرحمن الناصر کا عہد خلافت	۱۵۷	۱۳۱	عربی زبان ذریعہ اتحاد و یکگاہی	۱۷۶
۱۱۵	اسلامی سلطنت کے زوال کی وجہ	۱۵۸	۱۳۲	ارض اندلس کی صاحب علم خواتین۔	۱۷۷
۱۱۶	وجہ	۱۵۹	۱۳۳		۱۷۸



صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۱۹۳	(۳) الصفریہ	۱۴۹	۱۴۵	خلیفہ عبدالرحمن الناصر کا ایک واقعہ	۱۳۰
"	(۴) عجار دہ	۱۵۰	۱۴۷	اندلس میں علمی کتب کی افراط	۱۳۱
"	(۵) اباضیہ	۱۵۱	۱۴۸	قرطبہ کی تفریح گاہیں	۱۳۲
۱۹۴	خوارج ظاہری نظر و فکر کے موجد کی حیثیت سے	۱۵۲	۱۴۹	خلاصہ بیانات سابقہ	۱۳۳
۱۹۵	مسلمانوں کے اعتقادی فرقے	۱۵۳	۱۸۱	اسلامی فرقے	۱۳۴
"	موضوع زیر بحث کی اہمیت و ضرورت	۱۵۳	۱۸۲	اندلس میں اسلامی فرقے	۱۳۵
"	متنازع فیہا مسائل	۱۵۴	۱۸۳	معتزلہ اور شاعرہ اندلس میں سیاسی فرقے	۱۳۶
۱۹۶	جبریہ	۱۵۵	"	شہادت حضرت عثمان و ظہورِ فتنہ	۱۳۷
۱۹۷	جہم بن صفوان کے عقائد	۱۵۶	۱۸۴	فرقہ ہائے ثلاثہ	۱۳۸
۱۹۸	معتزلہ	۱۵۷	۱۸۵	شیعہ	۱۳۹
۱۹۹	معتزلہ کے اصولِ خمسہ	۱۵۸	"	نسب امام میں شیعہ کا باہمی اختلاف	۱۴۰
"	را۱ توحید	"	"	زیدیہ	۱۴۱
۲۰۰	(۲) عدل	"	۱۸۷	زیدیہ کے عقائد	۱۴۲
"	(۳) وعدہ و وعید	"	۱۸۷	کیسانہ	۱۴۳
"	(۴) کفر و اسلام میں دربیانہ درجہ	"	"	امامیہ اور اثنا عشریہ	۱۴۴
"	(۵) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر	"	۱۸۸	امامیہ اور اسماعیلیہ	۱۴۵
۲۰۱	معتزلہ کا طرز استدلال	۱۵۹	۱۸۹	اسماعیلیہ کی تعلیمات	۱۴۶
"	معتزلہ فلاسفہ اسلام تھے	۱۶۰	۱۹۱	خوارج	۱۴۷
۲۰۲	تپہ نوح اسلام اور معتزلہ	۱۶۱	"	خوارج کا آغاز ظہور اور ان کے معتقدات	۱۴۸
"	شاعرہ و ماتریدیہ	۱۶۲	"	(۱) ازرقہ	۱۴۹
۲۰۳	ابو منصور ماتریدی	۱۶۳	"	(۲) النجدات	۱۵۰
۲۰۴	امام اشعری	۱۶۴	۱۹۲		

نمبر شمار	مضامین	صفحات	نمبر شمار	مضامین	صفحات
۱۶۵	ابن حزم کا عام عقلی منہج و مسلک	۲۰۳	۱۶۵	امام اشعری کے عقائد	۲۰۳
"	ابن حزم کا عقلی منہج	۱۸۰	۱۶۶	اشاعرہ کا مسلک اعتدال پر مبنی ہے	۲۰۶
"	بدیہیات اور بنی نوع انسان	۱۸۱	۱۶۷	امام اشعری کے عقلی طرز استدلال کے اسباب	۲۰۹
۲۲۵	بدیہیات معیار حق و صدق سمجھنے کے لحاظ سے	۱۸۲	۱۶۸	امام اشعری کی قدر و منزلت	۲۱۰
"	بدیہیات سے انکار کے وجوہ و اسباب	۱۸۳	۱۶۹	محدث ابن حزم اور امام اشعری	"
۲۲۷	حواس سے غلطی کا صدور	۱۸۴	۱۷۰	مرجئہ کی دو قسمیں	۲۱۱
۲۲۸	حقائق الاشیاء اور ابن حزم	۱۸۵	"	(۱) مرجئہ البدعت	"
۲۲۹	طبائع و عادات کا ناقابل تبدیل ہونا	۱۸۶	۲۱۲	(۲) مرجئہ السنن	"
۲۳۰	طبائع الاشیاء استقرار سے معلوم ہوتے ہیں۔	۱۸۷	"	خاتمہ	"
۲۳۱	ابن حزم کی تاریخی تحقیقات	۱۸۸	۱۷۱	حیات ابن حزم کے مختلف مراحل و منازل	۲۱۳
"	عقلی استدلال کے مواقع	۱۸۹	"	ابن حزم کی زندہ جاوید یادگار	"
۲۳۳	اخلاق و نفسیات میں ابن حزم کی ماہرانہ بصیرت	۱۹۰	۲۱۴	ابن حزم کا انصاف الی العلم	"
۲۳۵	رسالۃ الاخلاق	۱۹۱	"	عصر ابن حزم کی خصوصیات	۲۱۷
"	فضائل اور سوائل کے اصول	۱۹۲	۲۱۵	حضرت امام کی فقہ اور ان کے افکار و آراء	"
۲۳۶	ابن حزم یونانی افکار کے ناقل محض نہ تھے۔	۱۹۳	۲۱۶	علوم ابن حزم	"
۲۳۷	نصوص کتاب سنت سے عقلی احکام کی تائید	۱۹۴	"	ابن حزم کی جامعیت	"
۲۳۸	حکام یونان و ایران و اسلام سے کسب فیض	۱۹۵	۲۱۹	ابن حزم کی تصانیف	"
۲۳۹			۲۲۰	تصانیف ابن حزم کی قدر و قیمت	۲۱۹
			۲۲۱	علم الکلام تاریخ و دیگر موضوعات	۲۲۰
			۲۲۱	ظواہر نصوص سے احتجاج اور ابن حزم	۲۲۱

صفحہ شمار	مضامین	نمبر شمار	صفحہ شمار	مضامین	نمبر شمار
۲۶۱	ابن حزم کا اسلامی مسلک و منہاج	۲۱۶	۲۴۰	تجربات زندگی سے استفادہ	۱۹۶
"	اسلام کے اساسی معتقدات کے	۲۱۷	۲۴۱	ازالہ حکم و غم	۱۹۷
۲۶۲	فہم ادراک کے لئے عقل کی ضرورت	۲۱۸	۲۴۲	یونانی فلسفی ابی یقور اور ابن حزم	۱۹۸
۲۶۳	ظواہر نصوص پر اعتماد	۲۱۹	۲۴۳	خیر و شر کا معیار	۱۹۹
۲۶۴	حریت تقلید اور ابن حزم	۲۲۰	"	ابا ابن حزم کے اقوال باہم	۲۰۰
۲۶۵	اعتقادی مسائل میں اخبار احاد	۲۲۱	۲۴۴	متعارض ہیں؟	۲۰۱
۲۶۶	سے احتجاج	۲۲۲	۲۴۵	لوگوں کی مدح و مذمت کے اثرات	۲۰۲
۲۶۷	احادیث احاد علم اور عمل دونوں کی	۲۲۳	۲۴۶	اور ابن حزم	۲۰۳
۲۶۸	موجب ہیں	۲۲۴	۲۴۷	پابندی مذہب و مسلک	۲۰۴
۲۶۹	علماء کے دو فریق	۲۲۵	۲۴۸	دین داری اور بے دینی	۲۰۵
۲۷۰	جدل و مناظرہ اور ابن حزم	۲۲۶	۲۴۹	طوق الحمامہ	۲۰۶
"	جدل و مناظرہ کا باہمی فرق	۲۲۷	۲۵۰	طوق الحمامہ کس زمانہ کی تصنیف ہے	۲۰۷
"	جدل محمود	۲۲۸	۲۵۱	طوق الحمامہ کے مصادر اور اسلوب	۲۰۸
۲۷۱	جدل محمود کے وجوب کے دلائل	۲۲۹	۲۵۲	بیان	۲۰۹
۲۷۲	جدل کی ضرورت و اہمیت کے	۲۳۰	"	محبت کی ماہیت و حقیقت	۲۱۰
۲۷۳	اسباب	۲۳۱	۲۵۳	اعتراض و جواب	۲۱۱
۲۷۴	ابن حزم کا طرز جدل و بحث	۲۳۲	۲۵۴	طوق الحمامہ میں استقراء و تتبع	۲۱۲
"	تعصب اجتناب اور ابن حزم کا	۲۳۳	۲۵۵	طوق الحمامہ کی خصوصیات	۲۱۳
۲۷۵	اپنے مسلک پر اذعان و ایقان	۲۳۴	۲۵۶	محبت کے انواع و مراتب	۲۱۴
۲۷۶	اپنے مسلک سے وابستگی	۲۳۵	۲۵۷	طوق الحمامہ کی روشنی میں	۲۱۵
۲۷۷	غیر مذاہب سے ابن حزم کے	۲۳۶	۲۵۸	محبت و شہوت کے مابین فرق و امتیاز	۲۱۶
۲۷۸	مناظرات	۲۳۷	۲۵۹	عصیت مرد و عورت کی تعریف	۲۱۷
۲۷۹	دیگر مذاہب سے مناظرات اور	۲۳۸	۲۶۰	عورت کیونکر پاک و امن رہ سکتی ہے؟	۲۱۸
	ان کی خصوصیات			طوق الحمامہ کے مندرجات	۲۱۹

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ
۳۰۱	اعتقادی مسائل اور ابن حزم	۲۸۰	کلامی فرقوں سے ابن حزم کے مناظرات	۲۳۱
	اعتقادی مسائل	۲۴۸	معاصر علماء سے مناظرات اور ان کا	۲۳۲
۳۰۲	عقیدہ توحید	۲۴۹	طرز و انداز	۲۳۳
"	توحید کی تین شاخیں	۲۵۰	احتجاج بالرائی کے موضوع پر ابن حزم	۲۳۳
۳۰۴	اختلافی مباحث	۲۵۱	کا ایک مناظرہ	۲۳۳
۳۰۵	توحید فی العبادت	۲۸۷	رائے کی مذمت پر دلائل	۲۳۴
"	انبیاء کے سوا کوئی شخص مقدس نہیں	۲۵۲	ابن حزم کی تصانیف میں نازیبا	۲۳۵
۳۰۶	معجزہ اور کرامت میں فرق	۲۵۳	الفاظ کا استعمال	۲۳۵
۳۰۷	سنن الہیہ ناقابل تبدیل ہیں	۲۵۴	ابن حزم کا طرز نگارش	۲۳۶
۳۰۸	بعد از وفات انبیاء سے خارق عادت	۲۵۵	تکرار و طوالت اور ابن حزم	۲۳۶
	کا ظہور نہیں ہوتا	"	اسلوب تحریر کی دو قسمیں	۲۳۷
۳۰۹	اشخاص و رجال کو تقرب خداوندی	۲۵۶	ابن حزم کی نثر فنی	۲۳۸
	کا وسیلہ بنانا شرک ہے	"	نثر کا نمونہ	۲۳۹
۳۱۰	ابن تیمیہ اور ابن حزم	۲۵۷	دوسرا نمونہ	۲۴۰
۳۱۱	ابن تیمیہ اور ابن حزم میں اختلاف	۲۵۸	ابن حزم کے اشعار	۲۴۱
	غیر اللہ کے احکام کی اطاعت ہی	۲۵۹	اسلوب ابن حزم کی وضاحت و	۲۴۲
۳۱۳	عبادت غیر اللہ ہے۔	۲۹۳	صراحت	۲۴۲
"	ابن حزم اور تصوف	۲۶۰	ابن حزم کی تلخ نوائی اور اس کے سبب	۲۴۳
۳۱۵	ابن تیمیہ اور صوفیہ	۲۶۱	دوسرا سبب	۲۴۴
۳۱۶	وحدت ذات و صفات	"	تیسرا سبب	۲۴۵
"	وحدت ذات و صفات	۲۶۲	ابن حزم کے افکار و آراء	۲۴۵
۳۱۷	خدا کی تجسیم اور ابن حزم	۲۶۳	ابن حزم کی جامعیت	۲۴۶
۳۱۸	لفظ صفات کا استعمال	۲۶۴	منطق و فلسفہ اور ابن حزم	۲۴۷
۳۲۰	سورہ اخلاص کا صفت الرحمن ہونا	۲۶۵	اختلافی مباحث	۲۴۸

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۳۴۱	ابن حزم کے سیاسی افکار	۳۲۰	آیات قرآنیہ سے استدلال	۲۶۶
"	ابن حزم اور سیاسیات	۳۲۲	موجہ تشبیہ الفاظ	۲۶۷
۳۴۳	مرتبیب کیا اثر اور ابن حزم		متشابه الفاظ کے بارے میں ابن حزم کی رائے۔	۲۶۸
"	مرتبیب کیا اثر کے بارے میں علماء کے نظریات۔	۲۸۳	۳۲۴	
	مرتبیب کیا اثر کے بارے میں ابن حزم کا نقطہ نظر۔	۲۸۴	۳۲۵	۲۶۹
۳۴۴	آیات قرآنیہ کی جمع و تطبیق	۲۸۵	۳۲۶	۲۷۰
۳۴۵	مسئلہ خلافت اور ابن حزم		۳۲۷	۲۷۱
۳۴۶	ابن حزم کا نظریہ خلافت اور اربعہ میں منحصر ہے۔	۲۸۶	۳۲۸	۲۷۲
	(۱) وجوب خلافت ابن حزم کی نگاہ میں	۲۸۷	۳۲۹	۲۷۳
"	(۲) خلیفہ کا قرشی ہونا	۲۸۸	۳۳۰	۲۷۴
۳۴۸	شروط خلافت	۲۸۹	۳۳۱	۲۷۵
۳۴۹	ابن حزم اجماعی عقیدہ کے حق میں	۲۹۰	۳۳۲	۲۷۶
۳۵۰	انقلاب خلافت اور ابن حزم	۲۹۱	۳۳۳	۲۷۷
۳۵۱	انقلاب خلافت کی وجہ ثانی	۲۹۲	۳۳۴	۲۷۸
۳۵۲	انقلاب خلافت کا تیسرا طریق	۲۹۳	۳۳۵	۲۷۹
"	افکار ابن حزم پر تبصرہ	۲۹۴	۳۳۶	۲۸۰
۳۵۳	امر ثانی متعلق بہ انقلاب خلافت	۲۹۵	۳۳۷	۲۸۱
"	جب دو شخص مدعی خلافت ہوں	۲۹۶	۳۳۸	
۳۵۴	تخصیص مطالب	۲۹۷	۳۳۹	
۳۵۵	انقلاب خلافت میں بیعت کی اہمیت	۲۹۸		

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۲۹۹	بیعت میں اکثر فضلاء کے امت کی شرکت کافی ہے۔	۳۵۹	۳۴۴	فقہ ظاہری کا ظہور اور سرزمین اندلس کی طرف انتقال	۳۴۴
۳۰۰	ابن حزم کی رائے پر تبصرہ	۳۴۰	۳۱۵	داؤد بن علی	۳۱۵
۳۰۱	ولی عہد نامزد کرنے کے نقصانات	۳۴۱	۳۱۶	داؤد بن علی کے اخلاق و عادات	۳۴۱
۳۰۲	انفقا و خلافت سے متعلق ابن حزم کا دوسرا نظریہ	۳۴۲	۳۱۷	فقہ شافعی سے نصوص شرعیہ کی طرف رجوع	۳۴۲
	صحابہ میں فرق مراتب	۳۴۳	۳۱۸	داؤد بن علی سے عدم روایت کے اسباب	۳۴۳
۳۰۳	ناصبیت کا اہتمام اور ابن حزم	۳۴۴	۳۱۹	داؤد بن علی اور شیخ ابوسعید البرزعی	۳۴۴
۳۰۴	افضل الامت کون ہے؟	۳۴۵	۳۲۰	کیا اجماع کے خلاف داؤد بن علی کا قول معتبر ہے یا نہیں؟	۳۴۵
۳۰۵	افضلیت کا معیار	۳۴۶	۳۲۱	داؤد بن علی کی تصانیف	۳۴۶
۳۰۶	انبیاء کے بعد ازواج النبی کا مرتبہ و مقام۔	۳۴۷	۳۲۲	ظاہری فقہ اندلس میں	۳۴۷
۳۰۷	تفضیل ازواج البتی میں ابن حزم سے اختلاف	۳۴۸	۳۲۳	ظاہری فقہ کیونکر اندلس پہنچی؟	۳۴۸
۳۰۸	حضرت ابو یوسف افضل الامت تھے۔	۳۴۹	۳۲۴	بقی بن مخلد	۳۴۹
۳۰۹	حضرت ابو یوسف و علیؑ کے عصر و عہد کا موازنہ۔	۳۵۰	۳۲۵	ابن وضاح	۳۵۰
۳۱۰	صحابہ کرام کی افضلیت کی ترتیب	۳۵۱	۳۲۶	قاسم بن اَبِغ	۳۵۱
۳۱۱	ابن حزم ناصبی نہ تھے۔	۳۵۲	۳۲۸	اندلس میں ظاہری فقہ کی تخم ریزی	۳۵۲
	فقہ ابن حزم	۳۵۳	۳۲۹	منذ بن سعید البلوٹی	۳۵۳
۳۱۲	ابن حزم کے امتیازی افکار	۳۵۴	۳۳۰	اندلس میں فقہ ظاہری کے اعوان	۳۵۴
۳۱۳	ابن حزم کا طریق استنباط ائمہ اربعہ سے مختلف ہے۔	۳۵۵	۳۳۱	والنصار	۳۵۵
۳۱۴	ظواہر نصوص سے احتجاج	۳۵۶	۳۳۲	ظاہری فقہ اور حدیث نبوی کا رابطہ	۳۵۶
			۳۳۳	ابن حزم کے فقہی اصول	۳۵۷

نمبر شمار	مضامین	صفحات	نمبر شمار	مضامین	صفحات
۳۳۱	اجتهاد و تقلید	۳۹۲	۳۵۰	بعض انواع بیان کا مذکور نہ ہونا	۴۱۲
۳۳۲	حرمت تقلید کے دلائل	"	۳۵۱	تاخیر بیان میں علماء کا اختلاف	۴۱۳
۳۳۳	حرمت تقلید پر اجماع صحابہ	۳۹۴	۳۵۲	تقدیم و تاخیر بیان کے جواز کے دلائل	
۳۳۴	ائمہ اربعہ کی نسبت صحابہ کبار تقلید کے زیادہ مستحق تھے۔	۳۹۵	۳۵۳	نصوص مخصوصہ کے اقسام	۴۱۵
۳۳۵	کیا عامی شخص تقلید کر سکتا ہے؟	"	۳۵۴	قرآن میں اجمال و تفصیل کے مواقع	۴۱۶
۳۳۶	ابن حزم کے نظریہ پر تنقید	۳۹۶	۳۵۵	ظاہر قرآن سے احتجاج	"
۳۳۷	عامی شخص کے مراتب	۳۹۸	۳۵۶	قرآن و حدیث کا باہمی رابطہ و تعلق	۴۱۸
۳۳۸	فقہ ظاہر کی خصوصیات	۴۰۰		حدیث نبوی کی حجیت و اہمیت	۴۱۹
۳۳۹	قرآن کریم فقہ اسلامی کے مصادر ابن حزم کی رائے میں۔		۳۵۸	دین اسلام میں حدیث نبوی کا مقام	"
۳۴۰	فقہی مصادر کی تشریح و توضیح	۴۰۲	۳۵۹	قرآن و حدیث و جوہ اطاعت میں مساوی ہیں	۴۲۰
۳۴۱	بیان قرآن	۴۰۳		حدیث نبوی کے اقسام	۴۲۱
۳۴۲	(۱) وہ آیات قرآنیہ جو محتاج تشریح نہیں	۴۰۴	۳۶۰	حدیث کے مختلف اقسام کا شرعی حکم	۴۲۲
۳۴۳	قرآن کا بذات خود واضح ہونا	۴۰۵	۳۶۱	وجوب کا اثبات صرف اقوال النبی سے ہوتا ہے۔	۴۲۳
۳۴۴	(۲) آیات قرآنیہ کی دوسری قسم	۴۰۶	۳۶۲	روایت کے اعتبار سے اقسام حدیث۔	۴۲۴
۳۴۵	آیات قرآنیہ کی تیسری قسم		۳۶۳	اجبار متواترہ علم یقینی کی موجب ہیں۔	۴۲۵
۳۴۶	قرآن کریم کی صراحت و وضاحت کے درجات	۴۰۸	۳۶۴	احادیث متواترہ کی تعریف میں اختلاف	۴۲۶
۳۴۷	بیان کے انواع و اقسام	۴۰۹			
۳۴۸	نسخ و تخصیص کے مابین فرق و امتیاز	۴۱۰	۳۶۵		
۳۴۹	انواع بیان کی تیسری قسم تاکید	۴۱۱			

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۳۶۶	قرآن و حدیث میں علمِ تعارض	۲۲۶	۳۸۱	خبر متواتر کی تعریف ابن حزم کی نگاہ میں۔	۲۲۷
۳۶۷	کتابِ سنت میں عدم تعارض	۲۲۷	۳۸۲	ابن حزم کا نظریہ ان کے اپنے الفاظ میں۔	۲۲۸
۳۶۸	تعارضِ نصوص کے ضمن میں علماء کے اقوال اور ابن حزم	۲۲۸	۳۸۳	ابن حزم کے نقطہ نگاہ کی تلخیص	۲۲۹
۳۶۹	طرق جمع و تطبیق ابن حزم کی نگاہ میں	۲۲۹	۳۸۴	اجباراً حاد	۲۳۰
۳۷۰	جمع و توفیق کی دوسری وجہ	۲۳۰	۳۸۵	اجباراً حاد کے ضمن میں ابن حزم کے دلائل۔	۲۳۱
۳۷۱	جمع و توفیق کی تیسری وجہ	۲۳۱	۳۸۶	مخالفین کے اقوال کی تردید	۲۳۲
۳۷۲	جمع و تطبیق کی وجہ چہارم	۲۳۲	۳۸۷	شہادتِ روایت میں فرق و امتیاز	۲۳۳
۳۷۳	نصّ جدید پر وجوبِ عمل	۲۳۳	۳۸۸	ابن حزم کی رائے میں راوی کے شرائط	۲۳۴
۳۷۴	بنا بر تعارضِ نصوص ساقط العمل نہیں ہوتیں۔	۲۳۴	۳۸۹	حدیثِ مرسل سے عدم احتجاج	۲۳۵
۳۷۵	امام شافعی اور ابن حزم کا مخاطب و توافق	۲۳۵	۳۹۰	احتجاج بالمراسیل کے شرائط	۲۳۶
۳۷۶	معرفتِ ناسخ و منسوخ کی اہمیت	۲۳۶	۳۹۱	ابن حزم قول صحابی السنۃ کذا کو حدیث نہیں سمجھتے	۲۳۷
۳۷۷	بیان تنازع کے اقسام	۲۳۷	۳۹۲	ابن حزم کا ظاہری الروایت ہونا	۲۳۸
۳۷۸	نسخ کن نصوص میں جاری ہوتا ہے	۲۳۸	۳۹۳	قرآن و حدیث کا باہمی ربط و تعلق	۲۳۹
۳۷۹	نسخ کہاں جاری نہیں ہوتا؟	۲۳۹	۳۹۴	وجوبِ اطاعت کے اعتبار سے قرآن و حدیث کی مساوات	۲۴۰
۳۸۰	ابن حزم کے نظریہ پر تنقید	۲۴۰	۳۹۵	حدیث سے نسخ قرآن اور قرآن سے نسخ حدیث	۲۴۱
۳۸۱	تیسرا نظریہ	۲۴۱	۳۹۶	نسخ کے بارے میں امام شافعی اور ابن حزم کا اختلاف	۲۴۲
۳۸۲	نسخ کے بارے میں امام شافعی اور ابن حزم کا اختلاف	۲۴۲	۳۹۷	امام شافعی کے نظریہ کی توضیح	۲۴۳
۳۸۳	امام شافعی کے نظریہ کی توضیح	۲۴۳	۳۹۸	وہ حالات جن میں حدیثِ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مخصص قرآن ہو سکتی ہے۔	۲۴۴



مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ
۲۹۰	۲۱۵	۲۹۹	۲۶۸
احادیث سے تادیب کی عاقبت		ابن حزم کے اعتراض کی ناموزونیت	
۲۹۱	۲۱۶	۳۰۰	۲۶۹
وجوب امر بلا تاخیر کے فروعات و ثمرات		نسخ صرف عہد نبوت میں وقوع پذیر ہوتا ہے	
		۳۰۱	
اجماع		منسوخ پر عمل کرنے کے بارے میں تین نظریات	
۲۹۲	۲۱۷	۳۰۲	۲۶۱
ظاہری فقہ کے ارکان		انقطاع وحی کے بعد نسخ کا امکان نہیں	
۲۹۳	۲۱۸	۳۰۳	۲۶۲
اجماع کی حقیقت اور اس کے شرائط		عام و خاص نصوص	
۲۹۴	۲۱۹	۳۰۴	۲۶۳
امام شافعی اور اجماع		ظاہری فقہ کی خصوصیات	
۲۹۵	۲۲۰	۳۰۵	۲۶۴
اجماع صحابہ		اقسام کلام	
۲۹۶	۲۲۱	۳۰۶	"
واؤ و ظاہری کے قول کی توجیہ		لفظ مشترک کی مثالیں	
۲۹۷	۲۲۲	۳۰۷	۲۶۵
اجماع کا تصور نص کے بغیر ممکن نہیں		کلام کی چوتھی قسم	
۲۹۸	۲۲۳	۳۰۸	۲۶۶
ابن حزم کے دلائل		آیات قرآنیہ سے مجاز کی مثالیں	
۲۹۹	۲۲۴	۳۰۹	۲۶۷
مزید دلائل		دلیل عام کے بارے میں علماء کا اختلاف	
۵۰۰	۲۲۵	۳۱۰	۲۶۸
اپنے نظریہ کی دلیل میں اجتماعی و نھیاتی دلائل		اوامر و نواہی	
۵۰۱		۳۱۱	
اہل مدینہ کا اجماع		اوامر و نواہی کا ظاہری مفہوم	
۵۰۲	۲۲۶	۳۱۲	۲۶۹
اجماع اہل مدینہ کی عدم حجیت		ابن حزم کے دلائل	
۵۰۳	۲۲۷	۳۱۳	۲۷۰
اجماع اہل مدینہ میں امام شافعی اور ابن حزم میں اتحاد و اتفاق		اہل ظاہر اور جمہور فقہاء کے مابین نقطہ اختلاف	
۵۰۴	۲۲۸	۳۱۴	۲۷۱
اجماع کے شرائط		وہ امور جو ابن حزم کی نگاہ میں واجب ہیں	
۵۰۵	۲۲۹	۳۱۵	"
چوتھا مصدر استنباط یعنی دلیل دلیل اور قیاس میں فرق		انفاظ کا ظاہری مفہوم اور ابن حزم	
۵۰۶	۲۳۰	۳۱۶	۲۷۲
دلیل کے اقسام سب سے		نص یا اجماع کی بنا پر ظاہری مفہوم کو ترک کیا جاتا ہے	
۵۰۷	۲۳۱		۲۷۳
دلیل کی دوسری قسم			
۵۰۸	۲۳۲		۲۷۴
دلیل کے دیگر اقسام			

نمبر شمار	مضامین	صفحات	نمبر شمار	مضامین	صفحات
۴۳۳	نص و دلیل میں فرق	۵۰۹	۵۲۴	فقہ میں اجتہاد بالرائی کا مقام	
۴۳۴	دلائل ماخوذہ از اجماع کے اقسام	۵۱۰		اور ابن حزم	
۴۳۵	۱) مساوات اہل اسلام	"	۴۵۲	دین اسلام میں اجتہاد بالرائی کا مقام	
۴۳۶	اجماع پر مبنی دلائل کی دوسری قسم	۵۱۲	۴۵۳	ابطال الرئی کے دلائل	
۴۳۷	تیسری قسم مبنی بر اجماع	"	۴۵۴	جو از استدلال بالرائی کے دلائل اور	
۴۳۸	اقل ما قیل	۵۱۴	۵۳۲	ان کا ابطال	
۴۳۹	استصحاب و الحال	۵۱۵	۵۳۴	حدیث معاذ پر نقد و نظر	
۴۴۰	استصحاب الحال سے متعلق ائمہ	۵۱۵	"	حدیث معاذ کی صحت یا عدم صحت	
	کے افکار و آراء		۵۳۶	حدیث معاذ کی توثیق و تائید	
۴۴۱	ابن حزم کی تعریف استصحاب	۵۱۶	۵۴۰	مدوح و مذموم رائے میں فرق و امتیاز	
۴۴۲	ابن حزم اور دیگر فقہاء کے نظریات	۵۱۷	۵۴۱	رائے کی کوئی قسم مدوح نہیں	
۴۴۳	خلاصہ بحث	۵۱۸	۵۴۲	ابن حزم کے نظریہ پر نقد و تبصرہ	
۴۴۴	استصحاب کی چند مثالیں	۵۱۹	۵۴۴	تعلیل نصوص	
۴۴۵	استصحاب سے وجوب اخذ و			نصوص سے استخراج عکس	
	احتجاج کے دلائل		۵۴۵	ظاہر یہ کا زاویہ نگاہ	
۴۴۶	استصحاب سے جمیع احوال میں احتجاج	۵۲۱	۵۴۶	ظاہر یہ کے نظریہ پر نقد و نظر	
۴۴۷	دیگر نظریات پر نقد و جرح	۵۲۲		جمہور فقہاء اور اہل ظاہر کے درمیان	
۴۴۸	استصحاب پر مبنی مسائل	۵۲۵	۵۴۷	نقطہ اختلاف	
۴۴۹	بیع و شرا و نظریہ استصحاب	۵۲۶	۵۴۸	تعلیل نصوص کی اہمیت و ضرورت	
۴۵۰	استصحاب کے نتائج و عواقب		"	تعلیل نصوص کے قرآنی دلائل	
	ابن حزم کی نگاہ میں		۵۵۰	تعلیل نصوص کی تائید میں حدیث نبویہ	
۴۵۱	فقہاء کے ذکر کردہ دلائل اور		۵۵۱	نصوص تعبیدی و غیر تعبیدی	
	ابن حزم		"	فقہاء کے دلائل کی اجمالی تردید	
			۵۵۲	تفصیلی تردید فقہاء	

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۵۷۶	علم شریعت محتاج بیان نہیں۔	۴۹۱	۵۵۴	ابن حزم کا نظریہ تنقید و تبصرہ کی نگاہ میں	۴۷۱
۵۷۷	خلاصہ بحث و نظر	۴۹۲	۵۵۵	ابن حزم کی ذکر کردہ وجہ ثانی	۴۷۲
۵۷۹	<u>ابطال استحسان</u>		۵۵۶	ابن حزم کی ذکر کردہ وجہ ثالث	۴۷۳
"	استحسان میں ائمہ کا اختلاف	۴۹۳	"	تردید فقہاء کی چوتھی وجہ	۴۷۴
۵۸۰	استحسان کی حقیقت	۴۹۴	۵۵۹	ابن حزم جاوہ صواب پر نہ تھے	۴۷۵
۵۸۱	استحسان اور ابن حزم	۴۹۵		تعلیل نصوص کے بطلان پر ابن حزم	۴۷۶
۵۸۲	استحسان کے بارے میں ابن حزم کے نظریہ پر نقد و تبصرہ	۴۹۶	"	کے دلائل	
	تبدل احوال سے تبدل احکام	۴۹۷	۵۶۰	ابن حزم کے دلائل کی تردید	۴۷۷
۵۸۳	نظریہ ابن حزم کی تلخیص	۴۹۸	"	فریقین میں نکتہ فرق و امتیاز	۴۷۸
۵۸۴	<u>الذرائع</u>		۵۶۲	فقہ اسلامی میں تعلیل نصوص کی اہمیت	۴۷۹
	ذرائع کی حقیقت	۴۹۹	"	<u>قیاس</u>	
۵۸۵	ذرائع کے قاعدہ پر ابن حزم کی تنقید	۵۰۰	۵۶۵	حقیقت قیاس	۴۸۰
	مشتبہات کی عدم حرمت ابن حزم کی نگاہ میں۔	۵۰۱	"	قیاس میں بناء اختلاف	۴۸۱
۵۸۹	ابن حزم کے نظریہ کی توضیح ایک مثال سے	۵۰۲	۵۶۶	قیاس سے متعلقہ مضامین کا مختصر جائزہ	۴۸۲
	عدم حرمت مشتبہات میں ابن حزم کے دلائل	۵۰۳	۵۶۹	ابطال قیاس کے دلائل ابن حزم کی نگاہ میں۔	۴۸۳
۵۹۱	مخالفین کے نظریہ پر تنقید۔	۵۰۴	۵۷۱	احکام شریعت کی تقسیم	۴۸۴
۵۹۲	ابن حزم کے نظریہ پر نقد و جرح	۵۰۵	۵۷۲	کوئی حادثہ نص سے خالی نہیں۔	۴۸۵
۵۹۲	فقہاء پر ابن حزم کی تنقید شدید	۵۰۶	۵۷۳	ابطال قیاس عہد نبوی میں	۴۸۶
۵۹۶	ابطال رائے میں ابن حزم کی خصوصیات	۵۰۷		آیت قرآنی سے اثبات قیاس	۴۸۷
	فقہ ظاہری میں اقوال صحابہ کا مقام		۵۷۴	"فَاعْتَبِرُوا" کے معنی کی بحث	۴۸۸
۵۹۸	اقوال صحابہ کی عدم حجیت	۵۰۸	۵۷۵	قیاس کے ضمن میں ابن حزم کے نقطہ نظر کی وضاحت	۴۸۹
				بیان احکام کے اقسام	۴۹۰

نمبر شمارہ	مضامین	صفحات	نمبر شمارہ	مضامین	صفحات
۵۰۹	تصنیفات ابن حزم میں اقوال صحابہ کی کثرت کے وجوہ و اسباب	۵۹۸	۵۳۰	عقد نکاح کے وقت سلامت از عیوب کی شرط	۶۲۵
۵۱۰	فقہ ظاہری کے بعض مسائل	۶۰۱	۵۳۱	غیوبت زوج کی بنا پر تفریق زوجین	۶۲۶
۵۱۱	فقہ ظاہری میں فرضیت نکاح	۶۰۳	۵۳۲	مفقود الجیز کے بارے میں ائمہ اربعہ کے مذاہب	۶۲۷
۵۱۲	فرضیت نکاح میں علماء کا اختلاف	۶۰۴	۵۳۳	عدم انفاق کی بنا پر تفریق زوجین	۶۲۸
۵۱۳	ابن حزم کے نقطہ نظر کی توضیح	۶۰۵	۵۳۴	بیوی کا اپنے نام و نند پر خرچ کرنا	۶۳۱
۵۱۴	عورتوں پر نکاح کی عدم فرضیت	۶۰۶	۵۳۵	فقہ ابن حزم کے نمونے	//
۵۱۵	مخالفین کے دلائل کا ابطال	۶۰۷	۵۳۶	فقہ ظاہری اور مرض الموت کا مسئلہ	۶۳۳
۵۱۶	چار بیویوں سے نکاح کرنے اور لونڈیاں رکھنے میں حرم و عبد کی مساوات	۶۰۸	۵۳۷	مرض الموت کے تبرعات میں ائمہ کا اختلاف	//
۵۱۷	جواز تسری میں حرم و عبد کی مساوات	۶۱۰	۵۳۸	مرض الموت کے بارے میں	۶۳۴
۵۱۸	نظریہ ابن حزم کی صداقت	۶۱۲	۵۳۹	احکامات کے نظریات	//
۵۱۹	بیوی کی علیحدگی کے بعد اس کی بیٹی	۶۱۳	۵۴۰	مرض الموت میں طلاق	۶۳۵
۵۲۰	ابن حزم اور فقہاء کے مابین نقطہ اختلاف	۶۱۴	۵۴۱	مرض الموت کے بارے میں	۶۳۶
۵۲۱	مخالفین کے دلائل اور ان پر تنقید	۶۱۵	۵۴۲	ابن حزم کا زاویہ نگاہ	۶۳۷
۵۲۲	نظریہ ابن حزم پر ایک تنقیدی نگاہ	۶۱۷	۵۴۳	مسئلہ زیر نظر میں ابن حزم کے دلائل	۶۳۸
۵۲۳	قاضی کے حکم سے زوجین میں تفریق	۶۱۸	۵۴۴	مخالفین کے دلائل پر نقد و نظر	۶۳۹
۵۲۴	مسئلہ زیر تبصرہ میں ائمہ کے مسالک	۶۱۹	۵۴۵	تحدید تصرفات کی تردید	۶۴۰
۵۲۵	مالکیہ حنبلیہ اور شافعیہ کے نظریات	۶۲۰	۵۴۶	ابن حزم کے نقطہ نظر پر بحث و نقد	۶۴۱
۵۲۶	تفریق زوجین میں ظاہریہ کا مسئلہ	۶۲۱	۵۴۷	مخالفین کے نقطہ نظر پر ابن حزم کے اعتراضات	۶۴۲
۵۲۷	مخالفین کے دلائل کی تضعیف	۶۲۲	۵۴۸	ابن حزم کے مناقضات اربعہ کا جواب	۶۴۳
۵۲۸	عدم تفریق کے اثبات میں ابن حزم کے دلائل	۶۲۳	۵۴۹	منع تصرفات پر ابن حزم کے دیگر اعتراضات	۶۴۴
۵۲۹	موجبات تفریق کی تشریح و توضیح	۶۲۴			

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
	وصیت کے مسئلہ میں اختلاف کا	۴۲۵	ابن حزم کے اعتراض کا جواب	۵۲۷
۴۲۲	نقطہ نگاہ	۴۲۶	منع تصرفات میں فقہاء کے دلائل	۵۲۸
۴۲۳	امام مالک کا زاویہ نگاہ	۵۴۵	تخصیص ممالک فریقین	۵۲۱
"	امام شافعی کا طرز و منہاج	۵۴۶	مرضی مرض الموت کی طلاق	۵۵۰
۴۲۵	خاتیبلہ کا طرز فکر و نظر	۵۴۷	طلاق مرضی میں ائمہ دین کے	۵۵۱
۴۲۶	نظریہ ابن حزم کی تشریح و توضیح	۵۴۸	مذہب و مالک	
۴۲۷	انکار ائمہ پر نقد و نظر	۵۴۹	ابن حزم کے نقطہ نگاہ کی وضاحت	۵۵۲
۴۲۸	امام مالک پر ابن حزم کے اعتراضات	۵۵۰	وصایا ترکات و مورثیت	
۴۲۹	نظریہ ابن حزم پر ایک نظر	۵۵۱	وصایا	۵۵۳
۴۳۰	ورشاد میں ترکہ کی تقسیم	۵۵۲	فرصیت و وصیت	۵۵۲
"	ذوی الارحام کی عدم تورث	۵۵۳	مسئلہ وصیت میں دلائل فقہاء پر	۵۵۵
۴۳۱	اختلافی مسائل	۵۵۴	ابن حزم کی تنقید ابن حزم کے دلائل	
"	مسئلہ عرادیہ	۵۵۵	غیر وارث اقارب کے لئے	۵۵۶
۴۳۲	مسئلہ عرادیہ میں ابن حزم کا نقطہ نگاہ	۵۵۶	فرصیت و وصیت	
۴۳۳	ذوی کی میراث	۵۵۷	اقارب کے لئے وصیت اور اس	۵۵۷
۴۳۴	عول	۵۵۸	کے دلائل و براہین	
۴۳۵	مسئلہ عول اور ابن حزم	۵۵۹	مسئلہ وصیت میں انکار ابن حزم کا غلط	۵۵۸
۴۳۶	ابن حزم کے دلائل	۵۶۰	دعویٰ و وصیت کے ضمن میں	۵۵۹
۴۳۷	مسئلہ عول اور حضرت ابن عباس	۵۶۱	موجودہ مسری قانون	
"	قول ابن عباس کی ترجیح کے ارباب پر	۵۶۲	ترکہ میں حقوق خدادندی	۵۶۰
۴۳۸	خلاصہ میا خٹ سابقہ	۵۶۳	ترکہ سے متعلق حقوق میں ترتیب	۵۶۱
۴۳۹	قول ابن حزم پر نقد و نظر	۵۶۴	ابن حزم کے دلائل	۵۶۲
	تقسیم ورثہ کے وقت اقارب کی حیثیت	۵۶۵	اداء حقوق اللہ کے لئے وصیت	۵۶۳
			کی عدم ضرورت	

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۴۹۳	اراضی کے اجارہ میں بنی کریم اور صحابہ کرام کا تعامل	۵۹۷	۶۸۱	کو عطیہ دینے کا وجوب	۵۸۶
۴۹۴	عجزین اجارہ کے دلائل	۵۹۸	۶۸۲	وجوب عطاء پر ابن حزم کے دلائل و براہین۔	
۴۹۵	ابن حزم کے زاویہ نگاہ کی توضیح	۵۹۹	۶۸۳	قائلین عدم وجوب کے دلائل	۵۸۷
"	فقہ ظاہری کی کشادہ دامانی	۶۰۰	"	عتیہ حاجت کی عدم تحدید	۵۸۸
۴۹۷	ابن حزم کے بعد ظاہری فقہ کے احوال و آثار		۶۸۵	بعض معاملات کی تشریح و توضیح	
"	چراغ تلے اندھیرا	۶۰۱		ابن حزم اور ظواہر نصوص کا التزام	۵۸۹
۴۹۸	فقہ ابن حزم اور سرزمین اندلس	۶۰۲	"	اشہاد فی البیع	۵۹۰
۴۹۹	فقہ ابن حزم کی نشر و اشاعت	۶۰۳	۶۸۶	ابن حزم کے دلائل	۵۹۱
۷۰۰	چند ظاہری فقہاء کی خدماتِ جلیلہ	۶۰۴		مسئلہ شہادت میں دیگر فقہاء کا	۵۹۲
۷۰۱	محی الدین ابن عربی اور فقہ ظاہری	۶۰۵	۶۸۷	زاویہ نگاہ	
"	سلطنت موحدین میں فقہ ظاہری کا	۶۰۶	۶۸۹	خیار شرط اور ابن حزم	
"	ظہور و شیوع			خیار شرط میں دیگر علماء کے مذاہب	۵۹۳
۷۰۲	عصر موحدین میں کتاب و سنت کی نشر و اشاعت۔	۶۰۷	"	اور مسلک ابن حزم	
۷۰۳	عصر موحدین میں علمائے حدیث پر	۶۰۸	۶۹۱	مزرعہ اراضی کی اجارہ داری	۵۹۴
۷۰۴	انعامات کی بارش	۶۰۹	"	زرعی اراضی کو اجارہ پر دینے کا	
"	فقہ ابن حزم کی جبری اشاعت	۶۱۰		عدم جواز	۵۹۵
"	سلطنت موحدین کے آغاز ہی میں	۶۱۰	۶۹۲	اراضی کو بیٹائی پر دینا	۵۹۶
۷۰۵	اتباع کتاب و سنت			اراضی کو اجارہ پر دینے میں ابن حزم کے دلائل۔	
	ابن حزم موحدین کی نگاہ میں	۶۱۱			

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## ویب اچہ طبع ثانی

حیاتِ امام ابن حزم رُبَعِ صَدِی پیلے شائع ہوئی تھی اور تھوڑا عرصہ بعد ختم ہو کر زاویہ محمود میں پڑی رہی۔ ان دنوں پروفیسر ابو زہرہ مصری کی تصانیف کے تراجم کا بڑا چرچا تھا۔ چنانچہ ان کے قلم سے نکلی ہوئی متعدد کتب مثلاً حیاتِ حضرت ابو حنیفہ، حیاتِ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حیاتِ امام شافعی، حیاتِ احمد بن حنبل، حیاتِ امام مالک، حیاتِ امام جعفر صادق یکے بعد دیگرے طبع ہوئیں اور ہاتھوں ہاتھ نکل گئیں، رُبَعِ صَدِی پیشتر طباعت و کتابت کا معیار وہ نہ تھا جو آج ہے۔ اب تو یہ حال ہے کہ مواد سے قطع نظر جب تک کوئی کتاب دیدہ زیب اور جاذبِ نظر طباعت کی حامل نہ ہو مارکیٹ میں بار نہیں پاسکتی۔ چنانچہ ان سب تراجم کی طرح حیاتِ ابن حزم بھی لہجہ پر چھپی تھی اور جلد ہی صفحہ مارکیٹ سے ناپید ہو گئی۔

ان سطور کے راقم کو بدیہ شعور ہی سے امام ابن حزم اندلسی کی شخصیتِ ادران کے رشحاتِ قلم کے ساتھ والہانہ شغف رہا ہے۔ جس کی بڑی وجہ ان کی حُبِ لُصُوص اور اتباعِ سنت کے ساتھ ان کی وابستگی و دستگی ہے ان دنوں امام ابن حزم کے ساتھ خصوصی تعلقِ خاطر کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ تین سال قبل سعودی عرب کی ایک پارٹی نے راقم سے الملحنی لابن حزم مشتمل برگیارہ مجلدات کے اردو ترجمہ کے بارے میں مراسلت کی سلسلہ جنبانی کی تین ماہِ خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ ادھر سے انکار ادھر سے اصرار، آخر اسے تسلیم کرنا پڑا، بحمد اللہ کہ خداوندِ کریم نے اس عاجز کے ہاتھوں یہ طویل و عظیم کام لے لیا اور اس کی تکمیل میرے لیے بے پایاں مسرت کی موجب ہوئی۔ ترجمہ کی دو جلدیں لاہور میں چھپ چکی ہیں۔

الملحنی کی رفاقت میں تین سال گزارنے سے امام ابن حزم کے ساتھ تعلقِ خاطر میں مزید اضافہ ہوا۔ اور دل میں اس جذبہ نے کروٹ لی کہ کاش اس امامِ ہمام کی سیرت و حیات بار دیگر آراستہ و پیراستہ عوام و خواص کے سامنے آجائے راقم نے جب اپنے اس ذوق و شوق کا اظہار اراکین و شیخ غلام علی اینڈ سنز، انارکلی لاہور، کے ساتھ کیا تو انہوں نے ازراہِ لطفِ خصوصی اسے منظور کر لیا۔ اس وعدہ کے ساتھ کہ اس کتاب کو دیدہ زیب اور پرکشش طباعت و کتابت کے ساتھ عنقریب منصفہ شہود پر جلوہ گر کریں گے۔ لازم کتابت و

طباعت کی ہوش رباگرانی کے اس دور میں اراکین ادارہ کا یہ بلند عزم ان کی علم نوازی اور کتاب پروری کی غمازی کرتا ہے ورنہ ان کی مطبوعات کا دائرہ اس قدر طویل و عریض ہے کہ اس میں کتاب ہذا کی اشاعت ثانی کی باری آنا ناممکنات میں سے تھا۔ بہر کیف میں کارپردازان ادارہ خصوصاً جناب شیخ نیاز احمد صاحب مالک ادارہ کا بطور خاص ممنون ہوں۔

کتاب کی تصحیح اور اس کو آفسٹ کی حسین و جمیل طباعت سے آراستہ و پیراستہ کرنے کا کوئی دقیقہ فرگذاشت نہیں کیا گیا۔ پر امید ہوں کہ شائقین علم و ادب اس گم گشتہ گوہر نایاب کی طبع ثانی کو بنظر استحسان دیکھیں گے اور اسے جلد اپنی لائبریری کی زینت بنائیں گے۔ بارگاہِ ربانی میں دعا کناں ہوں کہ وہ میری اس حقیر کاوش کو حسن قبول سے نوازے۔ (دآمین)

احقر

غلام احمد حریری

ڈی۔ ۶۱۔ پیپلز کالونی۔ فیصل آباد

مورخہ یکم اگست ۱۹۸۶ء



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## پیش لفظ مترجم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَتَمَّ بَعْدِ

پروفیسر محمد ابوزہرہ لاہور لاج فوادیونیورسٹی قاہرہ مصر کا نام نامی پاکستان کے علم دوست حضرات کے لیے اب نیا نہیں۔ ائمہ کرام و فقہائے عظام امام ابوحنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام جعفر صادق رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ان کی پیش بہا تصانیف اردو میں ترجمہ ہو کر مقبول خاص و عام ہو چکی ہیں۔ پروفیسر محمد ابوزہرہ کی کتب کی اشاعت کا بیڑا سب سے پہلے لاہور کے المکتبۃ السلفیہ نے اٹھایا جبکہ انہوں نے حیاتِ امام احمد بن حنبل بڑی آب و تاب سے شائع کی۔ اس کے بعد مسلسل و پیہم ترجمانی کا یہ کام جاری رہا یہاں تک کہ ان کی تمام تصانیف اردو کے قالب میں ڈھل کر منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئیں۔ جب جنوری ۱۹۵۶ء میں پروفیسر مذکور پنجاب یونیورسٹی لاہور کی منعقدہ عالمی مجلس مذاکرہ میں شرکت کے لیے لاہور تشریف لائے اور مولانا عطاء اللہ حلیف صاحب نے حیاتِ احمد بن حنبل (اردو) کا ایک نسخہ ان کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے اس پر بیحد مسرت کا اظہار کیا فرمایا: حقیقت یہ ہے کہ مصر کے اس فاضل یگانہ اور دور حاضر کے فقیہ شہیر کی زندہ یادگار کتب اردو خواں طبقہ کے لیے نعمتِ غیر مترقبہ ثابت ہوئیں۔ ائمہ اربعہ کی سیرت و سوانح عصر و عہد، افکار و آراء اور فہمی اجتہادات پر اردو تو کجا عربی زبان میں بھی اتنا مواد کجا نہیں ملتا تھا۔ مگر شیخ ابوزہرہ کی مہارتِ فقہ اور علمی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک امام سے منعلق معلومات کا انبار لگا دیا۔ لہذا الحمد کہ اسی سلسلہ کی ایک اور اہم کتاب اہل علم کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور وہ ہے۔ حیاتِ امام ابن حزم۔ یہ کتاب شیخ ابوزہرہ نے سوانح ائمہ اربعہ اور سیرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بعد تحریر کی اور اسی ترتیب سے یہ ترجمہ زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ رہا ہے جاکسا کو صاحبِ مدوح کی کتب سے جو ربط و تعلق رہا ہے اس کی روشنی میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب میں پروفیسر ابوزہرہ بمصدق سے "معارفِ ثانی بہتر کشف زاول"۔ مقابلہ زیادہ فصیح و بلیغ نظر آتے ہیں۔ ان کی شانِ خطابت جو ان کی تحریر کی نمایاں خصوصیت ہے اس کتاب میں مکمل طور پر معرضِ ظہور میں آئی ہے۔ وہ لکھتے کیا ہیں برسزبیر بلیغانہ انداز میں خطبہ بیٹے ہیں جس سے قاری مسحور ہوتا چلا جاتا ہے اور ان

کا ایک ایک فقرہ قلب جگر میں پیوست ہوتا جاتا ہے۔ راقم کو لاہور کی عالمی مجلسِ مذاکرہ میں اور اس کے علاوہ بھی براہِ راست ان کے ملفوظاتِ گرامی سننے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے۔ دورانِ تقریر کا ایک ایک لفظ ایک دوسرے سے جدا، اپنے معنی و مقصود میں واضح اور جوشِ ایمان و ایقان کا مظہر ہوتا تھا۔ آپ کا اسلوبِ تحریر بھی اسی طرز و انداز کا حامل اور خطیبانہ شان رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں عربی زبان کو خداوندِ کریم نے لائقِ ادیبگانہ و یکتا صفات سے مخصوص و ممتاز کیا ہے وہاں اسے یہ عظیم خصوصیت بھی عطا کی ہے کہ اس میں شانِ خطابت کا مظاہرہ بڑی آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔ دنیا کی کوئی زبان اس وصف میں عربی کی ہمسر ہمتا نہیں ہو سکتی۔ خطیبانہ آن بان کی ایک جھلک دیکھنا مقصود ہو تو پروفیسر ابو زہرہ کی تصانیف مطالعہ کی جائیں۔

حیاتِ ابنِ حزم میں میں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں شیخ کی دوسری کتابوں کی نسبت تکرار کم ہے اور ان کی کتب کا قاری اس میں اکٹاہٹ و بیزاری کے جذبات کے عین برعکس جدت طرازی و ذوق آستینی کی کمیز پاتا ہے۔

راقم آٹھ آغاز کار ہی سے امام ابنِ حزم کے جذبہٴ اتباعِ نفوس سے متاثر تھا۔ چنانچہ حیاتِ ابنِ قسیم کی ترتیب و تہذیب کے بعد دل میں اس جذبے نے کروٹ لی کہ امامِ تمام، ابنِ حزم کی سیرت و سوانح کا بیڑا اٹھایا جائے۔ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے شیخ، ابو زہرہ کی تصنیفِ لطیف سے بہتر اور کوئی کتاب دستیاب نہ ہو سکی اور حقیقت یہ ہے کہ ہے بھی نہیں۔ لہذا ترجمہ کے لیے اس کتاب کا انتخاب عمل میں آیا تو رجال کی کوئی کتاب ”فردوسِ گمشدہ“ سرزمینِ اندلس کے اس عظیم محدث و فقیہ کے ذکرِ جمیل سے خالی نہ تھی۔ کم و بیش سبھی کتابوں میں آپ کے سوانح مختصراً درج ہیں مگر اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ ابنِ حزم پر بڑے سائز کے ۵۳۸ صفحات کی کتاب لکھنا پروفیسر ابو زہرہ ہی کو زیب دیتا ہے۔

ابن کار از تو آید و مردان چنیں کنند

حیاتِ امام ابنِ حزم اپنے دامن میں اس قدر جامعیت و وسعت رکھتی ہے کہ کسی تبصرہ کی محتاج نہیں۔ اس کی مدح و ستائش میں کچھ کہنا رکو کندن دکاہ بر آوردن، سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ دراصل لوحِ کتاب پر پروفیسر ابو زہرہ کا نام نامی و اسمِ گرامی اس بات کی ضمانت کے لیے کافی ہے کہ کتاب میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کا کسی نہ کسی طرح ابنِ حزم کی ذات سے تعلق ہو سکتا ہے یا ان کے مخصوص فقہی مکتبِ خیال سے۔ اس میں آپ کو ابنِ حزم کی سیرت و سوانح، عصر و عہد، گرد و پیش، طلبِ علم، شیوخ و تلامذہ، سیاسی

کوائف و احوال، طلب علم میں کثرتِ اسفار، علمی وسعت، معاصرین کی شہادت، ان کے مصادر و مآخذ، عمیق فکر و نظر، اسلوبِ تحریر، افکار و آراء، فقہ ظاہری کی خصوصیات، افکار و معتقدات، سیاسی نظریات اصول و قواعد، شرعی دلائل و براہین، نفی قیاس و رائے، فقہ ظاہری کے منفرد مسائل، خلاصہ کلام ہر وہ چیز ملے گی جو حیاتِ ابن حزم کی ترتیب و تہذیب کے لیے ازلیں ناگزیر تھی۔

جہاں تک امام ابن حزم کی شخصیت اور ان کے علم و فضل کا تعلق ہے۔ مصنف نے اس بحث کو تشنہٴ بیخبل نہیں چھوڑا بلکہ ان کے تبحر علمی کی تفصیلات ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آپ کی ذات میں مختلف قسم کے علوم اور فنون جمع ہو گئے تھے۔ حدیثِ نبوی سے جو ربط و ضبط نہیں رہا آپ کی تصانیف اس کی زندہ گواہ ہیں۔ ابو زہرہ نے ایک فقرہ ہذا لُحْدَاتُ الْعَظِيمَةِ السَّيِّدَةِ يَجْمَعُ أَشْتَاتَ الْحَدِيثِ، کہہ کر ان کے محدثِ عظیم اور حافظ الحدیث ہونے پر ہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ ان کی فقہ دانی کا یہ عالم تھا کہ ائمہ اربعہ کی فقہ ہائے اربعہ سے اختلاف کر کے فقہ ظاہری کی بنا ڈالی یا کم از کم اسے فروغ دیا۔ کتاب و سنت فقہ ظاہری کا اڈھنا بچھونا ہے جیسے کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

ابن حزم کی مہارتِ منطق و فلسفہ کا یہ عالم تھا کہ ارسطو تک کی غلطیاں نکالتے۔ ابو زہرہ کہتے ہیں:-  
 ”يَخِطُّهُ إِذْ تَشْتَلُوْنَ مِنْطِقَةً“

فلسفہ میں وہ نام پایا کہ امام غزالی سے بھی سبقت لے گئے۔

آپ اولین فلسفہ دان عالم دین تھے جنہوں نے فلاسفہ کے معتقداتِ باطلہ کی دھجیاں فضائے آسمانی میں بچھیر دیں اور انہی کے دلائل سے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ امام غزالی آئے تو ابن حزم کی ہموار کردہ راہ پر کام زن ہوئے۔

ابو زہرہ لکھتے ہیں:-

”وَيَسْبِقُ الْعَزَائِيَّ إِلَى مَنَاقِشِهِمْ دَاخِلًا حَجَبِهِمْ“

ادیان و مل اور اسلامی فرقہ جات سے اس قدر گہری واقفیت رکھتے تھے کہ کتابِ ”الفصل“ جیسی بکیر لکچر کتاب لکھ ڈالی جس کے سامنے عبدالکریم شہرستانی کی الملل و النحل کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔

شیخ ابو زہرہ کہتے ہیں کہ جو چیز ابن حزم کو دیگر علماء سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کا ادبی اسلوبِ تحریر ہے۔ انہوں نے ”طوق الحمامة“ سے طویل اقتباسات نقل کیے ہیں۔ جن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے حریری و سہدانی کی عبارت آرائی ماند پڑ جاتی ہے اور جن کی عبارت صاف و شفاف پانی کی طرح رواں دواں نظر آتی ہے۔

مصنف ابن حزم کی ہمہ گیر شخصیت میں صرف ایک خامی کی نشاندہی کرتے ہیں اور وہ ان کی طبعی حدت و شدت ہے۔ ابن حزم پر نقد و تبصرہ کرتے وقت دوسرے علماء نے بھی ان کی شخصیت کے اس کمزور پہلو کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ مخالفین کو معاف کرنا نہیں جانتے اور ان پر تنقید کرتے وقت ان کی عظمتِ شان کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں **صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَذَبَ مَا بَدَتْ نِيَّتُهُ** ہیں کہ **أَوَّلُ مَنْ قَامَ ابْلِيسُ**۔

مصنف نے ابن حزم کی درستی طبع کی جو توجیہ کی ہے وہ بڑی پسندیدہ اور معقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ان حالات سے دوچار ہو جن سے ابن حزم کو واسطہ پڑا تو غضب و غضب اور تند خو ہو جانا اس کے لیے ایسے ناگزیر ہے۔ فقہائے عصر نے ابن حزم کے خلاف حقد و بغض کا کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا جس کو انہوں نے بڑی تفصیلات سے ذکر کیا ہے۔ اس کی حد یہ ہے کہ انہوں نے ان کی تصانیف تک کو نذر آتش کر دیا۔ کسی صاحبِ تعنیف عالم کو سب سے بڑی اذیت جو دی جاسکتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کی فکری کا دشمن اور جدوجہدِ حیات کے حاصل کو صفحہ ہستی سے نابود کر دیا جائے اور یہی ان سے ہوا، پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ ابن حزم ایسا شخص جو صرف ایک عالم دین ہی نہ تھا بلکہ دولت و ثروت میں ممتاز جاگیر بھی تھا ایسے لوگوں سے ہر وہجبت کا سلوک کرتا لہذا ان کی آتش غضب کا بھڑک اٹھنا ایک طبعی امر تھا۔ مصنف اس کی دوسری وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرض کے باعث ابن حزم میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو گیا تھا جس کے باعث وہ جذباتی الفتن اور موت کو کھو بیٹھے۔

خاکسار نے اپنے اساتذہ کی زبانی یہ روایت سنی ہے کہ صحیح سنتِ حامی بدعت مولانا امام عبدالحجیر غزنوی مرحوم کو ابن حزم سے بڑا تعلق خاطر تھا مگر یہ چیز اکثر کھٹکتی کہ ابن حزم کا برد و اعظم کا ادب ملحوظ نہیں رکھتے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرت ہوئے تو جسارتِ ابن حزم کی وجہ پر بھی حضورؐ نے فرمایا:۔

« ایں قلبہ عشق است نے ترک ادب »

حقیقت یہ ہے کہ ابن حزم کا جذبہ اتباعِ رسولؐ اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ وہ حدیثِ نبویؐ کے ہوتے ہوئے کسی کے قول کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ اقوال صحابہ کو بھی حجت نہیں گردانتے اور صاف فتوے صادر کرتے ہیں۔

رہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا قول حجت نہیں۔

« لَا حُجَّةَ فِي قَوْلِكَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »

دوسری جگہ فرماتے ہیں :-

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُقْلِدَ أَحَدًا

(کسی کو کسی شخص کی تقلید نہیں کرنا چاہیے)

نیز فرماتے ہیں :-  
"التَّقْلِيدُ حَسْرَامٌ"

(تقلید حسرام ہے۔)

پھر اس کے اثبات میں کتاب و سنت کے براہین و دلائل بڑی کثرت سے پیش کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ابن حزم کے خیال میں جو شخص بھی قول پیغمبر سے سرمواخرات کرتا ہے آپ اس کے حق میں درشت الفاظ کہنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ کوئی مخصوص دینی شخصیت، ابن حزم کے شدید نقد و نظر کی آماجگاہ نہیں بلکہ الفاظ کے یہ تیر و نشتر کبھی امام مالک و ابوحنیفہ پر چلانے جاتے ہیں اور کبھی امام شافعی و احمد ان کی تیغ بے نیام سے گھاتل ہوتے ہیں۔ بچتا وہی ہے جو ظواہرِ نصوص کی پیروی کرتا اور ان کی موجودگی میں کسی کے قول و فعل کو خاطر میں نہ لاتا ہو۔

خلاصہ کلام ابن حزم کے مذہب و مسلک کا حاصل یہ ہے کہ نصوص کتاب و سنت کی پیروی کا نام دین اسلام ہے اور بس۔ کسی بڑے سے بڑے شخص کا قول صرف اس وقت سند کا درجہ رکھتا ہے جب کتاب و سنت سے منصادم نہ ہو جب اس کی تائید قرآن و سنت سے نہ ہوتی ہو تو قطعاً طور پر بے وزن ہے خواہ اس کا قائل کوئی ہو۔

دورِ حاضر میں جبکہ بعض اہلِ شناس علوم دینیہ سے نابالغ محض ہونے کے باوجود مفسرِ قرآن بنے بیٹھے ہیں اور علم و فضل کی اس تنگ دامانی کے باوجود محدثین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نقد و نظر کے دعویٰ داریاں شدید ضرورت ہے کہ ابن حزم ایسے علما کے فرمودات و ارشادات کی اشاعت کر کے حدیثِ رسول کی اہمیت و ضرورت سے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کو روشناس کرایا جائے۔ انکارِ حدیث کے بخرہ خلیفہ کے استیصال کے لیے اس سے زیادہ مؤثر اور کوئی ذریعہ نہیں کہ حدیثِ رسول اللہ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے۔ تاکہ رنگ و بار لانے سے قبل ہی یہ خلیفہ پودا صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔

میں ترجمہ کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا قارئین کرام ہی اس کی اچھانی یا بُرائی کا فیصلہ کریں گے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دیانتدارانہ محنت و کاوش سے کام لیا جائے۔ اور اپنی محدود رسواط کے مطابق مصنف کا مقصد آسان سے آسان الفاظ میں بیان کر دیا، مجھے اپنی بے بضاعتی اور کم سواری کا پورا پورا احساس ہے۔ ترجمہ کے ساتھ ساتھ ذیلی عنوانات بڑی سوچ و بچار سے قائم کیے۔ مصنف نے صرف ہندی پر اکتفا کیا تھا۔ عنوانات کی تعیین میں مرکزی مضامین کو ملحوظ رکھا۔

میں کارکنان کتاب منزل شیخ غلام علی اینڈ سنز کشمیری بازار لاہور کا خلوص دل سے پیاس گزارہوں  
کہ انہوں نے عربی کے ایک طالب علم کو ایک مایہ ناز مصنف کی گراں بہا اور فنی کتاب کے ترجمہ کی خدمت  
تفویض کی اور کتاب کو بڑی آب و تاب کے ساتھ شائع کیا۔

بارگاہ ایزدی میں دعا گو ہوں کہ خداوند کریم یہ خدمت قبول فرمائے اور اسے میرے، میرے والدین  
اور اساتذہ مصنف ظاہر و ناشر سب کے لیے اخروی فلاح و بہبود کا سبب بنائے۔

والحمد لله رب العالمین

حاکیم مترجم

غلام احمد حریری ایم اے۔

۲۲ شوال المبارک ۱۳۸۳ھ، مارچ ۱۹۶۴ء

پروفیسر و صدر شعبہ اسلامیات اسلامی کالج فیصل آباد

۶۱، ڈی پی پیلز کالونی فیصل آباد۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## مترجم کی داستان حیات

یہ ایک ایسے شخص کی داستان حیات ہے جو ظلمت و جہالت کے ماحول میں پروان چڑھا اور محض خدا داد ذہانت و بصیرت کے بل بوتے پر علم کی روشنی سے منور ہوا۔ اور اپنی محدود و لبطا کی حد تک ہنوز اس شمع کو روشن کیے ہوئے ہے جس سے گم گشتگان راہ علم و ہدایت اکتاب فیض کر رہے ہیں۔

راقم ضلع گورداسپور مشرقی پنجاب کے طالب پور نامی گاؤں میں یکم ستمبر ۱۹۲۰ء کو

**وطن عزیز** پیدا ہوا۔ یہ گاؤں شہر گورداسپور سے جانب مشرق پانچ میل کے فاصلہ پر ہے

یہ خطہ اپنی قدرتی رعنائی و زیبائی کے لیے مشہور ہے۔ قدرت کی فیاضیوں نے اسے جی بھر کر زیور حسن و جمال سے مالا مال کیا ہے پٹھانکوٹ کے قریب کوہ ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے۔ مشرقی جانب دریائے بیاس موجود ہے جسے ہندو لوگ اپنی قدیم روایات کے مطابق پوتر مانتے اور اس کے پانی کو آب حیات سمجھ کر درواز علاقوں میں لے جاتے ہیں۔ مغربی جانب نہر اپر باری دو آب رواں درواں ہے جو مادھو پور کے مقام پر دریائے راوی سے نکل کر سمت جنوب بہتے ہوئے ضلع امرتسر کو سیراب کرتی ہے۔ یہ جنت نظر خطہ زرخیز ہونے کے ساتھ ساتھ مردم خیر بھی ہے۔ اس کی مردم خیزی کا ثبوت جناب مرزا غلام احمد قادیانی اور چوہدری غلام احمد ریزہ بٹالوی کا وجود باوجود ہے۔ مرزا صاحب نے ختم نبوت کے عقیدہ کے عین بر خلاف نبوت و خلافت کا دعویٰ کیا اور پرویز صاحب نے حجیت حدیث کے اجماعی عقیدہ کے خلاف انکار سنت کا علم بلند کیا۔ ایک پرویز ایران میں پیدا ہوا جس نے مکتوب نبوی کو پارہ پارہ کیا۔ جس سے اس کی سلطنت ریزہ ریزہ ہو گئی اور دوسرا اس خطہ میں پروان چڑھا جس نے خاکم بدہن حدیث نبوی پر کاری ضرب لگانے کی ٹھکانی۔ آخر دونوں اپنے مقاصد میں غائب و خاسراں جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔

اس خطہ ارضی کی دلکشی و رعنائی اور موزونیت اس سے بھی ظاہر ہے کہ سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی دور رس نگاہ نے دارالسلام بنانے کے لیے اسی مرز بوم کو چنا۔ دارالسلام کا سنگ بنیاد طالب پور سے جانب شمال آٹھ میل کے فاصلہ پر سرناریلوے ٹیشن کے قریب رکھا گیا۔ سرنا اس ریلوے لائن پر واقع ہے جو امرتسر سے جانب شمال پٹھانکوٹ پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے اور آگے کوہ ہمالیہ کا غیر منہتی سلسلہ شروع ہو جاتا

ہے۔ دارالسلام سے پٹھانکوٹ تین چار میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ قدرت کی نیامنیوں نے اس جنت نظر خطہ کی آرائش و زیبائش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔

راتم ایک زمیندار راجپوت خاندان میں پیدا ہوا۔ والد صاحب کا نام چوہدری حسین بخش مرحوم اور دادا چوہدری سلطان بخش معذور تھے۔ والدین نہایت متشرع اور دینی زندگی گزارنے کے عاری تھے۔ میرا ننھیال دینانگر میں تھا جو امرتسر سے پٹھانکوٹ جانے والی ریلوے لائن پر گورداسپور سے اگلاریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ پرانا قبضہ مغلیہ عہد حکومت میں آباد ہوا اور آموں کی انراطکی وجہ سے مشہور ہے، نظر کوں ہنر والی درختوں میں تاحنگا، آم کے درخت نظر آتے ہیں، طالب پور دینانگر سے جانب مشرق چار میل کے فاصلے پر واقع تھا۔

والد صاحب منوسطاسم کے زمیندار تھے میرزا صرف ایک چھوٹی بہن ہے جو میری والدہ کی وفات کے وقت تین برس کی تھی اور میری عمر اس وقت پانچ برس تھی۔ ننھیال شہر دینانگر میں تعلیم کا آغاز کیا۔ میرے نانا جی مرحوم چوہدری الہی بخش پرائمری سکول میں صدر مدرس تھے اور بابائے شہر کہلاتے تھے۔ دینانگر کے اکثر مشاہیر ان کے فیض یافتہ ہیں۔ مثلاً پروفیسر افتخار احمد چشتی جو گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں صدر شعبہ علوم اسلامیہ تھے۔ اور ۱۹۶۵ء میں ریٹائر ہوئے۔ اسی طرح مرحوم چوہدری برکت علی شمیم سابق پرنسپل گورنمنٹ کالج محمدی شریف ضلع جھنگ اور ان کے بعض صاحبزادے بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ مشہور شیعہ لیڈر ادیبیابک لیڈر مظفر علی شمشی مرحوم اور ان کے برادر عزیز محبوب علی شمشی بھی آپ کے تربیت یافتہ ہیں۔ خاکسار کو دوسری جماعت میں جناب شمس مرحوم سے شرف تلمذ حاصل ہوا۔ شمس صاحب اس دور کے شورش کاشمیری تھے۔ کوئی جلسہ ان کے بغیر کامیاب نہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے فن خطابت کی گھن گرج ہنوز میرے کانوں میں رس گھول رہی ہے۔

۱۹۳۲ء میں میٹرک پاس کرنے کے بعد احقر نے دینی تعلیم حاصل کرنے کا عزم باندھا

ہمارے گاؤں میں مولانا عبدالحق رحمہ اللہ و عقرہ جن کا انتقال دسمبر ۱۹۶۷ء میں ایک

حادثہ میں بچہ ۵ سال ہوا سکونت پذیر تھے۔ آپ حد درجہ کے متقی اور عالم باعمل تھے۔ موضع لکھو کے ضلع ڈیرہ پور سے فیض یافتہ تھے۔ احقر نے گاؤں میں رہ کر ان سے فارسی کتب گلستان، بوستان سعدی، سکندر نامہ، انوار سہلی اور یوسف زلیخا جامی تک پڑھیں، پھر مولانا خور مجھے خان پور متصل کیریاں ضلع ہوشیار پور کے مدرسہ تبلیغ الاسلام میں داخل کرا آئے۔ احقر نے وہاں حضرت حافظ عبدالحفیظ صاحب کپور تھلوی مرحوم سے قطبی، شرح جامی، شرح ذقانیہ ہدایہ، نور الانوار اور حدیث میں نسائی ابن ماجہ وغیرہ کتب پڑھیں، حضرت الاستاد مادر زاد نابینا ہونے کے باوجود درس نظامی کی تمام درجہ کتب پڑھاتے تھے۔ آپ مشہور مناظر مولانا محمد یوسف کلکتوی کے شاگرد تھے اور حدیث

## یادِ ماضی



کی سند مولانا نایک محمد صاحب امرتسری سے حاصل کی تھی۔

پاکستان بننے کے بعد ملتان تشریف لے آئے تھے اور عرصہ تک مسجد منیر کے خطیب رہے اور وہاں درس قرآن و حدیث دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی ذہانت و فطانت سے نوازا تھا۔ میرے اندازِ تعلیم سے آپ بڑے خوش تھے اور میری موجودگی میں کسی طالب علم کو حدیث کی عبارت پڑھنے کی اجازت نہ دیتے۔ پاکستان آنے کے بعد ملتان سے جب بھی فیصل آباد آتے تو احقر کے غریب کدہ کو شرفِ قدم سے مشرف فرماتے۔ آپ نے ۱۹۷۰ء میں ملتان ہی میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ رحمہ اللہ رحمۃ کاملۃ و عفرۃ

اس کے بعد احقر موضع دیرو وال افغاناں ضلع امرتسر کے مدرسہ عربیہ میں

### علمی منازل و مراحل

زیر تعلیم رہا۔ وہاں حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب مدظلہ حال شیخ الحدیث

کلیۃ القرآن والحدیث جناح کالونی فیصل آباد کے سلمے ذالونے تلمذ تہ کیا۔ وہاں مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف حاجی مالک اشرف لیبارٹریز و ناظم جامعہ تعلیمات فیصل آباد میرے ہم درس رہے۔ یہاں کے دوران قیام صحاح ستہ اور درس نظامی کی بقیہ کتب انہی سے پڑھیں۔ حضرت الاستاذ احقر کو اچھا طالب علم سمجھتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ تقسیم ملک کے بعد جب احقر پاکستان آکر ادرایم۔ اے تک اپنی تعلیم مکمل کر کے اسلامیہ کالج فیصل آباد میں پیکر تعلیمات ہوا تو حضرت الاستاذ نے مجھے فارغ اوقات میں اپنے مدرسہ دارالقرآن و الحدیث میں تدریس کا حکم دیا چنانچہ احقر ۱۹۵۵ء سے ۱۹۶۸ء تک مدرسہ مذکورہ میں درس نظامی کی آخری کتب پڑھاتا رہا۔ زرعی یونیورسٹی میں آنے کے بعد ۱۹۶۸ء میں بعض وجوہ کی بنا پر حضرت مولانا سے معذرت چاہی تو آپ نے بادلِ سخاوت سے منظور فرمایا۔

راقم نے ۱۹۳۸ء میں پنجاب یونیورسٹی سے ایف اے اور ۱۹۴۰ء میں بی۔ اے

### شہنشاہ و اساتذہ

کیا پھر اسی سال پنجاب گورنمنٹ کے محکمہ صنعت و حرفت سے وابستہ ہو کر راولپنڈی

اٹک اور ہزارہ کے علاقہ میں معروف کاررہا۔ سروس کے دوران ضلع ہزارہ میں بریلوی مکتب فکر کے مشہور فاضل اور مناظر قاضی عبدالسبحان کھلاٹی مرحوم سے منطق میں حمد اللہ، قاضی مبارک، میرزا ہد، ملاحسن، ملا جلال اور فلسفہ میں صدر، شمس بازغہ اور نحو میں متن متین اور حاشیہ عبدالعفذر علی الجامی پڑھا۔ علاوہ ازیں آپ سے شرح مقاصد اور شرح مواقف کا درس بھی لیا۔ مرحوم قاضی صاحب کو میں نے علم کا بحرِ زخار پایا وہ معقولات کا بحرِ بیکراں تھے۔

۴۵-۱۹۴۴ء میں سلسلہ ملازمت راولپنڈی قیام پذیر رہ کر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان مرحوم کے درس قرآن میں باقاعدگی سے حاضر ہوتا رہا۔ اسی اثنا میں آپ کے ساتھ رابطہ تلمذ استوار کیا اور اشارات

بوعلی سینا، علم عروض میں محیط الدائرہ اور تفسیر بیضاوی (سورۃ البقرہ) آپ سے پڑھیں۔ میں آپ کو صرف ایک بلند پایہ خطیب سمجھتا تھا۔ وابستگی ہونے پر آپ کے علمی تجربہ کا راز کھلا اور ساتھ ہی تبلیغ توحید کے سلسلہ میں آپ کی انتھک مساعی اور درویشانہ طبیعت نے میرے قلب و ذہن پر امنٹ نقوش ثبت کیے۔ ادخلہ اللہ بجزو حقہ جناحہ۔ انڈیز اٹنا ۱۹۴۲ء میں مولوی فاضل اور ۱۹۴۵ء میں منشی فاضل و ادیب فاضل کے امتحانات پنجاب یونیورسٹی سے امتیازی حیثیت سے پاس کیے۔ اپنی دنوں احقر کا تبادلہ حضور ضلع کیمبل پور میں ہو گیا۔ وہاں مولانا عبدالحمن آف جلالیہ سے تفسیر، شرح چغینی اور اقلیدس وغیرہ کتب پڑھیں۔ اسی دوران ۲۸ مئی ۱۹۴۲ء کو احقر کے والد محترم نے وفات پائی۔ ۱۹۴۷ء میں تقسیم ملک کا سانحہ رونما ہوا۔ راقم ان دنوں وطن گیا ہوا تھا۔ اگست ۱۹۴۶ء میں پاپیادہ قافلہ میں چل کر ڈیرہ بابا نانک کے پل کے راستے پاکستان پہنچ کر ضلع لائل پور میں آباد ہوئے۔ دوران سفر ناقابل بیان صعوبات سے دوچار ہوئے اور کشت و خون کے معرکے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ سفر ہجرت سے چند ماہ پہلے اپنے گاؤں میں شادی خانہ آبادی کی سعادت حاصل ہوئی۔

محکمہ صنعت و حرفت کے پہلو بہ پہلو راقم نے ۱۹۵۴ء میں پنجاب یونیورسٹی سے

## تدریس

ایم اے عربی کا امتحان درجہ اول میں پاس کیا اور صوبہ بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ پھر اسی سال اسلامیہ کالج لائل پور (فیصل آباد) میں لیکچرر تعینات ہوا۔ ۱۹۵۵ء میں ایم اے علوم اسلامیہ کا امتحان بھی درجہ اول میں امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ اسلامیہ کالج کی سروس کے ساتھ ساتھ فارغ اوقات میں اہلحدیث کے مرکزی مدرسہ جامعہ سلفیہ میں کچھ عرصہ درس نظامی کی بلند پایہ کتب پڑھاتا رہا۔ اپنی دنوں محدث زمان حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ کے ساتھ سلسلہ تلمذ والبتہ کیا اور اصول فقہ و علم الکلام میں ان سے شرح عقائد، مسلم الثبوت، توضیح تلویح اور خیالی حاشیہ شرح العقائد پڑھ کر سند حاصل کی۔ جنوری ۱۹۵۷ء میں پنجاب یونیورسٹی نے مجلس مذاکرہ عالیہ مسعد کی تو احقر اس میں یونیورسٹی کی دعوت پر بطور مندوب و مترجم دو ماہ تک لاہور میں مصروف کار رہا۔ کثیر مالی فوائد کے علاوہ پیش قیمت مدیہ تصدیق نامے حاصل کیے۔

احقر نے ۱۹۴۱ء میں محکمہ صنعت و حرفت کے شعبہ سیریکلچر (تربیت کرم ابریشم)

سے سروس کا آغاز کیا اور اسی بنا پر "حریری" کہلایا۔ ۱۹۵۴ء میں ایم اے کرنے کے بعد اس سروس کو ترک کر کے اسلامیہ کالج لائل پور میں لیکچرر تعینات ہوا۔ جیب پنجاب اگر پیکچرل کالج لائل پور کو یونیورسٹی بنا دیا گیا تو احقر سینیئر لیکچرر (اسٹنٹ پروفیسر) منتخب ہو کر یونیورسٹی میں چلا گیا۔ تدریس کے

علاوہ احقر جب تک یونیورسٹی میں رہا اعزازی طور پر یونیورسٹی کی جامع مسجد کی خطابت کے فرائض بھی ادا کرتا رہا۔ علاوہ انہیں یونیورسٹی میں ملحق اور سوشلٹ عناصر کی شدید مزاحمت کے علی الرغم اسلامیات کے مضمون کو لازمی اور تدریسی مضمون بنوانے میں کامیاب ہوا۔ چنانچہ علوم اسلامیہ کا نصاب احقر نے تیار کر کے وہاں کی اکیڈمک کونسل سے منظور کروایا اور پھر اس کے مطابق ضخیم کتاب تیار کی جو تاہنوز یونیورسٹی کی تمام کلاسز میں لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جا رہی ہے۔ اسی طرح عربی زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے دو سمیٹر پر مشتمل نصاب بنا کر یونیورسٹی سے منظور کروایا جو تاہم تحریر طلبہ و طالبات میں نہایت مقبول ہے اس نصاب کے فارغ التحصیل کو یونیورسٹی کی طرف سے ڈپلومہ دیا جاتا ہے۔ اس ڈپلومہ کی پاس پر متعدد طالبات سکولز میں عربی پڑھانے کے لیے تعینات ہو چکی ہیں۔ اس طرح زرعی یونیورسٹی میں احقر کو عربی و اسلامیات کے بانی و موسس کی حیثیت حاصل ہے۔

جنوری ۱۹۶۵ء میں خداوند کریم نے فریضہ حج ادا کرنے کی سعادت ارزانی فرمائی۔ بعد ازاں ۱۹۶۸ء میں بارڈر چنڈر فقہاء کی معیت میں ایک وفد کی صورت میں حجاز گئے اور ایک ماہ تک سعودی مہمان کی حیثیت سے ریاض، مدینہ طیبہ، طائف اور مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور متعدد عمرے کرنے کی سعادت سے بہرہ ور ہوا۔ انہیں اٹنا شیخ عبدالعزیز بن باز کے ساتھ ان کے دولت کردہ پر متعدد ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے مبعوث بنانے کی پیشکش کی جو مختلف مراحل طے کر کے ۱۹۸۱ء میں پاکستان پہنچی اور میں نے اس منصب کو اختیار کیا۔

۱۹۶۳ء میں احقر کو اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور کے سلیکشن بورڈ نے ایسوسی ایٹ پروفیسر آف عربک سٹڈیز نامہ بھیجا۔

### اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور

۱۹۶۵ء کو جب جامعہ اسلامیہ بہاول پور کو مکمل یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا اور پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمہ اللہ اس کے اولین وائس چانسلر قرار پائے تو انہوں نے خاکسار کو بحیثیت صدر شعبہ علوم اسلامیہ یہاں آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ خاکسار یکم نومبر ۱۹۶۵ء کو اسلامیہ یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ اپریل ۱۹۶۶ء میں موصوف نے ایک حادثہ سے دوچار ہو کر لندن میں وفات پائی۔ احقر ۹ اکتوبر ۱۹۶۸ء تک اس یونیورسٹی کے ساتھ بطور شعبہ علوم اسلامیہ وابستہ رہا۔ احقر نے یونیورسٹی انتظامیہ کو یہ تجویز پیش کی کہ یونیورسٹی ہذا کے تمام شعبہ جات میں اسلامیات لازمی کے نام سے ایک پرچہ پڑھایا جائے جو اسلام کے بنیادی افکار و معتقدات پر مشتمل ہو چنانچہ احقر کی یہ تجویز منظور ہوئی۔ پھر احقر ہی نے اس پرچہ کا نصاب تشکیل دے کر منظور کروایا اور اس کے مطابق کتاب تحریر کی۔ تاہنوز یہ لازمی پرچہ یونیورسٹی کے تمام شعبہ جات میں پرچہ اول لازمی کی حیثیت سے زیر درس ہے، اس طرح یہ نام کی اسلامیہ یونیورسٹی کسی حد تک اس ٹائٹیل کی مصداق قرار پائی۔



- ۱۲۔ المنتقى للذهبي اردو ترجمہ المنقيا، خالد گر جاکھی، لاہور  
 ۱۳۔ قرآن کے فنی محاسن سید قطب شہید کی التفسیر الفنی کا ترجمہ۔ طارق اکیڈمی فیصل آباد  
 ۱۴۔ اساس اسلام - علمی کتاب خانہ لاہور۔

۱۵۔ ائمہ سلف کا مشک بالحديث: امام ابن تیمیہ کی کتاب دفع الکلام کا ترجمہ  
 یہ طویل تحقیقی مقالات پنجاب یونیورسٹی لاہور کے اردو دائرہ معارف اسلامیہ  
 میں شائع ہو چکے ہیں۔ مقالات حسب ذیل عنوانات پر تحریر کیے گئے ہیں۔

- تحقیقی مقالات**
- ۱۔ اعجاز القرآن
  - ۲۔ علوم القرآن
  - ۳۔ قرآن کریم کے اثرات و برکات
  - ۴۔ علم الصرف
  - ۵۔ علم الاشتقاق
  - ۶۔ سیرت نگاری
  - ۷۔ عربی لغت نگاری
  - ۸۔ کعبہ
  - ۹۔ منبر
  - ۱۰۔ سجد

راقم کی شادی ۱۹۴۶ء میں قیام پاکستان سے ایک سال قبل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ  
 نے پانچ بیٹے اور تین بیٹیاں عطا کیں۔ احقر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا

ہے۔ اب میرے گھر میں ماشاء اللہ خوب پہل پہل ہے۔ بچوں کے اسماء بالترتیب عمر حسب ذیل ہیں۔

- |                |      |  |
|----------------|------|--|
| ۱۔ ثریا        | بیٹی | بی اے (شادی شدہ)   |
| ۲۔ عطاء الرحمن | بیٹا | بی ایس سی ایگریکلچر آنرز (شادی شدہ)                        |
| ۳۔ خلیل الرحمن | „    | ایم اے۔ سیاسیات (شادی شدہ)                                 |
| ۴۔ ائمہ العفار | بیٹی | بی اے (شادی شدہ)   |
| ۵۔ ضیاء الرحمن | بیٹا | متعلم ایم بی ایس سی (فائنل) قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد |
| ۶۔ عتیق الرحمن | „    | متعلم بی اے۔   |

۶۔ نعیم الرحمن

بیٹا

مستعمل جماعت نغم

۸۔ اسما

بیٹی

عالمہ جماعت کشتہ

## کلمہ الخاتم

راقم نے ۱۹۸۱ء میں زرعی یونیورسٹی سے ریٹائرمنٹ کے بعد سعودی حکومت کی پیشکش کو قبول کیا اور تب سے اب تک زرعی یونیورسٹی جامعہ سلیمانہ فیصل آباد میں بطور سعودی مندوب و مہوت تدریس کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ انگریزی خاکسار کی عمر طلب علم، درس و مطالعہ اور تصنیف و تالیف میں گزری۔ اب ان کا لب لباب اور چراغ سحری ہوں۔ جانے کب ہوا کجا جھونکا گئے اور اس ٹمٹھے چراغ کو کبھی کون سے رستوں میں اپنی عمر بخت پر نادام نہیں دیکھنے کوئی لمحہ منالغ نہیں کیا۔ ایک ایک ٹھوکی ٹھونک اور اسے پیوند کاموں میں عمرت کیا۔ راقم نے ایک ایسے راجپوت گھرانے میں جنم لیا جو علم کی روشنی سے محروم تھا مگر اس نابینا کو خداوند مہربان نے دینی و دنیوی علوم سے بہرہ ور کیا۔ ایک عام آدمی کی سطح سے اتھا کر یونیورسٹی پروفیسر کے منصب پر فائز کیا۔ جملہ لوازم حیات و سامانِ راحت عطا کیے اور بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی توفیق ارزانی فرمائی۔ سانس سے بڑھ کر کسی بندہ پر اس رزاقِ مطلق کی کوم نوازی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تحریثِ بالنعوت کے طور پر ان اخلاقیاتِ ربانیہ کو تذکرہ کر رہا ہوں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر بیہ تشکر و تقوان پیش کرتا ہوں۔

اب صرف ایک ہی آرزو باقی ہے کہ وہ ستارہ خفا میری حقیر خدمات کو شرفِ قبول سے نوازے۔ میری اویسے والین و اساتذہ کی خطاؤں اور لغزشوں سے مدد گزرتھائے اور غرضی فلاح و سعادت سے ہمکنار کرے۔ آمین

ذہبیہ مستم وین بسنال مرادل  
چو باور برت گرو دیرم دے چنہ  
ذہبیرین واکں آزادہ رفتم  
گلال را آب و رنگے دادہ رفتم

غلام احمد حریری  
جی۔ ۶۱ پیپلز کالونی فیصل آباد  
یکم دسمبر ۱۹۸۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## مقدمہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْعُوْثِ  
رَحْمَةً لِّلنَّاسِ اَجْمَعِیْنَ، وَالْهَادِیِ اِلٰی صِرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ، قَدْ نَزَلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ  
الْكَرِیْمُ بِاَمْرِ شَرِیْعَةٍ، وَاهْدَى طَرِیْقَةً، نَزَلَ بِهَ التَّرْوِیْحُ الْاَمِیْنُ، وَ  
بَیِّنَةُ الرَّسُوْلِ الْحَكِیْمِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِلٰهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ۔

حمد و صلوٰۃ کے بعد عرض گزار ہوں کہ میں بتوفیق ربّانی قبل ائمہ اربعہ کے سیرت و  
سوانح تحریر کر چکا ہوں۔ ائمہ اربعہ کی امامت پر اجماع قائم ہو چکا ہے۔ اجتہاد و استنباط میں  
ان کے طریقہ کی پیروی کی جاتی ہے۔ جو لوگ منصب اجتہاد تک پہنچ سکے اور نہ طریق اعتدال  
کی آخری حد تک انہیں رسائی حاصل ہوئی وہ ان کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں۔ پھر یا تو دلیل  
معلوم کرنے کے بعد ان کا اتباع کرتے ہیں یا بلا دلیل ان کی تقلید کرتے ہیں۔

بارگاہ ایزدی سے پھر مجھے توفیق مزید ارزانی ہوئی اور میں نے اسن امام کے سیرت و سوانح  
پر ایک کتاب لکھی جو منصب اجتہاد پر فائز تھے۔ انہوں نے مسائل میں اجتہاد کیا اور کانٹ  
چھانٹ بھی کی۔ ان کی سعی و جہد کا نتیجہ یہ ہوا کہ فقہ کو وہی تروتازگی اور وسعت و جامعیت نصیب  
ہوئی جو اسے دور اول میں حاصل تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ عظیم امام چنانچہ ایک مسائل کے  
سوا اپنے اجتہاد و فحش اور استنباط مسائل میں ائمہ اربعہ کی فقہ کے دائرہ سے باہر نہیں نکلا  
اور جن مسائل میں وہ منفرد تھے ان کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ مزید براں جن مسائل میں وہ ائمہ اربعہ سے  
جدا مسلک رکھتے تھے دوسرے اصحاب مذہب مثلاً فرقہ امامیہ کے یہاں ان کی اصل بھی موجود ہے  
یہ تھے شیخ الاسلام امام تفتی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

سیرت نویسی میں اگر تقدم زمانی کا لحاظ رکھا جائے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ابن حزم کی  
سیرت ابن تیمیہ سے پہلے لکھی جاتی کیوں کہ ابن حزم ابن تیمیہ سے تقریباً تین سو سال پہلے ہوئے

ہیں۔ مگر ہم نے (ترتیب زمانی کے برعکس) ابن حزم کی سیرت بعد میں تحریر کی، اس لیے نہیں کہ ان کا مرتبہ ابن تیمیہ سے کم ہے بلکہ صرف اس لیے کہ ان کی فقہ جلا گانہ نوعیت کی ہے اور ائمہ اربعہ کی فقہ سے الگ ہے۔ اگرچہ اصل سب کی ایک ہی ہے (یعنی کتاب و سنت) ابن حزم کی فقہ کا رنگ الگ ہے اگرچہ ماخذ و مصدر میں کوئی فرق نہیں۔ یہ جملہ ائمہ دین کتاب و سنت سے استفادہ کرتے اور انہی کے چشمہ صافی سے اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں اور اسی میں اہل ایمان کے لیے رحمت و شفاء کا سامان موجود ہے۔

ابن حزم ظاہری فقہ کے ترجمان تھے۔ آپ نے دائرہ اصہبانی کی فقہ کو از سر نو زندہ کیا۔ اسی فقہی شاہراہ پر گامزن رہے۔ اس میں دست پیدا کی۔ اس کے فروع کی تائید میں دلائل و ثبوت۔ زبردست دلائل و براہین کی روشنی میں مخالفین کا ناطقہ بند کیا۔ مناظرہ میں الزامی طریق کو اختیار کیا اور مخالفین پر تباہ توڑ حملے کئے۔ ظاہری فقہ کے نظریات کی تائید میں بعض ائمہ کے اقوال سے استشہاد کیا۔ حضرات صحابہ و تابعین کرام کی فقہ کو خوب خوب واضح کیا ان سے بڑے قیمتی اور گراں بہا نتائج برآمد کیے۔ درحقیقت آپ نے ایک ایسے چشمہ صافی کی ٹوہ لگائی جس کا پانی کبھی خشک نہ ہوگا اور تشہہ کا مان علوم دینیہ ہمیشہ اس سے اپنی علمی پیاس بجھاتے رہیں گے۔ ابن حزم نے آثار سلفیہ کے بحرِ خار سے ایسے ایسے قیمتی موتی نکالے جن کے اظہار و اخراج میں وہ یگانہ تھے اور کسی کو یہ سعادت حاصل نہ ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ

۱۔ داؤد بن علی بن خلف الاصبہانی المعروف بالظاہری سنہ ۲۰۲ھ میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور اسحاق بن راہویہ اور ابو ثور وغیرہ سے علم حاصل کیا۔ امام شافعی کے سخت حامی تھے ان کی مدح و ثنا میں دو کتابیں لکھیں۔ بغداد میں ان سے بڑا عالم کوئی نہ تھا۔ وہ ایک جلا گانہ فقہ کے بانی تھے جس کی بنیاد انہوں نے ظواہر کتاب و سنت پر رکھی۔ وہ اس وقت تک ظاہری احکام شرع کے پابند رہتے جب تک کتاب و سنت کی کسی دلیل یا اجماع سے یہ نہ ثابت ہو کہ ظاہری حکم مراد نہیں۔ نص کی عدم موجودگی کی صورت میں وہ اجماع پر عمل کرتے اور قیاس کو بالکل نظر انداز کر دیتے۔ ان کا قول ہے کہ عموم کتاب و سنت سے ہر مسئلہ کا جواب نکل آتا ہے متعدد کتب ان کی تصنیف ہیں۔ پانچویں صدی ہجری کے نصف تک لوگ ان کی فقہ کا اتباع کرتے رہے۔ انہوں نے بہت سے مسائل میں جمہور کی مخالفت کی ہے (غلام احمد تحریری مترجم عفی عنہ)

(تاریخ بغداد للخطیب ج ۸ ص ۳۷۰)



کی فقہ پر گفتگو کرنے کے بعد ابن حزم کی جانب توجہ مبذول کرنا ہمارے لئے ناگزیر تھا تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ انھوں نے کس فقہ کی بنا ڈالی؟ اسلامی فقہ کے سرچشمے کن علوم و معارف سے معمور تھے، اور ان میں ظاہری فقہ کی حیثیت و خصوصیت کیا تھی؟

جس طرح ابن حزم کی فقہ ائمہ اربعہ اور دیگر مجتہدین کی فقہ سے طریق استنباط کے اعتبار سے ممتاز ہے اسی طرح ان کی شخصیت بھی فقہاء میں منفرد اور یگانہ ہے۔ وہ مناظر بھی ہیں اور عظیم محدث بھی۔ وہ ادیان و مذاہب کے لائق ترین عالم ہیں اور بہترین شاعر اور نثر نویس بھی۔ ان کے اشعار کسی طرح فحول شعراء کے کلام سے کم مرتبہ نہیں۔ ان کی فنی نثر تفوق معنوی جو دت خیال انتخاب الفاظ اور اسلوب کی شان و شوکت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کی تحریر کردہ فنی نثر جو دت تعبیر حسن تصویر سلامت معنی اور دقت فکر و نظر کی جامع ہے۔ ابن حزم کی عبارت جذبات و احساسات سے لبریز ہوتی ہے اور نہایت دلکش انداز بیان میں لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ صفت اول کے نثر نویسوں میں شمار کئے جاتے ہیں۔ آپ کی نثر میں صرف الفاظ کا رکھ رکھاؤ ہی نہیں بلکہ معنوی حسن دقت فکر و نظر اور ظاہری حسن و جمال بھی پایا جاتا ہے۔

ابن حزم صرف ایک جدید فقہ کے بانی اور فقہاء کے ادیب اریب ہی نہ تھے بلکہ یہ امر بھی آپ کی عظیم خصوصیت ہے کہ آپ اس ملک کے رہنے والے تھے جسے اس زمانہ میں تمام بلاد اسلامیہ کے ماہرین "فردوسِ دوراں" کی حیثیت حاصل تھی۔ افسوس کہ اب اس وطن عزیز کی صورت یاد باقی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اُنڈ گس کے رہنے والے تھے جس کی یاد سے اب بھی دلوں سے خون کے فوارے اُبلنے لگتے ہیں۔ حسرت و اندام اور عبرت پذیری کے جذبات اُبھرتے ہیں۔ دل میں حزن و ملال کا سمندر موجیں مارنے لگتا ہے۔ وہ اندلس جو تاریخ اسلام کا عظیم ساتھ ہے، ہم نے فقہ اسلامی کی تحقیق و تدقیق میں مشرق و مغرب کی خاک چھانی ہے یہ حقیقت ہے کہ ابن حزم کی فقہ کا ذکر دیکھ کر اس محبوب گم گشتہ یعنی سرسبز و شاداب اندلس کی یاد تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔

"فَاتِ اَنْذِرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ"

میں کامل عجز و انکسار سے بارگاہِ ربانی میں عرض گزار ہوں کہ وہ مجھے اس عظیم فقیہ زبردست حافظ جلیل الشان، محدث و وسیع النظر، عالم دین، دقیق النظر، فاضل بے مثال

نثر نویس اور شاعر۔۔ جن کے کلام سے قلبی احساسات اجاگر ہوتے اور نفوس انسانی  
 پرہیزگار ہوتے ہیں۔۔ کی فقہ کے تمام گوشوں کے کشف و انظہار کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس  
 میں ذرہ بھر شبہ نہیں کہ اگر توفیق ربانی شامل حال نہ ہو تو ہم کسی حقیقت کو ظاہر کر سکیں نہ فکر صحیح  
 تک پہنچ سکیں۔ صراطِ مستقیم کی جانب رہنمائی کرنے والا صرف وہی ہے۔

محمد ابو زہرہ

۶۶ ربیع الثانی ۱۳۷۳ھ

۲۲ جنوری ۱۹۵۴ء

## تہمید

ابن خرم معاصر علماء کی نظر میں ہے۔ ابو مردان بن حیان ابن خرم کی تعریف میں فرماتے ہیں۔

”ابن خرم اپنے علم کو پھیلاتے اور اس میں جو شخص ان کی مخالفت کرتا علم کی طبعی لطافت و لیونت کے باوجود اس سے بھگرتے اور علم کے اسرار و رموز کو دانشگاہ کرتے اور اس طرح اس عہد ربانی کو پورا کرتے جو اس نے اپنے بندوں سے لیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

كَتَبْنَاكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوهُ  
(آل عمران - ۱۸۴)

اسے لوگوں پر واضح کریں گے اور چھپائیں گے

(گنہ نہیں)

ابن خرم کھری بات کو نہ لطیف پیرایہ میں بیان کرتے نہ رمز و کنایہ اور تدریج سے کام لیتے بلکہ پھر کی طرح اسے مخالفت کے منہ پر دے مارتے جس سے بلا دلیل دعویٰ کرنے والے شخص کے سائے دعویٰ رائی کے دانوں کی طرح بکھر جاتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دلوں میں ان کی نفرت بیٹھ گئی اور وہ مختلف قسم کے خطرات میں بکھر گئے۔ فقہاء زمانہ نے انہیں ہدف طعن بنایا۔ ان کے خلاف بغض و عداوت پر آمادہ ہوئے۔ ان کے افکار و نظریات کی تردید کا بیڑا اٹھایا۔ تفسیل و تکفیر اور طعن و تشنیع کے تیروں کو استعمال کیا۔ سلاطین وقت کو ابن خرم کے فتنہ سے آگاہ کیا۔ عوام الناس کو ان کی مجالست و مرافقت اور اخذ و استفادہ سے روکا۔ نتیجہ کے طور پر شاہان وقت نے ابن خرم کو تقرب بارگاہ سے محروم کیا، ملک بد

کیا مگرواہ رے ابن حزم! کہ ان کے پایہ ثبات میں تزلزل نہ آیا۔ نہ اپنے نظریات سے ذرا بھر ہٹنا گوارا کیا۔ نہ مخالفین کے ساتھ مصالحت کرنے پر آمادہ ہوئے۔ بلکہ حسب سابق جو عام اور صغیر السن طلبہ دیہات سے طلب علم کے لئے آتے اور انہیں کسی کی ملامت کی کچھ پرواہ نہ ہوتی ابن حزم ان میں اپنا علم پھیلاتے ان کو حدیث نبوی سے پہرہ ور کرتے، تہذیب و ثقافت کا درس دیتے اور انہیں مختلف علوم پڑھاتے۔ اس کے پہلو پہ پہلو مطالعہ اور تصنیف و تالیف کا مشغلہ بھی ہمیشہ جاری رہتا۔ کثرت تصانیف کا یہ عالم تھا کہ مختلف علوم و فنون پر آپ نے ایک بار نشر کے برابر کتابیں لکھ ڈالیں۔ حالانکہ ان کی اکثر تصانیف فقہاء اور طلبہ کی بے اعتنائی کی وجہ سے شمار نہ کی جاسکیں اور ان میں سے بعض کتابیں اشبیلیہ میں نذر آتش کر دی گئیں اور اعلانیہ پارہ پارہ کر دی گئیں مگر بایں ہمہ ان کتب کی نشر و شاعت کے بارے میں مصنف کی بصیرت مائل بہ ارتقاء رہی اور وہ ان کی مخالفت کرنے والوں سے بحث و مناظرہ کرنے میں مشغول رہتے۔ یہاں تک کہ اپنے خالق سے جلنے۔ ابن حزم سے انصاف کرنے والا ان میں بڑے سے بڑا یہ نقص پایا جاتا ہے کہ آپ علم و معرفت کی سیاست سے بہرہ ور نہ تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ بیات علم میں مہارت تامہ حاصل کرنے سے بھی دشوار تر ہے یہ۔“

۲۔ عداوت ابن حزم کے اسباب :- یہ ہے ابن حزم کا مرتبہ ان کے معاصر مورخین اور علماء کی رائے میں! وہ سبھی ان کی علمی برتری کے ثنا خواں فصیلت و عظمت کے معترف مگر جدلی جدت و شدت طرزِ ذکر و بیان اور مخصوص فقہی طریق استدلال کے شاکی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے فقہاء آپ سے نفرت کرنے لگے۔ امراء و حکام کو ان کے خلاف بھڑکایا اور انہوں نے آپ کو شہر بدر کر دیا۔

ہم یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ فقہاء کے اختلاف کا سبب آیا ابن حزم کی تیز زبانی تھی یا اس

کی وجہ یہ تھی کہ ابن حزم اپنے نظریات کو اس قدر واضح اور زوردار الفاظ میں بیان کرتے تھے کہ مخالفت جواب کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فقہاء اپنے مخصوص فقہی مکتب خیال کی مخالفت کی بنا پر ابن حزم سے بگڑ گئے ہوں۔ کیوں کہ وہ مالکی فقہ کے پیرو تھے اور کوئی ایسی فقہ ان کے لئے قابل برداشت نہ تھی جس سے وہ مانوس نہ ہوں اور نہ اس کے طریق و منہاج سے انہیں آشنائی ہو۔ خصوصاً جب کہ ابن حزم اپنے افکار و نظریات کے دفاع اور مخالفتیں کے اعتراضات کا جواب دینے میں تشدد سے کام لیتے ہیں۔ انہیں مطلقاً اس بات کی پروا نہ ہوتی کہ وہ مخالفت کے قول کا ابطال کر رہے ہیں یا اس کی ذات پر حملہ آور ہو کر اسے گھائل کر رہے ہیں۔ جس بات کو حق سمجھتے اسے بر ملا کہہ دیتے قطع نظر اس سے کہ ان کا طریق اظہار و بیان بھی مناسب ہے یا نہیں۔ ابن حزم میں احساس برتری بھی پایا جاتا تھا۔ نہ لوگ آپ کے قریب آنے کی جرأت کرتے اور نہ ابن حزم کو ان کا تقرب حاصل کرنے کی فکر و انگیر ہوتی۔

شاید یہ دونوں سبب فقہاء اور دوسرے لوگوں کی بغض و عداوت کا باعث بنے۔ مزید برآں باہمی عناد کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابن حزم اقتصادی اعتبار سے بڑے خوشحال تھے اور ان میں ایک طرح کا احساس برتری بھی پایا جاتا تھا۔ آپ دوسرے فقہاء کی طرح امراء کے نمک خوار نہ تھے بلکہ اپنی آبائی جائداد کے بل بوتے پر آرام و راحت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کا لوگوں پر خاصا اثر تھا اور ابن حزم اس اعتبار سے اپنے آپ کو دوسروں سے اونچے درجہ کا آدمی سمجھتے تھے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے سے زیادہ باعزت شخص کو ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور نہ اس سے محبت کرنا چاہتا ہے۔

**سلاطین و فقہاء کی کینہ تو زمی :-** مورخین کا بیان ہے کہ فقہاء نے حکام وقت کو ابن حزم کے خلاف جمع کر دیا مگر تاریخی حقائق کا

مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حکام کو ابن حزم کے خلاف اکٹھے ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ تو صرف ابن حزم پر خروتشہ و تشددا استعمال کرنے کے لئے کسی بہانہ کے متلاشی تھے۔ فقہاء نے امراء کے علاوہ یہ دروازہ چوپٹ کھول دیا اور ابن حزم کے خلاف بغض و عناد کی آگ بھڑکانے میں ان کے معاون ثابت ہوئے اور اس طرح اس زبردست عالم دین، (ابن حزم) کے خلاف دو قسم کے دشمن باہم مل گئے پہلی قسم کے دشمن وقت کے علماء تھے جب کہ ابن حزم کے دوسرے مخالفتیں، امراء و حکام وقت تھے۔ امراء کی مخالفت کا سبب سیاسی تھا اور وہ

یہ کہ ابن حزم بنو امیہ کے طرفداروں میں سے تھے اور ان کے فضائل و مناقب کو مشرق و مغرب میں پھیلاتے تھے۔ بخلاف ازیں ابن حزم کبھی بھول کر بھی مخالفین بنی امیہ کا نام نہ لیتے نہ ان کی تعریف و توصیف میں کبھی رطب اللسان ہوتے۔ حمایت بنی امیہ کی انتہا یہ ہے کہ آپ پر ناصبی ہونے کا الزام تراشا گیا اور آپ کو حضرت علی اور بنی ہاشم کا دشمن تصور کیا جانے لگا۔ جب اموی حکومت کو زوال آیا اور ان کی جگہ دوسرے حکمرانوں نے لے لی تو ان میں شیعہ مذہب اور حضرت علی کی طرف رجحان و میلان کے آثار نمودار ہونے لگے اور ابن حزم کے خلاف ہو گئے۔ پھر حکمرانوں میں ابن حزم کے مزید دشمن پیدا ہوئے اور ان کو ایذا دینے کے لئے بہانہ کی تلاش میں سرگرم رہتے۔ آخر فقہاء کی عداوت ابن حزم اور بہتان تراشیوں کی صورت میں حکمران طبقہ کو ابن حزم پر ظلم و ستم روا رکھنے کا بہانہ مل گیا۔ چنانچہ وہ آپ کو اذیت دینے لگے۔ عوام الناس کو آپ سے نفرت دلانے کا شاخسانہ کھڑا کیا۔ مگر وہ اس میں کامیابی سے ہمکنار نہ ہوئے۔ علم روشنی اور ہوا کی طرح کسی کے تصرف میں نہیں اور کوئی شخص اس کی نشر و اشاعت کو روکنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ دشمنوں نے آپ کی کتابیں تک جلا ڈالیں۔ ابن حزم کتابیں جلانے والوں اور ان کو اس حرکت پر آمادہ کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں :-

(۱) بے شک تم کا غذا تو جلا سکتے ہو مگر اس کے مندرجات کے جلانے پر قادر نہیں کیوں کہ وہ میرے دل میں محفوظ ہیں۔

(۲) جہاں میری سواریاں جاتی ہیں میرا علم بھی رفیق سفر ہوتا ہے جہاں اترتا ہوں وہ بھی اتر جاتا ہے اور جب میں قبر میں دفن کیا جاؤں گا تو وہ بھی میرے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔

(۳) کاغذ اور چمڑے کو جلانے کا طریقہ چھوڑیے اور کوئی علمی بات پیش کیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے صاحب علم و معرفت کون ہے۔

(۴) ورنہ پھر سے مکتب میں جا کر تعلیم حاصل کیجئے کیونکہ جس مقصد کی تمہیں تلاش ہے ابھی کتنے پردے اس میں حائل ہیں بے

جامعیت اور وسعت مطالعہ ابن حزم کی زندگی جدل و پیکار میں بسر ہوئی۔ اگرچہ آپ بڑے

عشرت نصیب نہ ہوئی۔ اس میں شبہ نہیں کہ آپ کے فکر و نظر کے گوشوں میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ آپ نے فلسفہ پڑھا اور اخبار و انساب بھی۔ لغت و ادب سے بہرہ وافر پایا اور اشعار قدیم و جدید کا بھی کافی ذخیرہ جمع کیا۔ علم حدیث پڑھا اسے یاد کیا اور اپنی تصانیف میں جمع کر دیا۔ آپ کی گراں قدر تالیف محلی دیکھتے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو احادیث نبویہ اور صحابہ کے فتاویٰ و قضایا کا کس قدر وسیع علم تھا اور آپ تابعین کے آثار ان کے فتاویٰ اور فیصلہ جات سے کس قدر واقفیت رکھتے تھے۔ ابن حزم حدیث نبوی اور اقوال صحابہ کا وہ سمندر تھے جسے ذول کی آمدورفت گدلا نہیں کر سکتی۔ آپ قدیم مذاہب و ادیان اور فریق اسلامیہ کا وسیع علم رکھتے تھے دیار اندلس کے قرب و جوار میں رہنے والے یہود و نصاریٰ نے اسلام پر جو اعتراضات کئے تھے۔ آپ نے ان کے شافی جواب دئے۔ دراصل اندلس کی آغوش ہر اس شخص کے لیے وا تھی جو اس میں آکر پناہ گزین ہوتا۔ مسلمان خلفاء کے جوار میں کامل آزادی سے زندگی کے دن کاٹتا پڑھتا پڑھاتا، بحث و مناظرہ میں حصہ لیتا اور اسلام کو اپنے اعتراضات کا پدف بنا تا۔ ابن حزم ایسے اسلام دشمن عناصر کے خلاف نبرد آزما ہوئے اور ان کے افکار و آراء کی دھجیاں فضائے آسمانی میں بکھیر دیں۔

ابن حزم نے ان تمام مجادلات و مناظرات کی تفصیلات اپنی تصانیف میں بڑے بلیغ الفاظ میں ذکر کی ہیں۔ ان کا اسلوب علمی ہے اور ادبی بھی۔ آپ تاریخ عام و خاص دونوں کے وسیع عالم تھے آپ سلاطین و ملوک کی تاریخ سے آگاہ تھے اور تاریخ ادیان و ملک سے بھی پوری واقفیت رکھتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ ان مذاہب کا آغاز کب ہوا؟ کب عروج کو پہنچے اور کب صفر ہستی سے مٹ گئے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ مسببات و غایات سے قبل اسباب و مظاہر کا سراغ بھی لگاتے جاتے اور ان تمام تفصیلات کو اپنی تصنیفات میں بڑے ذور و ارفاق میں بیان کرتے۔

ابن حزم عالم نفسیات کی حیثیت سے بہ  
مزید براں ابن حزم نفسیات کے  
بھی عالم تھے۔ آپ نے بڑے  
غور و فکر سے نفس انسانی کی گہرائی میں اتر کر نظر غائر اس کا مطالعہ کیا تھا۔ آپ نفس انسانی

کا تجزیہ کرتے اور بتاتے ہیں کہ قبائل و اقوام میں مختلف قسم کے افکار و نظریات کیونکر نفوذ کرتے ہیں۔ پھر افراد کے نفوس کا تجزیہ کرتے ہیں یہاں تک کہ عشق و محبت کو بھی موضوع کلام بناتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ عشق کیونکر دلوں میں داخل ہو کر ان پر قابو پالیتا ہے۔ آپ کی کتاب "طوق الحمامہ" بیات معلوم کرنے کے لیے کافی ہے کہ یہ عظیم فقیہ عشق اور عشاق کے احوال و کوائف اور عشق و محبت کے عوامل سے کس قدر باخبر تھے۔ یہ معلومات انہوں نے تجربہ و مشاہدہ کی روشنی میں حاصل کیے تھے ظن و تخمین کی بنا پر نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کتابوں کی ورق گردانی نہیں کی بلکہ اپنے علم کی مدد سے اسے محسوسات کی دنیا میں ملاحظہ کیا۔ ابن حزم کی خوشحالی اور فارغ البالی اس میں مزید معاون ثابت ہوئی انہوں نے ایک ایسے گھرانے میں تربیت پائی تھی جس کے صحن میں حسین اور نازنین باندیوں کی آمد و رفت تھی اور اس طرح انہیں اپنے نفس کو آزمانے اور دوسروں کے اعمال کا جائزہ لینے کا موقع ملا پھر ان احساسات و عواطف کو ایسی بلیغ و لطیف عبارت میں قلمبند کیا جو اس صاف و شفاف آب شیریں کی طرح رواں دواں تھی جو باغوں اور ندیوں میں جاری اور ساری ہوتا ہے۔

۴۔ ابن حزم کی شخصی زندگی :- یہ ہے اس عالم نابغہ کے مختلف مظاہر حیات کی تصویر! یہ مظاہر اتنے نمایاں ہیں کہ ابن حزم کی تصانیف کے ہر صفحہ اور ان کے رسائل و مکاتیب میں قاری کو صاف نظر آتے ہیں۔ ان سے پتا چلتا ہے کہ ابن حزم کی شخصیت کس قدر متنوع کمالات کی جامع تھی اور ان کے رجحانات و میلانات میں کس حد تک تباین و اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف کا ہر صفحہ ان کی شخصیت کے ایک جداگانہ پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ ابن حزم کی شخصی زندگی گویا ان ائمہ کرام کی طرح سادہ نہ تھی جن کی سیرت و سوانح لکھنے کی سعادت قبل ازیں ہمیں حاصل ہو چکی ہے۔ ان کی زندگی ایک ہی فکری شاہراہ پر گامزن تھی۔ اگرچہ فقہ کے علاوہ ان سے دوسرے نظریات بھی منقول ہوئے ہیں مگر وہ ان کے طرز فکر و نظر سے جداگانہ نوعیت کے نہ تھے اور ان کی جانب ائمہ کرام کا طبعی رجحان بھی نہ تھا۔ مگر ابن حزم کی شخصیت ان سے مختلف ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ ابن حزم ادبیات میں ایک بہترین نثر نگار ہیں اور اپنے دور کے کسی لکھنے والے سے کم مرتبہ نہیں بلکہ اکثر اوقات جو دت فکر شوکت بیان اور حسن سلوک کے اعتبار سے وہ ان سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ مزید یہاں وہ ایک ممتاز سیاست دان ہیں جس نے وزارت کے



ماحول میں آنکھ کھولی اور خود بھی مسندِ وزارت، کوزنیت بخشی۔ اس کے درشن بددش وہ ایک عظیم محدث، فقیہ اور مؤرخ بھی ہیں ان کی ذات میں ان جملہ کمالات کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ اگرچہ اوصاف کا تناسب برابر نہیں مگر انہوں نے مل جل کر اس نادرۃً رازگار شخصیت کے بتنے اور ابھرنے میں تعاون سے کام لیا۔

آپ کی شخصی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے ان موثر عوامل کا دریافت کرنا بے حد ناگزیر تھا جنہوں نے آپ کو مختلف دستوں اور اصوات کا مرقع بنانے میں مدد دی۔ آپ کی زندگی کے رجحانات و میلانات مختلف تھے مگر باہم متصادم نہ تھے۔ بعض اوقات ان میلانات کے مظاہر جداگانہ نوعیت کے ہوتے تھے اگرچہ غور و فکر سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ان کا سرچشمہ ایک ہی ہے اور اس کے دھارے یہ مختلف سمتوں میں بہتے ہیں۔ ان میں سے بعض گہرے بعض صاف و شفاف ہیں۔ الغرض اس کا ہر حصہ اپنے طبعی میلان کے مطابق بہ رہا ہے۔

ابن حزم کے متباین رجحانات کے وجوہ و اسباب :-

ابن حزم کی زندگی کے متخالف رجحانات کی وجہ بظاہر یہ نظر آتی ہے کہ آپ ایک طرف تو عشق و معاشقہ اور الفت و محبت کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں اور اسے یوں بیان کرتے ہیں جیسے آپ نے اس کا ذاتی تجربہ کیا اور یہ معلوم کر لیا ہو کہ عاشق زار پر کیا گذرتی ہے اور کس طرح آتشِ عشق اس کے سینہ میں فروزاں مشتعل رہتی ہے۔

دوسری جانب آپ حدیث نبوی، فقہ اور علم الکلام پر بھی خامہ فرسائی کرتے ہیں اور اپنے پیش کردہ دلائل و براہین کو ایک پتھر کی طرح مخالفت کے منہ پر دے مارتے ہیں جس سے اس کے دعاوی کا تار و پود رانی کے دانوں کی طرح بکھر جاتا ہے۔

پہلی قسم کے کلام سے ابن حزم کا لطیف المزاج اور نرم ٹھوہرنا واضح ہوتا ہے جب کہ دوسری قسم ان کے متشدد ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ابن حزم عشق و محبت پر گفتگو کرتے وقت پانی کی طرح بہنے لگتے ہیں۔ جب شرعی مسائل کی نوبت آتی ہے تو آپ میں سنگدلی اور درشتی طبع کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں اور سامع یوں محسوس کرتا ہے کہ جنگی آلات آپ میں مگر رہے ہیں۔

مخالف آراء جب عمیق نگاہ سے آپ کی زندگی کے مختلف ادوار کا جائزہ لیا جائے تو یہ

حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ان متخالف میلانات کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ حسن و عشق سے متعلق تحریریں ایک ایسے نوجوان کی کاوش ہیں جو خوشحال تھا جس نے ناز و نعمت کے ماحول میں پرورش پائی۔ جس کے گھر میں حسین باندیوں کی بھرمار تھی اور جو ایسی معنیہ لونڈیوں کا واحد مالک تھا۔ چنانچہ وہ "طوق الحمامہ" نامی کتاب لکھتا ہے اور اس میں بیس سال سے لے کر پینتیس<sup>۳۵</sup> یا اس کے بعد تک ایام شباب کی تصویر کھینچ کر رکھ دیتا ہے۔ جب جوش جوانی ختم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی عیش و مسرت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور زندگی کی لطافت و لیونٹ شہرت و خشنونت میں بدل جاتی ہے۔ اگرچہ مال و دولت کی اس وقت بھی کمی نہ تھی۔ مگر وہ فرصت و انبساط رخصت ہو چکا تھا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نوجوان (ابن حزم) علمی زندگی کی طرف لوٹا۔ حدیث و فقہ کے اوراق کھنگالے، علم الکلام کا مطالعہ کیا۔ ادیان و مذاہب سے آگاہی حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ و پیکار اور بحث و جدال کی گرامر میوں سے بھی بہرہ اندوز ہوتا رہا۔

چونکہ آپ عالم شباب میں عقیف اور پاکدامن ہونے کے باوجود تیز و تند تھے۔ آپ کی یہ ہمت طبع آگے چل کر آپ کو زبردست مناظر اور مجادل بنانے میں کامیاب ہوئی۔ لہذا ابن حزم کی دونوں قسم کی تحریروں کی اصل ایک ہے اگرچہ شکل و صورت جدا گانہ نوعیت کی ہے۔ اکثر مفکرین علماء اور شعراء کے حالات زندگی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی طبیعت سے درختوں کی قسم کے امور ظہور پذیر ہوتے ہیں جو بظاہر متضاد ہوتے ہیں مگر منبع اور اصل کے اعتبار سے ان میں کامل یگانگت پائی جاتی ہے۔

مندرجہ بالا احوال و امور کا تقاضا ہے کہ ابن حزم کی زندگی کے **ابن حزم کا علمی ورثہ** :- تمام ادوار کا بغور مطالعہ کریں کیوں کہ ہر دور میں ان کی زندگی کے مختلف مظاہر و اشکال معرض ظہور میں آئے۔ ہر مظهر ایک خاص زمانہ میں رونما ہوا۔ کیونکہ ہر چیل کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ عالم شباب میں نفسیات کا عمیق مطالعہ کر کے اپنے نتائج و افکار کا حاصل پیش کیا۔ ادھیڑ عمر اور پیرائے سالی میں حدیث و فقہ کا بیش بہا ورثہ اپنی یادگار چھوڑا۔

ابن حزم کا علمی ورثہ صرف ایک ہی نوع کا نہ تھا بلکہ اس کے آفاق و اطراف متعدد اور میلانات درجحانات مختلف تھے۔ وہ قدیم مذاہب اور ان کے انبیاء سے بخوبی آگاہ تھے وہ جانتے تھے کہ انبیاء کی موجودگی میں ان مذاہب کی کیا حالت تھی اور ان کے بعد ان پر کیا گذری۔

آپ ان مصادر و ماخذ سے بھی باخبر تھے جن سے وہ اپنے اعراض و مقاصد کو پورا کرتے۔ آپ اسلامی فرقوں کے نقطہ آغاز اور ان کے ظہور و شیوع سے پوری پوری واقفیت رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ ان کی تردید کیونکر کی جاسکتی ہے۔ آپ نے اپنی مشہور کتاب "الفصل فی الملل والنحل" میں یہ تمام تفصیلات درج کر دی ہیں۔ اس کتاب پر تبصرہ کرنے اور آپ کے آراء و افکار اور طرز و منہاج کو واضح کرنے کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔

اس سے بڑھ کر ابن حزم ایک جلیل القدر عالم اور مورخ ہیں جنہوں نے اہم واقعات کی تاریخ کو بغور پڑھا اور اسلامی تاریخ کے اوراق کھنگالے۔ مزید برآں آپ ایک زبردست ادیب اور شاعر بھی ہیں۔ ابن حزم کی درست حیات اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم ان تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لیں یا کم از کم صداقت وال کے اندر محدودہ کران کے حالات پر روشنی ڈالیں۔ یہ صحیحی ممکن ہے کہ ہم ان کے علم و عرفان کے ہر گوشہ کو اجاگر کرنے کے لیے الگ باب باندھیں اور اس خاص علم و فن میں ان کے مقام و منہاج کو واضح کریں اور ابن حزم کی سیرت ناقص رہے گی۔

علم و فنون سے قطع نظر ابن حزم ایک عظیم محدث اور فقیہ تھے۔ جنہوں نے علم حدیث کے تمام متعلقات کا کامل غور و فکر سے مطالعہ کیا۔ تمام یا اکثر احادیث بنویہ کو جمع کرنے کی سعادت سے مشرف ہوئے خصوصاً وہ احادیث جو فقہی احکام سے تعلق رکھتی تھیں۔ پھر ان احادیث سے تخریج و استنباط کر کے لوگوں کے سامنے ایک جدید فقہ پیش کی۔

تواریخ کا بیان ہے کہ ابن حزم نے پہلے شافعی فقہ کا مطالعہ شروع کیا۔ پھر تھوڑے ہی عرصہ بعد ظاہری فقہ کے پابند ہو گئے۔ داؤد امبیہانی، جہنیں داؤد ظاہری کہا جاتا ہے، پہلے شافعی مسلک تھے۔ پھر ظاہری فقہ کے بانی قرار پائے اور اس طرح شافعی فقہ سے ظاہری فقہ منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئی۔

ابن حزم ظاہری فقہ کی تعلیمات میں آزاد تھے اور اس کی تکوین و تخلیق میں ان کی شخصیت کے اثرات نمایاں تھے۔ ظاہری فقہ میں ان کی بیشریت صرف ایک تابع اور مقلد کی نہ تھی، ہمارے لیے اب یہ معلوم کرنا اہم ہے کہ ظاہری فقہ اور اس مذہب و مسلک کے مابین کونسا رابطہ پایا جاتا ہے جو ابن حزم کے نام کا حامل اور ان کے آثار و رسوم کی یاد تازہ کرتا ہے اور یہ کہ آیا ابن حزم نے صرف داؤد ظاہری کے مسلک کو حیات نو بخشی یا دونوں قیاس کی نفی کرنے

میں ایک ہی شاہراہ پر گامزن تھے؛ بہر کیفیت ابن حزم فقہی قواعد و ضوابط، طرز فکر و نظر اور وسعت  
دراسات میں جداگانہ حیثیت رکھتے تھے اور کسی کے زیر اثر نہ تھے۔ ظاہر ہے کہ ان ہمارے امور سے آگاہ ہونا  
ناگزیر ہے اور یہ کام اتنا آسان نہیں۔

**ابن حزم اور داؤد ظاہری کی فقہ کے مابین نقطہ امتیاز :-** ابن حزم نے فقہی اصول وضع  
کئے اور امام شافعی کی طرح

اپنے طرز استنباط اور طریق اجتہاد کو اپنے وضع کردہ اصول میں محدود و محصور رکھا اور ان کے ذکر بیان  
میں بڑی طوالت سے کام لیا۔ یہ اصول ابن حزم نے اپنی کتاب "الأحكام في أصول الأحكام" میں بیان  
کئے۔ ان اصول و قواعد کا مطالعہ اور فقہاء کے اصول سے عموماً اور داؤد ظاہری کے وضع کردہ ضوابط کے  
ساتھ خصوصاً ان کا موازنہ از بس ضروری ہے۔ اس کبیر الحکم کتاب کے پہلو بہ پہلو ظاہری فقہ کے قواعد میں  
آپ نے ایک مختصر کتاب بھی ارقام فرمائی۔ کیا داؤد اطہبہانی اور ابن حزم جملہ مسائل میں متحد خیال  
تھے؟ مقدار اختلاف کو معلوم کرنے کے لیے یہ معلوم کرنا بے حد ضروری ہے۔ بشرطیکہ ابن حزم  
کے خاص طرز فکر و نظر اور عام ظاہری فقہ میں ایسا کوئی اختلاف موجود ہو۔

اس میں شبہ نہیں کہ فقہ کے دو باہم متقارب و متشابه طریقوں میں جو اصل فکر کے اعتبار  
سے ملتے جلتے ہوں، تمیز و تفریق بڑا دشوار کام ہے۔ البتہ مختلف قسم کے فقہی مکاتب خیال میں  
فرق کرنا چنداں مشکل نہیں۔ کیوں کہ جب دو طریقوں میں کافی فاصلہ پایا جاتا ہو۔ تو یہی بعید اختلاف  
ان میں فرق و امتیاز پیدا کرنے کے لئے کافی ہے۔ بخلاف ازیں جب دونوں میں قریبی مماثلت  
پائی جاتی ہو یہاں تک کہ ان کا نام بھی ایک ہو اندر میں صورت بڑی گہری تلاش و تفحص  
کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور ہر طرز فکر کو جداگانہ ترازو میں تولتا پڑتا ہے۔ تب کہیں جا کر ان کی  
مماثلت و مشابہت کے علی الرغم ان کا باہمی فرق واضح ہو پاتا ہے۔

**ابن حزم کی فقہ کی خصوصیات :-** بلاشبہ ابن حزم قیاس کو تسلیم نہیں کرتے اور اس  
پر بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں بلکہ استحسان بھی

ان کی نقد و جرح سے نہیں بچتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا نصوص و آثار ان کی جملہ استنباطات  
میں ان کا ساتھ دیتے تھے؟

ابن حزم نے مسائل میں اجتہاد کیا۔ فروعاً کو چھانٹا۔ فقہی مسائل کو مختلف شاخوں میں  
تقسیم کیا۔ آپ کی کتاب محل میں مختلف قسم کے فروعاً کا ذکر ملتا ہے۔ اب طبعاً ذہن میں

یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا جملہ فروعیات و استنباطات میں ابن حزم کے یہاں آثار و نصوص موجود تھے؟ بلاشبہ ان کے فقہی دراسات میں اقوال و آثار کا بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے۔ وہ اقوال صحابہ و تابعین سے استناد کرتے ہیں اور احادیث صحیحہ مرفوعہ مشہورہ کے ساتھ ساتھ مرسل و منقطع احادیث کو بھی سند کے طور پر لاتے ہیں بشرطیکہ وہ موضوع نہ ہوں۔ بایں ہمہ ہم نہیں سمجھتے کہ فروعیات کے جملہ احکام میں جن کی نفی و اثبات کے وہ درپے ہوتے تھے ان کو شرعی دلائل مل جایا کرتے تھے اتنا ضرور ہے کہ ان کے اجتہاد میں ایک طرح کا استنباط پایا جاتا ہے خواہ اس کی مقصد پر کچھ ہو۔ نیز یہ کہ انہوں نے نصوص و آثار کو اپنے اجتہاد کی اساس قرار دیا۔ فروعیات کو چھانٹنا، اصول وضع کئے پھر ان قواعد سے ان کے مناسب فروعیات اخذ کئے اور ان سے نتائج و ثمرات برآمد کئے۔

پھر یہ استنباط کیسا؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہتا چاہتے کہ ابن حزم قیاس سے احتراز و اجتناب کی تلقین کرنے کے باوجود خود قیاس کرنے لگے اور اس کا بطلان ثابت کرتے کرتے اس سے اخذ و احتجاج کر بیٹھے۔ آپ نے تو قیاس کے ابطال میں متعدد کتب تصنیف کر ڈالیں پھر یہ کیونکر ممکن تھا کہ آپ اس سے احتجاج کرتے۔ ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں۔ ہم صرف یہ جاننے کے درپے ہیں کہ نصوص و آثار کی عدم موجودگی کی صورت میں آپ کا فقہی مسلک کیا تھا؟ اس ضمن میں آپ کا طریق و منہاج معلوم کرنے کے لئے بڑے وسیع مطالعہ کی ضرورت ہے۔ تاکہ آپ کا فقہی مسلک جیسا کچھ بھی تھا نکھر کر سامنے آ جائے اور اس میں لکھنے والے کی مرضی کو دخل نہ ہو۔ اور نہ اس پر اس کے رائے کی چھاپ ہو بلکہ صرف صاحب مذہب (ابن حزم) کے افکار و آراء کی عکاسی کی گئی ہو۔

ابن حزم اور ان کا عصر و ماحول۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہر عالم اپنے گرد و پیش اور ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ ہم نہ دیکھتے ہیں کہ ابن حزم میں بھی شدید تاثر پایا جاتا تھا اور آپ بھی اس دور کے ثمرات و نتائج سے مستفید و متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اگرچہ ابن حزم اور فقہاء عصر کے مابین جدل و پیکار اور کشمکش بھی جاری ہی ایک طرف مالکی فقہاء کا جگمگنا تھا اور دوسری جانب ابن حزم شافعی فقہ کو اپنائے ہوئے تھے۔

بقیہ کے لئے کرو یا ہے۔ یہ کتاب گیارہ ضخیم جلدات پر مشتمل ہے، سعودی پارٹی کے خرچ پر یہ کتاب لاہور کے المکتبۃ السلفیہ میں زیر طبع ہے اور اس کی دو جلدیں زیر طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ غلام احمد ریزی ۱۱ جولائی ۱۹۸۶ء

جلد ہی آپ نے ظاہری نفع کا لبادہ اوڑھ لیا اور اس کی مدافعت و حمایت میں لگ گئے اور جدل مناظرہ میں شدت و حدت سے کام لینے لگے۔ ایک عالم کے ماحول اور گرد و پیش سے متاثر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ معاصر علماء سے اس کے تعلقات خوشگوار ہوں اور ان میں باہم موافقت و موافقت پائی جاتی ہو۔ بعض اوقات مخالفت موافق کی نسبت اپنے ماحول اور گرد و پیش کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہی حال ابن حزم کا ہے وہ معاصر فقہاء کی نسبت روح عصر کے زیادہ قریب تھے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے عشق اور عشاق کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ اس وقت اندلس میں دولت کی ریل پیل تھی۔ ملک سرسبز و شاداب اور خوشحال تھا۔ خوشحال طبقہ ہر اعتبار سے نارغ البان تھا۔ یہ اسباب اس دور میں غزل گوئی اور شعر و ادب کے محرک ثابت ہوئے تخیل کی جولانوں اور بلند پروازیوں نے علم و ادب کی کسی وادی کو پامال کئے بغیر نہ چھوڑا۔ اندریں حالات جو عالم حسن و عشق کی وادی میں قدم رکھ کر ان کے بارے میں کھل کر اظہار رائے کرتا اور پیش آمدہ حالات کے اسباب بیان کرتا ہے۔ وہ اس شخص کی نسبت روح عصر سے زیادہ قریب ہے جو اسے گناہ تصور کرتا اور اسے باعث حرج قرار دیتا ہے۔ اور اس پر طرہ یہ کہ ابن حزم کی ایسی تحریریں میں علامتہ وقت نظر اور ان کا مخصوص طرز فکر و نظر نمایاں ہے۔ اس سے عیاں ہے کہ آپ اپنے ماحول سے متاثر ہوئے اور اسے متاثر کیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ زمانہ دولت و ثروت کے اعتبار سے بڑا خوشحال تھا ایسے دور میں فکری تحریکات کا اٹھنا علمی و نظری اختلافت کا نمودار ہوتا اور عقلی نتائج و مسائل کا بڑے کاراؤنا بالکل لہجی امر ہے۔ ایک عالم دین اپنے قولے فکری کو ہر طرح کی غذا بہم پہنچاتا ہے اور جب وہ غذا اس میں متمثل ہو جاتا ہے تو وہ علم کی ایک جدید قسم لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جو اس کی ذات سے وابستہ اور پیوستہ ہوتی ہے اور جس کے عناصر وہ اپنی شخصی قوت سے فراہم کرتا ہے۔

بلاد اندلس دیگر اسلامی ممالک

**عصر ابن حزم میں اہل اسلام اور عیسائیوں کا اختلاط**۔ کی نسبت عیسائی علاقوں سے قریب تر تھے۔ بلکہ مسلمان بلاد فرنگ کے وسط تک گھس آئے تھے اور عیسائی علاقوں پر دھاوا بول دیا تھا۔ عیسائیوں کے بعض علاقے مملکت اندلس کے قریب بلکہ اسلامی سلطنت کا جزو تھے آغاز کار میں عیسائی بڑے مجزوا و کمسار سے جزیرہ دینے پر رضامند ہو گئے۔ آخر کار مسلمانوں کی ایذا کا باعث بنے اور اپنے شکروں کو اندلس کی اسلامی سلطنت کے وسط میں داخل کر دیا۔

مسلمانوں اور عیسائیوں کا یہ میل جول مادی اختلاط کے ساتھ ساتھ فکری آمیزش کا موجب ہوا اور باہم اجماع کے میل ملاپ نے علمی افکار و آراء کے اختلاط کی داغ بیل ڈالی۔ ابن حزم کے دور میں اور اس کے بعد قرطبہ کے مدارس یہود و نصاریٰ سے پُر تھے جو منطق و فلسفہ جیسے عقلی علوم حاصل کرنے آتے تھے۔ ان علوم کی تحصیل کے بعد وہ مسلمانوں کے افکار میں ایسے خیالات کی آمیزش کرتے جس سے مسلمان انگشت بدندان رہ جاتے۔ وہ مسلمانوں سے پاکیزہ خیالات اخذ کرتے اور ان میں شکوک و شبہات کو گھیر پیتے۔ بلاشبہ ابن حزم ان فکری نزاعات و مجادلات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے ان کا بطلان ثابت کرنے کے لیے کمر ہمت باندھی اور حق و صداقت کے کشف و اظہار کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ آپ کی گراں بہا تصانیف اس کا زندہ ثبوت ہیں اور ایسے حقائق سے برزی ہیں۔ شاید ان دانستہ شکوک و شبہات کا تقاضا ہے کہ ابن حزم کے طرز بحث و نظریں شدت و حدت پیدا ہو گئی۔

### عصر ابن حزم میں صرف اہل اسلام اور فرنگ کے مابین ہی اسلامی افکار کی وحدت

فکری آمیزش وقوع پذیر نہیں ہوتی بلکہ اس میں بغداد اور اس کے قریب و جوار کے مشرقی علوم و آداب مغربی افکار اور اندلسی مسلمانوں کے علوم و فنون سے گھل مل گئے۔ تمام بلاد اسلامیہ میں اسلامی افکار اپنے نمایاں مقاصد کے اعتبار سے متحد تھے۔ کیوں کہ اسلامی افکار کا معیار قرآن تھا جو وحدت کا جامع ہے۔ اسی طرح حدیث نبوی بھی اسلامی اذکار کی شیرازہ بندی کے لیے زبردست معاون تھی۔ مگر وطنیت بھی کسی حد تک تفریق فکر و نظر کا موجب ہوتی ہے۔ چنانچہ اندلس میں جو فقہی مسلک رائج تھا۔ عراق میں اس کا چنداں غلیہ نہ تھا۔ اندلس میں مالکی فقہ کا چرچا تھا۔ مغرب کو چھوڑ کر دیگر بلاد اسلامیہ میں حنفی و شافعی فقہ کا چلن تھا۔ کسی ملک میں اسی ادب و فن کا سکہ چلتا ہے جو رنگ و شکل میں اس کے ہم آہنگ ہو۔ عصر ابن حزم میں اندلس مشرقی اور مغربی افکار کا سنگم بن گیا تھا۔ مشرق سے علماء کے وفد مغرب کو جلتے مشرق کے بعض علماء یہ جانتے تھے کہ اپنے علوم و آداب کو بیک وقت مشرق و مغرب میں پھیلانے مثلاً کتاب الاغانی کے مصنف کا خیال تھا کہ اپنی کتاب کو اندلس میں پھیلانے سے قبل اسے عراق کے لوگوں سے متعارف نہیں کرائیں گے اور انہوں نے ایسا کر بھی دیا۔ یہ فکری اختلاط ابن حزم کے طرز فکر و نظر پر اثر انداز ہوا اور شاید دوسرے علماء کی نسبت وہ اس سے زیادہ متاثر ہوئے ہی وجہ ہے کہ پہلے وہ شافعی المسلک تھے حالانکہ اندلس میں یہ مذہب رائج نہ تھا۔ پھر اندلس میں فوکش ہوئے تو ظاہری فقہ کے پابند ہو گئے۔ باوجودیکہ وہاں اس کا غلیہ نہ تھا۔

عصر ابن حزم میں علمی کتب کی فراوانی :- جب ابن حزم نے آنکھیں کھولیں تو اندلس

اندلس کے اموی سلاطین مشرق میں اپنے چچا ناد بھائیوں کو اپنا حریت سمجھتے تھے۔ چنانچہ عباسیوں کی طرح ان کی مجالس میں علماء کی بھیر بھار کے مناظر دیکھے جانے لگے۔ کتابوں سے لائبریریاں معمور ہو گئیں۔ ابن حزم نے پچھتم خود یہ کتابیں دیکھیں اور اپنی کتابوں میں ان کی کثرت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔

نفع الطیب میں لکھا ہے :-

”ابو محمد ابن حزم فرماتے ہیں مجھے تلید الحفی نے جو دار بنی مروان میں لائبریرین تھے بتایا کہ جن فہرستوں میں کتابوں کے نام درج تھے ان کی تعداد چوالیس تھی۔ ہر فہرست بیس صفحات پر مشتمل تھی اور ان میں کتابوں کے سوا اور کچھ درج نہ تھا۔

علمی کتب وہ خاموش استاد ہیں جو اگرچہ کسی سے ہم کلام نہیں ہوتے مگر ان کے اوراق میں علوم و فنون کا بیش بہا ذخیرہ جمع ہوتا ہے اور اس طرح سبھی قسم کے لوگ ہر دور میں ان سے نفع اندوز ہوتے اور کتابیں انہیں آداب و علوم کا درس دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی عالم کی سیرت و سوانح لکھتے وقت یہ بتانا بڑا دشوار ہے کہ وہ کن لوگوں سے اثر انداز ہوا اور جب تک وہ از خود اسکا انکشاف نہ کرے کہ وہ کس عالم یا کس کتاب سے زیادہ متاثر ہوا اس کا سراغ لگانا آسان نہیں۔ کیوں کہ اس کے اسانڈہ متعدد ہوتے ہیں جن میں اکثر کے متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا اور جن کا ذکر کیا جاتا ہے وہ انکی نسبت کم ہوتے ہیں جن سے آگاہی حاصل نہیں ہوتی۔ البتہ نظری فکری مشابہت سے کسی حد تک پتا چل جاتا ہے کہ ان میں باہم فکری آمیزش کہاں تک پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کتب کی وہ بھرمار ہو جو ابن حزم کے دور میں تھی اور اخذ و تلقی کے ذرائع عام ہوں تو کسی سیرت نویس پر ان علوم و افکار کی نشاندہی کرنا ضروری ہوتا ہے جن کا سکھ اس دور میں چلتا ہو۔ اسی طرح اس دور میں جو علوم مدون ہو چکے تھے مختلف علوم و فنون میں جو مبسوط کتابیں اس عصر میں رائج تھیں ان سب کا ذکر و بیان انہیں ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ناگزیر ہے کہ وہ کن جامع کتب سے بہرہ یاب ہوا اور اس نے کن جہایزہ وقت کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔

عصر ابن حزم میں سیاسی اضطراب :- ابن حزم کا دور و عصر سیاسی اضطراب کا دور تھا۔ ایک سلطنت رُو بزوال تھی اور دوسری



حکومت اس کی جگہ لے رہی تھی، لوگوں کے ذہنی افکار میں سخت اضطراب پایا جاتا تھا حکومت حکام کی تبدیلی کے باعث رعایا پریشان حال تھی۔ ابن حزم اس دور میں پیدا ہوئے جب اموی سلطنت کا چراغ ٹٹھا رہا تھا۔ عنان اقتدار پر اس وقت ابوالمنصور عامر کا قبضہ تھا۔ بنو امیہ کبھی تخت حکومت پر متمکن ہوتے اور کبھی محروم اقتدار!

دراصل اندلسی عوام کو سیاسیات سے کوئی دلچسپی نہ تھی بشرق کا حال اس سے مختلف تھا۔ مشرقی عوام سیاسی اضطرابات میں برابر کے شریک ہوتے تھے یا سیاست کی آگ میں جل بھن جاتے تھے مگر اندلس کے رہنے والے سیاسیات سے الگ تھلگ رہے۔ اس میں شامل نہ ہوئے اور آتش سیاست میں جلنا انہیں گوارا نہ ہوا۔ جب اندلس کے مسلم سلاطین کی خانہ جنگی شدت اختیار کر گئی تو سب سے پہلے بنو امیہ کے دشمن بربر نے اسے غنیمت سمجھا پھر اس دشمن (عیسائیوں) نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جو ایسے موقع کی تاک میں تھا اور مسلمانوں کے علاقہ کو ایک ایک کر کے ہڑپ کر لیا۔ یہ حالات تھے جو اہل اندلس کی سیاسی بیداری کا موجب ہوئے اور انہیں پتا چلا کہ وہ کن حالات سے دو چار ہیں۔ سُبْحَانَ مَنْ يَدْرُسُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا۔

ابن حزم کا تعلق اس خاندان سے تھا جس نے عملی سیاست میں حصہ لیا۔ انہوں نے اور ان کے والد نے اس میں خاصا نام پیدا کیا۔ ان کے والد وزیر تھے۔ وہ خود بھی مسند وزارت پر جلوہ افروز رہے۔ آغاز کار میں انہوں نے وزارت و امارت کے تلخ و شیریں کا ذائقہ چکھا۔ آخر کار انہیں اس کے تلخ نتائج و ثمرات بھگتنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیاست سے کنارہ کش ہو کر علم کی طرف متوجہ ہوئے اور بیش قیمت کتب کا قیمتی ذخیرہ یا دگار چھوڑا۔ جن کی بناء پر آپ کا نام زندہ جاوید ہو گیا۔ یہ ابدی زندگی آپ کو علم کے طفیل ملی، ریاست و سیاست کے نتیجہ میں نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو چیز روح سے وابستہ ہوتی ہے وہ ابدی زندگی پاتی ہے۔ اور مادی چیزیں جلد فنا ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز آگے چل کر اپنے موقع پر آئے گی۔

اگر طبعی و فطری ماحول افکار و رجحانات کی تکوین پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ اندلس کا گرد و پیش

بھی ابن حزم کو متاثر کئے بغیر نہ رہا ہو گا۔ ابن حزم اندلس کے دلفریب اور پرکشش پہاڑوں میں سکونت پذیر تھے جسے رب العالمین نے دیکھنے والوں کے لیے بڑا جاذب نظر بنایا ہے اندلس

کے باغات بڑے کشادہ زمین بڑی سرسبز و شاداب اور چراگاہیں نہایت بہری بھری تھیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس دور کا اندلس

اگر فردوس بر زمین است

ہیں است و ہمیں است و ہمیں است

کا مصداق تھا۔ وہ ریحانۃ الاسلام تھا اور اس کی ہر چیز حسین تھی۔ صاف و شفاف پانی کی ندیاں اُلتے ہٹے چٹھے پہاڑوں اور وادیوں میں عجیب منظر دکھاتے تھے۔ یہ نظری مناظر لکھنے والے پر پڑا خوشگوار اثر ڈالتے ہیں۔ ان سے ذہن میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ احساسات میں لطافت و نزاکت آتی اور ذوق میں جدت و حدت کا دور دورہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ سبھی اثرات ابن حزم پر نمایاں تھے۔ وہ ایک ایسے لکھنے والے جو ہر چیز کے حسن و جمال سے مسحور ہو جاتے تھے۔ وہ حسن خواہ نظری مناظر

میں ہو کائنات عالم میں ہو یا بنی نوع انسان میں پایا جاتا ہو یہ سحر کاری ان کے رواں دواں انداز نگارش ان کی تعبیر و بیان کے حسن و جمال اور ان کی خوبی تحریر و تصویر میں نمایاں ہے۔

اس کے پہلو بہ پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ ابن حزم ایک سخت مزاج فقیہ بھی تھے جن کے طرزِ جمل و مناظرہ میں بڑی درشتی پائی جاتی تھی۔ اس کی انتہا یہ ہے کہ آپ کے متعلق ایک فقرہ مشہور ہے۔ "ابن حزم علم سے واقف تھے مگر علم کی سیاست سے آگاہ نہ تھے" جیسا کہ ابھی مذکور ہوا۔ اس درشتی طبع کی وجہ یہ تھی کہ اندلس کے فردوسِ ارضی میں اس عالمِ جلیل کی زندگی چننا آرام و راحت سے بسر نہیں ہو رہی تھی۔ بلکہ یہ عالم اور وزیر (ابن حزم) جو کسی وقت سندھِ مارت کی زینت تھا شدید ترین اذیت سے دوچار ہوا۔ آپ کو جلاوطن کیا گیا۔ قید خانہ تک میں ڈالا گیا۔ آغاز زندگی میں ناز و نعمت کے مزے لوٹے۔ زندگی کا نصف آخر جو روستم کے جہنم کی نذر ہوا۔ اگرچہ مال کی کمی اس وقت بھی نہ تھی۔ باوجودیکہ جو روستم میں بہت سا مال ضائع ہو چکا تھا مگر باقی ماندہ مال اتنا کم نہ تھا کہ آپ کو مفلس و قلاش بنا دیتا۔

ابن حزم کے شدید ترین مخالف علماء تھے جو لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ علماء کی عداوت کے دو سبب تھے۔ پہلا یہ کہ ابن حزم ظاہری فقہ کے پابند تھے۔ دوسرا یہ کہ ابن حزم علماء کی مخالفت کا کوئی موقع نہ تھا۔ جب ان کی تردید کے درپے ہوتے تو انہیں خوب اڑے ہاتھوں لیتے۔ اگر ابن حزم علماء کے خلاف درشت الفاظ استعمال کرتے تو علماء اقوال کا جواب انعال سے دیتے جو ابن حزم کے اقوال سے زیادہ تند و تیز ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے

کہ یہ لطیف المزاج نرم طبع ادیب (ابن حزم) مخالفین سے خطاب کرتے وقت شدت اختیار کر لیتا تھا اگرچہ تیز زبانی میں سبقت علماء ہی کی طرف سے ہوتی تھی اور عداوت کا آغاز بھی ان ہی کی جانب سے ہوتا تھا۔ ایسے موقع پر ان سبھی امور پر روشنی ڈالی جائے گی۔

**ابن حزم کی فنی نثر :-** یہ حالات کی اجمالی تصویر تھی جسے کسی طرح بھی مکمل نہیں کہا جاسکتا۔ ہم نے عجلت میں اسے پیش کر دیا ہے۔ تاکہ قاری یہ اندازہ کر سکے کہ اس

سیرت میں ہمارا طریق و منہاج کیا ہوگا اور اس عظیم امام فقیہ زبردست مناظر اور لائق ترین انشا پرداز و ادیب کی سوانح نویسی میں ہم کس راہ پر گامزن ہوں گے۔

مندرجہ بالا طرز و منہاج کو مکمل یا نامکمل طور پر بہرے کار لانا اگرچہ بڑا دشوار ہے تاہم اس کا تقاضا ہے کہ ہم سیرت ابن حزم میں ایک ایسے نئے باب کا اضافہ کریں جو ائمہ کی سیرت و سوانح میں شامل نہیں جن کے حالات زندگی لکھنے کی سعادت قبل ازیں ہمیں حاصل ہو چکی ہے۔ ابن حزم کے سوانح اس وقت تک تکمیل پذیر نہیں ہو سکتے جب تک نثر فنی سے متعلق ان کے اسلوب نگارش پر بحث نہ کی جائے۔ اگرچہ فنی نثر کا فقہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ بات کسی طرح درست نہیں معلوم ہوتی کہ ابن حزم کا سیرت نویس اسے قلم انداز کرے۔ بلاشبہ ابن حزم کی فنی نثر کا بیان بالاختصار ہوگا اور اس میں طوالت سے کام نہیں لیا جائے گا۔ یا بالفاظ مناسب تر اس میں طریق ایجاز کو ملحوظ رکھا جائے گا نہ کہ استیعاب کو۔ تاکہ ہمارا اصلی مقصد ہاتھ سے نہ جاتا رہے اور وہ ہے عالم علوم اسلامیہ اور جلیل القدر محدث و فقیہ — ابن حزم — کی سیرت و سوانح کا ذکر بیان بارگاہ ایزدی میں دست بدعا ہوں کہ وہ ہمارے لیے مشکلات کو آسان کرے اور ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہماری بھلائی مضمون ہو۔

# ابن حزم کی سرگزشتِ حیات

ولادت :- ۳۸۲ - ۴۵۴ھ

آپ کا اسم گرامی

ابن حزم کا نام و نسب :- علی بن احمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن سفیان ابن یزید اور کنیت ابو محمد تھی۔ اپنی تصانیف میں آپ صرف اپنی کنیت ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے ابن حزم کے نام سے شہرت پائی۔

ولادت :- کسی بڑے عالم کی سیرت و سوانح لکھنے والے کے لئے اس کی تاریخ ولادت کا

متعین کرنا چنداں آسان نہیں۔ البتہ تاریخ وفات متعین ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدائش کے وقت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بڑا ہو کر عظیم عالم بنے گا اس کے برعکس عند الوفا وہ مشہور ہو چکا ہوتا ہے لہذا ولادت کا وقت ازراہ تحقیق نامعلوم اور وفات کا وقت جانا پہچانا ہوتا ہے مگر ابن حزم کے یہاں معاملہ برعکس ہے۔ کیوں کہ ان کی ولادت کا صرف سن و سال ہی متعین اور معروض نہیں بلکہ مہینہ دن اور وہ خاص وقت تک معلوم ہے جب وہ تولد ہوئے۔ ابن حزم نے اپنے ایک معاصر کے نام ایک مکتوب لکھا اور اس میں اپنی ولادت سے متعلق یہ تفصیلات تحریر کیں۔ وہ معاصر قاضی صاعدا ندلسی تھے۔ ابن حزم نے اپنے مکتوب میں لکھا کہ وہ ۳۸۲ھ میں ماہ رمضان کی آخری تاریخ بعد از فجر و قبل از طلوع آفتاب پیدا ہوئے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ابن حزم کے اقارب و اعزہ اپنے بچوں کی تاریخ ولادت کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ ورنہ ابن حزم کے لئے یہ تفصیلات بیان کرنا کسی طرح ممکن نہ تھا۔ اس سے یہ حقیقت بھی اجاگر ہوتی ہے کہ اس دور میں اندلس کے لوگ کتنے ترقی یافتہ

۱۔ قاضی صاعدا بن احمد حنبلی اندلسی المتوفی ۴۲۲ھ لہجقات الامم آپ کی تصنیف ہے (مصنف)

اور مہذب تھے اور اپنے بچوں کی تاریخ ولادت تک لکھ لیا کرتے تھے۔ مزید برآں اس سے ابن حزم کی اصالت و نجابت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ ان کا خاندان حضارت و تہذیب کے کس بلند مرتبہ پر فائز تھا جو ایسی چیزوں کا اہتمام کرتا۔

سابقاً ذکر کردہ تاریخ پر ابن حزم کے تمام سیرت نویس متفق ہیں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ بخلاف ازیں یا قوت معجم الادباء میں قاضی صاعد سے نقل کرتے ہیں:-

”ابن حزم نے بذات خود مجھے تحریر کیا کہ وہ (ابن حزم) ماہ رمضان کے آخر روز بعد از نماز فجر تولد ہوئے اور اب ان کی عمر ایک ماہ کم بہتر سال ہو چکی ہے۔“

اس تحریر پر طائرانہ نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں کاتب سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیونکہ جب معجم الادباء کے بیان کے مطابق ابن حزم کی وفات اوائل شعبان ۴۵۶ھ میں وقوع پذیر ہوئی تو ان کی عمر ایک ماہ کم بہتر سال جب بنتی ہے، کہ ان کا سال ولادت ۳۸۷ھ اور رمضان ہونہ کہ ۳۸۳ھ۔ کیونکہ اگر ۳۸۳ھ کو ان کا سال ولادت اور ۴۵۶ھ کو سن وفات قرار دیا جائے تو ان کی عمر بوقت وفات تہتر سال ہوگی نہ کہ بہتر بنا برس یا قوت کا بیان خود اس تحریف لفظی کا شاہد عدل ہے۔ مزید برآں یا قوت نے اس تاریخ کو قاضی صاعد کی جانب منسوب کیا ہے اور قاضی موصوف سے منقول ہے کہ خود ابن حزم نے اپنے مکتوب میں اپنا سن ولادت ۳۸۳ھ تحریر کیا تھا اور ۳۸۲ھ نہیں۔ ابن حزم قرطبہ کی مشرقی جانب پیدا ہوئے تھے۔

## ابن حزم کا حسب و نسب

خاندانی نجابت و شرافت :- ابن حزم نے علم سے نام پایا حسب و نسب سے نہیں۔ تاہم ان کے اکابر اندلسی حکومت میں مند وزارت کی زینت رہتے تھے۔ وہ خود بھی بعض حکام کے وزیر رہ چکے تھے۔ مگر ان کا ذاتی نظریہ تھا کہ عظمت و شرافت اور سلامت و عزت علم کے وابستہ فتراک ہونے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ علم ہی کے پیکر رہ گئے اور علم ہی کی بدولت شہرت عام اور بقائے دوام حاصل کی انہوں نے تاریخ کے اوراق میں ایک عظیم فقیہ مورخ کاتب اور شاعر کی حیثیت سے جگہ پائی۔ کتابوں میں مذکور ہے کہ آپ ایک فارسی خاندان کی جانب منسوب تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دادا یزید فارسی الاصل تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان — جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس اولین لشکر کا سپہ سالار قرار دیا تھا جو ملک شام کو فتح کرنے گیا کے حلیف تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ قرشی الولاء اور فارسی الاصل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حزم بنو امیہ کے طرفداران کے دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن تھے دراصل وفا شعار کا یہ جذبہ ابن حزم کو اپنے آباء سے درنہ میں ملا۔ ابن حزم بہت سی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ خصوصی عادات و خصائل کے حامل اور بہترین اخلاق سے آراستہ و پیراستہ تھے۔

بنو امیہ جب ترک وطن کر کے اندلس گئے اور وہاں اپنی حکومت قائم کی تو ابن حزم کے جد اعلیٰ بھی ان کے رفیق سفر تھے۔ ان کا خاندان "منت لیم" نامی بستی میں فروکش ہوا۔ جو عرب الاندلس کے علاقہ الزاویہ کے ضلع ادنبہ کے مضافات میں واقع ہے۔ اونبہ علاقہ بلبلہ کا ایک شہر ہے۔ ابن حزم کے خاندان میں سے پہلا شخص جو اندلس پہنچا ان کا جد اعلیٰ خلف تھا۔ اندلس میں پہلے دن ہی

سے ان کا خاندان عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ فتح بن خاقان کا بیان ہے۔  
 "ابن حزم کے اقارب و اعزہ علم و ادب اور حسب و نسب دونوں اعتبار سے ممتاز  
 ہیں۔ انہیں علمی عظمت و رفعت بھی حاصل ہے اور جاہ و مجد سے بھی بہرہ ور ہیں۔"

**حسب و نسب میں اختلاف** اکثر مورخین اسی کے قائل ہیں۔ مگر ابو مردان اور ابن حبان اس  
 کے خلاف ہیں۔ یا قوت نے معجم الادباء میں مندرجہ ذیل  
 بیان ابو مردان مذکور سے نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

"ابن حزم کو فارسی النسب قرار دینا بھی ایک عجوبہ سے کم نہیں کہ ان کے والداندلس  
 پہنچ گئے اور ان کا باقی خاندان عرصہ دراز کے بعد اندلس میں ان سے اس وقت  
 جا ملا، جب ابن حزم کے والد نہر گوارجن کا نام احمد بن سعید تھا اور جوڑے دانشمند  
 آدمی تھے اپنے اولیاء نعمت بنو امیہ کے طفیل مندرجات پر متمکن ہوئے۔ کیوں کہ  
 بنو امیہ سے ان کا نسبی رشتہ کوئی نہ تھا۔ یہ روایت اس لئے درست نہیں کہ ابن حزم  
 کے والد ایک گننام آدمی تھے جو علاقہ لبہ میں سکونت پذیر تھے اور عربی الاصل نہ تھے۔  
 آپ کے دادا مشرف باسلام ہوئے۔ ان کے اسلاف میں کوئی بڑا آدمی نہیں  
 گذرا تھا۔ ابن حزم کے والد پہلے شخص تھے جنہوں نے ذاتی صلاحیت، اخلاق فاضلہ  
 عقل و دانش، جرات و جلاوت اور خوبی رائے و تدبیر کے بل بوتے پر نام پیدا کیا  
 اُسندہ نسل کے لیے وہ ایک بہترین اصل قرار پائے اور اپنی اولاد و احفاد کو سابقہ  
 اجداد کی طرف نسبت کرنے سے بے نیاز کر دیا۔ اس خاندان کو جو عزت و احترام نصیب  
 ہوا وہ بیرتی تھا۔ اور اس کی ذاتی شرافت و نجابت نہ ہونے کے برابر تھی۔ جب ابن  
 حزم "لبہ" کے ٹیلہ پر نزل فرمائے اجلال ہوئے (پیدا ہوئے) پھر وہاں سے ارض فارس  
 کے قلعہ اصطخر پر قدم رکھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ نے کس طرح رفعت و  
 عظمت سے بہرہ وافر پایا۔ یہ منصب عالی ان کو آخر غلطی یا جہالت کی بنا پر نہیں  
 مل گیا بلکہ آپ وسیع علم اور اس رحمی قرابت کے طفیل اس بلند مرتبہ پر فائز ہوئے  
 جس کے آپ چنداں اطاعت گزار نہ تھے۔ آپ نے اس رحمی قرابت سے  
 ایسا جوڑ لگا یا جو بے حد پائدار ہے اور کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے؛

لہ معجم الادباء ج ۱۲ ص ۲۵۰ نیز الذخیرہ از ابن کثیر ج ۱ ص ۱۲۳

ابن حیان کا بیان اس امر کی غازی کرتا ہے کہ ان  
ابن حزم فارسی الاصل اموی الاولاد تھے کی رائے میں ابن حزم کا فارسی الاصل ہونا مشکوک

ہے، اور بات بھی پائیہ ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ وہ بنو امیہ کے تعلقدار تھے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے  
 ہیں کہ فارسی النسب ہونے کے دعویٰ سے قبل صرف یہی بات معروف تھی کہ آپ علاقہ بلبلہ کے  
 عجمیوں میں سے تھے اور آپ کے دادا نے نصرانیت کو خیر باد کہہ کر اسلام قبول کیا تھا، وہ اس پر تعجب  
 کا اظہار کرتے ہیں کہ ابن حزم بلبلہ کے ٹیلوں سے چل کر جو اندلس میں واقع ہیں فارس کے قلعہ  
 اصطخر میں کیونکہ پہنچ گئے۔ ابن حیان پھر بیان کرتے ہیں کہ ابن حزم کے والد سے پہلے ان کے  
 خاندان میں کوئی معروف شخص نہیں گزرا صرف انہوں نے ہی بعد والوں کے لئے شرف و مجد کی  
 راہ ہموار کی یہ ہے ابن حیان کا کلام اور ان کے شکوک و شبہات!

اب ہم اس پر مختصر تبصرہ کرتے ہیں۔

ابن حیان کا کلام فتح بن خاقان کے نظریہ سے متصادم ہے۔ فتح بن خاقان کا قول ہے  
 کہ بنو حزم علم و ادب کے ساتھ ساتھ مجد و شرافت سے بہرہ ور تھے۔ یہ جی بھی ممکن ہے کہ انہیں نسبی  
 اصالت و شہرت حاصل ہو۔ مزید براں علامہ مقرئ بھی ابن حزم کے فارسی الاصل ہونے کے  
 قائل ہیں، محدث ذہبی اور دیگر مورخین کی رائے بھی یہی ہے گویا ان کے فارسی الاصل ہونے پر علماء  
 کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ علامہ ذہبی ابن حزم کے معاصر قاضی صاعد سے نقل کرتے ہوئے ابن حزم  
 کی تعریف و توصیف میں فرماتے ہیں۔

”علامہ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بنو امیہ کے تعلقدار تھے۔  
 وہ فارسی الاصل انڈیسی اور قرطبی تھے۔“

اس میں شبہ نہیں کہ آپ کا فارسی الاصل ہونا ہی مشہور تر ہے۔ اکثر مورخین نے یہ بات قاضی  
 صاعد سے نقل کی ہے جو ابن حزم کے ہم عصر تھے۔ ابن حزم نے بذات خود بھی یہی بیان کیا ہے  
 اور ان کے معاصرین میں سے ابن حیان کے سوا کسی نے اسے جھٹلایا نہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ ان فقہاء کی افسانہ  
 طرازی ہو جن کے خلاف ابن حزم نبرد آزما تھے۔ کیونکہ ابن حزم ان کے خلاف مجادلات میں کافی تند و تیز تھے  
 یہی وجہ ہے کہ محض معاند فقہاء کے قول کی بنا پر ہم ابن حزم کے فارسی الاصل ہونے کے دعویٰ کی تکذیب



نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بعض وعدوں کی کرشمہ سازی ہو۔

ہماری نگاہ میں یہ امر اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ ابن حزم

ابن حزم کے خاندان میں اسلام کا کتبہ کب مشرف باسلام ہوا، کیا وہ پہلے عیسائی تھے اور سب سے پہلے ابن حزم کے دادا سعید حلقہ بگوش اسلام ہوئے جیسا کہ ابن حیان کا بیان ہے۔ یا یہ کہ ان کے آباد و اجداد قدیم الاسلام تھے اور جب وہ ابو یوں کے ساتھ وارد اندلس ہوئے اس وقت بھی مسلمان تھے۔ بلاشبہ یہ اختلاف ان کی اصالتِ نسبی پر مبنی ہے۔ اگر ان کو فارسی الاصل تسلیم کر لیا جائے اور ان کے دادا کو یزید بن ابی سفیان کا حلیف تصور کر لیا جائے تو ان کا قدیم الاسلام ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ کیونکہ ان کے جس دادا نے عقدِ موالات کیا تھا وہ ضرور مسلمان ہوں گے جیسا کہ اس زمانہ میں دستور تھا کہ صرف مسلمانوں سے موالات کا رشتہ قائم کیا جاتا تھا۔ ابن حزم کے دادا نے یزید بن ابی سفیان کے ساتھ موالات کا جو رشتہ قائم کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عربی مسلم کا دوسرے عجمی مسلم کے ساتھ موالات کا رابطہ استوار کرنا اس میں یہ طے کر لیا جاتا تھا کہ عجمی جب کسی جرم کا مرتکب ہوگا تو اس کا عربی بھائی اس کی پاداش ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا اور عجمی کی موت کی صورت میں عربی اس کا وارث ہوگا۔ یہ عقدِ موالات ولاء کہلاتا تھا۔

بناہیں اولین مسلم ابن حزم کے خاندان میں ان کے جدِ اعلیٰ یزید ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اس کتبہ میں پہلے پہل خلافتِ فاروقی میں داخل ہوا۔

ابن حزم کے خاندان کے مشرف باسلام ہونے کی یہی روایت ہمارے نزدیک قرین صحت و صواب ہے۔ کیونکہ روایات متواترہ اس کی موثقیہ ہیں۔ ابن حیان کا قول ناقابلِ اعتماد ہونے کی بنا پر مردود قرار دیا جائے گا۔ ابن حزم اپنے خاندان کے متعلق جو بات خود تحریر کرتے ہیں اس کے ٹھٹھلانے کی کوئی وجہ نہیں اور نہ ان کے سوا اس ضمن میں کسی بات پر ہمیں اعتماد ہے۔ ابن حزم اپنی قوم میں دروغ گوئی کے باعث مشہور نہیں ہوئے وہ اپنے اعداء و خصوم کو دندانِ شکن جواب دیتے تھے مگر اس کے برعکس انہوں نے ابن حزم کو زبانِ دراز کہنے پر اکتفا کیا اور آپ کی طرف دروغ گوئی کی نسبت نہ کر سکے۔ ابن حزم کا نایاب وصف و فاشعار تھے۔ ظاہر ہے کہ دنا اور کذب ایک دوسرے کی نفیض ہیں اور ان کا جمع ہونا ممکن نہیں۔ ابن حزم قطعاً اس بات کے محتاج نہ تھے کہ غلط نسب گھڑ کر اسے اپنے لئے سرمایہ انتخار بنائیں جب کہ وہ زیورِ علم اور جاہ و منصب سے پہلے ہی آراستہ و پیراستہ تھے اور انہیں نسب میں جھل جھلسازی کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔

## ابن حزم کا عمدہ طُفُو لُیْت

ابن حزم نے بڑے باعزت اور خوشحال گھرانے میں تربیت پائی۔ انہیں اپنی خاندانی ثروت پر بڑا ناز تھا۔ وہ اس امر کو اپنے لئے سرمایہ افتخار سمجھتے تھے کہ انہوں نے علم کو ذریعہ معاش نہیں بنایا بلکہ روحانی سعادت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس ضمن میں علامہ الباجی شارح موطا کے ساتھ ان کا ایک مناظرہ بھی منقول ہے۔

علامہ باجی بولے :-

”میں طلب علم میں آپ کی نسبت زیادہ بلند ہمت ہوں کیوں کہ طالب علمی میں آپ کی امداد کرنے والے موجود تھے اور آپ طلائی تبدیل کے نیچے بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے جب کہ میں بازار کے چراغ تلے بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتا تھا۔“

ابن حزم نے فوراً کہا :-

”یہ دلیل آپ کے مفید مطلب ہونے کے بجائے آپ کے حق میں مُضِر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے افلاس و عُسرت کے عالم میں علم اس لئے حاصل کیا کہ آپ میری طرح خوشحال ہو جائیں اور میں نے جس حال میں طلب علم کیا اس کا خود آپ کو اعتراف ہے۔ میرا مقصد صرف دنیا و آخرت میں علمی بلند پروازی تھی لہٰذا ”دگر بیچ“۔“

ابن حزم نے ناز و نعمت میں پرورش پائی۔ بچپن ہی میں قرآن حفظ کر لیا۔ ابن حزم خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن گھر پر حفظ کیا۔ گھر کی باندیوں اور رشتہ دار خواتین نے قرآن حفظ کرنے میں آپ کو مدد دی۔ ابن حزم اپنی کتاب طوق الحمار میں رقم طراز ہیں :-

”میں نے عورتوں کو دیکھا اور ان کے خفیہ اسرار کو اس حد تک جان لیا کہ اور کوئی نہ جانتا ہوگا۔ کیوں کہ میں نے ان کی گود میں تربیت پائی۔ ان کے سامنے پلا بڑھا اور ان کے

سوا کسی اور کو جانتا ہی نہ تھا۔ مردوں کی صحبت سے اس وقت بہرہ درہو جب جوانی کی حدود میں داخل ہوا اور میری پرورش پاپیہ تکمیل کو پہنچی۔ عورتوں نے ہی مجھے قرآن پڑھایا، اشعار سکھائے، لکھنے کا طریقہ سکھا یا۔ عالم طفولیت میں مجھے نہم و شعور کی سعادت حاصل ہوئی تو میرا ذہنی مشغلہ صرف عورتوں کے اسباب و اخبار معلوم کرنا تھا۔ میں ان کی جو بات ایک مرتبہ دیکھ لیتا پتھر کبھی نہ بھرتا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ غیرت میری گھٹی میں پڑی ہے اور عورتوں سے بدظنی رکھنا میری فطرت ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتوں کے اسباب کا ایک گراں قدر ذخیرہ مجھ پر منکشف ہو گیا۔

سیاسیات سے کنارہ کشی :- ہم نے ابن حزم کی یہ عبارت ان کی کتاب طوق الحمامہ سے نقل کی ہے جو اپنے باب میں عدیم النظر ہے۔ اس سے ان کے بچپن کے حالات پر روشنی پڑتی ہے کہ آپ نے بچپن میں عورتوں کی گود میں تربیت پائی اور اپنی کے زیر اثر نہم و شعور حاصل کیا۔ انہی سے لکھنا پڑھنا سکھا اور خط کو درست کرنے کے لئے لکھنے کی مشق کی۔ خواتین ہی سے اشعار سیکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابن حزم یہ بھی کہتے ہیں کہ عورتوں نے مجھے قرآن سکھایا یہ نہیں کہا کہ حفظ کرنے میں مدد دی۔ کیوں کہ پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی و مطالب سے بھی آگاہ کیا۔ قصص و اخبار سے روشناس کرایا۔ اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوءظن کی عادت ابن حزم میں فطری تھی۔ اس سے ابن حزم کی آئندہ زندگی پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ ابن حزم اور ان کے معاصر فقہاء کے مابین بغض و عناد کے جو جذبات پائے جاتے تھے شاید ان کے سوءظن کو بھی اس میں دخل ہو اور آپ مخالفین کی نیت پر حملہ کرنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہوں اور پھر پتھر کی طرح اسے مخالفت کے منہ پر دے مارتے ہوں۔ بلکہ یوں کہئے کہ یہ یدگانی ابن حزم کو سیاست کے پُرخطر ماحول سے علم کی پُرسکون فضا میں کھینچ لانے کا سبب ہوئی۔ انہوں نے لوگوں کے اختلاط اور گہما گہمی سے کتابوں کے دامن میں پناہ لی اور انہیں ایسا رفیق انیس پایا جو ہر قسم کے شبہات سے بالا اور جس کی صداقت و مردت پر کسی شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا جاسکتا۔

**ابن حزم کی حفاظت و نگہداشت :-** ابن حزم نے زندگی کے ابتدائی ایام اپنی قرابت اور خواتین کے زبردستی کاٹے۔ ان کے والد ان کی تربیت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور ان کے رجحانات و میلانات پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ ابن حزم خود اس حفاظت و نگہداشت کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح یہ نگرانی عورتوں کے جگہ جگہیں گھرے رہنے اور دولت و ثروت و ناز و نعمت کی فراوانی کے باوجود ان کی عفت و پاکدامنی کا موجب ہوئی۔

فرماتے ہیں :-

جو میں نے ذکر کیا اس کا سبب یہ تھا کہ عنفوانِ شباب میں جب جوانی دیوانی کے مصداق جذبات مشتعل تھے اور جوشِ جوانی اپنی بہار دکھا رہا تھا نگرانی کرنے والے مرد اور عورتیں مجھ پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ جب میں نے ذرا ہوش سنبھالا تو استاد محترم ابوالقاسم عبدالرحمن بن یزید ازدی کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ میرے رفیق درس ابوالحسین بن علی الفاسی تھے جو بڑے دانشمند عابد و زاہد اور نلاح اخروی کے لئے مصروف سعی و جہد رہنے والے شخص تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ عورتوں پر قادر تھے کیوں کہ آپ کی بیوی نہ تھی۔ میں نے علم و عمل اور ذرع و تقویٰ کے اعتبار سے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ خدا نے مجھے ان سے بڑا نفع پہنچایا اور مجھے ان کے طفیل اچھے بڑے کی تمیز حاصل ہوئی۔ ابوالحسین رحمۃ اللہ علیہ حج کے لئے جا رہے تھے کہ راستہ ہی میں داعی اجل کو لبیک کہا!

**ابن حزم کی عفت و عصمت کا راز :-** ان الفاظ میں ابن حزم اپنی عفت و عصمت کا راز بیان کرتے ہیں کہ اس ناز و نعمت کی زندگی میں مرد اور عورتیں ان کی عفت کے نگہبان تھے۔ عورتیں یوں بھی مرد کے فتنہ میں مبتلا ہونے کے وقت اس کی نگہداشت کا فریضہ بہت اچھی طرح سے ادا کر سکتی ہیں۔ وہ اس کی بہر حرکت کا نوٹس لیتی ہیں یہاں تک کہ جنبشِ نگاہ اور چہرے کے اتار چڑھاؤ تک کو دیکھتی رہتی ہیں۔

ابن حزم کی حفاظت و نگہداشت کا اہتمام کرنے والے ان کے گرامی قدر والد تھے جنہیں ان کی تربیت کی فکر ہر وقت دامگیر رہتی تھی اور جو اس بات کے بڑے حمیص تھے کہ ناز و نعمت کے اس ماحول میں ابن حزم کی سیرت و کردار محفوظ و معشون رہے۔

صرف حفاظت و نگہداشت ہی ابن حزم کے تقویٰ اور طہارت کا موجب نہ تھی بلکہ تحفظِ حسی کے دوش بدوش روحانی قیادت بھی ان کی مدد و معاون تھی۔ ابن حزم ابھی جوان بھی نہ ہونے پائے تھے کہ ان کے والد نے انہیں ایک نیک نہاد خوش اخلاق عالم دین کی صحبت میں بٹھا دیا۔ یہ عالم عورتوں سے الگ تھلگ رہے۔ اس کی انتہا یہ ہے کہ حرام سے قطع نظر حلال سے بھی استفادہ نہ کر سکے اور کوئی عورت آپ کو فریضہ نہ کر سکی خواہ وہ حلال ہی ہو اور حرمت کی کوئی وجہ موجود نہ ہو۔ ابن حزم کے یہ استاذ محترم شیخ ابو حسین الفاسی تھے۔ نوجوان ابن حزم عورتوں سے الگ تھلگ رہنے والے اس شیخ سے بڑے متاثر ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی ذات پر شہوت نفسانی کا دروازہ مسدود کر لیا۔ یہ حقیقت ہے کہ صلح رہنما کی صحبت صد ما مرا عطا حسنہ اور ربانی جمع خرچ کی نسبت کہیں زیادہ نفس انسانی کو متاثر کرتی ہے۔

**ابن حزم آرام روزگار کی پسیٹ ہیں :-** ابن حزم ناز و نعمت کے ماحول میں پروان چڑھے اور آپ نے اسی طرح تربیت پائی

جیسے امراء و وزراء کے بچوں کو نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے قرآن حفظ کیا اور اس کے مطالب معانی سے آگاہی حاصل کی۔ طلاق لسانی کے لئے اشعار کا کچھ ذخیرہ نوک زبان کیا۔ چہاڑہ شیوخ کی جانب متوجہ ہو کر ان کے علمی فیوض سے مستفید ہوئے اور ان کے اخلاقِ فاضلہ سے آراستہ و پیراستہ ہوئے۔

مگر سچ یہ ہے کہ اس نوجوان (ابن حزم) اور ان کے کنبہ کو آرام و راحت کی یہ زندگی تا دیر نصیب نہ ہوئی۔ بلاشبہ ان کے والد وزیر تھے اور حکماء کا مقولہ ہے، جو شخص مسلمان کا مال کھاتا ہے وہ اپنی ہلاکت مول لیتا ہے؛ ابن حزم کے والد منصبِ وزارت پر اس وقت تک متمکن ہوئے جب اموی حکومت اندلس میں رُوبزوال تھی اور ائمہ ان کے ہاتھوں سے نکل کر ابو منصور عامری اور اس کے کنبہ کی طرف منتقل ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسے دور میں امراء و وزراء کو آرام و راحت کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب سلطان اقتدار سے محروم ہو گا تو لازمی طور پر اس سے وزیر بھی متاثر ہو گا۔ اور یوں ہی ہوا۔ ابن حزم یہ داستان از خود بیان کرتے ہیں کہ ان کی خوش حالی و فارغ البالی کینز کم

یہ ایک عسرت و افلاس میں بدل گئی۔ وہ ان مصائب و آلام کا کچا چٹھا بیان کرتے ہیں جو اس وقت نازل ہوئے جب کہ آپ کی عمر صرف پندرہ سال تھی۔ وہ لکھتے ہیں:-

جب ہشام المودید امیر المومنین قرار پائے تو ان کے امراء و خواص نے ہمیں بہت تکلیفیں دیں۔ ہمیں قید و بند کی صعوبتیں بھیننا پڑیں، ملک بدر ہوئے۔ بڑے بڑے تاراج ادا کئے اور چھپ چھپ کر زندگی کے دن کاٹے۔ ہم پوری طرح فتنہ کی پیٹ میں آگئے باقی لوگ عموماً اس فتنہ سے متاثر ہوئے، اور ہم خصوصاً انہی حالات میں میرے والد گرامی جو ذریعہ تھے ہفتہ کے روز بعد از نماز عصر ۲۸ ذی الحجہ ۳۰۲ھ میں ہمیں تنہا چھوڑ کر راہی ملک بجا ہوئے۔

یہ پہلا دل و دز سانحہ تھا جو ابن حزم کو خوشحالی کی زندگی کے وسط میں پیش آیا۔ صرف ابن حزم اور ان کا کنبہ ہی قصداً اس فتنہ کی زد میں نہیں آیا بلکہ یہ حادثہ اور اضطراب اندلسی حکومت کو بنی عام کی سلطنت کے اواخر میں پیش آئے جو اموی خلیفہ ہشام المودید کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر تخت حکومت پر متمکن ہو گئے تھے۔ قرطبہ خصوصی طور سے حادثہ کی آماجگاہ بنا اور لشکر گاہ قرار پایا۔ فوجی سے لڑتے اردو ہاں کے رہنے والوں کو بھگا دیتے۔ اس فتنہ کا آغاز ۳۹۸ھ میں ہوا اور جب تک خدانے چاہا جاری رہا۔ قرطبہ کی مغربی جانب خصوصی طور سے لوٹ مار کا نشانہ بنی یہاں تک کہ ابن حزم کا خاندان اپنے عالی شان محلات کو چھوڑ کر مشرقی اندلس سے غربی اندلس میں منتقل ہو گیا۔ ابن حزم اس ضمن میں فرماتے ہیں:-

ہم نے قرطبہ کی مشرقی جانب الزہراء کے پڑوس میں نئے محلات تعمیر کئے تھے۔ میرے والد گرامی تیسرے دن وہاں سے اپنے پرانے گھر میں منتقل ہو گئے جو قرطبہ کی مغربی جانب سفینت کے سنگلاخ قطعہ میں واقع تھا۔ یہ واقعہ جمادی الاخریٰ ۳۹۹ھ میں پیش آیا۔ اعداد و خصوم کا بغض و عناد اور فتنہ و فساد کا یہی عالم رہا۔ یہاں تک کہ ابن حزم کے اقارب و اعزہ قرطبہ چھوڑ کر مر یہ نامی ایک شہر میں ترک وطن کرنے کے لئے مجبور ہوئے۔ ابن حزم کا بیان ہے:-

”قتلہ و فساد کی گرم بازاری رہی۔ بربر کی فوجوں نے عربی قرطبہ میں ہمارے مکانات کو لوٹ لیا اور ہم اسے خیر باد کہہ کر یہ نامی شہر جانے کے لیے مجبور ہوئے۔“ یہ حادثہ ۳۰۲ھ میں پیش آیا۔ ابن حزم کہتے ہیں:-

”گرم دش ایام نے ہم پر کاری ضرب لگائی اور ہمیں اپنے گھروں سے نکال باہر کیا۔ بربری افواج نے ہمیں گھیر لیا اور میں یکم محرم ۳۰۲ھ کو قرطبہ سے نکل پڑا۔“

یہ حوادث و آلام ابن حزم کو آغاز زندگی میں پیش آئے اور ان کی خوشحال زندگی کو بکدر کر گئے۔ شاید ابن حزم کی قوت نفس کی تکمیل کے لئے یہ سبق ناگزیر تھا۔ عیش و عشرت کی زندگی بسا اوقات انسان کو محنت و مشقت سے روک دیتی ہے۔ اور اس طرح انسان جہد و عمل کا لذت آشنا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی لذت حب و وقار اور شدت جدل و خصام کا اندازہ کر پاتا ہے۔ زندگی کے تلخ و شیریں کا تجربہ بھی اسے حاصل نہیں ہوتا۔ ابن حزم کی زندگی کا یہی حال ہے۔ ان کی زندگی لطافت و شدت ثروت و افلاس، جذبات لطف و محبت اور جدل و محنت ایسے مختلف و متضاد اوصاف کا مرقع تھی۔

۱۱۸ کتاب مذکور ص ۱۱۸

۱۱۹ کتاب مذکور ص ۱۱۹

## ابن حزم کا عمد طالب علمی

حدیث وفقہ کی تحصیل۔ ابن حزم نے بچپن میں وہی کچھ سیکھا جو امراء کے بچے سیکھتے ہیں۔  
قرآن حفظ کیا، اشعار یاد کئے اور لکھتا سیکھا جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ جملہ امور خواتین کے ہاتھوں انجام کو پہنچے۔

اسی پر بس نہیں ان کے والد بزرگوار نے ایک خدائزس باوقار پاکیزہ تحصیل عالم کو مقرر کیا جو ابن حزم کے ساتھ سایہ کی طرح نگار ہوتا۔ انہیں علماء و شیوخ کی مجالس میں بٹھا کر علمی باتیں سننے کا موقع دیتا۔ ابن حزم وہ سب کچھ سیکھنے جو اس عمر میں سیکھا جا سکتا ہے یہ عالم ابوالحسین بن علی الفاسی تھے جیسا کہ قبل ازیں بیان ہوا۔ اسی زمانہ میں ابن حزم نے احمد بن حنبل سے بھی استفادہ کیا۔  
ابن حزم طوق الحمامہ میں رقمطراز ہیں:-

”احمد بن محمد بن حنبل نے ہمیں احمد بن حنبل، عبید اللہ بن یحییٰ سے سنا کر بتایا انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے مالک سے انہوں نے جیب بن عبد الرحمن سے سنا انہوں نے حفص بن عاصم سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سات شخص ہیں جن پر خداوند کریم اس روز سایہ نگیں ہوں گے جیسا کہ ان کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ سات شخص یہ ہیں۔ عادل بادشاہ وہ نوجوان جو خدا کی عبادت کرتے ہوئے پلا بڑھا ہو۔ وہ آدمی جس کا دل مسجد سے وابستہ ہو جب وہ اس سے نکلے تو فوراً لوٹ آئے۔ وہ وہ شخص جنہوں نے مخلصانہ تعلقات محبت استوار کئے اور بنا پر خلوص الگ ہو گئے۔ وہ آدمی جو غلٹ میں خدا کو یاد کر کے رہنے لگے۔ وہ شخص جسے کوئی ضرورت بدکاری کی طرف پکارے اور وہ کہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ وہ آدمی جو دیش ہاتھ سے خرچ کرے اور اسکے بائیں ہاتھ کو خیر نہ ہو۔“



ابن حزم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ۱۰۲ھ میں ہمدانی سے روایت سنی۔  
وہ لکھتے ہیں۔

”ہمیں ہمدانی نے قرطبہ کی مسجد القمری میں بمقام قرطبہ ۱۰۲ھ میں حدیث سنائی“

یہ روایت اسی حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ ابن حزم نے اجماع بن جصور سے حدیث سنی۔ احمد بن جصور ۱۰۲ھ میں فوت ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابن حزم نے سترہ برس کی عمر کو پہنچنے سے قبل یہ حدیث روایت کی۔ ان کے حالات زندگی بھی اسی کے مقتضی ہیں۔ ابن حزم اپنے سرپرست ابو الحسین الفاسی کی معیت میں علماء کی مجلس میں شریک ہوتے۔ چونکہ حدیث و فقہ ایک دوسرے کا جزو لاینفک ہیں لہذا ضروری ہے کہ علم حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کا درس بھی لیتے ہوں گے۔ یا کم از کم علم فقہ کے مبادیات سے تو ضرور آگاہ ہوں گے۔ لہذا یہ کہنا بے حد ضروری ہے کہ ابن حزم نے ابتدائی عمر میں فقہ کی تحصیل شروع کر دی تھی۔ یہ کسی طرح قرین قیاس نہیں ہے کہ جس والد نے ان کی تربیت کا اس قدر اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے ابن حزم کو فقہ کے مبادیات مثلاً فرضی و نقلی نماز وغیرہ سے نااہل رکھا ہو۔ عقل بھی اس کی مقتضی ہے اور تاریخ اس کی تائید کرتی ہے۔

طلب علم کا اولین محرک۔ ابن حزم نے بچپن ہی میں علوم و فنون کی تحصیل شروع کر دی اور ان کے والد نے عالم طفولیت ہی میں ان کو علم کے راستہ پر ڈال دیا۔ مگر بات

معجم الادباء میں ابو محمد بن عربی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”مجھے امام ابو محمد علی بن سعید بن حزم نے بتایا کہ ان کے علم فقہ اخذ کرنے کا محرک یہ امر ہوا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے عالی قدر چچا کا جنازہ پڑھنے گئے۔ نماز عصر سے قبل مسجد میں داخل ہو گئے۔ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ تحیۃ المسید کی دو رکعت پڑھنے سے قبل ہی بیٹھ گئے۔ ان کے مربی شیخ الفاسی نے نماز پڑھنے کا اشارہ کیا مگر وہ سمجھ نہ سکے۔ ایک شخص قریب ہی بیٹھا تھا وہ بولا۔ تم اتنے بڑے ہو گئے ادا تانا بھی معلوم نہیں کہ تحیۃ المسید واجب ہے۔ ابن حزم کی عمر اس وقت پچیس برس کی تھی۔ ابن حزم کا بیان ہے کہ میں اٹھا اور دو رکعت نماز ادا کی۔ تب استاد کا اشارہ میری سمجھ میں آیا۔ جنازہ پڑھ کر جب بیت کے اقارب کی معیت میں میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے

فی الفور نماز ادا کرنا چاہی۔ لوگوں نے کہا بیٹھے ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، جنازہ پڑھ کر گھر لوٹا تو میں شرم محسوس کر رہا تھا اور اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے لگا۔ میں نے اسٹاذ سے کہا مجھے شیخ نقیبہ ابو عبداللہ بن دحون کے گھر کا راستہ بتائیے۔ میں نے وہیں سے ان کے گھر کی راہ لی۔ ان سے مل کر ماجرا کہہ سنایا۔ آغاز تحصیل علم کی درخواست کی اور ان سے رہنمائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے موطا امام مالک بن انس پڑھنے کا مشورہ دیا۔ میں نے اگلے دن موطا کا درس لینا شروع کر دیا۔ پھر مسلسل ان سے اور دیگر اساتذہ سے تین سال تک تعلیم حاصل کرتا رہا۔ میں نے جدل و مناظرہ میں حصہ لینا بھی شروع کر دیا۔<sup>۱</sup>

**واقعات پر نقد و جرح** - اس واقعہ میں اپنی عمر کے جس سن و سال کا ذکر کیا گیا ہے وہ تاریخی واقعات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں۔ جو روایت ابو محمد

ابن عربی نے ابن حزم سے نقل کی ہے وہ بھی اسی طرح ہے، ابن حزم روایت ابن عربی کہتے ہیں۔  
"میری عمر چھبیس سال کو پہنچی اور میں نمازیں سجدہ سہو کرنا نہ جانتا تھا۔"<sup>۲</sup>

اس روایت میں ذکر کردہ عمر تاریخی حقائق کے مطابق نہیں۔ عدم مطابقت کی وجہ یہ ہے کہ واقعات میں مذکور ہے کہ ابن حزم نے احمد بن حنبل سے حدیث نبوی کا درس لیا اور یہ کسی طرح قرین عقل و دانش نہیں کہ حدیث نبوی کے نقل و روایت سے باخبر ہونے کے باوجود تھیمۃ المسجد سے آگاہ نہ ہوں۔ یہ بھی ثابت ہے کہ ابن حزم ابوالطین انفاسی کے ساتھ علماء کی مجالس میں جایا کرتے تھے پھر اسکے باوجود تھیمۃ المسجد سے ناآشنائی بڑی عجیب بات ہے۔ ابن حزم جس طرز زندگی کے عادی تھے اس سے بھی اسکی تردید ہوتی ہے۔ ابن حزم ایک وزیر کبیر کے چشم و چراغ تھے یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ سن بلوغت کو پہنچنے کے باوجود تھیمۃ المسجد سے ناواقف ہوں۔ کیونکہ اسکا قطعی مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ قبل ازیں آپکو مسجد میں جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا یا اگر جاتے بھی تھے تو شاذ و نادر حالانکہ ایک عالی منصب شخص سے جو ۲۶ سال کی عمر کو پہنچ چکا ہو اس کی توقع نہیں کی جاتی۔ اس خبر میں بذات خود ایسے قرائن موجود ہیں جو اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس واقعہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ابن حزم کے اتناؤ مربی ابوالطین انفاسی آپ کے ہمراہ تھے اور انہوں نے نماز پڑھنے کا اشارہ بھی کیا تھا۔ حالانکہ چھبیس سال کا شخص جو وزارت کی عمر کو پہنچ چکا ہو مربی کا محتاج نہیں ہوتا اور لوگ اس کے پاسے میں اس طرح ذکر نہیں کرتے کہ ان کے مربی نے اشارہ کیا تھا۔ قرین عقل و دانش یہ بات ہے کہ یہ واقعہ سولہ سال کی عمر میں پیش آیا ہوگا۔ کاتب نے غلطی سے عشر (دس) کو عشرون بنا دیا۔

مزید تنقید و تبصرہ - ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مذکورہ واقعہ میں تو کاتب کی غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے مگر دوسری روایت سے مضر کیونکر ممکن ہو گا جس کے الفاظ یہ ہیں۔

ابو محمد ابن عربی کہتے ہیں کہ ابن حزم آغاز بلوغت سے چھبیس سال کی عمر تک پہنچنے کے باوجود نماز میں سجدہ سہو کرنا نہ جانتا تھا۔

سابقہ روایت کی طرح اس کا رادی بھی ابن حزم کا شاگرد ہے۔ یہ کہنا کیونکر صحیح ہے کہ ابن حزم چھبیس سال کی عمر کو پہنچ کر سجدہ سہو سے نا آشنا تھے۔ مگر میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ سجدہ سہو نماز میں نادر الوقوع ہوتا ہے لہذا ممکن ہے کہ انہیں سجدہ سہو کرنا یاد نہ رہتا ہو اور بھول جاتے ہوں۔ ان کے سیاسی اشغال مزید اس امر کے موید تھے کہ سجدہ سہو انہیں یاد نہ رہے۔ مگر ہمارے نزدیک یہ واقعہ اور اس کا ابن حزم کے تلمیذ کی طرف انتساب محل نظر قابل ہے۔ کیوں کہ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے چھبیس سال کی عمر میں سیاست سے پوری طرح کنارہ کشی کر کے طلب علم کی عٹھانی۔ حالانکہ ابن حزم خلیفہ عبدالرحمن خامس مسمیٰ مستظہر کے وزیر تھے۔ اور عبدالرحمن مذکور کی بیعت خلافت ۳۱۲ھ میں ہوئی جب کہ ابن حزم کی عمر تیس سال کے لگ بھگ تھی۔

لہذا ہم ان واقعات کو ابن حزم کے طلب علم و دانش کا محرک اولین قرار نہیں دے سکتے۔ کیوں کہ ان واقعات کے اندر ایسے آثار و علائم موجود ہیں جو ان کی تردید کرتے ہیں۔ ان کے غلط ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ابن حزم کی طرز زندگی سے متصادم ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کاتب ان کی تحریر و تصدیق میں غلطی کا مرتکب ہوا ہے۔

طلب علم کے بارے میں قطعی فیصلہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابن حزم مسند وزارت پر فائز ہونے کے بعد تحصیل علم کی جانب متوجہ ہوئے۔

اس کے علی الرغم آپ نے اپنی سابقہ زندگی میں بھی علم کی جانب توجہ مبذول کی ہوگی۔ کیوں کہ ۳۰۷ھ سے قبل آپ کا وزارت و سیاست سے کوئی تعلق نہ تھا تو کیا آپ نے یہ ساری زندگی بلا مقصد لہو و لعب کی نذر کر دی؟ ایسا ہرگز نہیں بلکہ آپ زندگی بھر ایک سنجیدہ اور منین آدمی رہے اگرچہ عشق و محبت سے متعلق آپ کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ طہارتِ نفس اور پاکیزگی کے باوجود عشق و محبت کے جذبات سے یکسر خالی نہ تھے۔ تاہم تانت و سنجیدگی میں آپ اس قدر

مشہور تھے کہ جب آگے چل کر لوگوں کو ان کی عشق و عشاق سے متعلق تحریروں کا پتہ چلا تو وہ ان کی نسبت ابن حزم کی طرف مشتبه سمجھنے لگے۔

بہر کیف ابن حزم سیاسیات میں قدم رکھنے سے قبل تحصیل علم کی جانب متوجہ ہوئے۔ اگرچہ ان دنوں آپ کو کہیں آرام سے بیٹھنے کا موقع نہ ملا۔ اور آپ قرطبہ کی تباہی کے بعد مریہ نامی شہر میں اقامت گزری ہوئے۔ وہاں بکڑ کر قید کر دئے گئے۔ پھر رہائی کے بعد پہلے بلنسیہ اور پھر قیردان پہنچے۔ الغرض یہ سارا وقت سفروں میں کٹا اور کہیں آرام سے بیٹھنے کا موقع نہ ملا تاہم ابن حزم کو راحت و آرام کا وقت جب بھی نصیب ہوتا تو اسے درس و مطالعہ اور بحث و تحقیق میں صرف کرتے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابن حزم نے اپنی علمی زندگی کے آغاز میں فقہ کی جانب اس یکسوئی سے توجہ منعطف نہ کی کہ دوسرے علم سے کٹ گئے ہوں بلکہ فقہ کے پہلو بہ پہلو آپ حدیث ادب اخبار بعض عقلی علوم اور فلسفہ بھی پڑھتے پڑھاتے رہے۔ بایں ہمہ آپ جدل و مناظرہ میں بھی حصہ لیتے تھے محدث ذہبی اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں ابن حزم کے بعض معاصرین سے نقل کرتے ہیں:-  
 ”ہم مقام بلنسیہ میں مالکی فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ابن حزم سنتے جاتے اور حیران ہوتے جاتے۔ پھر ابن حزم نے فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھا۔ حاضرین نے جواب دیا۔ ابن حزم معترض ہوئے تو حاضرین میں سے ایک صاحب بولے۔  
 ”یہ آپ کے بس کا روگ نہیں!“

ابن حزم بڑے مضطرب ہوئے۔ کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے۔ پھر خانہ نشین ہو کر خاطر جمعی اور یکسوئی سے فقہ کا مطالعہ کیا اور علوم و فنون کی ایسی بارش برساتی ہوئی تھی کہ نام نہ لیتی تھی۔ ابھی چند ہینے ہی گزرنے پائے تھے کہ اسی جگہ آئے بڑی کامیابی سے مناظرہ کیا اور کہا:-  
 ”أَنَا أَتَّبِعُ الْحَقَّ وَأَجْتَهِدُ وَلَا  
 أَتَقَبَّدُ بِمَذْهَبٍ“  
 میں اجتہاد کرتا ہوں حق کا پیرو ہوں اور کسی کے مذہب کا پابند نہیں۔

مقام بلنسیہ میں قیام اور تحصیل فقہ میں کامل توجہ:- اس واقعہ نیز ابن حزم کی طرز حیات کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آغاز زندگی ہی میں تحصیل علم میں لگ گئے تھے۔ اور بچپن ہی میں علوم اسلامیہ اور حدیث و اخبار کے درس و مطالعہ میں مشغول و مہمک رہتے تھے۔ تاہم وہ بلنسیہ حاضر ہوئے

اور وہاں کے علماء کی صحبت میں رہ کر درس و مذاکرہ میں حصہ لینے سے قبل فقہ کی جانب پوری توجہ مبذول نہ کر سکے اور نہ فقہ کے ایک ایسے امام کی حیثیت سے شہرت حاصل کر پائے جو خود صاحب اجتہاد تھا اور کسی کا مقلد نہ تھا۔ حتیٰ کہ صحابہ و تابعین کی بھی تقلید نہ کرتا تھا۔

ابن حزم خود بیان کرتے ہیں کہ وہ بلسنیہ جا کر وہاں اقامت گزین ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”ہم عازم بلسنیہ ہو کر سمندری جہاز میں سوار ہوئے اور وہاں پہنچ کر قیام کیا۔

ان دنوں امیر المؤمنین المر تقي عبد الرحمن بن محمد سریر آرائے خلافت تھے“

قیام بلسنیہ کا یہ واقعہ ابن حزم کے ملک بدر ہونے کے چند ماہ بعد ۳۷۰ھ میں پیش آیا۔ گویا آپ ۳۷۰ھ کے اواخر یا ۳۷۱ھ کے اوائل میں بلسنیہ پہنچ کر وہاں قیام پذیر ہوئے۔ وہاں آپ خلیفہ عبد الرحمن بن محمد کی نصرت و اعانت اور ان کی دعوت خلافت کے سلسلہ میں گئے تھے مگر وہاں جا کر تحصیل علم میں لگ گئے۔

جب معاملہ یہ ہے تو اس سے قطعی طور پر نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ نے فقہ کی جانب کمال توجہ ۳۷۰ھ کے لگ بھگ منعطف کرنا شروع کی۔ یہی تحصیل فقہ آگے چل کر ان کی امامت فقہ پر منتج ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس وقت سے دوسرے علوم کی نسبت فقہ کی جانب خصوصی توجہ مبذول کرنے کا آغاز کیا۔ مگر دوسرے علوم کو بھی کلیتہً ترک نہ کیا۔

سب سے پہلے آپ نے مالکی فقہ کو اپنی فکر و نظر کا جواں گانہ قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ائمہ اربعہ میں مالکی فقہ کا چرچا تھا۔

نیز اسے سرکاری مذہب کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ ابن حزم سے منقول ہے کہ ”دو مذہب قوت و اقتدار کے بل بوتے پر پھیلے۔ پہلا حنفی مذہب مشرق میں اور دوم مالکی مسلک مغرب میں“

لذا عقل و منطق کا تقاضا یہی تھا کہ ابن حزم مالکی فقہ کا رُخ کرتے۔ ہم قبل ازیں یہ روایت بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے موطا امام مالک عبد اللہ بن دحون سے پڑھی اور اس کے بعد مسلسل دیگر علماء سے فقہ کی تحصیل میں مشغول رہے۔ واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ابن حزم جو خود بھی جرح و نقد میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ کو تپا چلا کہ امام شافعی نے مالکی فقہ پر تنقید کی ہے۔ حالانکہ امام مالک ان کے محترم استاد بھی تھے۔

امام شافعی کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اپنے استاد امام مالک کے متعلق یہی بات دہرائی جو ارسطو نے اپنے استاد محترم افلاطون کے بارے میں کہی تھی۔ امام شافعی کا قول ہے:-

» أَحِبُّ مَا بَيْنَا وَبَيْنَكَ مُعَبِّتِي لِلْحَقِّ «  
 میں امام مالک سے محبت کرتا ہوں مگر امام مالک  
 کی نسبت مجھے حق سے زیادہ پیار ہے۔

بلاشبہ ابن حزم نے کتاب "اختلاف مالک" مطالعہ کی ہوگی۔ اس کتاب میں مذکور ہے کہ امام  
 مالک نے فرع کو اصل اور اصل کو فرع قرار دیا۔ ابن حزم کو یہ بھی قطعی طور پر معلوم تھا کہ امام شافعی ابتداءً  
 امام مالک کے نقد و جرح میں متزدد تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ اندلس کے بعض لوگ امام مالک کی  
 ٹوپی کے طفیل ہارش طلب کرتے ہیں۔ امام شافعی نے استخارہ کیا اور امام مالک پر نقد و جرح کا  
 آغاز کیا۔ ان کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ امام مالک بھی دیگر بنی نوع آدم کی طرح ایک بشر ہیں۔  
 انہوں نے یہ واقعہ بالفرد مطالعہ کیا ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن حزم مالکی فقہ چھوڑ کر شافعی مسلک  
 ہو گئے۔ یہ امر اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ آپ حریتِ فکر و نظر کے کس قدر مشتاق تھے اور  
 سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کو کسی کی اطاعت کا دم بھرنے والا نہ تھا۔

ہمیں قطعی طور پر یہ معلوم کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی کہ آپ نے مالکی فقہ کو چھوڑ کر شافعی فقہ کو  
 کس لئے اختیار کیا۔ لامحالہ ہمیں یہ مفروضہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ابن حزم نے امام شافعی کی تصانیف کو  
 پڑھا اور پسند کیا ہوگا۔ جب اصل سبب معلوم نہیں ہے تو اس خلا کو پُر کرنے کے لئے ہمیں ایسا مفروضہ  
 ضرور وضع کرنا ہوگا جو اصلی واقعات سے چنداں بعید نہ ہو۔ ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ابن حزم میں نقد و  
 جرح اور حریتِ فکر و نظر کی جو روح پائی جاتی ہے امام شافعی کی تصانیف میں بھی یہی روح جاری و ساری  
 ہے۔ امام شافعی کی تصانیف میں "اختلاف مالک" کے علاوہ "اختلاف العرفیین" اور علی السیر اللذان  
 اور "جامع العلم" بھی ملتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب تنقیدی تصانیف ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے  
 کہ امام شافعی کی تصانیف کردہ کتب کا طرہ امتیازِ جدل و مناظرہ ہے اور ابن حزم کے طرزِ تحریر کی خصوصیات  
 بھی یہی ہیں۔ اس سے دونوں کے نقطہ نظر کی یکانگت اور ہم آہنگی واضح ہوتی ہے۔

ابن حزم اور فقہ شافعی :- سے آگاہ ہوئے۔ پھر فقہ ہائے مختلفہ سے متعارف ہونے کی

سعادت حاصل کی۔ مگر ان کی وہ روح جو ایک محدود مذہبی دائرہ میں محصور ہونا پسند نہ کرتی تھی امام شافعی  
 کے زیر اثر بھی نہ رہ سکی۔ شاید شافعی فقہ کی جس بات نے ابن حزم کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ان کا  
 تمسک بالنصوص اور فقہ کو نص قرار دینا یا محمول علی النص تصور کرنا ہے۔ ابن حزم کو امام شافعی کا یہ انداز  
 بھی پسند تھا کہ امام مالک جب استخسان اور مصالحِ مرسلہ کے مطابق فتویٰ دیتے تو امام شافعی ان پر

ناظر توڑ چلے کرتے ہیں۔ امام شافعی نے استحسان کے ابطال میں ایک مستقل کتاب بھی تحریر کی ہے۔ امام شافعی کی اصطلاح میں استحسان، مصالح مرسلہ اور استحسان اصطلاحی دونوں کو شامل ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے موقع پر بیان کیا ہے۔

جیسا کہ قبل ازیں ہم نے بیان کیا ہے، ابن حزم زیادہ دیر تک شافعی فقہ کے ساتھ نہ چل سکے۔ پھر ظاہری فقہ کے امام اور شیخ داؤد الصہبانی کی طرح جو امام شافعی کے تلمیذ رشید تھے صرف نصوص کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے لگے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اوامر و نواہی وہی ہیں جو نصوص و آثار سے ثابت ہوں۔ امر و نہی کی عدم موجودگی میں استصحاب اطال کے مطابق احکام ثابت ہوں گے۔ ابن حزم بھی وہی کہتے تھے جو داؤد و ظاہری نے کہا۔ کہ امام شافعی نے استحسان کے بطلان میں جو دلائل دئے ہیں انہی سے قیاس کا ابطال ہوتا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ابن حزم کے شیوخ و اساتذہ میں جن سے آپ نے فقہ کا درس لیا۔ ایک بڑے عالم باعمل مسعود بن سلیمان نامی تھے، جو ظاہری فقہ کی جانب مائل تھے اور فقہاء کے اقوال مختلفہ میں سے اس قول پر عمل کرتے تھے جو نصوص کتاب و سنت کے قریب تر ہوتا تھا۔

ابن حزم کو یہ انداز پسند آیا کیوں کہ اس سے تقلیدی جو دو ٹوٹا اور حریت فکر و نظر کا جذبہ ابھرتا ہے چنانچہ آپ مذاہب مشہورہ میں سے کسی کی پیروی نہ کرتے بلکہ براہ راست نصوص و آثار پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے۔

”میں حق کا پیرو ہوں، اجتہاد کرتا ہوں اور کسی مذہب کا پابند نہیں۔“

**مختلف علوم و فنون کی تحصیل :-** ابن حزم کو جو کتاب دستیاب ہوتی مطالعہ کرتے اور ہر قسم کے شیوخ و اساتذہ سے مستفید ہوتے۔ علم حدیث

آپ نے احمد بن حنبل اور ابوالقاسم عبدالرحمن ازدی سے پڑھا۔ عبداللہ بن وحون اور عبداللہ ازدی المروزی ابن الفرضی قاضی بلنسیہ سے فقہ کا درس لیا۔ ان شیوخ و اساتذہ وغیرہم سے ابن حزم نے حدیث و فقہ اور قرآنی علوم حاصل کئے۔ بعض علماء سے عربی زبان و ادب سیکھا۔ بعض اساتذہ سے بہ یک وقت متعدد علوم پڑھے مثلاً عبدالرحمن ازدی سے قرآن و حدیث اور خود لنت پڑھے۔ ان شیوخ و اساتذہ کے علاوہ جن سے آپ کو اخذ و استفادہ کی سعادت حاصل ہوئی لا محالہ ایسے علماء بھی ہوں گے جن سے اگرچہ ہم متعارف نہیں مگر ابن حزم ان کی تصانیف سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ علماء و فنون تھے جن کی تصانیف سے قرطیب، مزیہ، بلنسیہ، قیروان، شاطیہ اور اندلس کے دیگر مشہور شہروں، جہاں اس

یکتا مصنف لائٹانی عالم، امام وقت اور حجت عصر ابن حزم (کا گذر ہوا کی لائبریریاں معمور تھیں۔ پھر جو کچھ آپ نے پڑھا سیکھا اور آیا اس سے آپ کو ایسی شخصیت کی تکوین میں مدد ملی جو دید و شنید سے بالاتقی اور جس کا نام تاریخ کے اوراق میں تا ابد گونجتا ہے گا۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا ان علماء کی طرح جنہوں نے قرطبہ، ابن حزم اور مسند تدریس۔ غرناطہ، مریہ، بلنسیہ اور قیران کی مساجد میں حلقہ ہائے درس و تدریس قائم کر رکھے تھے۔ ابن حزم نے بھی مسند تدریس کو زینت بخشی اور طلبہ کو مستفید ہونے کا موقعہ دیا یا نہیں؟ جس طرح ان کے وہ شیوخ و اساتذہ درس دیتے تھے جن کے چشمہ صافی سے ابن حزم نے اپنی علمی پیاس بجھائی؟

جواباً عرض ہے کہ ابن حزم نے ہم عصر علماء کے علی الرغم اپنے فقہی مکتب خیال کے تحفظ و بقاء کے پیش نظر آغاز زندگی ہی میں درس و مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ مگر اپنے افکار و آراء کی نشر و اشاعت کا بیڑا آپ نے اس وقت اٹھایا جب سیاست سے کنارہ کش ہو کر کلیتہً علم کی جانب متوجہ ہوئے۔ سیاست سے الگ ہو کر آپ یہود و نصاریٰ کے خلاف میدانِ جدل و مناظرہ میں کود پڑے اور اسلام کی مدافعت کے لئے اپنی بہترین صلاحیتیں وقف کر دیں۔ علماء میں سے جو آپ کے نظریات کی مخالفت کرتے آپ ان سے مناظرہ کرتے اور اپنے افکار و نظریات کا دفاع کرتے یہی وہ دور تھا جب نوجوان تحصیل علم کی خاطر آپ کے پاس جوق در جوق آتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے یہی وہ عصر و عہد تھا جس میں آپ کے دوست بھی پائے جاتے تھے اور دشمن بھی۔ اگرچہ دست کم تھے اور دشمن زیادہ۔ افکار و آراء کے نشر و اعلان اور جدل و دفاع کی تاریخ متعین کرنے کے لئے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ سیاسیات سے آپ کا شغل کب تک رہا یا کب تک آپ ارباب سیاست کے مدد و معاون بنے رہے؟ چنانچہ اب ہم ان کے سیاسی اعمال کا جائزہ لیں گے۔



## ابن حزم اور سیاست

ابن حزم کے والد احمد بن سعید مسعود عامری  
اندلس میں اسلامی سلطنت کا زوال کے وزیر تھے جو اموی خلیفہ ہشام الموتید سے  
 خلافت چھین کر مستدراٹے حکومت و سلطنت ہوا۔ اسی لئے یا قوت معجم الادباء میں لکھتے ہیں کہ خلیفہ منصور محمد عامر  
 کے وزیر احمد بن سعید زبردست عالم دین تھے منصور کے بعد جب اس کا بیٹا المنظر تخت خلافت پر تکیا ہوا  
 تو احمد بن سعید اس کے وزراء اور خواص میں شامل تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن حزم کے والد احمد بن سعید عامری خلیفہ کے  
 معاونین میں سے تھے۔ جب تک منصور زندہ رہا آپ کے دست بازو تھے۔ جب ۳۹۲ھ میں وہ فوت ہوا اور اس  
 کا بیٹا المنظر اس کا جانشین ہوا تو آپ نے اس سے بھی تعاون کیا۔ جب ۳۹۵ھ میں سیاسی  
 اضطرابات کا آغاز ہوا تو آپ سیاسیات سے کنارہ کش ہو گئے۔ جب قرطبہ میں فسادات  
 رونما ہوئے تو آپ مغربی قرطبہ کے جدید مکانات سے نقل مکانی کر کے قرطبہ کی مشرقی جانب اپنے  
 پرانے مکانات میں آ گئے۔ ۴۰۲ھ میں انہی فسادات کے دوران آپ نے داعی اجل کو لبیک  
 کہا۔ امویوں کے داخلی نزاعات اور حکومت و سلطنت سے دلچسپی رکھنے والوں کے باہمی جدوجہد  
 پیکاری وجہ سے فسادات کا سلسلہ تادیر جاری رہا۔ یہاں تک کہ متحارب فریقین عیسائیوں سے  
 مدد طلب کرنے پر مجبور ہوئے جو پہلے ہی ایسے موقع کی تاک میں تھے۔ ایک فریق تو گناہ کی حد  
 تک عیسائیوں کی طرف جھک گیا اور فریق ثانی کی اعانت سے روکنے کے لئے انہیں قشتالہ کا  
 علاقہ سپرد کر دیا جو منصور عامری کے زیر نگیں تھا۔ فریقین تو خسارہ میں رہتے ہی تھے ان کے  
 ساتھ دین اسلام کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کے برعکس اعدا دین کی جیت رہی۔ انہوں نے  
 بہت ارزاں قیمت کے عوض یہ ملک خرید لیا۔ وہ قیمت صرف یہ تھی کہ عیسائی خاموش تاشائی کی  
 حیثیت سے یہ سب کچھ دیکھتے رہیں اور عملی سیاست میں حصہ نہ لیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ  
 عیسائی مسلمانوں کے اجسام و ارواح کے عوض اس ملک پر قابض ہو گئے۔

ابن حزم سکون و اطمینان کی تلاش میں :- درمیان پروان چڑھے — آپ بڑے

قوی الارادہ تھے جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا۔ خاندانِ خلافت کے بڑے وفادار تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ تخت و تاج کے وارث باہم برسرا پیکار ہیں اور آپس میں مرنے مارنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ نے وہی بات پسند کی جو ان کے مرحوم والد کی تھی۔ ایک فریق کو دوسرے کے خلاف مدد دینے سے ہاتھوں کو روک رکھا۔ اس سے آپ کو کیسوئی و یک جہتی کا موقع ملا اور آپ طلب علم میں منہمک ہو گئے مگر محرومی اقتدار کی حسرت کے جذبات دل میں موجزن تھے۔ پھر سکون و اطمینان کی تلاش میں آپ نے قرطبہ کو خیر باد کہا کیونکہ برابر کے بار بار حملوں نے قرطبہ کو فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنا دیا تھا۔ برابر اور نصاریٰ کے لشکر اکثر وہاں آتے اور نذر و نساد

پھیلانے رہتے تھے چنانچہ آپ قرطبہ سے رخصت ہو کر ۳۲۰ھ میں مریہ پہنچے۔ ابن حزم نے مریہ میں پہنچ کر درس و مطالعہ کے لئے اپنی تمام تر صلاحیتیں وقف کر دیں اور ان جید علماء سے مستفید ہوئے جو قرطبہ چھوڑ کر سکون و اطمینان کی خاطر مریہ آئے تھے۔ ظاہر ہے کہ ابن حزم جیسے ناز پروردہ کے لئے تحصیل علم سے بہتر کوئی چیز موجب تسکین و اطمینان نہ ہو سکتی تھی۔

امن و سکون کے اس دور میں ابن حزم نے سیاست سے علیحدگی اختیار کرنے پر ہی اکتفاء نہیں کیا بلکہ سیاست اور اہل سیاست سے مستقل طور پر کنارہ کش ہو کر تحصیل علم میں لگ گئے۔ انہیں عموماً اور قرطبہ میں خصوصاً جو شارات پیا ہوئے ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ آل جموداندلس پر قابض ہو گئے۔ آل جمود علوی تھے اور اندلس کے علاقہ نسبتہ پر حکمران تھے۔ علوی اور اموی خاندانِ جاہلیت اور اسلام میں ایک دوسرے کے خلاف نبرہ آزمایا رہے ہیں۔ جب علوی قرطبہ اور اس کے گرد و نواح پر قابض ہو گئے اور اندلس میں ان کا سکہ جاری ہوا تو امویوں اور ان کے لواحقین و متعلقین کو تلاش کیا جانے لگا۔ ابن حزم اور ان کا خاندان بنو امیہ کا حلیف تھا اور ان کے یہاں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ان کے والد اموی دورِ سلطنت یا ان کے زیر اثر سلاطین کے زمانہ میں وزارت پر متمکن رہ چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ۳۷۰ھ میں مریہ کے والی خیران نے ابن حزم پر الزام لگایا کہ آپ اموی سلطنت کے اعادہ کے لئے مصروف جدوجہد رہتے ہیں۔ ابن حزم خود بیان کرتے ہیں :-

”بنی طالب برسراقتدار ہوئے اور علی بن جمود حسی مسمی ناصر تختِ خلافت پر متمکن ہوا۔“

وہ قرطبہ اور اندلس کے دیگر علاقوں میں اپنے لشکروں کو لڑاتا رہا یہاں تک کہ قرطبہ پر اس کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ بعد ازاں مرہ کے والی خیران کے پاس ایک خزانہ میں باغی شخص پہنچا اور اسے میرے خلاف اکسایا جلد ہی خدانے ان بدخواہوں سے ہمارا انتقام لے لیا۔ چنانچہ خیران مجھ سے برگشتہ ہو گیا۔ اس کو میرے اور رفیق محترم محمد بن اسحاق کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہم بنو امیہ کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اس نے ہمیں ایک مہینہ قید و بند میں رکھا اور پھر جلاوطن کر دیا۔ ہم حصن القصر نامی مقام پر پہنچ کر وہاں کے حاکم ابوالقاسم عبداللہ بن ہذیل المعروف ابن المنقلب سے ملے۔ اس کے یہاں ہم نے چند مہینے بڑے راحت و آرام سے بہترین مکان میں گزارے وہاں کے رہنے والے بڑے بااخلاق، عالی ہمت اور مردت پیشہ تھے جب امیر المؤمنین مرتضیٰ عبدالرحمن بن محمد بلیسیہ کے تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو ہم سمندر عبور کر کے بلیسیہ پہنچے اور وہاں سکونت پذیر ہوئے۔

**ابن حزم بلیسیہ میں :-** ابن حزم سیاست و حکومت سے سخت متنفر ہو گئے۔ وہ سکون و اطمینان کی تلاش میں مرہ پہنچے تھے۔ مگر وہاں کے والی نے بیتان لگا کر ان کو چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے آپ نے قید و بند کی صعوبتوں کو خوش آمدید کہا پھر ملک بدر کئے گئے۔ مگر ابن حزم کا دور ابتلاء جلد ہی اتمام کو پہنچا۔ وطن سے علیحدگی ابن حزم کے لئے قلق و غم کی بجائے اکرام و احترام کا موجب ہوئی۔ بلیسیہ پہنچ کر آپ کی جلاوطنی ختم ہو گئی وہاں آپ عبدالرحمن اموی کی امداد کے سلسلہ میں گئے تھے جنہوں نے از سر نو بلیسیہ میں اپنی دعوت خلافت کی نہم شروع کی تھی۔

یہ عجیب بات ہے کہ خیران والی مرہ جس نے ابن حزم کو پہلے قید اور پھر جلاوطن کیا تھا عبدالرحمن اموی کا بڑا زبردست حامی تھا۔ خیران نے عبدالرحمن کو لکھ بھیجا تھا کہ علی بن حمود اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح خیران نے علی بن حمود کی مخالفت کا راز ظاہر کر دیا۔ علی بن حمود نے اپنے آدمیوں کو مختلف اطراف و جوانب میں بھیجا تھا کہ بنی امیہ کے افراد کو ہتھیار کر لائیں۔ اسے عبدالرحمن اموی کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ کہاں مقیم ہے۔ عبدالرحمن محمد بن عبدالملک بن عبدالرحمن الناصر کا بیٹا

تھا۔ یہ چھپ چھپا کر قرطبہ سے نکلا اور حیان کے شہر میں فروکش ہوا تھا۔ عبدالرحمن باقی ماندہ بنو امیہ میں مقابلتا زیادہ صلاحیتوں کا مالک تھا۔ ابن حزم خلیفہ عبدالرحمن کے دست و بازو بنے رہے۔ اس کے عہدِ خلافت میں مسند وزارت پر فائز رہے۔ اور اس کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک رہے۔ مگر خلیفہ عبدالرحمن زیادہ دیر تک خلافت و حکومت سے مستفید نہ ہو سکا۔ کیوں کہ اس کے شدید مخالف ابن حمود کے پاس مکر و فریب اور حسن تدبیر کے وہ ذرائع موجود تھے جو عبدالرحمن اور اس کے انصار و معاونین کے یہاں مفقود تھے۔ چنانچہ عبدالرحمن کو دھوکا سے قتل کر دیا گیا اور اس طرح اس کی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے یار و مددگار مختلف قسم کی مشکلات میں مبتلا ہوئے جو رستم کا نشانہ بننے، ملک بدر ہونے بلکہ انہیں قید و بند کی صعوبتیں بھی پھیلنا پڑیں۔

اب تھوڑی دیر یہاں توقف کر کے  
کیا ابن حزم بنی امیہ کے حامی تھے؟ ہم سوچتے ہیں کہ ابن حزم پر حمایت بنی

امیہ کا جو الزام لگایا گیا آیا وہ سبب جھوٹ تھا ابن حزم کا دامن قطعی طور پر اس سے پاک تھا اور آپ امن و سکون کے ماحول میں رہ کر تحصیل علم میں منہمک تھے۔ اور زاہد و عابد لوگوں کی طرح انہیں صریح عبادت سے سروکار تھا یا اس کے علی الرغم وہ فی الواقع بنو امیہ کی طرف مائل تھے یا کم از کم اعلانیہ بنو امیہ سے دوستی کا اظہار کرتے تھے۔

میرا خیال ہے کہ ابن حزم بر ملا بنو امیہ کی طرف میلان رکھتے تھے اگرچہ اس میدان نے باقاعدہ دعوت کی صورت اختیار نہیں کی تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ بلاشبہ امویوں کی طرف مائل تھے۔ ان کی خلافت کو شرعی امارت قرار دیتے اور انہیں ہمیشہ امیر المؤمنین کے لقب سے پکارتے تھے۔ مزید برآں انہوں نے کبھی اس تہمت کی تردید نہیں کی بلکہ ان کے کلام سے اس کا صحیح ہونا مفہوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو باغی یعنی شرعی حاکم کی اطاعت سے خارج قرار دیتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ ابن حمود کے طرفداروں کو شرعی حکومت کے باغی تصور کرتے ہیں۔ پھر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اس کے بعد جو امور ان سے ظہور پذیر ہوئے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بنو امیہ کے زبردست حامی تھے۔ اور ان کی نصرت و تائید میں جان تک دینے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ اسی منصب وزارت پر فائز ہوئے جس پر ان کے والد متمکن رہ چکے تھے۔ پھلا حمایت بنی امیہ کے سوا یہ امور کیوں کر وقوع میں آسکتے تھے۔

جب خلیفہ عبدالرحمن ایک لشکر کی معیت میں غرناطہ  
ابن حزم قید و بند میں کو فتح کرنے کے ارادہ سے چلا تو ابن حزم اس کے ہم رکاب  
تھے۔ عبدالرحمن اپنے مقصد میں کامیاب ہونے سے قبل ہی قتل کر دیا گیا اور ابن حزم ان  
سب مشکلات سے دوچار ہوئے جو کسی شکست خوردہ شخص کو پیش آتی ہیں۔ پکڑ کر قید کر  
کر لئے گئے اور مدت پھر اسیر زنلاں رہے۔ جب قید سے رہا ہوئے تو قرطبہ آئے اور اپنی  
آنکھوں سے اس کے کھنڈرات ملاحظہ کئے۔ یہ سنہ ۳۰۹ھ کا ذکر ہے۔ آپ چھ سال کے بعد قرطبہ  
آئے۔ وہ خود فرماتے ہیں :-

"میں اوائل محرم ۳۰۹ھ میں قرطبہ سے نکلا اور ماہ شوال ۳۰۹ھ کو دوبارہ اس میں داخل ہوا۔"  
گویا آپ چھ سال قرطبہ سے غائب رہے۔

اب ابن حزم نے پھر سے درس و مطالعہ، بحث و نقد، حفظ احادیث اور دراست فقہ  
اور اس میں جدل و مناظرہ کا آغاز کیا اور سیاسیات سے کنارہ کش ہو گئے۔ تاہم بنو امیہ کی جانب  
آپ کا رجحان و میلان باقی رہا۔ بنو امیہ جب بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ابن حزم ان کی  
نصرت و حمایت کے لئے کمر بستہ ہو جاتے۔ حالانکہ آپ بچشم خود یہ ملاحظہ کر چکے تھے کہ اموی سلطنت  
رُو بَرُو ال ہے۔ ان کے امراء شہروں میں در بدر پھر رہے ہیں۔ ان میں سے جو منظر عام پر آتا  
ہے تیغ کر دیا جاتا ہے۔ اور ان کے اعدا و خصوم یعنی علوی برسر اقتدار ہیں۔

عبدالرحمن المستنصر تخت خلافت پر  
آل حمود کی حکومت رفتہ رفتہ کمزور ہوتی گئی۔  
یہاں تک کہ اہل قرطبہ علی بن حمود حسنی کے

خلافت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے خلافت سے معزول کر دیا۔ کامل اتفاق سے قرار پایا کہ  
امویوں کو پھر تخت سلطنت پر بٹھا دیا جائے۔ اس کے لئے عبدالرحمن بن ہشام بن عبد الجبار  
کا انتخاب عمل میں آیا۔ چنانچہ ماہ رمضان ۳۱۴ھ میں اس کی بیعت خلافت ہوئی اور اسے المستنصر  
کا لقب عطا کیا گیا۔ عبدالرحمن اس وقت صرف بائیس سالہ نوجوان تھے وہ بڑے وسیع القلب  
نرم طبع، ادیب، شاعر اور خطیب تھے یہ

چند وجوہات کی بنا پر عبدالرحمن ایک کامیاب خلیفہ ثابت نہ ہو سکے۔ اول یہ کہ

وہ نوجوان ہونے کی بناء پر تجربہ کار نہ تھے۔

دوم: دوسری وجہ یہ تھی کہ دیگر سلاطین کی طرح وہ اپنے اہل خاندان کو شبہ کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ ان کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائیں۔

سوم: تیسری وجہ یہ تھی کہ انہیں کسی پر اعتماد نہ تھا یہاں تک کہ وزراء — جن میں ابن حزم بھی شامل تھے — کی رائے پر بالکل عمل نہیں کرتے تھے۔ معجم الادباء میں مذکور ہے کہ عبدالرحمن سیاسی امور میں تدریج کو ملحوظ نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اہل قرطبہ کی ایک جماعت کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ اور ان کا مال ضبط کر لیا۔ ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ وہ عبدالرحمن کے ایک چچا زاد اموی شاہزادہ سے ساز باز رکھتے ہیں۔ اہل قرطبہ ان کی حمایت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں قید خانہ سے چھڑا لیا۔ عبدالرحمن صرت درماہ تختِ خلافت پر نشمن رہنے کے بعد قتل کر دئے گئے۔

ابن حزم اس نوجوان خلیفہ کے وزیر تھے۔ اس کا بھی وہی حشر ہوا جو قبل ازیں المرتضیٰ کا ہو چکا تھا۔ ابن حزم کی وزارت بھی پہلے سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ پہلی وزارت کا نتیجہ ان کی اسارت کی صورت میں برآمد ہوا تھا۔ اب مسند وزارت سے سیدھے زندان میں پہنچے تاریخ کے اوراق یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ آپ کو کب رہائی نصیب ہوئی۔ واقعات سے اتنا پتا چلتا ہے کہ قید و بند کا زمانہ زیادہ طویل نہ تھا۔

ابن حزم المعتد باللہ کے وزیر کی حیثیت سے — بعد ابن حزم نے بار ثانی علم

کے دامن میں پناہ لی اور حسب سابق انہیں پھر وہی سکون و اطمینان نصیب ہوا۔ علم کی طرف لوٹتے ہی انہوں نے حدیث و فقہ بدل و بحث اور ان اعتراضات کے جوابات دینے کی طرف عنان توجہ موڑ دی جو یہود و نصاریٰ نے اسلام کے خلاف گھڑے تھے۔ آپ سیاسیات سے کنارہ کش ہو کر کلیتہً خدمتِ علم میں منہمک ہو جانا چاہتے تھے۔ معجم الادباء میں یا قوت کا بیان ہے کہ ابن حزم اس کے بعد ہشام المعتد باللہ کے وزیر رہے تھے۔ یا قوت لکھتے ہیں۔

”ابن حزم پہلے عبدالرحمن المستظهر باللہ بن ہشام کے وزیر تھے پھر ہشام

المعتد باللہ بن محمد بن عبدالملک بن عبدالرحمن الناصر کے وزیر مقرر ہوئے۔

وزیر ابو محمد بن جمہور رئیس قرطبہ نے المعتد باللہ کی بیعت کی تھی۔ یہ ۳۷۱ھ

کا واقعہ ہے۔ خلیفہ مذکور اس وقت ایک سرحدی مقام لارودہ میں اقامت  
گزین تھا۔ تین سال وہاں رہ کر پھر قرطبہ پہنچا۔ ۷۲۲ھ میں اسے معزول کیا گیا۔  
اندلس میں یہ آخری اموی حکمران تھا۔

یہ آخری خلیفہ تھا جس کی مسند وزارت پر ابن حزم فائز رہے۔ واقعات سے معلوم ہوتا  
ہے کہ اس کی چار سالہ مدت خلافت میں ابن حزم وزیر رہے بلکہ ان کی وزارت کا زمانہ  
بہت کم تھا۔ ورنہ وہ کافی شہرت حاصل کر لیتے اور ان کی سیاست منظر عام پر آ جاتی۔  
ہمارے پاس کوئی تاریخی ثبوت ایسا نہیں جس سے ان کے عہد وزارت کی مدت  
معلوم ہو سکے۔

اندلس میں اموی خلافت کا خاتمہ اور ابن حزم :- ابن حزم کی سیاست  
و وزارت کا یہ آخری دور تھا۔ تاریخ کے اوراق سے پتا نہیں چلتا کہ اس کے بعد بھی آپ کسی کے وزیر رہے

ہوں دراصل المعتد باللہ آخری اموی حکمران تھا اس کے بعد بنو امیہ کے پاؤں نہ جم سکے علامہ  
المقرئ لکھتے ہیں :-

"۷۲۲ھ میں فوج نے ہشام المعتد باللہ کو تخت خلافت سے اتار دیا۔ وہ  
لارودہ نامی مقام کی طرف بھاگ گیا اور ۷۲۸ھ میں اسی جگہ فوت ہوا۔ اس  
کے فوت ہونے کے ساتھ ہی کرۂ ارضی سے اموی خلافت کا خاتمہ ہو گیا  
اب اندلس میں خلافت کا شیرازہ بکھر گیا اور طوائف الملوکی کا دور دورہ  
ہوا۔ عربی، عجمی اور بربر رؤساء اور امراء اندلس کی جانب چل پڑے اور اس  
کے حصے بخرے کر کے آپس میں تقسیم کر لئے۔"

ابن حزم امویوں کے شدید حامی تھے اور ان کی نصرت و تائید کے نقطہ خیال سے منصب  
وزارت کو قبول کرتے تھے۔

حمایت بنو امیہ کے جرم میں آپ کئی مرتبہ جلا وطنی اور قید و بند سے دوچار ہوئے۔

جب اموی خلافت کا قاتمہ ہو گیا اور ان کے دوبارہ برسرِ اقتدار آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو آپ سیاسیات سے کنارہ کش ہو گئے اور اس سلسلہ میں تک و دو کہ ترک کر دیا۔ وزارت و سیاست سے مکمل طور پر الگ ہونے کے بعد ابن حزم نے درس و مطالعہ، بحث و تمیص اور تصنیف و تالیف کا شغل اختیار کیا اور اپنے افکار و نظریات کو جہل و مناظرہ، رسائل و مکاتیب اور چھوٹی بڑی تصانیف کے ذریعہ پھیلانے اور ہر طرف پہنچانے کی بنا ڈالی۔



## ابن حزم کی سیر و سیاحت

گردش زمان و نکیبت دوراں :- ۳۹۹ھ میں جب سے قرطبہ میں فسادات رونما ہوئے نصیب نہ ہوا۔ ابن حزم کے اقارب قرطبہ کے مشرق سے مغرب میں منتقل ہوئے۔ پھر ۴۰۲ھ میں قرطبہ سے مریہ پہنچے۔ بعد ازاں ملک بدر ہونے کی نوبت آئی۔ ابن حزم خود اپنی کتاب طوق الحمامہ کے آخر میں لکھتے ہیں۔

”آپ جانتے ہیں کہ میں مضطرب اہل پریشان حال ہوں۔ گھر بار سے دور وطن مالوف سے ہجرت تفر زمان غضب سلطان، بھائیوں کی تباہ حالی فسادات کی کثرت و گردش زمانہ، ضیاع اموال، جدید و قدیم مال سے محرومی آبائی پیشہ سے علیحدگی جاہ و منصب سے معزولی، اہل و اولاد کا ہتم و غم و رجوع وطن سے مایوسی و گردش دوران سے حرب و پیکار، تقدیر خداوندی کا انتظار یہ سینکڑوں مصائب ہیں جن سے بیک وقت دوچار ہوں۔ خدا ہمیں شاکہ نہ بنائے اور اگر شکایت کریں بھی تو اسی سے۔ میں دعا گو ہوں کہ جو اس نے ہم سے لیا ہے اس سے ہمیں بہتر عنایت کرے۔ درحقیقت ہمارے پاس جو اس نے باقی چھوڑا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو اس نے لے لیا۔ اس کے بے پایاں انعامات ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور ہم ان کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ سبھی اشیاء اسی کی داد اور عطیہ ہیں۔ ہمیں اپنی ذات پر کوئی اختیار حاصل نہیں۔ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے، بہر مانگی ہوئی چیز عاریتہ دینے والے کی طرف لوٹ جایا کرتی ہے۔ وَكَلَّمَ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَعَوْدًا وَاَبَدًا“

اس عبارت میں ابن حزم کی  
بلاداندلس میں ابن حزم کے ذاتی مکانات :- دشت نوردی اور بادیہ گردی کی

طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مگر ابن حزم کے یہ اسفار بعیدہ اختیاری نہیں بلکہ اضطراری تھے۔ مقام  
 مریہ کی جانب ان کی رحلت سکون و اطمینان کی خاطر عمل میں آئی۔ پھر مریہ سے "الحصن" کی طرف  
 جبراً کوچ کیا گیا۔ جلاوطنی کے مقام سے ان کا سفر بلنسیہ خلیفہ کی تائید و نصرت کے سلسلہ میں وقوع  
 پذیر ہوا۔ پھر قرطبہ کی جانب آپ کی مراجعت اسی خوشحالی اور فارغ البالی کی تلاش کے لئے ہوئی  
 جس میں آپ پروان چڑھے۔

واقعات سے پتا چلتا ہے کہ ابن حزم اقتصادی اعتبار سے اکثر خوشحال رہے اور عسرت و  
 افلاس سے دوچار ہونے کا موقع نہ آیا۔ اگرچہ بعض اوقات ان کا قدیم و جدید مال لوٹ لیا گیا  
 اور اس طرح آباؤی دولت و ثروت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ  
 بلبلہ کی نواحی بستی میں جہاں آپ کے آباء و اجداد کا مسکن تھا، زرعی اراضی کے مالک تھے اور  
 وہاں جا بسے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن شہروں میں آپ کو سکونت پذیر ہونے کا موقع  
 ملا مثلاً مریہ، شاطیہ، بلنسیہ، شیلیہ۔ وہاں آپ کے سکونتی مکانات بھی تھے۔ طوق الحمامہ کی بعض  
 عبارتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں :-

«مریہ نامی شہر میں میرا ایک دوست اپنے گھر میں مقیم تھا۔ کسی کام کا ج کے  
 سلسلہ میں وہ شاطیہ گیا اور جب تک وہاں اسے ٹھہرنا تھا وہ میرے  
 مکان میں سکونت پذیر رہا»

یہ عبارت اس حقیقت کی غمازی کرتی ہے کہ شاطیہ میں آپ کا ایک مکان تھا۔ جب  
 آپ کو راحت و سکون کی تلاش ہوتی تو وہاں جا آباد ہوتے۔ گویا شاطیہ میں آپ کا نقل مکانی  
 کرنا اضطراری نہیں بلکہ اختیاری تھا۔ البتہ بعض اوقات فسادات وغیرہ سے مجبور ہو کر اگر آپ  
 وہاں جاتے تھے تو وہ الگ بات ہے۔

ابن حزم کے تمام سفر صرف سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لئے عمل میں نہیں  
سفر قیروان :- آئے بلکہ بعض سفر تحصیل علم کے سلسلہ میں اختیار کئے گئے تھے۔ ان کے دیگر  
 اسفار کے ذکر و بیان سے قبل ہم مغرب میں ان کے سفر قیروان کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کا یہ سفر  
 اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ آپ قیروان میں مدت بھر مقیم رہے۔ آپ علماء کی طرف جاتے ان

کی خدمت میں حاضر ہوتے اور باہم تبادلہ افکار کرتے۔

ابن حزم رقمطراز ہیں :-

”جب میں قیردان میں اقامت گزین تھا تو وہاں کے ایک عالم ابو عبید اللہ محمد بن کلیب نے جو بڑا زبان دراز اور ماہر فنون تھا مجھ سے ایک علمی سوال دریافت کیا۔“

یہ واقعہ اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ آپ قیردان گئے، وہاں سکونت پذیر رہے، اور قیردانی علماء سے جدل و مناظرہ کرتے رہے۔ طوق الحمامہ میں یہ مذکور نہیں کہ آپ قیردان کیوں گئے اور کب گئے؟ جیسا کہ ابن حزم اپنے سفروں کے متعلق اکثر ذکر کرتے ہیں۔ غالباً آپ وہاں اپنی مرضی سے گئے اور کسی امیر یا وزیر کے مجبور کرنے کی بنا پر نہیں۔ ورنہ وہ خود غرض سفر بتا دیتے۔ کیونکہ ان کی عام عادت یہ ہے کہ وہ غرض سفر صراحتہً بیان کر دیتے ہیں اور وہ اس میں لوگوں کے خوش یا ناخوش ہونے کی مطلقاً پروا نہیں کرتے یہاں تک کہ وہ ملک بدر ہونے اور قید و بند کے واقعات و حوادث ذکر کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بڑے قوی الحس تھے جو رنج و الم ان پر اثر انداز ہوتا اسے ضرورتاً ذکر کرتے اور اسے ہدیہ قرطاس کرنے میں بخل سے کام نہ لیتے تاکہ اُتدہ زمانے کے لوگوں کے لئے اسے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لیں اور جب وہ چاہیں اسے ذکر کرتے رہیں۔

اگرچہ ابن حزم نے سفر قیردان کی تاریخ ذکر نہیں کی تاہم ہمارا خیال ہے کہ یہ واقعہ زندگی کے آخری دور میں پیش نہیں آیا کیوں کہ طوق الحمامہ جس میں یہ واقعات مذکور ہیں آپ کی آخری تصنیف نہیں بلکہ اولین تالیف معلوم ہوتی ہے۔ طوق الحمامہ کی عبارت اس امر کی آئینہ دار ہے کہ یہ کتاب آپ نے بھر پور جوانی میں تحریر کی۔ بعض مصنفین کا خیال ہے کہ آپ کی اولین تصنیف ہے اور اس کا زمانہ تصنیف ۴۱۸ھ اور ۴۲۲ھ کے درمیان ہے۔ مگر یہ دونوں باتیں ہمارے نزدیک دعویٰ بلا دلیل ہیں۔ ہمارے نزدیک نہ اس کی کوئی دلیل ہے کہ طوق الحمامہ ابن حزم کی پہلی تصنیف ہے نہ اس کے زمانہ تصنیف کی تعیین کسی دلیل سے ثابت ہوتی ہے۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب آپ نے اوائل حیات میں تصنیف کی جیسا کہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔

ابن حزم جزیرہ میورقہ میں۔ ابن حزم شاطیہ، مریہ، قرطبہ، بلنسیہ اور دیگر بلاد اندلس میں جاتے وہاں درس دیتے اور اپنی شیریں بیانی سے اندلسی نوجوانوں کو فریفتہ کرتے رہتے تھے۔ آپ نے ان کے افکار و نظریات پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ مشہور مؤرخ مقری علامہ باجی کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو میورقہ نامی شہر میں ابن حزم سے ملے تھے۔

علامہ باجی جب وارد اندلس ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابن حزم بڑے شیریں مقال ہیں۔ چونکہ ابن حزم اپنے فقہی مسلک میں لوگوں کے ہمتوان تھے لہذا ان کے علم سے شغل رکھنے والے اندلس میں بہت کم تھے۔ ابن حزم کے مقابلہ میں فقہاء کچھ نہ کر سکے اور اندلس کے بہت سے کم علم لوگ ابن حزم کے پیرو بن گئے۔ ابن حزم جب جزیرہ میورقہ میں فروکش ہوئے تو آپ وہاں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے وہاں کے اکثر رہنے والے آپ کے ہم خیال بن گئے۔ جب ابوالولید باجی میورقہ آئے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے ابن حزم کے بارے میں بات چیت کی۔ علامہ باجی نے ان سے کسی مرتبہ مناظرہ کیا اور ان کے عقائد کا بطلان ثابت کیا۔ ابن حزم اور باجی نے متعدد مجالس میں باہم تبادلہ افکار کیا۔

مؤرخ مقری کے بیان سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں:-

اول:- پہلایہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے ابن حزم ۳۷۰ھ میں وارد میورقہ ہوئے۔ کیوں کہ باجی مشرقی مالک سے بدل و کلام اور حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ۳۷۰ھ میں میورقہ واپس آئے تھے۔ آپ نے ۳۷۶ھ میں تحصیل علم کی خاطر میورقہ کو چھوڑا۔ اور تیرہ سال کے بعد ۳۸۹ھ میں میورقہ لوٹ کر آئے۔

دوم:- دوسرا یہ کہ ابن حزم کے میورقہ میں فروکش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے اجاب و تلامذہ کا حلقہ خاصا وسیع تھا۔ اور وہ آپ کے فقہی مسلک کے پیرو تھے۔

سوم:- تیسری بات یہ ہوتی کہ ابن حزم اپنے افکار و نظریات کو بڑے بلیغ اور موثر الفاظ میں بیان

کرتے تھے اور فقہاء ان کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فقہاء کا مبلغ علم صرف فقہی فروع کے دائرہ میں محدود و محصور تھا اور ابن حزم اپنی وسعت علم کے بل بوتے پر ان پر حجت تمام کر دیتے تھے۔

یہ واقعہ اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ ابن حزم میورقہ میں کامل آداوی اور یے باکی سے اپنے فقہی آراء کو بیان کرتے تھے اور کسی سے خائف یا ہراساں نہ تھے۔ جو چاہتے بیان کرتے سلطان وقت بھی آپ کو تنگ نہیں کرتا تھا اور آپ آزادانہ طریقہ سے بدل و زکات میں حصہ لیتے تھے افسوس کہ تاریخ کے اوراق میں ان کی مجالس و مناظرات کا حال محفوظ نہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ان دونوں میں سے حق و صداقت کا حامل کون تھا۔

حقائق و واقعات اور اندلس کے باہم قریبی مقامات

### کثرت اسفار کی غرض و غایت :-

کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت اُجاگر ہوتی ہے کہ

ابن حزم جدھر کا رخ کرتے اور جہاں فروکش ہوتے اپنے افکار و نظریات کی نشر و اشاعت کرتے آپ بلنسیہ اور میورقہ کے مقامات میں آتے جاتے رہتے کیونکہ ان کا باہمی فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ پھر قرطبہ لوٹ آتے۔ میورقہ میں آپ کے متبعین کی کثرت کا بھی پتا چلتا ہے۔ وہاں خصوصی طور سے آپ کے نظریات زیادہ پھیلے اور آپ نے وہاں خاصی شہرت و سیادت حاصل کر لی۔ واقعات سے پتا چلتا ہے کہ ابن حزم کو یہ تفوق و غلبہ میورقہ میں ان کے ایک دوست احمد بن رشیق کی وجہ سے حاصل ہوا جس کا وہاں خاصا اثر و رسوخ تھا۔ ابن رشیق کا انتقال ۴۲۷ھ میں ہوا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد میورقہ میں ابن حزم کا اثر و رسوخ کمزور پڑ گیا اور حسب سابق فقہاء نے ان پر غلبہ پالیا۔ نیز انہوں نے ابو الولید باجی سے مدد چاہی جو اسی سال مشرق سے تحصیل علم کے بعد لوٹے تھے۔ علامہ باجی ابن حزم کے خلاف میدان مناظرہ میں نکلے اور ان پر غلبہ حاصل کر لیا جیسا کہ موضحین کا بیان ہے۔

میر خیال ہے کہ علامہ باجی کو یہ غلبہ حجت و برہان کی بنیاد پر نہیں بلکہ سیاسی قوت کے زیر اثر حاصل ہوا تھا۔ باجی دلائل و برہان کے بل بوتے پر ابن حزم کے خلاف کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ابن حزم کے مدد و معاون ابن رشیق کے فوت ہو جانے کی بناء پر فقہاء ان پر غالب آ گئے اور سلطان وقت کو آپ کے خلاف اُکسایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ میورقہ سے نکلے تو حجت و برہان کی بناء پر مغلوب نہ تھے بلکہ اپنے ناصر و موید (ابن رشیق) کے فقدان اور

کثرتِ اعداء و خصوم کے باعث مغلوب ہوئے۔

ابن حزم پر فقہاء صرف یہ جرم عائد کرتے تھے کہ آپ مالکی فقہ کے خلاف ہیں اس پر پے دیئے  
 وار کرتے اور مالکی فقہ کے اقوال کو دیوار پر پھینک دیتے ہیں۔ اس بے اعتنائی کی وجہ یہ تھی کہ ابن حزم  
 نصوص پر پورا پورا اعتماد کرتے تھے اور وہ نصوص ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔

## ابن حزم کی تصانیف کا جلایا جانا اور مراجعت وطن

ابن حزم کی اندلس تو ردی۔ جب علامہ حاجی میورقہ وار ہوئے اور ابن رشیق کی وفات کے بعد وہاں کے حاکم نے ابن حزم کے مخالف فقہاء کا ساتھ دینا شروع کیا تو ابن حزم وہاں سے چل دیئے۔ کتب تاریخ و تراجم یہ بتاتے سے قاصر ہیں کہ میورقہ چھوڑ کر آپ کہاں گئے۔ کیا قرطبہ پہنچے جو آپ کی جائے سکونت تھا یا بلنسیہ، مریہ اور شالیہ میں فروکش ہوئے؟ کچھ بت نہیں چلتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنے علوم کو سپنہ میں دبائے اپنی تصانیف کو بار بار مولیسیوں پر لائے، تمام شہروں میں سے گزر رہے ہوں۔ جب کہ آپ کا دل ان کتب کے مندرجات پر قوی ایمان رکھتا تھا اور زبان ان عقائد کی نشر و اشاعت کا فریضہ ادا کرتی رہتی تھی۔ تمام شہروں سے گزرنا اس لئے ممکن ہے کہ آپ بلا دانلس میں اکثر سیر و سیاحت کرتے رہتے تھے۔ اندلس اس دور میں مختلف حصوں بخروں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ہر علاقہ کا امیر جدا تھا، کوئی معتزم کہلاتا اور کوئی معتضد ایک شاعر کا قول ہے۔

يُدُّ هِدْيٌ فِي اَرْضِ اَنْدَلُسٍ  
سِمَاعٌ مُّقْتَدِرٌ فِيهَا وَمُعْتَضِدٌ  
اَلْقَابُ مَوْضُوعَةٌ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا  
كَالِهَرِّيَةِ حَيْكِي اَنْتِفَاخًا صَوْلَةً اَلْاَسَدِ

(مقتدر اور معتضد کا نام سن کر مجھے سر زمین اندلس سے کوئی دلچسپی نہیں رہی)

یہ ناموزوں القاب اسی طرح بے موقع ہیں جیسے بلی اگر کر شیر کی نقل اتارنے لگے) ابن حزم تقسیم شدہ اندلس کے شہروں میں اکثر سیر و سیاحت کرتے رہتے تھے جب کہ دشمن ان کی تاک میں لگے رہتے تھے۔ جب خلیفہ معتضد بن عباد ۴۳۹ھ سے ۴۶۲ھ تک شبیلیہ میں سریرا رائے خلافت تھا تو ابن حزم وہاں فروکش ہوئے۔

معتقد کا تصانیف ابن حزم کو نذر آتش کرنا۔ یہ وہی معتقد تھا جو ابن حزم کے خلاف براہِ روختہ تھا اور جس نے

انہیں وہ شدید ترین نفسیاتی سزا دی جو کسی عظیم عالم کو دی جاسکتی ہے۔ مگر وہ سزا اس لئے شدید ثابت نہ ہو سکی کہ وہ ابن حزم کو دی گئی جو بڑے کہنہ مشق اور سرد و گرم چشیدہ تھے۔ وہ عسروئیر دونوں سے دوچار ہوئے اور اپنے آپ کو اس بلند مقام پر فائز تصور کرتے تھے جہاں حوادث و آلام روزگار کی رسائی ممکن نہیں خواہ ان کی شدت و حدت کسی درجہ کی بھی ہو۔

یہ وہی بدکردار معتقد تھا جس نے ابن حزم کی گراں قدر تصانیف کو نذر آتش کرنے کا اقدام کیا۔ معتقد قاضی ابوالقاسم محمد بن اسماعیل بن عباد نخعی کا بیٹا تھا۔ قاضی ابوالقاسم نے بنی عباد کی خلافت حکومت کی بنا ڈالی۔ باشندگانِ اشبیلیہ نے بنی حمود کے دورانِ خلافت میں انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا۔ کیونکہ بنی حمود کی حکومت اس وقت کمزور پڑ گئی تھی۔ اس نے اشبیلیہ کے علماء و عوامی مجلس شوریٰ کی تشکیل کی تھی جو اشبیلیہ کے نواحی علاقوں پر حکومت کرتی تھی۔ یہ بڑا عمدہ اور نیک بنیاد آدمی تھا۔ اس کا انتقال ۴۳۹ھ میں ہوا۔

قاضی ابوالقاسم کے بعد معتقد تختِ خلافت پر بیٹھا۔ یہ ابتداءً اپنے والد کی تشکیل کردہ مجلس شوریٰ کی مدد سے حکومت کرتا رہا۔ عدل و انصاف سے کام لیتا اور رعایا کی مصلحت کو پیش نظر رکھتا۔ یکایک اسے مطلق العنانی کے ساتھ حکومت کرنے کا داعیہ پیدا ہوا۔ تقدیرِ خداوندی نے بھی اس کا ساتھ دیا اور وہ اس طرح حکومت کرتا رہا۔ یہ بڑا متشدد، ذہین و فطین اور ہوشیار تھا۔ اپنے مقاصد و غایات کی تکمیل کی راہ میں کسی پر رحم کرنا جانتا ہی نہ تھا۔ خواہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اس کے ظلم و تشدد کی انتہا ہے کہ جب اسے پتا چلا کہ اس کا بیٹا اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہے تو اس نے تہ تیغ کر دیا۔ اندلسی مسلمانوں پر قابو پانے کے لئے اس نے یہ افسانہ گھڑ رکھا تھا کہ وہ ہشام بن حکم المویّد کی جانب سے حکمرانی کے فرائض ادا کر رہا ہے اور ہشام ابھی بقیہ حیات ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ افسانہ طرازی اس کے والد نے ہی کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اشبیلیہ کے لوگ کسی خلیفہ کے بغیر رہنا گوارا نہ کرتے تھے۔ لہذا لوگوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے اور آسانی سے ان پر قابو پانے کے لئے اس نے فرضی خلیفہ کا نام لے کر تقسیم شدہ اندلس کے تمام اجزاء پر قبضہ کر لیا۔ ظاہر ہے کہ خلیفہ کا نام لے کر بغیر یہ کام بڑا دشوار تھا۔ لہذا اسے یہ کام کرنا پڑا۔ خلیفہ ہشام المویّد کی نیابت کا دعویٰ ۴۵۵ھ تک جاری رہا۔ پھر لوگوں میں یہ ڈھونگ



رہایا کہ خلیفہ ہشام فوت ہو گیا ہے اور اس نے معتقد کو اپنا ولی عہد مقرر کیا ہے۔  
ابن حزم نے معتقد کا یہ پردہ ناش کر دیا اور لوگوں میں اسے خوب بے نقاب کیا۔ انہوں نے  
بڑے سخت الفاظ میں معتقد پر تنقید کی اور مطلقاً اس سے خائف یا ہراساں نہ ہوئے  
صرف اظہار حق و صداقت کے لئے آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ ابن حزم اپنی کتاب "نقط العروس"  
میں لکھتے ہیں۔

"ایسا عجوبہ دنیا میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ  
ایک شخص خلیفہ ہشام بن الحکم کی موت کے بائیس سال بعد منصف شہود پر جلوہ گر  
ہوا اور دعویٰ کیا کہ وہ خلیفہ ہشام ہے۔ چنانچہ اس کی بیعت کی گئی۔ اندلس  
کے تمام منبروں پر اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا اور اس کے بارے میں  
بڑی بڑی ریختہ نیر لڑائیاں لڑی گئیں۔"

یہ چند اشارات ہیں جن  
ابو جعفر منصور اور معتقد کی باہم مشابہت و مماثلت سے معتقد کے احکام و

اخلاق اور اس کی حکومت و سیاست کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ معتقد کو عباسی خلیفہ ابو جعفر  
منصور کے مانند تصور کیا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ معتقد ظلم و تشدد میں خلیفہ منصور  
سے کچھ زیادہ ہی تھا، وہ دشمن کو کبھی معاف نہ کرتا تھا، خواہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ معتقد کو ایک مرتبہ  
پتا چلا کہ ایک اندھا آدمی اسے بڑا بھلا کہتا ہے۔ معتقد نے اس کی جائداد ضبط کر لی پھر پورا  
وہ چھپ چھپا کر بک پہنچا اور وہاں پہلے سے بھی زیادہ اس کی مخالفت کرنے لگا۔ معتقد نے  
خفیہ طور پر ایک شخص کو بھیجا جس نے زہر دے کر اسے ہلاک کیا۔

جس طرح آرام دار الہجرت مالک رحمۃ اللہ علیہ منصور کے زمانہ میں جو رستم کا نشانہ بنے  
اور انہیں کوڑے تک مارے گئے۔ اسی طرح امام اندلس ابن حزم کی تصانیف معتقد  
نے نذر آتش کر دیں۔ اس لئے معتقد و منصور میں کامل مشابہت و مماثلت پائی جاتی  
ہے۔

۱۔ المعجب فی تلخیص اخبار الغرب ص ۹۶ طبع التجاریہ۔

۲۔ رسالہ نقط العروس طبع ۱۵۱۰ھ ص ۸۳ تحقیق ڈاکٹر شرقی صیفت۔

اب سوال یہ ہے کہ کتب جلائے کا واقعہ کب پیش آیا؟ آیا میورقہ سے رخصت ہونے کے فوراً بعد اور یہ ظاہر ہے کہ آپ ۲۷ھ میں وہاں سے رخصت ہوئے تھے۔ یا وفات سے محو طرا عرصہ پہلے؟ آپ کی وفات ۲۸ شعبان ۲۵ھ میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔

واقعات اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں کہ کتب جلائے کا واقعہ مذکورہ دونوں زمانوں کے درمیان پیش آیا۔ نہ تو میورقہ سے کوچ کرنے کے فوراً بعد اور نہ وفات سے محو طرا پہلے بلکہ ان دونوں واقعات کی درمیانی مدت میں یہ سانحہ رونما ہوا۔ کیونکہ اس واقعہ کے راوی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ابن حزم نے اس حادثہ کے بعد اپنی زرعی اراضی واقع مقام لبلہ میں بنیاد لی تھی اور وہاں مقیم رہ کر اپنی موت تک تصنیف و تالیف اور اپنے تلامذہ کے ساتھ درس و مذاکرہ میں مشغول رہے۔ اس دوران میں آپ کتب جلائے کے واقعہ کو بڑے دلورزا شعور میں بیان کرتے تھے۔

بلاشبہ احراق کتب کے اسباب واضح ہیں اور انہیں بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ ان کا خلاصہ یہ

ہے کہ فقہاء آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ حکام وقت کو آپ کے خلاف اکساتے اور ان سے شکایت کرتے تھے کہ ابن حزم امام مالک اور ائمہ اربعہ کے خلاف ہیں۔ مزید برآں وہ لوگوں کے سامنے ایسی فقہ کو پیش کرتے ہیں جس کا فقہ ہائے اربعہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ربط و تعلق نہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ امر اور حکام اپنے سیاسی مقاصد کے تحت ہمیشہ علماء کی امداد کے طلب گار رہتے ہیں اور امکانی حد تک انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ معتقد جیسا شخص ابن حزم کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں کہ ابن حزم تنہا تھے ان کے ساتھ صرف چند معاونین تھے جو ہمہ تن تحصیل علم میں منہمک رہتے تھے۔ اور جنہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو شریعت و حقیقت کی بحث و تحقیق میں لگا رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ تعداد میں کم ہوتے ہیں اور کثرت کی حد تک نہیں پہنچتے۔ ان حالات کے تحت معتقد کے لئے علماء کی خوشنودی حاصل کرنا از بس ضروری تھا۔ مگر انسوس اس امر کا ہے کہ اس نے فقہاء کو راضی کرنے پر اکتفاء نہ کیا بلکہ اس سے تجاوز کر کے ذاتی انتقام لینے پر اتر آیا۔ فقہاء کو تو اس طرح بھی راضی کیا جاسکتا تھا کہ معتقد ابن حزم کو حسب سابق حدود سلطنت سے

نکال دیتا یا اپنے آباؤں شہزادوں کو نظر بند کر دیتا۔ بس یہ حدود و قیود ابن حزم کے لئے کافی تھے۔ اس سے بڑھ کر اوراق کتب کا اقدام کرنا۔ فقہاء کے راضی کرنے میں بدنامی یا لغو آمیزی سے کام لینا ہے جس کا مقصد صرف فقہاء کی دلجوئی نہیں بلکہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ظاہری سبب وہی تھا۔ ابن حزم نے اپنے اشعار کے آخر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

فرماتے ہیں

دَعَوْنِي مِّنْ أَجْرِ أَقْرَبٍ وَكَأَعْدٍ  
وَقَوْلُوا بَعْلِمِ كَيْ يَرَى النَّاسُ مَنْ يَدْرِي  
وَاللَّفْعُودُ وَاللْمَكَاتِبُ بِدَائِعٍ  
فَكَمْ دُونَ مَا تَبْعُونَ لِلَّهِ مِنْ سِئَرٍ

ان اشعار کی روشنی میں دیکھا جاسکتا ہے کہ اوراق کتب کا ظاہری سبب فقہاء کے اقوال تھے۔ مگر یہ امر بلا بدی ہے کہ کچھ دیگر اسباب بھی موجود ہوں گے۔ جو اس سلسلہ میں اثر انداز ہوئے ہوں گے۔ کیوں کہ امراء و حکام کے غایات و مقاصد متعدد اور مختلف النوع ہوتے ہیں اور وہ ظاہری اسباب سے باطنی محرکات پر اثر ڈال دیتے ہیں۔

پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

ابن حزم کی تحریریں محکام کے سیاسی مقاصد میں حامل تھیں۔

کہ حکام ابن حزم کے شدید حامی تھے اور ان کی تائید و نصرت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ آپ اموی خلفاء کے وزیر بھی رہ چکے تھے۔ امویوں میں سے جو بھی خلانت کا مدعی ہوتا آپ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے۔ آپ کے ایام شباب کے تذکرہ میں یہ حقائق و واقعات پہلے ذکر کئے جا چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ غیر اموی حکام میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوگی کہ ابن حزم جیسے ذہین و فطین شخص کو امکانی حد تک اپنے سے دور رکھے یا کم از کم لوگوں میں اس کے وقار کو گھٹاتا رہے۔

مزید براں ابن حزم ایک مؤرخ بھی تھے جو اپنے دور کے حقائق و واقعات کو قلمبند کرتے رہتے تھے اور ظاہر ہے کہ حکام وقت ابن حزم کی ان تحریروں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اپنی تصنیف کردہ کتب میں وہ اپنے عقائد بلا خوف و ہمت لائے ذکر کرتے تھے اور انہیں اس بات کی مطلقاً پروا نہ تھی کہ لوگ ان سے خوش ہوں گے یا ناخوش۔ قبل ازیں ہم آپ کی کتاب "نقط العروس" سے

جو اپنے خاص شہر سے معتقد اور اس کے والد کے بارے میں لکھی تھی اس کا نمونہ پیش کر چکے ہیں۔ معتقد اور اس کے والد کا یہ فعل کہا ہوں نے ایک شخص کے متعلق مشہور کر دیا کہ یہ خلیفہ ہشام ہے (حالانکہ وہ بہت عرصہ پہلے مر چکا تھا) اور بیس سال سے کچھ زیادہ عرصہ تک یہ دعویٰ جاری رکھا۔ ابن حزم اسے ایک عجوبہ سے تعبیر کرتے ہیں جو کبھی دنیا میں نہیں دیکھا گیا۔ ابن حزم کی تخریب کا یہ ایک نمونہ ہے جو آپ حکام وقت کی مرضی کے خلاف لکھا کرتے تھے ظاہر ہے کہ حکام وقت کے پاس اس تخریبی مواد کو جلانے کے سوا اور کونسا علاج تھا۔ اسی لئے ابن حزم کہتے ہیں کہ ان کی کتب نذر آتش کر دی گئی ہیں۔ ان میں جو علم مندرج تھا وہ میرے سینہ میں محفوظ ہے اور میں جہاں جاتا ہوں وہ علم میرا رفیق سفر ہوتا ہے۔ لہذا میں اسے دوبارہ لکھنے کی قدرت بھی رکھتا ہوں۔ لوگوں کو وہ باتیں زبانی بھی بتا سکتا ہوں یا وہ علم میرے سینہ میں محفوظ ہے گا اور میری موت کے ساتھ مٹ جائے گا۔

وہ اشعار میں فرماتے ہیں سے

ترجمہ (۱) اگر تم اوراق کو جلا بھی دو تو ان کے مندرجات کو نہیں جلا سکتے جو میرے سینہ میں محفوظ ہیں۔

فَإِنْ تَحْرِقُوا الْقُرْطَاسَ لَا تَحْرِقُوا الَّذِي  
تَحْمَلُهُ الْقُرْطَاسُ بَلْ هُوَ فِي صَدْرِي  
يَسِيرٌ مَعِي حَيْثُ اسْتَمَلْتُ رِكَائِي  
وَيَنْزِلُ إِذَا نَزَلْتُ وَيُرْفَعُ فِي قَبْرِي

(۲) میری سواریاں جہاں بھی جاتی ہیں میرا علم بھی ساتھ جاتا ہے جب سواریاں ٹھرتی ہیں تو علم بھی اتر پڑتا ہے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہو گا۔

عداوت ابن حزم کے دیگر اسباب :- ابن حزم کے علم و قلم سے اندلس کے درو دیوار تنگ آ گئے تھے یا یوں کہیے کہ امراء ابن حزم کی علمی

باتوں سے دل برداشتہ تھے کیونکہ خدا کی زمین علم صحیح، لسان حق ترجمان اور قلم حقیقت رقم سے کبھی تنگ نہیں آ سکتی۔ علماء وقت اور ان کے اجاب و اعتراف ابن حزم کو گوارا نہ کرتے تھے۔ اس کی وجہ وجہ یہ تھی کہ فقہاء نے اپنے آپ کو ایک تنگنائے فقہی یعنی مالکی فقہ میں محدود و محدود کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حق و صدق اسی فقہی مسلک میں محدود مقید ہو کر رہ گیا ہے اور اگر اس کے سوا کہیں حق پایا جا سکتا ہے تو وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی فقہ ہو سکتی ہے اور بس۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ائمہ اربعہ کے فقہی مسلک سے خروج کرنے والا حق سے دور ہوتا ہے

خواہ اس کے اقوال کتاب و سنت کے مصادر و ماخذ سے کہتے ہی قریب کیوں نہ ہوں۔ فقہاء کو ابن حزم سے یہ خطرہ بھی دامنگیر رہتا تھا کہ ابن حزم پہلے سیاسیات سے وابستہ تھے ان کا خاندان اندلس میں بڑا مکرم و موثر تھا۔ مزید برآں یہ بھی ممکن تھا کہ وہ خلافت و امارت کا دعویٰ کر بیٹھیں یا حمایت بنی امیہ کی بنا پر ان کی سلطنت کے اعادہ کے لئے جدوجہد کا آغاز کر دیں اور اس طرح حکام وقت کی سنگ دی سے نجات حاصل کریں۔ اس سے بڑھ کر ابن حزم ایک زبردست عالم دین ایک ماہر فقیہ اور حق گو تھے آپ حق بات کہنے سے گریز نہ کرتے اور اسے مخالفت کے منہ پر دے مارتے تھے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ امیر ہو یا عامی شخص، جو بات کہتے اسے عوام اور صغیر السن طلبہ تک کو علانیہ بتا دیتے۔

ان جملہ امور و اسباب نے ابن حزم کو فقہاء کی نگاہ میں بڑا خطرناک اور مہیب بنا دیا تھا۔ لہذا ضروری تھا کہ انہیں تنگ کیا جاتا اور ان کے علمی افکار کو سینہ کے اندر ہی محدود و مقید کرنے کی کوشش عمل میں لائی جاتی۔ امراء و فقہاء کی ریشہ و داینوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ آپ اپنے آبائی گاؤں "ننت لیشم" میں جا کر آباد ہو گئے جو ادنیہ کے نواح میں اور علاقہ بلبلہ میں واقع ہے جہاں قرطبہ جانے سے پیشتر آپ کا کینہ اقامت گزین تھا۔ اب آپ نے علم کے دامن میں پناہ لی اور مصیبتوں سے دوچار ہونے کے بعد علم کے سایہ میں اپنی راحت و سکون کا سامان موجود پایا۔ طلبہ دور و دراز سے چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے آپ نے تصنیف و تالیف کا مشغلہ ہی جاری رکھا اور نادرہ رزگار تصانیف کی صورت میں اپنی کاوش کے ثمرات لوگوں کے سامنے پیش کیے۔

**علم سے وابستگی۔** ظلم و ستم کی آماجگاہ بننے کے بعد ابن حزم جن حالات سے دوچار ہوئے۔ ابن حیان ان کی منظر کشی کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:-

"سلاطین و ملوک ابن حزم کو اپنے تقرب اور دیار و امصار سے دور کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ علاقہ بلبلہ میں واقع اپنے آبائی گاؤں میں سکونت پذیر ہوئے جہاں آپ نے ۵۶۷ھ میں وفات پائی۔ حوادث و آلام کے دوران نہ آپ اپنے عقائد سے ایک اینچ بھر ہٹے نہ اعداء و خصوم سے مصالحت کی بلکہ اپنے احباب و اقارب اور ان طلبہ کو اپنے علم سے مستفید کرتے رہے۔ جو طلب علم کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور جنہیں کسی کی ملامت

کی کچھ پروا نہ تھی۔ آپ انہیں حدیث کا درس دیتے فقہی مسائل سے آگاہ کرتے اور زندگی کے تجربات سکھاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے درس و مطالعہ اور تصنیف و تالیف کے شغل کو بھی جاری رکھا۔

واقعات اس بات کی نشان دہی کرتے ہیں کہ اگرچہ ابن حزم کو ایک جگہ بیٹھنا نصیب نہ ہوا اور آپ کو اپنے اذکار و اراد کی نشر و اشاعت میں بھی کافی دقت کا سامنا ہوا مگر آپ عمرت و افلاس میں کبھی مبتلا نہ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا گاؤں منت یشم یا منتلجتم آپ کے آباء کی ملکیت چلا آتا تھا اور آپ اس پر قابض تھے۔ عبداللہ بن محمد عربی اندلسی لکھتے ہیں:-  
 ”منتلجتم نامی بستی جو ادنبہ سے نصف فرسخ دور ہے آپ کے آباء و اجداد کی ملکیت تھی اور آپ اس کے مالک تھے۔“

ایبائی گاؤں میں قیام اور علمی مشاغل پر

اپنے آبائی گاؤں میں اقامت گزین ہو کر ابن حزم کی سیاحتانہ زندگی اختتام پذیر ہوئی۔ وہاں مقیم ہو کر آپ نے درس و مطالعہ، جدل و مناظرہ اور شغل تصنیف کو جاری رکھا۔ ان طلبہ کو بھی پڑھاتے تھے جو بلا خوف و ہراس علم کی خاطر آپ کے پاس آتے تھے جیسا کہ ابن حیان کا بیان ہے کہ وہ طلبہ باری باری آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے اور اخذ و تلقی میں مصروف رہتے۔

تاریخ کے اوراق یہ بتانے سے خاموش ہیں کہ آپ کس زمانہ میں وہاں مقیم تھے ورنہ ہم یہ بتاتے کہ سعید بن طلحہ کس مدت میں آپ سے علمی استفادہ کیا کرتے تھے۔ زندگی کے دور میں آپ علم کے سوا ہر چیز سے الگ تھلک ہو گئے تھے۔ آپ لوگوں سے بھی بیزار تھے۔ صرف ان لوگوں سے آپ نے مراسم استوار کر رکھے تھے جو سلاطین و وقت سے کوئی سروکار نہ رکھتے تھے جن کی عقل روشن اور جن کا دماغ فقہاء کی پیدا کردہ تنگ دامانی سے آزاد تھا۔ یہ دونوں مقصد آپ کو اس بستی کی اقامت کے دوران اور جلا وطنی کے عالم میں بھی حاصل رہے جیسا کہ مورخین کو اعتراف ہے۔ آپ ہمہ تن تحصیل علم میں مشغول رہے اور تنگ نظر فقہاء کے مجاولات آپ کو اصلی مقصد سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نوجوان بڑی دشت پیمائیوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علمی فوائد سے مستفید ہوتے۔ صرف یہی طلبہ آپ کے پاس آتے جو پورے خلوص سے

علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان میں چند طلبہ بڑے خوشحال گھرانوں کے چشم و چراغ تھے مگر ان کی تعداد بہت قلیل تھی۔ انکارِ صحیحہ کی نشر و اشاعت اور عقولِ انسانی کی فکری آبیاری کرنے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ معتقدین اسے کہاں تک قبول کرتے ہیں۔ ان کی تعداد کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اگر دس طلبہ کامل توجہ و انہماک کے ساتھ کسی عالم سے مستفید ہوئے اور اس کے چشمہِ علمی سے اپنی پیاس بجھاتے ہوں تو وہ ان سینکڑوں طلباب سے کہیں بہتر ہیں جو اگرچہ تحصیلِ علم کے درپے ہوں مگر علم ان کے گلے سے نیچے نہ اتر رہا ہو یا اس سے انکار کر دیتے ہوں یا تحصیلِ علم میں شانِ بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوں۔

حدیث ابن حزم کہ جلا وطن اور نظر بند کرنے والوں نے خدا کے اس نور کو کھانے کی سعی لا حاصل کی تھی جو ان کے رگ و پے میں سما یا ہوا تھا۔ مگر خداوند تعالیٰ کو اس نور کا پھیلانا منظور تھا چنانچہ اس نے ایسے باخلاق طلبہ کو آپ کی جانب متوجہ کیا جو آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر علمی فوائد سے بہرہ ور ہوتے۔ یہی وہ برگزیدہ و چیدہ طلبہ تھے جنہوں نے ابن حزم کے علم کو اکتافِ عالم میں پھیلایا۔ تاریخ کے اوراق سے ابن حزم کے اعداء و خصوم کا نام تک مٹ گیا۔ اس کے برعکس ان کا نام نامی تمام علماء اسلام بلکہ دنیا بھر کے علماء کے درمیان درخشندہ ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔

## طلبِ معاش اور ابنِ حزم

فکرِ معاش سے آزادی :- ابنِ حزم فکرِ معاش سے بے نیاز تھے اور اس کے لئے انہیں صرف اوقات کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے والد کی متروکہ اراغی کی بنا پر وہ بڑے خوشحال تھے۔ ان کے والد وزیر تھے اور بڑے متمول تھے۔ شرقی اور غربی قرطبہ میں ان کے جو مکانات تھے وہ سب ورثہ میں ابنِ حزم کو مل گئے تھے۔ جن بلا دیندلس میں آپ کا گذر ہوا یا وہاں رہے سے یاراخت و سکون کی تلاش اور علماء کی زیارت کے سلسلہ میں وہاں گئے تھے ان تمام شہروں میں آپ کے ذاتی مکانات تھے اس بات پر بخین کا اجماع ہے کہ جس بستی میں آپ نے داعی اجل کو بلید کہا آپ کے آباء کی ملکیت تھی اور اب آپ اس پر قابض تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تاحین حیات فقر و افلاس سے دوچار نہ ہوئے۔

مخلاف ازیں طوق الحماہ میں مذکور ہے کہ جو رستم، جلا وطنی اور قید و بند میں مبتلا رہنے کی بنا پر آپ کی ابائی دولت اور قدیم و جدید مال سب ضائع ہو گیا تھا۔ مگر ان واقعات اور طوق الحماہ کے بیان میں جمع و تطبیق اتنی دشوار نہیں۔ کیوں کہ وہ طوق الحماہ میں صراحتاً لکھتے ہیں کہ لوٹ مار کے باوجود ان کے پاس کچھ مال بچ گیا تھا جس پر وہ شکرِ خدا ندی بجا لاتے ہیں۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ حوادث و آلام کے دوران بلاشبہ مالی وسائل کم ہو گئے اور ابائی مال کافی حد تک ضائع ہو گیا تھا۔ تاہم وہ فقر و فاقہ سے محفوظ تھے بلکہ زندگی بھر خوشحال رہے اور اپنے مالی وسائل سے اپنی خاندانی روایات کے مطابق اپنی ضروریات پوری کرتے رہے۔

کثرتِ مال و منال :- آپ کی زندگی زیادہ تر فارغ البالی ہی بسر ہوئی۔ اگرچہ بعض اوقات قید و بند اور جلا وطنی کے باعث نسبتاً آپ کی دولت کم ہو جاتی یا جائداد کے عدم تحفظ و نگہداشت اور فسادات کے ردغا ہونے کی وجہ سے آپ کے مملوکہ مکانات کی برابری کے باعث وہ فائدہ نہ ہوتا جو ہونا چاہیے۔



علامہ باجی کے ابن حزم کے ساتھ جو مجادلات ہوئے وہ قید و بند اور جلا وطنی کے بعد  
۱۲۷ھ میں وقوع پذیر ہوئے ان سے قطعی طور پر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ابن حزم اس وقت  
فقروفاقہ میں مبتلا تھے یا وہ امیرانہ محاطہ کے مرتبہ سے اتر کر متوسط طبقہ کی طرح بسر اوقات  
کرنے لگے تھے یا قوت معجم الادباء میں ابن حزم اور باجی کے ایک مناظرہ کی تفصیلات  
کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

ابن حزم اور باجی کے مابین ایک مناظرہ ہوا جب مناظرہ ختم ہوا تو باجی  
بولے معاف کیجیے میں نے چوکیدار کے چراغ کی روشنی میں تعلیم پائی ہے  
ابن حزم نے جواباً کہا۔

”مجھے بھی معذور فرمائیے۔ میں نے سونے چاندی کے مینروں پر بیٹھ کر تعلیم  
پائی ہے۔“

ابن حزم کا مطلب یہ تھا کہ فقر وفاقہ کی نسبت ثروت و تونگری سے علم زیادہ  
ضائع ہوتا ہے۔

یہ واقعہ اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ ۱۲۷ھ تک آپ افلاس و غربت سے دوچار  
نہیں ہوئے ورنہ سونے چاندی کے مینروں کے بجائے اپنے فقر وفاقہ کا ذکر کرتے۔ اس  
واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن حزم نفسیات سے کتنی گہری واقفیت رکھتے تھے۔ علامہ  
باجی کا خیال تھا کہ مال و دولت کی کثرت تحصیل علم میں معاون ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ابن  
حزم کہتے ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی علم کی راہ کو مسرود کر دیتی ہے۔ کیوں کہ کثرت دولت  
سے لہو و لعب کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اس دروازہ کے کھل جانے سے نور و معرفت کے  
دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لذت دنیوی کی کثرت دل کے نور کو  
مٹاتی، بصیرت و فراست سے محروم کرتی اور نہم و ادراک کو ختم کر دیتی ہے۔

تفکدست آدمی اگر چہ نکر معاش میں مبتلا رہتا ہے مگر اسباب لہو و لعب کے فقدان کی وجہ سے اس کی  
روح چمک اٹھتی ہے اور اس پر نور ہدایت بھلکنے لگتا ہے۔ یہ ہے ابن حزم کا نظریہ اس کے برعکس  
باجی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مادی اسباب کے حاصل ہو جانے سے زندگی میں سہولتیں مہیا ہو جاتی

ہیں۔ انہوں نے نفسیاتی اسباب کی طرف بالکل توجہ نہیں دی۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ دولت مند لوگوں کو زندگی کی سب سہولتیں مہیا ہوتی ہیں مگر وہ تحصیل علم کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔

امام ابو حنیفہ اور ابن حزم کے مابین مماثلت :-  
ابن حزم غناء دتو تونگری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح تھے۔

اگرچہ دونوں کے اسباب معاش میں فرق و امتیاز زیادہ پایا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ تجارت کی بناء پر دولت مند تھے اور تجارتی منافع کو کوفہ کے محدثین و فقہاء پر خرچ کیا کرتے تھے۔

اس کے برعکس ابن حزم نے اپنے آباد سے جو ورثہ پایا تھا اس کی بنا پر غنی تھے۔ یہ ترکہ زیادہ تر رہائشی مکانات اور زرعی اراضی پر مشتمل تھا جن سے انہیں کثیر مالی فائدہ ہوتا تھا۔ اسی تونگری کے بل بوتے پر امام ابو حنیفہ، امراء و خلفاء کے ہدایا و عطایا قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ بنا بیت ایزدی ان سے بے نیاز تھے۔ اسی طرح ابن حزم بھی اپنے معاصر حکام کے عطیہ جات قبول نہیں کرتے تھے۔ مگر سبب یہاں بھی مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ امراء کے ہدیہ جات اس لئے قبول نہیں کرتے تھے کہ انہیں ان کی ضرورت نہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ طبعاً بنوعیاس سے بیزار تھے۔ ابن حزم قبول تحائف سے اس لئے باز رہے کہ وہ امراء کو بنظر احترام نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ان کے ہدیہ جات قبول کرنے کے لئے تیار ہو جاتے۔ وہ وزیر ابن وزیر تھے۔ اور امراء کو اپنے سے کہتر سمجھتے تھے یا اپنے سے بڑا آدمی تصور نہیں کرتے تھے۔ امراء اس کو ناپسند کرتے تھے اور شاید ابن حزم کے خلاف ان کی شدید مخالفت کی وجہ یہی تھی۔

سلطانی ہدایا و عطایا کا شرعی حکم اور ابن حزم :-  
ابن حزم کے بعض معاصر علماء ملوک

کرنے والوں کو بنظر استخسان نہیں دیکھتے تھے یوں بھی سر زمین اندلس کی سرسبزی و شادابی کی وجہ سے وہاں کے اکثر فقہاء بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے بلکہ وہ ضرورت سے زائد اموال کو رفاہ عامہ کے کاموں پر خرچ کرتے تھے۔ ہدیہ جات کی قبولیت پر اظہار ناراضگی کی وجہ غالباً یہی تھی۔ ابن حزم کے معاصر ابن عبد البر اندلسی نے جب دیکھا کہ سلاطین کے ہدیہ جات قبول کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اس کا جواد ثابت کرنے کے لئے کمر بہت باندھی ذائقہ طور پر قبول ہدایا کے سلسلہ میں انہیں مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا۔ ہم ابن عبد البر کا کلام نقل کرتے ہیں کیونکہ اس سے ابن حزم کے عصر و عہد کی روح معلوم

ہوتی ہے اور وہ نفع الطیب کے بیان کے مطابق یہ ہے  
 "قرطبی اپنی کتاب جمع الحصر بانذہد والقناعۃ" میں ذکر کرتے ہیں، ہم نے  
 امام عمر بن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ وہ شاطبہ میں مقیم تھے تو انہیں بتایا چلا کہ سلطان  
 کے ہدایا و عطایا قبول کرنے کی بناء پر لوگ انہیں موردِ وطن ٹھہراتے ہیں۔ تو انھوں نے جواباً  
 فرمایا شعر

قُلْ لَیْسَ یُنْکِرُ اَنْکَلِ، لِطَعَامِ الْاُمَکَرِ  
 اَنْتَ مِنْ جَنْدِکَ هَذَا فِی فَحْلِ السَّفَکَرِ

اجواماء کے تحائف قبول کرنے کی بناء پر مجھے موردِ وطن بنانا ہے اسے کہہ دو کہ تو اس  
 مشہ سے ناواقف ہونے کی بناء پر حماقت کا ارتکاب کر رہا ہے،

دین اسلام کا انحصار صحابہ تابعین اور اسلاف کے صاحب فتویٰ ائمہ کی اتباع پر ہے۔  
 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو اسخ فی العلم تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس کے  
 بیٹے یزید کے تحائف قبول کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ و  
 تقویٰ کے باوجود مختار بن ابی عبید کے ہدیہ جات قبول کرتے اور اس کا کھانا کھایا کرتے تھے۔  
 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرے پڑوس میں ایک  
 سوذخوار شخص رہتا ہے جو حرام خوری سے احتراز نہیں کرتا وہ بعض اوقات مجھے دعوت طعام  
 دیتا ہے کیا میں شرعی نقطہ نگاہ سے اس کی دعوت قبول کر سکتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود نے سائل  
 کو جواب دیا وہ علمی معلومات کا گنجینہ ہے۔ فرمایا "جب تک صلقتہ تمہیں کسی چیز کی حرمت معلوم نہ ہو  
 اسے کھا لو۔ گناہ گار کھلانے والا ہوگا"

امام شعبی کبار تابعین اور علماء میں سے تھے وہ عبدالملک بن مروان کے بچوں کو تعلیم دینے  
 اس کے انعامات قبول کرتے اور اس کے یہاں سے کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ امام ابوہریرہ  
 نخعی و دیگر علماء کو ذہب و بصرہ حضرت حسن بصری اپنے ورع و تقویٰ کے باوجود نیز ابو سلمہ بن عبدالرحمن  
 ابان بن عثمان اور مدینہ کے فقہاء سبعہ سعید بن مسیب کے ماسوا سلطانی ہدایا کو قبول  
 کر لیا کرتے تھے۔

ابن شہاب زہری بھی اس قسم کے تحفے قبول کر لیا کرتے تھے اور زیادہ تر ان کے معاش کا  
 انحصار اسی پر تھا۔ ابوالزناد کا طریق کار بھی یہی تھا۔ امام مالک شافعی ابو یوسف اور دیگر فقہائے حجاز

عراق رحمہ اللہ تعالیٰ سلاطین کے نذرانوں کو قبول کر لیا کرتے تھے۔

حضرت سفیان ثوری بایں ہمہ زید و تقویٰ فرمایا کرتے تھے کہ سلطانی تحائف مجھے مجھائیوں کی صلہ رحمی سے عزیز تر ہیں کیونکہ وہ احسان جتلاتے ہیں جبکہ سلاطین ایسا نہیں کرتے۔ اکثر علماء فضلاء سے ایسی روایات منقول ہیں۔ لوگوں نے اس ضمن میں بڑا مواد جمع کیا ہے۔ سرزمین اندلس کے مشہور عالم و فقیہ احمد بن خالد نے مسئلہ تزینت کے بارے میں ایک کتاب تصنیف کی۔ کتاب کی تصنیف تالیف کا محرک یہ امر ہوا کہ ان کے اہل شہر نے عبدالرحمن الناصر کے تحائف قبول کرنے کی بنا پر انہیں بدتِ ملامت بنایا تھا۔ عبدالرحمن الناصر انہیں قریبہ کے ایک قریبی شہر میں لے گئے، رہنے کے لئے مکان عنایت کیا، مقرب بارگاہ بنایا، خوردنی اشیاء عطا کیں اور نقد رقم دے کر نوازا۔ بیت المال میں بھی وہ حصہ دار رہتے۔ کیونکہ سلطانی اموال میں حرام کی جو آمیزش ہوتی ہے اس کی ذمہ داری سلطان پر عائد ہوتی ہے جیسا کہ قبل ازیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول بیان ہوا۔ ان کے قول پر جمہور علماء کا اجماع ہے۔ قول کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو کسی چیز کا حرام ہونا قطعی طور پر معلوم ہو اور وہ جانتا ہو کہ یہ چیز ناجائز طور پر مثلاً غصب، سرقہ یا ظلم و جور کی بنا پر حاصل کی گئی ہے ایسی چیز کی حرمت میں علماء کے مابین کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا اور ایسی چیز کا کھانے والا اور اس کا مالک علماء کی نگاہ میں ساقط العدالت ہے۔ تابعین کے علماء میں سے صرف مدینہ میں سعید بن مسیب اور بصرہ میں محمد بن سیرین سلطانی بدیہ جات سے کنارہ کش رہتے تھے۔ ان کا یہ نقطہ نظر زید و تقویٰ پر مبنی تھا۔ امام احمد بن حنبل اور اصحاب زید و تقویٰ بھی اسی راہ پر گامزن رہے۔ بلاشبہ زید سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں بگاڑا، اصحاب زید بہا حیات کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ مقام حیرت و استعجاب ہے کہ ہمارے اہل زمانہ دوسروں پر مشتبہات میں واقع ہونے کی بنا پر منتشر ہوتے ہیں اور خود محرمات سے بھی احتراز نہیں کرتے۔

میری نگاہ میں ان کی مثال ان لوگوں ایسی ہے جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ  
واقعة عجیبہ عنہ سے دریافت کیا تھا کہ محرم چھپرہ کو مار سکتا ہے؟ حضرت ابن عمر نے پوچھا آپ کون  
ہیں؟ وہ بولے ہم کوفہ کے رہنے والے ہیں آپ نے فرمایا تم چھپرہ کے مارنے کے بارے میں دریافت  
کر رہے ہو حالانکہ تم نے حضرت حین ابن علی رضی اللہ عنہ کو جام شہادت پلایا اور تمہارے کانوں پر جوں  
تک نہریں لگیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو  
چیز تمہیں بن مانگے مل جائے اسے کھا لو اور اپنے مال میں جمع کر لو۔ ابوسعید خدری اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ

عہمانے بھی اسی قسم کی روایت آنحضرتؐ سے بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ رزق تمہیں خدا نے دیا ہے۔ بعض روایات میں یہ الفاظ پائے جاتے ہیں کہ خدا کے رزق کو لوٹا ڈمت۔

ان سبھی مسائل پر جمہور علماء کا اجماع ہے اور حق مسلک بھی یہی ہے کہ جس شخص کو کسی چیز کی حرمت کا قطعی علم ہو وہ اس کے لئے ناروا ہے۔

ہم نے طوالت کے باوجود  
**سُلطانی تحائف سے محترز ہونے کے وجوہ و اسباب:** ابن عبدالبر کا یہ طویل اقتباس

نقل کیا کیوں کہ اس کے آئینہ میں ابن حزم کے عصر و عہد کی تصویر دیکھی جاسکتی ہے۔ یہ اقتباس اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ اس دور میں لوگ علماء کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے نیز یہ کہ سلطانی ہدایا کے جواز عدم جواز میں علماء مختلف اچینال تھے۔ ابن حزم کے محبت نخلص اور محرم راز ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ اس دور میں لوگوں کی حالت یہ ہے کہ خود محرمات تک سے اجتراز نہیں کرتے اور علماء پر مشتبہات بلکہ مباحات کے ارتکاب کی بنا پر معترض ہوتے ہیں۔ بدکار لوگوں کا دہیرہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دیگران کا نصیحت خود را نصیحت "کے مصداق اپنی بریت ثابت کرنے کے لئے نیک لوگوں میں کیرے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔

زمرہ علماء میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے، جو زہد و ورع میں اس حد تک اگے بڑھے ہوئے تھے کہ وہ مباحات یا کم از کم مشبہات کو حرام تصور کرتے تھے۔ وہ امام مدینہ مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک و منہج یعنی جواز ہدایا کے برعکس امام احادیث و آثار حضرت احمد بن حنبل کی راہ پر گامزن تھے جنہوں نے احساس کبر و نخوت کے بغیر اپنی ذات پر سلطانی ہدیہ جات کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ مگر ابن حزم کافر یقین میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ وہ زہد و تقویٰ یا صدایا کو حرام تصور کرنے کی بناء پر ان سے کنارہ کش نہ تھے بلکہ اپنی ثروت و دولت کے بل بوتے پر ان سے بے نیاز تھے۔ شاید ابن حزم کی یہی نشان بے نیازی ان کے تفوق و تعلق کا موجب بنی اور امرائد علماء ان سے بغض و عناد رکھنے لگے۔

حق بات یہ ہے کہ ابن حزم بڑے موقر و مہتمم تھے۔ ان کو خدا نے بڑا عنی الطبع پیدا کیا تھا اور وہ

چھوٹی چھوٹی باتوں سے محرز رہتے تھے۔ کثرت مال یا ضروریاتِ زندگی کے لئے کافی مال ہونے کی بنا پر وہ عزتِ نفس اور خودداری کے اسلحہ سے مسلح رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ فقر و فاقہ کی زندگی سے محفوظ رہے۔ خداوند کریم نے آپ کو ایسی جرأتِ ایمانی عطا کر رکھی تھی کہ آپ حق بات کہنے سے کبھی نہ ہچکچاتے اور کسی کی مخالفت کی کچھ پروا نہ کرتے۔ آپ حریتِ فکر و نظر سے بہرہ ور تھے اور کتاب و سنت میں آزادانہ طریقہ سے غور و فکر کرتے تھے۔ نہ پابندی و التزام کے ساتھ کسی شخص کے تمام اقوال کو صحیح سمجھتے نہ اپنے آپ کو کسی فقہی مسلک میں محصور و محدود کرتے۔

### ابن حزم غنی تھے مگر مسرت اور عیاش نہ تھے۔

ابن حزم زندگی بھر لوگوں سے بے نیاز رہے۔ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ آپ ثروت و دولت کے باوجود مغرور نہ تھے اور نہ ہی مسرفانہ عیاشی کے ولادہ تھے۔ آپ کی زندگی میں جہاں اباب عیش و مسرت پائے جاتے تھے وہاں قید و بند و ظلم و ستم کی اور لوگوں کے ظلم و تشدد کے کاٹے بھی موجود تھے۔ لہذا یہ کہنا کسی طرح درست نہیں کہ آپ ایک عیاش آدمی تھے۔ آپ مال کو دنیوی حواشی اور عانتِ اجنبی کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ گویا مال آپ کے نزدیک تحفظِ ناموس و آبرو کا وسیلہ تھا اور شہوتِ رانی کا سہارا نہ تھا۔ پھر انقلاباتِ روزگار اور مال و منال کا ضیاع جس سے آپ دوچار ہوئے آپ کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کے لئے کافی تھا کہ مال سایہ کی طرح اُنی جانی چیز ہے۔ اس کے مقابلہ میں آخرت بہتر اور زیادہ پائدار ہے۔ لہذا آپ اپنے مال کو ہول و لعب کا ذریعہ بنانے سے بچنے اور خداوندی اجر و ثواب کی تلاش میں مصروف کرتے تھے۔ اور اسی کے طفیل آپ نے سنہری منبروں کی قیمت وصول کر لی جن پر بیچ کر آپ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ پاک دامن اور شکر گزار غنی آدمی تھے اور خدا کی نعمتوں اور ناشکری کرنے والے مغرور شخص نہ تھے۔ دیکھئے وہ قرطبہ میں اپنے شاندار محلات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”قرطبہ سے بعض آنے والوں نے مجھے بتایا کہ اس نے قرطبہ کی غربی جانب بلاطِ مغیث میں ہمارے مکانات دیکھے۔ اب ان کا نام و نشان تک باقی نہیں مرور زمان سے فرسودہ ہو چکے ہیں اور اب ان کے مکانات بھی نظروں سے اوجھل ہیں جو محلات کسی وقت رشکِ جنان تھے اب سنان ویرانوں کی طرح بے آباد ہو چکے ہیں۔ ان کا حسن و جمال ایک کھنڈر کی صورت اختیار کر چکا ہے اور مامون و مہشون ہونے کے بعد اب دشوار گزار گھاٹیوں کی طرح مہیب اور خطرناک

بن چکے ہیں۔ اب وہاں جنگلی درندوں اور جن پرلیوں کا بھیرا ہے حالانکہ پہلے وہاں شیروں جیسے بہادر آدمی اور حیثانِ نازک جبین سکونت پذیر تھیں، جو ناز و نعمت کی زندگی بسر کرتی تھیں۔ اب ان کی گایا پلٹا ہو چکی ہے اور ان کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ محلات کی منقوش محرابیں اور خوبصورت کمرے جو آفتاب نصعت الہیہ کی طرح آبِ دار تھے اور جن کو دیکھنے سے فخر و غم کا توڑ ہو جاتا تھا۔ اب تباہی و بربادی سے دوچار ہونے کے بعد ان کے منہ درندوں کی طرح کھلے نظر آتے ہیں اور موتی کی زوال پذیر سیر کی منتظر پیش کر رہے ہیں۔ ان کے دیکھنے سے انسان بخوبی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ساکنانِ ارضی کا انجام کیا ہو گا اور یہ تمام کائنات کس قدر جلد فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ نیز ان کو دیکھ کر انسان دنیا کی حرص و ہوا کو خیر باد کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو جانا چاہتا ہے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ابنِ حزم پوری طرح کبھی فقر و فاقہ کی گرفت میں نہیں رہے۔ تاہم کسی حد تک وہ حرمانِ نصیبی کا شکار بھی رہ چکے تھے مگر اس حرمانِ نصیبی کے عالم میں آپ ممنوعات کی طلب و تلاش میں سرگرداں نہ رہے بلکہ دنیوی حرص و ہوا سے کنارہ کیا اور جو کچھ موجود تھا اسی پر صابر و شاکر ہو گئے۔ لہذا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ابنِ حزم ایسے فاضل اجل کو خداوند کریم نے فقر و غنا ایسی دونوں نعمتوں سے توازن تھا۔ دولت و ثروت کے بل بوتے پر انہوں نے راحت و سکون کی زندگی بسر کی اور کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کیا۔ ضیاعِ اموال اور حرمانِ نصیبی سے آپ نے صبر کی لذت پائی اور دنیا سے اعراض و انحراف کا مزہ چکھا۔

انغرض جب تک یہ عالم جلیل اور فاضل نبیل بقید حیات رہے، ظلم و جہل، حرص و ہوا اور لہو و لعیب کے خلاف برد آزما رہے، زندگی کے آخری دور میں ایک بستی میں ایسے جہاں آپ کو اپنے نفس پر قابو رہا اور لوگوں پر بھی غالب و فائق رہے۔ آخر کار ۲۸ ماہ شیخانہ ۵۲۶ھ میں اپنے خانہ حقیقی سے جا ملے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

# ابن حزم کا علم و فضل

ابن حزم ایک جامع عالم کی حیثیت سے ہے۔

ایسے عالم سے آشنا نہیں جو ان کی طرف مختلف و متنوع علوم و فنون کا ماہر اور جامع ہو وہ ایک عظیم الشاہد و آزادیب ہیں۔ وہ منطق و فلسفہ میں بھی ماہرانہ بصیرت رکھتے ہیں اور اپنی جرأت و بسالت کے بل بوتے پر منطق میں ارسطو تک کی غلطیاں نکالتے ہیں منطق میں ان کا طرز و سہاج ارسطو سے بالکل جداگانہ نوعیت کا ہے۔ وہ حقیقت و صداقت کی تلاش میں تاریخی حقائق کی غواصی کرتے اور اس کی جمع و تدوین بھی کرتے جاتے ہیں۔ وہ بڑے دقیق النظر مورخ ہیں اور تاریخ کے نازک ترین جزو یعنی علم الانساب پر بڑی علمانہ گفتگو کرتے ہیں۔ ان جملہ امور کی انجام دہی میں آپ کا اٹھب قلم اپنی جولانی کے جوہر دکھاتا ہے اور آپ ایک محقق عالم کی حیثیت سے ان سب میں کامیاب رہے ہیں۔

اس کے پہلو پہ پہلو ایک عظیم محدث بھی ہیں اور جملہ اصناف حدیث کے حافظ ہیں اگرچہ بعض لوگوں نے آپ کی روایت کردہ احادیث پر جرح و نقد کیا ہے مگر اس سے آپ کے حافظ حدیث اور ماہر اسماء الرجال ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابن حزم وہ عظیم فقیہ تھے جنہوں نے ظاہری فقہ کو جنم دیا یا بعبارت موزوں ترکتاب و سنت کے علوم کو حیات نو بخشی اور یہ ثابت کیا کہ تغیر زمانہ سے پیدا ہونے والے مسائل کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے، خواہ زمانہ کس قدر بدل جائے۔ فقہ ظاہری کی راہ پر گامزن ہونے کو تقلید سے تعبیر نہیں کر سکتے کیوں کہ یہ واحد فقہی مسلک ہے جس کی روشنی میں وہ کتاب و سنت کے احکام کو بڑی فصاحت کے ساتھ کسی قیاس اور عجیب و غریب عقلی تاویل سے مکدر کئے بغیر لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے تھے۔ کیوں کہ قیاس کا سہارا لئے بغیر عام کتاب و سنت کی طلب و تحقیق کے لئے فقہ ظاہری کی متعین کردہ راہ پر چلنا ابن حزم کے لئے ناگزیر تھا۔



ابن حزم عالم ادیان و ملل کی حیثیت سے :- مزید براں ابن حزم اسلام کے علاوہ

دیگر ادیان و ملل سے بھی پوری پوری واقفیت رکھتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اسلامی فرقے کونسے ہیں اور ان میں مستحق نجات کتنے ہیں۔ غیر مسلم مذاہب و ادیان کی تردید ابن حزم کا خاص موضوع ہے فرقوں کے باہمی فرق و امتیاز پر وہ بڑی عمیق نگاہ رکھتے تھے اور ان کے خلاف جدل و بحث میں حریتِ فکر و نظر کی راہ پر گامزن تھے اور اس ضمن میں کسی کے مقلد نہ تھے۔ کتاب و سنت کے مخالف قول کی ان کے نزدیک کوئی وقعت نہ تھی خواہ اس کا قائل کوئی ہو۔ کسی عالم کا قول اگر کتاب و سنت سے مستنبط نہ ہو اور نہ ہی اس کی اساس ظواہر کتاب و سنت پر رکھی گئی ہو تو آپ کے نزدیک وہ مردود ہے۔ ان کا قول ہے کہ عقائد میں وہ ظواہر کتاب و سنت کے متبع ہیں اور ان پیچیدہ و فلسفیانہ مناجیح کے پابند نہیں جو یونانی فلسفہ پر مبنی ہیں یا اس سے ماخوذ ہیں۔

آپ تردیدِ فلاسفہ کے میدان میں امام غزالی سے سبقت لے گئے اور ان کے دلائل کی دجھیاں فضا ئے آسمانی میں پھیر کر رکھ دیں۔ فلسفیوں کی تردید میں آپ انہی کا اندازِ بیان اختیار کرتے اور منطقی دلائل سے ان کی تردید کرتے ہیں۔

الغرض ابن حزم علوم اسلامیہ کے بحرِ عمیق کے شناور تھے اور ان میں ماہرانہ بصیرت رکھتے تھے جسے حق سمجھنے سے اخذ کرتے۔ باطل کی تردید میں ان کا لہجہ بڑی شدت اختیار کر جاتا تھا۔ آپ سبب کے اسباب بتاتے۔ نتائج کے مقدمات کی نشان دہی کرتے اور اقوال کے غایات و مقاصد زیرِ بحث لاتے اور یہ سب کچھ ایسی شاندار اور واضح عبارت میں بیان کرتے جو آفتابِ نصرت النہار کی طرح تابندہ و درخشندہ ہوتی۔

ابن حزم کی توصیف میں معاصرین کے بیانات :- آپ کے معاصرین میں سے موافق و مخالف سبھی آپ کی فضیلتِ علمی کے

معترف تھے۔ ابن جیان ان کا شدید مخالف ہونے کے باوجود کہتا ہے۔

”جب سائل کوئی بات پوچھ کر چھپر دیتا تو گویا علم کا ایک ایسا سمندر  
امنڈ آتا جس کو ڈولوں کی آمد و رفت گدلا نہ کر سکتی ہے۔“

ابن حیان کی رائے :- ابن حیان مزید کہتا ہے :-

”شیخ ابو محمد ابن حزم نے ملعون یہود اور دیگر غیر اسلامی مذاہب والوں کے ساتھ بہت سے مناظرے کئے جن کا حال کتابوں میں مذکور ہے۔ ادیان و ملوک کے ذکر و بیان میں ابن حزم نے متعدد کتب تحریر کیں جو عام طور سے مشہور و معروف ہیں۔ جملہ خلاقیات میں آپ کی یہ تصانیف بہت مشہور ہیں :-  
 (۱) کتاب الفضل فی الملک والنخل (۲) کتاب الصادع والرادع (۳) کتاب الرد علی من قال بالتقلید۔“

ابن حیان ابن حزم کی تمام تصانیف کا ذکر کرتے ہیں :-

قاضی صاعد اور امام ذہبی کی رائے :- نفع الطیب میں لکھتے ہیں :-

”قاضی صاعد اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ابن حزم تمام اندلسی علماء کی نسبت زیادہ جامع العلوم اور وسیع المعرفت تھے آپ لسانیات، بلاغت، شعر اور سیر و اخبار میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ان کے بیٹے فضل نے مجھے بتایا کہ ان کے والد (ابن حزم) نے اپنے ہاتھ سے تقریباً چار صد کتب تحریر کی تھیں۔ امام ذہبی کا قول ہے کہ ابن حزم پر ذکاوت و فطانت، علوم کتاب و سنت، علوم ادیان و ملوک، عربیت و آداب، منطق و شعر، صدق و دیانت، دولت و ثروت، کثرت کتب اور جاہ و عظمت کا خاتمہ ہو گیا۔“

امام غزالی کی رائے :- امام غزالی فرماتے ہیں :-

”میں نے خدا کے ناموں کے بلے میں ابن حزم کی ایک کتاب دیکھی جو ان کی کثرت حفظ اور وسعت ذہن پر دلالت کرتی ہے۔“

عبدالواحد مراکشی کی رائے :- عبدالواحد مراکشی اپنی کتاب المعجب میں لکھتے ہیں :-

”ابن حزم نے فقہ کے اصول و فروع میں بڑی قابل قدر کتابیں تصنیف کیں، ان تصانیف میں آپ نے داؤد بن علی ظاہری اور دیگر ظاہری فقہاء کے فقہی مسلک کو پیش نظر رکھا۔ مجھے اکثر اندلسی علماء نے بتایا کہ آپ نے حدیث و فقہ، اصول ملوک و ادیان

تاریخ علم الانساب ادب اور مخالفین کی تردید میں تقریباً چار صد کتب تصنیف  
کیں جو اسی ہزار اوراق پر مشتمل ہیں۔ کثرت تصانیف میں ابو جعفر محمد بن جریر طبری کے  
سوا متقدمین میں کوئی شخص آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔<sup>۱۱</sup>

تمام روایات و اخبار اس بات پر متفق ہیں کہ ابن حزم  
ابن حزم کی وسعت علمی۔ بڑے عظیم المرتبت عالم دین تھے۔ آپ کثرت تصانیف

کے اعتبار سے ممتاز تھے اور جملہ علوم اسلامیہ میں یکساں طور پر یدِ طولی رکھتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا  
ہے کہ آپ کثرت تصانیف میں ابن جریر طبری کے ہم پلہ تھے۔ البتہ تصنیف و تالیف کی نوعیت  
جداگانہ ہے۔ طبری کی تصانیف کا موضوع زیادہ تر تاریخ و اخبار اور روایت و تفسیر ہے۔ آپ  
حدیث و فقہ سے بھی بہرہ ور تھے اور اختلاف الفقہاء نامی ایک کتاب ان کی تصنیف ہے۔  
مگر فقہ و اصول میں انہیں ابن حزم کا مقام حاصل نہ ہو سکا۔ مزید براں انہیں ملل و ادیان اور  
خلائیات میں بھی ابن حزم ایسی مہارت حاصل نہ تھی۔ الغرض ہر ایک کا اپنا ایک خاص مقام  
ہے۔ ہمارا مقصد اس سے ابن جریر طبری کی تنقیص شان نہیں اور نہ ہم ان کی اسلامی خدمات  
اسلامی تاریخ کی جمع و تدوین اور تفسیر قرآن میں ان کی روایات کا مرتبہ گھٹانا چاہتے ہیں۔

یہ حقیقت محتاج بیان نہیں کہ ابن حزم نے علوم و آداب  
فن خطابت اور ابن حزم۔ اور نقد و نظر کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی تھی یہاں تک  
کہ یونانی علوم بھی آپ کی تنقید سے محفوظ نہ رہ سکے۔ المعجب کے مصنف کا بیان ہے کہ ابن  
حزم صفت خطابت سے بھی آگاہ تھے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”ابن حزم نحو و لغت اور شعر و خطابت سے پوری طرح بہرہ ور تھے۔“<sup>۱۲</sup>

مندرجہ بالا عبارات سے واضح ہوتا ہے کہ ابن حزم نظری خطابت کا مطالعہ کرتے اور اس  
کے قواعد میں عملی تطبیق دیتے تھے۔ ارسطو نے اپنی کتاب ”الخطابۃ“ میں علم خطابت کے اصول  
وضوح کئے تھے۔ عربی لوگ شیخ بوعلی سینا کی کتاب الشفاء کو پڑھ کر اس سے آشنا ہوئے۔ شیخ  
مذکور نے کتاب الشفاء کے اس حصہ میں جو علم منطق سے متعلق ہے ارسطو کی کتاب الخطابۃ کا  
خلاصہ پیش کیا ہے۔ ابن خدام کی ”نقد النثر“ قبل ازیں مشہور چلی آتی تھی۔ المعجب کے مصنف

کے بیان کے مطابق جب ابن حزم فنِ خطابت کا مطالعہ کر چکے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یونانی فلسفہ سے آگاہ ہو کر اس کے فائدہ مند اجزاء سے مستفید ہونے کا موقع ملا تھا۔

بالآخر گزارش ہے کہ ابن حزم کی جامعیت و وسعتِ اوزان کی عناصر اربعہ کا ذکر و بیان کثرتِ تصانیف پر علماء کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اب ہم ابن حزم کی سیرت و سوانح کے اس موڑ پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہمارے لئے یہ بیان کرنا از بس ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان اسباب و محرکات کی نشان دہی کریں جو اس عالمِ جلیل کے بننے اور سونے میں مدد و معاون ہوئے۔

ہمارے خیال میں کسی عالم کے علم کی تکمیل کے لئے چار عناصر بے حد ناگزیر ہیں۔  
(۱) فطری صلاحیت و قابلیت۔

(۲) شیوخ و اساتذہ جن سے تربیت پائی۔

(۳) عملی زندگی۔

(۴) علمی ماحول جو اس پر اثر انداز ہوا۔

اب ہم علیحدہ علیحدہ ان کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہیں۔

## ابن حزم کے اوصافِ خصوصی

طلبِ علم کے لئے خدا داد صلاحیتوں کی اہمیت و ضرورت۔  
کسی عالم دین کی فطری صلاحیت

قابلیت ہی علم کا اولین ستون ہے اور یہی وہ کنجی ہے جس سے اس پر علم و معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب تک کوئی شخص ان خدا داد صلاحیتوں سے بہرہ ورنہ ہو جو علم و فضل اور حقائق و معارف کی طلب و تحصیل میں مطلوب ہیں تو اسے علوم و فنون کی راہ پر گامزن ہونے کے بجائے فکر و نظر کے ان دروازوں پر دستک دینا چاہیے جو اسے صنعت و حرفت اور دیگر جسمانی اعمال کی طرف لے جانے کا موجب ہوں۔ علمی اور عملی دونوں قسم کے کام علیحدہ علیحدہ اپنا مقام رکھتے ہیں اور جدا گانہ نمرات و نتائج کے حامل ہیں اور لوگوں کو دونوں قسم کے کام کرنے والوں کی یکساں طور پر ضرورت ہے۔ اگر حقائق کے سمندر میں غواہی کرنے والے علماء نہ ہوں تو انسانیت جہالت و بیدادیت پر جامد ہو کر رہ جائے۔ نئی نوع انسان نہ اقتصادیات کے میدان میں ترقی کر سکیں نہ طرزِ حیات میں کوئی تبدیلی پیدا ہو۔ اور اگر عملی زندگی میں کام کرنے والے لوگ نہ ہوں تو آبادی میں اضافہ کا کوئی امکان نہ ہو بلکہ کسی انسان کے لئے ضروریاتِ زندگی کا ہیا ہونا دشوار ہو جائے اور وہ ایسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائے جیسے جنگلی جانور سنان و پیرانوں میں رہتے ہیں۔

ابن حزم کی بے مثال قوتِ حافظہ۔  
ابن حزم کو خداوند کریم نے ان تمام صلاحیتوں سے نوازا تھا جو نورِ معرفت کے حصول اور علمی روشنی

سے مستین و مستفیض ہونے کے لئے درکار تھیں۔ یہ تمام اوصاف و فضائل ابن حزم کو ایک ایسا یگانہ روزگار عالم بنانے میں کامیاب ہوئے جس کا علم اکنافِ ارضی میں پھیلا اور ہر دور میں ان کی کتابوں کو قبولِ عام حاصل ہوا۔ اسلامی افکار میں آپ ایک جداگانہ انداز کے موجد ہوئے جو انہی کا حصہ ہے اور دوسرا کوئی شخص اس میں ان کا شریک و شہیم نہیں۔

آپ کی اولین خصوصیت آپ کی زبردست قوتِ حافظہ ہے جس کی بناء پر آپ تمام علوم

و فنون پر حاوی ہو گئے کسی عالم میں قوتِ حافظہ ہی وہ عظیم خصوصیت ہوتی ہے۔ جس کی بناء پر وہ جو چیز پڑھتا ہے اس پر قابو پالیتا ہے۔ اسی کے سبب قریب و بعید اور اول و آخر معلومات اور ان کے اجزاء میں باہم ربط و تعلق پیدا ہوتا ہے بشرطیکہ وہ آپس میں موافق و مطابق ہوں اور اگر وہ باہم بے ربط اور بے جوڑ ہوں تو ان کی بے آہنگی اور مطابقت کا اندازہ ہوتا ہے ابن حزم کو خدا نے غیر معمولی قوتِ حافظہ عطا کی تھی۔ اس کے طفیل آپ نے احادیثِ نبویہ کو یاد کیا ان کے مصادر و مآخذ کو ترتیب دیا اور علمِ حدیث میں بڑے بڑے حفاظ کا درجہ پایا۔ آپ کو صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار کا بیشتر حصہ یاد تھا جس کی بنا پر آپ فقہ صحابہ و تابعین کے یگانہ روزگار عالم تھے۔ ان کی فقہ سے احکام کا استخراج کرتے اور اس پر احکام و مسائل کو یعنی قرار دے کر فقہ ظاہری کو وسعت دیتے تھے۔ آپ علماء سلف کی سیرت و سوانح کے بھی حافظ تھے، اور اپنے

حفظ کردہ علوم کے اجزاء کو ان کی سیرت کی روشنی میں ترتیب دیتے اور ان میں ربط و تعلق پیدا کرتے تھے یہ آپ کی عظیم خصوصیت تھی جو آپ کے معاصرین میں سے کسی کو حاصل نہ ہو سکی۔ آپ کے ہم عصر علماء اور مؤرخین آپ کی قوتِ حافظہ اور وسعتِ علمی پر انگشت بنداں تھے۔

اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑے بدیہہ گو اور حاضر جواب حاضر جوابی اور بدیہہ گوئی پر بھی تھے۔ بوقتِ ضرورت آپ کے ذہن میں علوم و معانی کا ایک عظیم سمندر منڈا آتا تھا جو جدل و مناظرہ میں آپ کا ساتھ دیتا اور کامیابی سے ہمکنار کرتا تھا۔ آپ کے مخالفین اپنی امداد کے لئے میدانِ مناظرہ میں امراء و حکام کو بھی کھینچ لاتے تھے۔ مگر ابن حزم انہیں بُری طرح پچھاڑتے اور وہ ان کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکتے تھے۔

محدث ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں :-

"کسی نے ابن حزم کے پاس بعض علماء کا ذکر کیا جو موطا امام مالک کو افضل ترین کتاب تصور کرتے ہیں تو ابن حزم نے کہا سب سے زیادہ تعظیم کی مستحق صحیحین سے پھر صحیح سعید بن السکن، منتقی ابن الجارود، منتقی قاسم ابن اصبح، مصنف طحاوی، مندبزاز، مندابن ابی شیبہ، منداحمد بن حنبل، مندابن راہویہ، مندطیالسی، مندحسن بن سفیان، مند عبداللہ بن محمد، مند یعقوب بن شیبہ، مند علی بن ندینی، مند ابن ابی غرزہ اپنی اپنی جگہ تعظیم کی مستحق ہیں۔ پھر وہ کتب جن میں دیگر علماء کے اقوال مذکور ہیں مثلاً مصنف عبدالرزاق، مصنف ابی یوسف بن شیبہ

مصنف بقی بن مخلد، کتاب محمد بن نصر مروزی، کتاب ابی بکر المنذر الاکبر والاصغر  
پھر مصنف عمار بن سلمہ و مصنف سعید بن منصور، مصنف وکیع، مصنف الغریابی  
موطأ مالک بن انس موطأ ابن ابی ذئب، موطأ ابن وہب، مسائل احمد بن حنبل  
فقہ ابو عبید اور فقہ ابو ثور وغیرہا۔

حدیث ذہبی کے اس بیان سے صرف آپ کی قوتِ حافظہ ہی معلوم نہیں ہوتی بلکہ دو امور  
پر روشنی پڑتی ہے۔

**اول :-** پہلا یہ کہ اس سے ان کی وسعتِ علمی کا پتہ چلتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ  
پڑھتے تھے اس میں باہم تقابل و موازنہ بھی کرتے تھے۔

**دوم :-** دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ان کی حاضر جوابی بوقتِ ضرورت استحضارِ معلومات اور عت  
جواب کا اندازہ ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں یہ واقعہ اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ ابن حزم کسی کتاب کی فضیلت ثابت  
کرنے میں کثرتِ مندرجات و محتویات کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ جو لوگ موطأ امام مالک کی کتب حدیث  
میں اول درجہ کی کتاب سمجھتے ہیں وہ اس کی قوتِ سند اور امام مالک کے تقدمِ زمانی کا لحاظ کرتے  
ہیں اور کثرتِ مندرجات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ابن حزم موطأ کی جزوی فضیلت  
سے قطع نظر کسی کتاب کی افادیت کی مقدار کو دیکھتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ انہوں نے جن  
کتب حدیث کا ذکر کیا ہے کثرتِ محتویات کے اعتبار سے موطأ ان کے ہم پلہ نہیں۔

**ابن حزم کی دقتِ فکر و نظر :-** ابن حزم قوتِ حافظہ اور حاضر جوابی کے علاوہ جو وقت  
ضرورت آپ کے کام آتی غور و فکر عمیق فکر و نظر اور قوت  
تامل میں بھی ممتاز تھے۔ آپ ظاہری امور پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی تہ تک پہنچنے کی کوشش  
کرتے اور مسیبات کے ساتھ ان کے اسباب کو بھی زیرِ بحث لاتے تھے۔ آپ استقراء مسائل  
کے ساتھ ساتھ ان کے اسرار و رموز کو بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتے اور واقعات کو دیکھ کر ان  
کے اسباب و محرکات کی بھی نشان دہی کرتے تھے۔ یہ جملہ امور آپ کے ان مضامین میں عیاں ہیں جو  
آپ نے نفسیات، فلسفہ اور علم الکلام میں تحریر کئے ہیں۔ مثلاً اسلامی فرقوں کا تذکرہ کرتے وقت وہ ان  
کے افکار و آراء اور براہین و دلائل پر ہی روشنی نہیں ڈالتے بلکہ وہ نفسیاتی اور اجتماعی اسباب و محرکات  
بھی بیان کرتے ہیں جو اس تفرق و تخریب کے موجب بنے وہ تفصیلاً ان وجوہات کا ذکر کرتے

ہیں جن کی بناء پر مختلف اسلامی فرقے اپنے مخصوص نظریات اختیار کرتے پر مجبور ہوئے۔  
ابن حزم لکھتے ہیں کہ اہل فارس جب مشرف باسلام ہوئے تو ان میں ایسے لوگ بھی تھے  
جو اپنے غیر اسلامی افکار کو مسلمانوں میں پھیلا کر حکومت و سلطنت سے محرومی کا انتقام لینا چاہتے  
تھے۔ پھر ابن حزم تفصیلاً اس کے وجوہ و اسباب بیان کرتے ہیں جیسا کہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔

ابن حزم کی کتاب طوق الحمامہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ظاہر امور کے نفسیاتی  
اسباب سے بحث کرتے ہیں اس سے ان کا مقصد ان انسانی جذبات و احساسات کی نشاندہی  
کرتا ہے جو انسان میں حسن و جمال کی محبت کے جذبہ کو اجاگر کرتے ہیں۔ آپ نے اخلاق و ذیلہ  
کے نفسیاتی علاج کے بارے میں ایک رسالہ "عداۃ النفس" نامی لکھا ہے اس میں آپ کے  
بیانات اور بھی زیادہ واضح اور روشن ہیں۔ وہ فضائل کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے  
بڑی دقیق باتیں بیان کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں :-

"یہ عجیب بات ہے کہ فضائل اخلاق پسندیدہ ہونے کے باوجود انسانی  
طبائع پر گہراں گذرتے ہیں اور زائل بیچ ہونے کے باوجود پسند کئے جلتے ہیں۔"  
ابن حزم مغرور لوگوں کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ میں نے ایک متکبر شخص سے  
پوچھا کہ آپ کے کبر و غرور اور لوگوں کو بنظر حقارت دیکھنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ جواباً اس سے  
زیادہ کچھ نہ کہہ سکا کہ میں آزاد ہوں اور کسی کا غلام نہیں۔ میں نے کہا دوسرے آدمی بھی تمہاری  
طرح آزاد ہیں۔ اس کے جواب میں وہ خاموش رہا۔ اس کے بعد میں مغرور لوگوں کے حالات کی  
جستجو کرتا رہا۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لئے برسوں غور و فکر کیا کہ ان کے کبر و عجب کا محرک کیا ہے۔ میں  
نے ان کے باطنی اسرار و رموز اور ظاہری حالات کو جانچا اور آخر اس نتیجہ پر پہنچا کہ متکبر لوگوں کا خیال  
یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر معمولی عقل و شعور سے بہرہ ور ہیں اور اگر انہیں ذہنی صلاحیتوں کو کام میں لانے  
کا موقع ملے تو ان کے ذاتی جوہر کھل سکتے ہیں۔ ان میں سلطنت و حکومت چلانے کی صلاحیت بھی  
موجود ہے اور اگر انہیں اس کا موقع ملے تو لوگ خود محسوس کر سکیں گے کہ وہ کس غیر معمولی عقل و ذہن  
کے مالک ہیں۔ اور اگر وہ مالدار ہوتے تو اسے باحسن وجوہ استعمال کر سکتے تھے۔ ان مصروفیات کی



بنا پر وہ لوگوں پر فخر و کبر کا اظہار کرتے ہیں۔

اسی طرح ابن حزم صرف ظواہر کے دائرہ ہی میں محدود نہیں رہتے تھے بلکہ ان کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ آپ کی تمام تحریروں میں یہ خصوصیت نمایاں ہے۔ خواہ وہ اخلاق و تاریخ کے بارے میں ہوں یا فقہی مسائل سے متعلق ہوں۔ آپ بڑے دقیق النظر اور نکتہ رس تھے اور حقائق کے سمندر میں غواصی کرتے تھے۔

اگرچہ ابن حزم نظری و فکری صلاحیتوں سے بہرہ ور تھے مگر ان پر نازاں نہ تھے عجز و انکسار۔ بلکہ اس بات پر ان کا قوی ایمان تھا کہ یہ خدا کی ودیعت کردہ ہیں اور اس پر انہیں شکر خداوندی بجالانا چاہئے۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ عدم ادائیگی شکر اور ان پر عذرا و نازاں ہونے کی صورت میں وہ کفرانِ نعمت کے مرتکب ہوں گے۔ جو لوگ اپنی دماغی صلاحیتوں پر اتر آتے تھے وہ انہیں شدید ملامت کرتے تھے۔

ابن حزم لکھتے ہیں:

اگر تم اپنے علم و فضل پر نازاں ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خدا کی داد ہے اور تمہاری ذاتی قابلیت کو اس میں کوئی دخل نہیں، خدا کو ناراض مت کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آزمائشِ خداوندی میں مبتلا ہو جاؤ، تمہارا سب علم ہاتھ سے جاتا ہے اور تم اسے مطلقاً بھول جاؤ۔ مجھے عبد الملک بن طریف نے بتایا جو بڑے ذہین و فطین اور معتدل مزاج عالم دین تھے کہ ان کا حافظہ پہلے بڑا قوی تھا جو بات سنتے یاد ہو جاتی اور اس کے اعادہ کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ وہ سمندری جہاز میں سوار ہوئے اور بڑے خطرناک واقعہ سے دوچار ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی قوت حافظہ جاتی رہی اور وہ ذکاوت و فطانت بعد میں انہیں کبھی حاصل نہ ہوئی۔ ذاتی طور پر مجھے ابن حزم کو بھی ایسی بیماری سے سابقہ پڑا تھا جس سے میں نے شفا پائی۔ اس مرض کے دوران میری قوت حافظہ جاتی رہی تھی۔ چند سالوں کے بعد مجھ میں وہ قوت حافظہ پھر عود کر آئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ بہت سے اہل علم انتہائی جِد و جہد اور طلب علم میں ذوق و شوق کے باوجود کوئی علمی مقام پیدا

کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ لہذا صاحب علم کو بخوبی یہ بات ذہن نشین کر لیتا چاہئے کہ اگر علم کا انحصار سعی و جہد پر ہوتا تو دوسرے لوگ اس پر فائق ہوتے پس صحیح بات یہی ہے کہ علم خدا کا ودیعت کردہ ہے۔ اور اس پر کبر و عجب کا اظہار درست نہیں، بلکہ یہ مقام اس امر کا مقتضی ہے کہ سجدہ شکر بجالایا جائے، عجز و انکسار کا اظہار کیا جائے۔ اس کے مزید انعامات کی دعا کی جائے اور علم کے نیان و ضیاع سے خدا کی پناہ مانگی جائے یہ۔

یہ ہیں وہ فکری خصوصیات و کمالات جن سے ابن حزم بہرہ ور سأطلب علم میں جہد و جہد تھے۔ مزید براں ان میں کچھ دیگر اوصاف بھی پائے جاتے تھے جن کا عباد میں پایا جانا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ بڑے صابر، قوی الارادہ اور مستقل مزاج تھے۔ آپ نے تحصیل علم میں بڑے ذوق و شوق کا مظاہرہ کیا اور اس کے لئے بڑی محنت و کاوش اٹھائی۔ آپ ہمہ تن تحصیل علم میں مشغول رہتے تھے اور دوسرے کاموں کے لئے وقت نہیں نکال سکتے تھے۔ اس شغل و انہماک کا باعث یہ امر تھا کہ آپ کے نزدیک ترقی کا واحد ذریعہ علم کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ علم انسان کے لئے ذریعہ نجات بھی ہے۔ جو شخص خدا کے لئے علم حاصل کرتا ہے وہ اپنے مقصد کو پالیتلی ہے۔ اور یہ مقصد سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس کے پہلو بہ پہلو اسے لوگوں میں بھی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس طرح اسے دینی و دنیوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

ابن حزم نے وزارت کے ماحول میں تربیت پائی۔ ۳۹۹ھ میں جب آپ پندرہ سال کے ہوئے تو فسادات نے آپ کو نفل مکانی پر مجبور کر دیا اور آپ اپنے گھر سے نکل کر دوسرے مکانات میں جا بسے۔ جب آپ کے والد نے وفات پائی تو آپ قرطبہ سے مریہ جانے پر مجبور ہوئے پھر اپنی خوشی یا ناخوشی سے مختلف دیار و اصار میں سیر و سیاحت کرتے رہے۔ ان حالات و واقعات کی بنا پر آپ بچپن ہی میں مہانپ گئے تھے کہ سیاست کا راستہ بڑا کٹھن ہے اور اس کے فوائد و منافع کے مقابلہ میں اس کے مضرت کہیں زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ آغاز طفولیت ہی سے طلب علم میں منہمک ہو گئے تھے اور قید و بند اور جلا وطنی کی صعوبتیں آپ کی راہ میں حائل نہ ہو سکیں۔ آپ کی نگاہ میں طلب علم کا مقصد صرف ایک ہی تھا۔ اور وہ ہے

رضائے خداوندی، دگر بچ یہی وجہ ہے کہ آپ نے طلب علم کے لئے بڑی جدوجہد سے کام لیا۔ تحصیل علم کی راہ میں امراء کی اذیت گوارا کی، جلاوطنی کی تکلیفیں برداشت کیں اور در بدر کی خاک چھانی۔ جب اعداء دین نے آپ کی کتابیں نذر آتش کر دیں تو آپ نے اس ضمن میں سعی و جہد کی رفتار تیز کر دی اور جو علوم سینہ میں محفوظ تھے انہیں پھر سے صفحہ قرطاس پر پھیرنا شروع کر دیا یہ صرف اس لئے تھا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو طلب علم اور حق بیانی کے ذریعہ تقرب ربانی کے لئے وقت کر دینا چاہتے تھے۔

ابن حزم کا قول ہے :-

لذّة العالم بعلمه و لذّة الحكيم  
بحكمته و لذّة المجتهد لله  
عز و حبلًا بجتهاده اعظم من  
لذّة الاكل باكله و الشارب  
بشربه و الكاسب بكسبه و اللاعب  
بلعبه و الآمن بامره

عالم کو اپنے علم فلسفی کو اپنے فلسفہ اور خدا کے لئے کوشش کرنے والے کو اپنی کوشش سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اس لذت سے کہیں زیادہ ہے جو کھانے والا اپنے کھانے پینے والا اپنے مشروب اور تفریح کرنے والا اپنے لہو و لعب اور حکم دینے والا اپنے حکم سے حاصل کرتا ہے۔

ابن حزم ان تمام لذتوں سے بہرہ ور ہو چکے تھے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ طلب علم کا مقصد اظہار فخر و غرور نہیں بلکہ خدا کے دین کے لئے کوشاں رہنا اور فانی دنیا کے بجائے ہمیشہ رہنے والی آخرت کی طلب و تلاش ہے۔ انسانیت عالیہ کے لئے یہ سب سے بلند تر مقصد ہے۔

ابن حزم لکھتے ہیں :-

”اس عالم ارضی کے آغاز ظہور سے لے کر اس کے اختتام تک ہر انسان اس بات کا خواہشمند ہے کہ وہ اپنے سے ہجوم و غموم کو دور کر دے۔ جب سے یہ قیمتی راز مجھ پر وا ہوا اور اس عظیم خزانہ تک مجھے رسائی حاصل ہوئی میں ایسے وسائل و ذرائع کی تلاش میں سرگرداں رہا جن سے ازالہ ہجوم و غموم ہو۔ آخر کار میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ غم و فکر کے ازالہ کا راز صرف خدا کی طرف متوجہ ہو کر نیک اعمال بجالانے میں مضمر ہے۔“

لہ علاوة النفوس ص ۹۰

ابن حزم جب اس حقیقت سے آگاہ ہوئے تو وہ کامل توجہ سے طلب علم میں لگ گئے۔  
تھیں اور اس کی نشرو اشاعت کی راہ میں جن مصائب و آلام سے انہیں دوچار ہونا پڑا ان پر  
صبر کیا اور خدا سے اجر و ثواب کے طالب ہوئے۔

ابن حزم نے ازالہ ہوم و غوم کے لئے توجہ الی اللہ کے دامن میں  
طلب علم میں اخلاص :- پناہ لی تھی۔ ان کی نگاہ میں غم و فکر سے نجات حاصل کرتے کے

لئے اس سے زیادہ موثر اور کوئی طریقہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اخلاصِ کامل سے  
بہرہ ور تھے اور سیدھی طرح سے حقیقت کی طلب و تحقیق میں لگ گئے تھے جس میں کوئی کچی  
اور پچیدگی نہیں۔ اس کے علاوہ نہ آپ کا کوئی مقصد تھا نہ غایت۔ "الحکمۃ الشرعیہ" میں مذکور ہے  
کہ جو شخص صدق نیت سے طلبِ حق کی کوشش کرتا ہے وہ نور بصیرت پاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ  
اس کے دل میں نور ہدایت ڈال دیتے ہیں۔ یہی نور اسے حقائق و معارف تک پہنچا دیتا ہے اور  
اس کے توائلے فکری و نظری کو عبور کر دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے افکار اور اقوال و اعمال  
اسی سانچہ میں ڈھل جاتے ہیں۔ وہ کام کرتا ہے تو ٹھیک، وہ سوچتا ہے تو صرف نیکی کے کام۔ اس  
طرح وہ عالم صادق النظر اور مخلص ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ صدق طلب سے بہرہ ور تھا۔

طلب حقیقت میں اخلاص کے علاوہ ابن حزم جانتے تھے کہ وہ علم دین کی تحصیل کے دپے  
ہیں اور جو شخص علوم دینیہ حاصل کرتا ہے اخلاص اس کے لئے بے حد ناگزیر ہے۔ ابن حزم  
کی بھی یہی حالت تھی۔ آپ کی مساعی جمیلہ طلب حقیقت کے لئے وقت بھین اور آپ علم دین کی  
تحصیل میں کوشاں تھے ان کے اخلاص اور حسن نیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے رضاء خداوندی  
مکے سوا کسی کی رضاء مندی کا خیال رکھے بغیر لوگوں کو اپنے انوکار و معتقدات کی دعوت دینا شروع  
کی۔ اس راہ میں نہ امراء کی اذیت حائل ہو سکی، نہ علماء کے طعن و تشنیع سے مرعوب ہوئے بلکہ مخلصوں  
دل لسان حق ترجمان اور قلم حقیقت رقم کے ساتھ فریقین علماء و امراء کے مقابلہ میں ڈٹے رہے  
لوگوں سے مخلصانہ روابط قائم رکھے، نہ کسی سے دھوکا کیا نہ منافقت کی۔ جس سے مقابلہ کیا  
صرف حمایت حق کی خاطر کیا۔

شرط اخلاص کی بنا پر آپ عجب و کبر سے دور رہے اور  
احتساب نفس اور ابن حزم :- کثرت علم کی خود فریبی میں مبتلا نہ ہوئے۔ آپ کبر و غرور  
کو اخلاص و حسن نیت رائے و تدبیر اور اخلاق جمیلہ کا دشمن تصور کرتے تھے۔ آپ ہر شخص کو یہ مشورہ

دیتے کہ صحت و صواب کا اندازہ کرنے سے پہلے اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا چاہئے کیوں کہ اس سے انسان میں عجز و انکسار کا داعیہ ابھرتا ہے اور انکسار و فروتنی اخلاص کا موجب بنتی ہے۔  
ابن حزم لکھتے ہیں :-

”اگر تمہیں اپنی صحت رائے و تدبیر پر پناہ ہو تو اپنی غلطیوں کا جائزہ لیجئے اور ہر ایسی رائے پر غور کیجئے جسے تم صحیح سمجھتے رہے مگر وہ غلط ثابت ہوئی۔ تمہاری بات نادرست اور غیر کا کہنا صحیح ثابت ہوا۔ ایسا کرنے سے تمہیں کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ تم اپنے صحیح افکار و آراء کا غلط خیالات سے موازنہ کر سکو گے اور اس طرح تمہیں پتا چلے گا کہ یہ دونوں باہم مساوی ہیں بلکہ اغلب یہ ہے کہ تمہاری غلطیاں صحیح افکار کے مقابلہ میں کچھ زیادہ ہی ہوں گی۔ انبیاء علیہم السلام کے سرا ہر شخص کی یہی حالت ہے کوئی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔“

ابن حزم کی نگاہ میں صدق و اخلاص ان حکماء کا شعار ہے جو حقائق الاشیاء کی تلاش میں مگن رہتے ہیں اور فضیلت کی راہ پر گامزن ہیں۔  
چنانچہ فرماتے ہیں :-

”اس بات کے حریف رہنے کہ تمہیں سلامت روی کی صفت سے متصف کیا جائے اور ہوشیار آدمی کہہ کر نہ پکارا جائے۔ کیوں کہ چالاک آدمی سے لوگ کنارہ کش رہتے ہیں جس سے بعض اوقات نقصان پہنچتا ہے بلکہ لوگ اسے قتل کر دیتے ہیں۔“

الغرض یہ باخلاص اور تجربہ کار عالم دین (ابن حزم) طلب حق کی راہ میں مصروف جہد و سعی رہے۔ یہ خلوص ان کا خدا کے دین سے بھی تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی مخلصانہ روابط تھے نہ کبھی نفاق سے کام لیا۔ نہ کسی سے دھوکا فریب کیا۔ اخلاص کو ٹھوس الی الٰہی تصور کرتے رہے ان کے خیال میں اخلاص سے لوگوں کے دلوں میں انسان کا اعتماد بڑھتا اور امن و سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ خدا بھی مخلص لوگوں کا حامی و مؤید ہے۔

اخلاص نورِ حکمت اور طریقِ ہدایت ہے، جس کا دل نورِ اخلاص سے منور نہیں، وہ

ہدایت یاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کی شان میں فرمایا ہے کہ وہ مخلص لوگوں میں سے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا تھا کہ مخلص کون ہے۔

آپ نے فرمایا:-

”الْمَخْلُصُ مَنْ إِذَا عَمَلَ خَيْرًا لَا يَهْمُهُ أَنْ يَحْمَدَهُ النَّاسُ“  
مخلص وہ ہے کہ جب وہ کوئی نیک کام کرے تو اسے یہ فکر و امتیگر نہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔

ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی صفت سے موصوف تھے، وہ اجتہاد کرتے نیک اعمال بجا لاتے، درس و تدریس اور بحث و مناظرہ میں حصہ لیتے، کتابیں تصنیف کرتے مگر انہیں اس بات کی مطلقاً پروا نہ ہوتی کہ لوگ ان کی مدح کرتے ہیں یا مذمت۔

ابن حزم کا یہ مشہور وصف تھا کہ آپ علانیہ حق کی بات آپ کی شدت و حدت کا راز تھے اور اس میں انہیں لوگوں کے راضی یا ناراض ہونے اور ان کی مدح یا مذمت کی کچھ پروا نہ تھی۔ مبنی براخلاص تھا۔ جب حق و صداقت کا تقاضا یہ ہوتا کہ آپ پر ملا اپنا نظریہ بیان کر دیں تو آپ کسی لیت و عمل کے بغیر و اشکات الفاظ میں اپنا مقصد بیان کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے معاصرین کو کہنا پڑا کہ ابن حزم عالم ہیں مگر علم کی سیاست سے نا آشنا ہیں، ابن حزم کے تمام سیرت نویس اس بات پر متفق ہیں کہ

مخالفین کے افکار و آراء کی تردید میں وہ بڑے تند و تیز تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا آپ کی یہ شدت و حدت جس کی بنا پر آپ مخالفین کی تردید میں بڑے سرگرم تھے۔ آپ کی تیز ٹی طبع کا نتیجہ تھی جس سے آپ موصوف تھے یا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا جذبہ حق بیانی اس امر کا مقتضی تھا کہ جو کہنا چاہتے ہوں اسے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں اگرچہ وہ آپ کے حق میں مضر ہو اور آپ کو مخالفین کا یہ طعن سننا پڑے کہ آپ علم کی سیاست سے بے بہرہ ہیں۔

اس امر کا پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے کہ ابن حزم لوگوں سے مجاہد و مخلصانہ روابط استوار کرنے کی تلقین کرتے اور ان کی مخالفت و معاندت سے روکتے تھے بشرطیکہ دین و دنیا کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو۔

ابن حزم وہ عالم دین تھے جو اپنے علم سے تنگ کرتے اور اس پر عمل پیرا تھے۔ آپ کبھی منافقت و دہانت سے متہم نہ ہوئے۔ آپ کے بارے میں یہ بات کبھی نہیں کہی گئی کہ آپ ان لوگوں میں تھے



علماء میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ مگر ہم اس کی نشان دہی کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کی شدت و حدت کے دو سبب تھے۔

پہلا سبب :- ابن حزم کی تیزی طبع کا پہلا سبب ان کے مخالفین کے عزائم قبیحہ تھے۔ کسی عالم کے لئے اس سے بڑی اذیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی سعی و جہد کے ثمرات و نتائج کو منظر عام پر نذر آتش کیا جائے۔ بڑے سے بڑا بردبار آدمی بھی ایسے منظر کو دیکھ کر اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ لہذا بلاشبہ ان کے مخالفین کا مکر و فریب ان کی تیز طبیعت کا موجب تھا بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ یہ اس کے عظیم ترین ابواب میں سے ایک تھا۔ مگر ہمیں اس عالم نابغہ اور نظری حکیم و فلسفی سے یہ توقع تھی کہ ایسے حالات میں بھی ان کا دامن غیظ و غضب کے اظہار سے پاک ہوتا۔

دوسرا سبب :- ابن حزم کی حدت طبع کا دوسرا سبب ایک بیماری تھی جس نے آپ میں چڑچڑاپن پیدا کر دیا۔ وہ خود اس پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”ایک مرتبہ میں سخت بیمار پڑا جس سے میری تلی بڑھ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ میں چڑچڑاپن، تنگ ظرفی، قلت صبر اور سبک سری کے عوارض پیدا ہو گئے۔ جب مجھے اپنے اخلاق کی تبدیلی کا احساس ہوا تو میں سخت بے قرار ہوا اور اس پر حیرت و استعجاب کا اظہار کرنے لگا۔ مجھے صحیح طور پر معلوم ہے کہ جسم انسانی میں تلی وہ مقام ہے جہاں سے فرصت و انبساط کے چشمے پھوٹتے ہیں، مگر تلی میں جب فساد ہو جاتا ہے تو انسان کا مزاج مغلوب الغضب اور چڑچڑا ہوا جاتا ہے۔“

ان سطور میں ابن حزم نے بڑی فراخ دلی سے اپنی تنگ نظری اور ابن حزم کی صاف گوئی۔ زود رنجی کا شکوہ کیا ہے بلکہ اپنے آپ کو سبک سر تک کہا ہے۔ گویا جس وضاحت سے وہ اغیار کے افکار و نظریات بیان کرنے کے عادی ہیں۔ اسی طرح صریحاً انہوں نے اپنے جسمانی عوارض کا تذکرہ کیا ہے۔ تلی کے متعلق انہوں نے جو بات کہی ہے کہ صحت کی صورت میں وہ فرصت و انبساط کا منبع ہے اور فساد پیدا ہونے کی صورت میں موجب شومی و نحوست ہے ہمیں اس بحث کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ یہ علم طب



کا مسئلہ ہے۔ اور اطباء کے علماء تشریح الابدان کو اس کی فکر ہوتی چاہیے۔ ہمارے نزدیک اہم بات یہ ہے کہ وہ باریک بینی سے اپنے جسم کا حال بیان کرتے ہیں اور اپنے عیوب تک گمانے سے نہیں ہچکچاتے۔ گویا اپنے ذاتیات کو زیر بحث لانے میں بھی ان کے یہاں وہی صراحت و وضاحت پائی جاتی ہے۔ آخر اس سے زیادہ صاف گوئی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سبک اور زود رنج تک کہہ دیا۔

ابن حزم خود اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں جو سکون و اطمینان، فرحت و انبساط اور آذوقے حیات پائی جاتی تھی وہ بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث تنگ ظرفی، قلق و ملال اور زندگی سے بیزاری کی صورت میں بدل گئی اور اپنی ذات میں وہ خود سے محسوس کرنے لگے تھے۔ اگر تاریخ کے اوراق میں آپ کی بیماری کا حال مذکور ہوتا تو ہم آپ کی زندگی کے دونوں حصوں سے آگاہ ہوتے جن میں سے نصف اول سرور و اطمینان کا منظر تھا اور نصف ثانی پر قلق و ملال اور تنگ ظرفی کے آثار نمایاں تھے۔

اگر ابن حزم کی تصانیف کا بحال توجہ پورے غور و خوض سے مطالعہ کیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ بعض کتابیں انہوں نے اس وقت لکھیں جب ان میں مسرت و انبساط کے جذبات موزن تھے اور انہیں زندہ رہتے اور دوسروں کو زندہ دیکھتے سے محبت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عفت و تقویٰ سے بھی بہرہ ور تھے۔ کونسا قاری ہے جو آپ کی کتاب طوق الحمارہ کا مطالعہ کرے اور وہ کاتب کے قلم و رُح سے سرور و شادمانی کو ٹپکتا ہوا نہ دیکھے۔

اب سوال یہ ہے کہ فقہاء کے نقد و جرح امراد کو حدیث طبع کے ثمرات و نتائج۔ ابن حزم کے خلاف بھڑکانے اور بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث ابن حزم میں جو شدت و حدت پیدا ہوئی تھی کیا اس کا نتیجہ صرف یہ ہوا کہ ابن حزم کے تعلقات فقہاء سے بگڑ گئے اور انہیں اس گاؤں میں جلا وطن ہونا پڑا جہاں آپ نے وفات پائی یا اس کے سوا کچھ اچھے فوائد و نتائج بھی برآمد ہوئے تھے؟ بلاشبہ حدیث طبع سے یہ نتائج برآمد ہوئے مگر ان کے پہلو بہ پہلو ابن حزم میں علمی و تصنیفی حیثیت و غیرت نے بھی جنم لیا۔ ابن حزم خود بیان کرتے ہیں کہ ان کی کثرت تصانیف کا راز ان کی تیز طبیعت میں مضمر ہے جو علماء و خصوم نے ان کے اندر پیدا کر دی تھی۔

فرماتے ہیں :-

”جہلاء کی تعقید سے مجھے بڑا فائدہ پہنچا۔ اور وہ یہ ہے کہ میری خوابیدہ صلاحیتیں جاگ اٹھیں، میرا دماغ روشن ہو گیا، میری فکری و نظری قوتیں بیدار ہو گئیں۔ اور میں نے نفع بخش کتابیں تصنیف کیں۔ اگر دشمن میری باطنی صلاحیتوں کو بیدار نہ کرتے تو میں ایسی کتابیں نہ لکھ سکتا۔“

یہ ہے وہ اثر جو شدت و حدت کی پیداوار ہے اور یہ ہے وہ نور جو مخالفین کی نقد و جرح سے ضو فشاں ہوا۔ خلاصہ یہ کہ ابن حزم کی تیزی طبع بھی شرمخص نہ تھی بلکہ اس میں شیر کثیر اور نفع عظیم پایا جاتا تھا۔

ابن حزم میں ایک اور صفت بھی پایا جاتا ہے

ابن حزم کی تیزی ادراک و احساس پر عین ممکن ہے کہ وہ بھی تیز طبعی کے اسباب

میں سے ہو اور اس کے پہلو پہ پہلو وہ نشرو شعریں آپ کے فنی ذوق کا باعث بھی تھیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس صادق اور حقائق نفوس کے معلوم کرنے میں عمیق فکر سے نوازا تھا۔ وہ قوت احساس سے بھی بہرہ وافر رکھتے تھے۔ گویا وہ قوی الاحساسات بشاریہ الجذبات تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب شدت جذبات کے پہلو پہ پہلو انسان عقل مدبر اور خلق کامل سے بھی بہرہ ور ہو تو اس سے صدق نظر الہامی اور کات اور اس کے دیگر بنی نوع آدم کے مابین وجدانی مشارکت پیدا ہوتی ہے، جس کی بناء پر وہ نفوس انسانی کی کتبہ و حقیقت کو پالیتا ہے اور وہ ایسا صادق انفراسٹ ہو جاتا ہے کہ اپنی ذہانت و فطانت اور عمیق احساسات کی بناء پر نفوس انسانی کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے۔

آپ کی کتاب طوق الحماہ ان کے قوی احساسات اور نوایس نفسانی کے عمیق مطالعہ کی ترجمان ہے۔ قوت احساس کے بل بوتے پر آپ عشق اور عشاق کے اقسام بیان کرتے ہیں۔ محبت کی حقیقت پر آپ نے جو تبصرہ کیا ہے اس سے آپ کا قوی الحس اور عمیق الفکر محقق ہونا واضح ہوتا ہے۔

ابن حزم لکھتے ہیں :-

میرے خیال میں نفوس انسانہ جو اپنے بیش قیمت عناصر کی بنا پر ایک دوسرے سے جدا گانہ نوعیت رکھتے ہیں ان کے اجزاء میں اتصال پیدا کرنے کا نام محبت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مخلوقات کے مابین اختلاط و تباین کا راز اتصال و انفصال میں مضمحل ہے۔ ہر شخص اپنے ہم شکل کو پسند کرتا اور اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مجالست و مشارکت کا عمل محسوس ہوتا ہے اور اس کے اثرات مشاہدہ میں آتے ہیں۔ جو چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہوں، ان میں باہم نفرت پائی جاتی ہے اور جو باہم مشابہ ہوں ان پر موافقت و یگانگت کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔

محبت کے علامات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-  
"محبت کے علامات جو ہر بینا شخص دیکھ سکتا ہے یہ ہیں کہ محبت کرنے والے میں زیادہ فرحت و انبساط پایا جاتا ہے، وہ کشادہ جگہ میں بھی تنگی محسوس کرتا ہے اور محب و محبوب میں سے جب ایک کسی چیز کو لے لیتا ہے تو دوسرا بھی اسے حاصل کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے۔"

ظاہر ہے کہ ایسی بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو بڑا قوی الاحساسات ہو جو کچھ اس کے آس پاس ہو رہا ہو اسے پہلے اپنے حواس سے محسوس کرے پھر نظر غائر سے جانچے پر کھلے اور اپنے قلم حقیقت رقم سے اسے لکھ دے۔

ابن حزم کی وفاء شعاری :- ان نفسیاتی اوصاف و خصائص کے علاوہ جو ابن حزم کی تیزی ادراک کا سبب بنے ان میں کچھ خلقی صفات بھی تھیں، جو ان کے عالی ہمت اور صاحب عزم بلند ہونے کا سبب قرار پائیں۔ آپ کے پیدائشی اوصاف میں سے دو بہت نمایاں ہیں :-

وصف اول :- ان کا پہلا پیدائشی وصف وفاء شعاری ہے۔  
وصف ثانی :- ان کا دوسرا وصف عزت نفس ہے جس میں عجب و کبر کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا تھا۔

وفا شعاری آپ کا ذاتی جوہر تھا۔ آپ اجاب و اصدقاء، شیوخ اساتذہ اور سب ملنے جلنے والوں سے وفاداری کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ جمادات سے بھی وفا کرتے تھے۔ اس کا بین ثبوت یہ ہے کہ آپ قرطبہ جانے والوں سے اپنے مکانات کا حال پوچھتے جن سے آپ کی تو نگری وابستہ تھی اور آپ ذاتی طور پر ان سے مانوس تھے۔  
آپ لکھتے ہیں:-

”میں خود ستانی کا ارتکاب نہیں کرتا رہا۔ بلکہ اس فرمان خداوندی پر عمل کرتا ہوں۔“

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (الفخفی - ۱۱)

میں تحدیثِ نعمت کے طور پر عرض پرداز ہوں کہ مجھے خداوند کریم نے اس شخص سے بھی وفاداری کرنے کا وصف عطا کیا ہے جو مجھے صرف ایک مرتبہ ملا ہو۔ یا ایک ساعت بیٹھ کر مجھ سے ہم کلام ہوا۔ میں خدا ہی کا شکر ادا کرتا، اس کی حمد و ثنا کہتا اور اسی سے طلب امداد کرتا ہوں۔ بے وفائی سے زیادہ کوئی چیز مجھ پر گراں نہیں گذرتی۔ بخدا میں نے اس شخص کو نقصان پہنچانے کے متعلق کبھی سوچا ہی نہیں، جس کا میرے ساتھ بہت کم تعلق رہا ہو خواہ وہ میرے خلاف کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرے۔ مجھے اکثر مرتبہ ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے مگر ہمیشہ میں نے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكِ كَثِيرًا“ لے

ابن حزم لکھتے ہیں کہ وفا شعاری انہیں بہت محبوب ہے۔ وہ ظلم و زیادتی کرنے والے اور مخلص اجاب سبھی سے وفا کرتے ہیں۔ اجاب و اعداء دونوں سے وفا کرنا یا عبث فضیلت ہے۔ جب بے وفائی اور قطعِ علائق کے اسباب جمع ہوں اس وقت وفاداری سے کام لینا بہت بڑا کام ہے۔ ابن حزم وفاداری کے اعلیٰ مقام پر قائم ہونا پسند کرتے تھے اور اس کے ادنیٰ مرتبہ پر قانع ہونا انہیں گوارا نہ تھا۔

عزتِ نفس اور ابنِ حزم۔ ابنِ حزم و فاشعاری کے پہلو پہ پہلو عزتِ نفس کے وصف سے بھی موصوف تھے اور ذلت و ذنارت کو کبھی گوارا

نہ کرتے تھے یہ وصف ان میں خاندانی طور پر پایا جاتا تھا کیوں کہ آپ نے ایک باعزت ماحول میں پرورش پائی تھی۔ حوادثِ دالام روزگار نے آپ کے جذبہ عزتِ نفس کو مزید جلا بخشتی اور اس میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہو سکی۔ اعداء و خصوم نے آپ کے قید و بند اور بلاؤں کی مشکلات سے دوچار کیا، مگر آپ کے باعزتِ نفس کو جو راحت و رنج میں خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے کا عادی تھا کمزور نہ کر سکے۔ آپ نے راحت و آرام اور صعوبات و دالام دونوں کا مزہ چکھا۔ نہ دنیوی عیش کی لذتیں آپ کی عزت کو کم کر سکیں اور نہ زندگی کی تلخیاں آپ کو تعزیرت میں گرانے پر قادر ہوئیں بلکہ آپ راحت و رنج دونوں حالتوں میں باعزت رہے اور ایسے شخص سے کبھی مطلب براری کے خواہاں نہ ہوئے جو اسے پورا نہ کر سکتا ہو۔

وہ خود لکھتے ہیں:-

”گرامی قدر والد رحمۃ اللہ علیہ کی وزارت کے زمانہ میں محمد بن ولید کا تب کے میرے ساتھ بڑے خوشگوار تعلقات تھے۔ جب قرطبہ میں فسادات کا دور دورہ ہوا اور میرے حالات میں عظیم انقلاب رونما ہوا تو محمد بن ولید کسی علاقہ کو چلا گیا اور وہاں کے والی سے مل کر ایک منصب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کی بناء پر اس کی مالی حالت بہت اچھی ہو گئی۔ سفر و سیاحت کے دوران مجھے اس طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں اس کے یہاں مہمان ٹھہرا۔ مگر اس نے حق تبرانی ادا نہ کیا بلکہ میرا وہاں جانا اس کے لئے بار خاطر ہوا اور اس نے مجھ سے اچھا سلوک نہ کیا۔ اسی اثناء میں میں نے اُسے ایک کام کے بارے میں کہا مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ میں نے اشعار لکھ کر اسے بھیجے اور ان میں اُسے اس نعل شنیع پر عتاب کیا اس نے جواب میں معذرت چاہی اور مجھے راضی کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد میں نے اسے کسی بات کی تکلیف دینا گوارا نہ کیا۔“

ابنِ حزم میں عزتِ نفس کا جذبہ پیدا ہونے کے تین وجوہات تھے۔

اول۔ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ ابن حزم سیاست اور اس کے لالچ سے کنارہ کش ہو چکے تھے اور یہ حقیقت ہے کہ نفسِ انسانی کے لئے برقِ حرص و آرزو ہلک ثابت ہوتی ہے۔ طمع جہاں کہیں بھی ہوگی وہاں کسی نہ کسی صورت میں ذلت ضرور پنہاں ہوگی۔ مشہور عربی مقولہ ہے۔  
 اَذَلَّتِ الْمَطَامِعُ اَعْنَاقَ الرَّجَالِ (حرص و آرزو انسان کو ٹھکرتے پر مہیور کر دیتی ہے)۔  
 ابن حزم نے جب سے سیاست اور اس کی حرص و ہوا کو چھوڑ کر علم کے دامن میں پناہ لی تھی گویا آپ عزت کے ایک مضبوط قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔

دوم۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو چمنِ عقلی و ذہنی صلاحیتوں سے نوازا تھا ان کی بناء پر آپ کا خیال تھا کہ آپ امراء و علماء دونوں پر فائق ہیں۔ اس احساس کی وجہ یہ تھی کہ آپ منصبِ امارت پر فائز تھے اور آپ نے زہد و تقویٰ کی بناء پر از خود اسے خیر باد کہا تھا۔ دوسرا یہ کہ ان میں کوئی بھی آپ کی تیزیِ عقل و ادراک کی حد تک نہیں پہنچ سکا تھا۔

سوم۔ عزتِ نفس کی تیسری وجہ ابن حزم کی خوشحالی تھی جس سے خداوند کریم نے آپ کو بہرہ ور کر رکھا تھا۔ آپ امراء و وزراء کے ہدایا و عطایا کے دست نگر تھے۔ انسان کو ذلیل و خوار کرنے والی چیز صرف احتیاج ہے اور آپ کا دامن اس سے پاک تھا۔

یہ تھے ابن حزم کے اخلاق و عادات اور فضائل و فواضل! یہ بھی خلاصہ مطالب سابقہ۔ اس امر کے مقتضی تھے کہ آپ علم کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ اسباب و امور جب کسی انسان میں جمع ہو جاتے ہیں تو اسے جیہ عالم بنا کر چھوڑتے ہیں بشرطیکہ اسے صالح علماء کی صحبت میسر آسکتی ہو۔ اور ایسی علمی فضا بھی موجود ہو جس میں اس کی صلاحیتوں کو پھلنے پھولنے کے مواقع حاصل ہو سکتے ہوں اور وہ شخص آپ کو طلبِ علم میں لگا دے۔ بلاشبہ ابن حزم ان تمام خصوصیات کے حامل تھے۔

## ابن حزم کے شیوخ و اساتذہ

**شیوخ و اساتذہ کی کثرت :-** ابن حزم نے متعدد اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ اور اپنے زمانہ کے بہت سے علماء و فضلاء کی صحبت سے مستفید ہوئے مثلاً ابن عبد البر مالکی وغیرہ۔ ابن حزم نے بہت سے رسائل میں اپنے اساتذہ کا ذکر کیا ہے۔ خصوصاً طوق الحامہ میں۔ اس رسالہ میں آپ نے بہت سے اساتذہ کے نام گنائے ہیں جن سے آپ نے علم حدیث کی طلب و تحصیل بچپن ہی میں شروع کر دی تھی۔ غالباً یہ پہلا علم تھا جسے آپ نے حفظ قرآن اور حفظ اشعار سے زبان میں سلاست پیدا کرنے کے بعد حاصل کرنا شروع کیا تھا۔

**ابوالحسین الفاسی :-** ابن حزم خود بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے ہوش سنبھالا۔ تو انہیں ابوالحسین الفاسی کی صحبت میسر آئی۔ جو بڑے صاحب علم و فضل و ائمہ عابد و زاہد اور آخرت کے لئے کوشاں رہنے والے تھے۔

ابن حزم خود فرماتے ہیں اور ان کا یہ قول ہم قبل ازیں نقل کر چکے ہیں۔  
 ”میر خیال ہے کہ ابوالحسین الفاسی عورتوں پر قدرت نہیں رکھتے تھے کیوں کہ آپ کی کوئی بیوی نہ تھی۔ میں نے علم و عمل اور زہد و تقویٰ کے اعتبار سے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔“

ابوالحسین الفاسی آپ کے لئے ایک نگراں اور رہنما کی حیثیت رکھتے تھے جیسے آج کل ہمارے یہاں امرا رکھنے بچوں کے لئے نگراں مقرر کئے جاتے ہیں۔ ابوالحسین ابن حزم کو ابوالقاسم عبد الرحمن ازوی المتوفی ۱۱۸۵ھ کی مجلس میں لے جایا کرتے تھے جہاں آپ ان سے حدیث نحو اور لغت پڑھتے۔ ابن حزم نے بچپن میں احمد بن حنبلہ المتوفی ۲۴۱ھ سے حدیثیں روایت کیں۔

آپ نے ہمدانی سے بھی حدیثیں روایت کیں جو قرطبہ کی غربی جانب مسجد القمری میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ یہ ۲۰۱ھ کا واقعہ ہے۔  
طوق الحمامہ میں مذکور ہے۔

”ہمیں ہمدانی نے قرطبہ کی غربی جانب مسجد القمری میں ۲۰۱ھ میں حدیث سنائی۔“

آپ نے ابو بکر محمد بن اسحاق سے بھی علم حدیث کا فیض حاصل کیا تھا۔  
آپ کی تصنیف طوق الحمامہ میں غور و فکر کرنے والا شخص جانتا ہے کہ آپ نے قرطبہ کے اکثر محدثین سے علم حدیث کا درس لیا اور دیگر بلاد و اقصاء کے شیوخ سے بھی علمی استفادہ کرتے رہے۔ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ بہت سے شہروں میں چلے پھرے تھے بعض میں اختیارات اور بعض میں اضطراراً۔

بعم البلدان میں یا قوت کا بیان ہے اور ابن حزم نے بھی اپنے رسالہ میں علم فقہ کی تحصیل۔ یہی لکھا ہے کہ علم فقہ انہوں نے عبداللہ بن یحییٰ بن دحون فقہ سے حاصل کیا جن پر قرطبہ میں فتویٰ نویسی کا انحصار تھا۔ ۱

آپ نے عبداللہ ازدی المعروف ابن الفرغنی سے بھی حدیث و فقہ کا درس لیا۔  
ابن حزم عبداللہ ازدی سے بڑے متاثر تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ علم کے معاملہ میں بڑے صادق القول تھے اور علمی حقائق پر انہیں بڑا عبور تھا جب کہ دوسرے اہل علم حق اباطیل کو ملائینے کے عادی ہیں۔

عبداللہ ازدی علم حدیث اور اسماء الرجال کے حق میں ماہرانہ بصیرت رکھتے تھے۔ اب و تاریخ میں بھی انہیں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ انہوں نے علماء اندلس کی تاریخ قلمبند کی ہے۔ یہ اندلس سے عازم مشرق ہوئے۔ حج کیا علماء سے استفادہ کیا اور ان کے امالی لکھے، اہل مشرق کے متعدد اساتذہ سے علمی فیض حاصل کیا۔ یہ ۳۵۰ھ میں پیدا ہوئے۔ بلنسیہ کے شہر میں قاضی بھی رہ چکے تھے۔ جب ۴۰۳ھ کو قرطبہ فتح ہوا تو بربر نے انہیں قتل کر دیا۔



درس حدیث میں عام طلبہ کے ساتھ حاضری :- اسی طرح ابن حزم جن محدثین سے ملے ان سے علم حدیث پڑھا خواہ ان محدثین سے ان کی ملاقات ابتدائی دور میں ہوئی یا آگے چل کر جب مختلف بلاد و امصار میں سیر و سیاحت کا اتفاق ہوا۔

ابن حزم اپنی خاندانی وجاہت و سیادت اور اپنے والد کے منصب و وزارت پر فائز رہنے کے باوجود عام طلبہ کی طرح مجالس حدیث میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ وہ طوق الحمار میں لکھتے ہیں :-

مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک مرتبہ قرطبہ کے مقبرہ میں باپ عامر میں چند طلبہ اور اصحاب الحدیث کی معیت میں گزر رہا تھا ہم اپنے استاذ مکرم ابوالقاسم عبدالرحمن بن ابی یزید المصری جنہوں نے بمقام رصافہ <sup>۱۳۷</sup> میں وفات پائی۔ کی مجلس میں حاضر ہونا چاہتے تھے۔ ابو بکر عبدالرحمن بن سلیمان جو اہل سبتہ میں سے تھے اور بڑے لغزگو شاعر تھے ہمارے رفیق سفر تھے۔ وہ اپنے چند اشعار پڑھتے جا رہے تھے جن میں سے دو شعر یہ ہیں :-

سريع الى ظهر الطريق و انته  
الى نقص اسباب المودة يسوع  
يطول علينا ان نرفق و دة  
اذا كان في ترقيعه يقطع

طلب حدیث سے طالب علمی کا آغاز :- واقعات اس کی غمازی کرتے ہیں کہ فروعاً فقہیہ میں مہارت حاصل کرنے سے پیشتر آپ نے طلب حدیث کا آغاز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث نبوی کی محبت آپ کے رگ و ریشم میں سما گئی اور آپ صاحب تفریبات فقیہ ہونے سے قبل حدیث کے حافظ اور ماہر بن گئے۔ شاید اس سے مورخ یا قوت کے اس قول کا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ آپ چھبیس سال کی عمر میں فقہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ قبل ازیں آپ کا فقہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کامل توجہ اور انہماک سے فقہی تفریبات و دراسات میں اس وقت مشغول ہوئے جب آپ اس عمر کو پہنچ چکے تھے۔ چھبیس سال کی عمر سے قبل آپ حدیث کا

درس لیا کرتے تھے اور بقدر ضرورت فقہی مسائل سے بھی آگاہ تھے۔ جب انہیں اس کمزوری کا احساس ہوا کہ وہ فقہ اور اس میں جدل و مناظرہ کرنے میں چنداں مہارت نہیں رکھتے تو آپ ہمہ تن اس کی تحصیل میں لگ گئے۔ گویا آپ فقہ کی تحصیل میں بکمال توجہ اس وقت مشغول ہوئے جب محدث بن چکے تھے۔ جب ابن دحون کے سامنے زانوئے تلمذ نہ کیا تو انہوں نے موطا امام مالک کی طرف متوجہ کیا کہ موطا حدیث و فقہ دونوں کو شامل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موطا ان کتب میں داخل ہے جس کی طرف آپ آغاز تحصیل میں متوجہ ہوئے۔

بلاشبہ آغاز تحصیل میں آپ نے مالکی فقہ کا رخ کیا کیوں کہ آپ کے اساتذہ جن کا ذکر کیا گیا ہے سب کے سب مالکی تھے مثلاً ابن دحون مالکی فقیہ تھے جن پر قرطبہ میں فتویٰ نویسی کا انحصار تھا۔ آپ کے استاد ابن الفرغنی بلنسیہ میں قاضی تھے۔ ابن حزم نے ان سے حدیث و فقہ کا درس لیا۔ ابھی تک آپ فقہ کی طرف پوری طرح متوجہ نہیں ہوئے تھے۔

جب آپ مذکورہ اساتذہ سے تربیت یافتہ تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فقہی دراست کی ابتدا میں مالکی فقہ کا درس لیا ہوگا جیسا کہ اندلس میں عوام و خواص کا دستور تھا۔ کیونکہ وہ معروف و مروج طریقہ کو چھوڑنا پستہ نہیں کرتے تھے۔ نیز اس لئے بھی کہ آپ کے اولین اساتذہ مالکی فقہاء تھے اور ان کے متعلق لوگوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ مختلف فقہی مذاہب سے حسب مرضی انتخاب کر لیتے ہیں۔

ابن حزم کے سیرت نویس عام طور سے لکھتے ہیں کہ آپ شافعی فقہ کی طرف منتقل ہو گئے تھے حالانکہ اندلس

میں شافعی فقہ کا رواج نہ تھا۔ مورخین نے یہ بھی بیان نہیں کیا کہ آپ کے اساتذہ میں سے شافعی کون حضرات تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ابن حزم جب جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے ملک میں رواج یافتہ مالکی فقہ سے تنگ آ کر شافعی فقہ کے متعلق لکھی ہوئی کتابوں کی روشنی میں اس مسلک کو اختیار کیا یا اپنے سفروں کے دوران بعض اساتذہ سے شافعی فقہ سیکھی؟

ابن حزم نے اگر کوئی سفر نامہ مرتب کیا ہو تو ہم اس کی روشنی میں معلوم کر سکتے تھے کہ جن شہروں میں آپ اقامت گزین ہوئے تھے وہاں انہوں نے کونسے علوم حاصل کئے۔

صحیح بات یہ ہے کہ اندلس میں اگرچہ شافعی فقہ کا چنداں چرچا نہ تھا مگر وہاں شافعی علماء ضرور ہوں گے اور ایسے علماء کا وجود بھی ناگزیر ہے جو مذاہب اربعہ سے کچھ مسائل انتخاب کر لیتے

ہوں گے اور فقہ ہائے چہارگانہ میں سے کسی ایک کی طرف ان کا رجحان ہوگا۔ اگرچہ مکمل طور پر وہ اس مسلک کی پابندی نہ بھی کرتے ہوں۔ قرین قیاس یہ ہے کہ ابن حزم نے ایسے علماء سے اولاً فقہ پڑھی ہوگی پھر اس کے مشابہ و موافق فقہ کی جانب متوجہ ہوئے اور پھر تیسرے مرحلہ پر صرف کتاب و سنت اور آثار کو اپنا مذہب بنانے کی طرف لوٹ آئے ہوں۔ مذکورہ علماء سے اخذ و استفادہ کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نے باقاعدہ ان سے پڑھا ہوگا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ان سے مل کر ان سے متاثر ہوئے ہوں اور عملاً انہوں نے آپ کو تعلیم نہ دی ہو کیوں کہ اس وقت آپ تعلیم حاصل کرنے کی عمر سے تجاوز کر چکے تھے۔

**کتاب جن سے ابن حزم مستفید ہوئے :-** ابن حزم نے علماء اندلس کے فضائل و مناقب میں جو رسالہ تحریر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فقہ شافعی کتابوں کی مدد سے سیکھی۔ اس طرح مخلوط فقہ اور فقہ آثار و اقوال بھی فقہ کی ان عیسوٹ و مفصل کتابوں سے اخذ کی جن کے مطالعہ میں آپ مدتوں لگے رہے۔

آپ لکھتے ہیں :-

تفسیر قرآن کے بارے میں ابو عبد الرحمن بقی بن مخلد کی کتاب بڑی معتبر ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قطعی طور پر بلا استثناء کہہ سکتا ہوں کہ دین اسلام میں ایسی کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ محمد بن جریر طبری کی تفسیر اور دیگر کتب تفسیر میں سے کوئی بھی اس کے ہم پلہ نہیں۔ حدیث نبوی میں بھی انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جسے انہوں نے اسما و صحابہ کے مطابق مرتب کیا ہے۔ انہوں نے پیرہ سو سے کچھ زائد صحابہ کی مرویات بیان کی ہیں۔ ہر صحابی کی روایت کردہ احادیث کو فقہی ابواب اور احکام کے مطابق ترتیب دیا۔ لہذا ان کی کتاب مصنف اور مشدد و فون کہلا سکتی ہے۔ کسی اور کو آج تک یہ شرف حاصل نہ ہو سکا۔ ان کی ثقاہت صبط و اتقان اور جودت شیوخ اس پر مزید ہے۔ ان کے شیوخ حدیث کی تعداد دو سو چوراسی تک پہنچتی ہے جن میں دس آدمی بھی صنیف نہیں۔

ابو عبد الرحمن بقی بن مخلد نے صحابہ و تابعین کے مناقب و فضائل کے بارے میں بھی

ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ مصنف عبدالرزاق بن ہمام اور مصنف سعید بن منصور وغیرہا پر بھی فوقیت لے گئے ہیں۔

ابو عبدالرحمن کی تصانیف سے علوم کی جامع ہیں جو دوسری کتب میں نہیں پائے جاتے۔ گویا اس امام جلیل کی تصانیف کو اساس اسلام ہونے کی حیثیت حاصل ہے اور یہ اعزاز کسی اور کتاب کو حاصل نہ ہو سکا۔ آپ فقہ ہائے اربعہ سے مسائل کا انتخاب کرتے تھے اور کسی کے مقلد نہ تھے۔ امام سنت حضرت احمد بن حنبل سے انہیں خصوصی لگاؤ تھا۔

جن کتب سے میں نے استفادہ کیا احکام القرآن کے ذکر و بیان میں اہمیت جازمی کی کتاب بھی ان میں شامل ہے۔ آپ شافعی المذہب اور ماہر علم الکلام تھے۔ اسی طرح ابوالحکم منذر بن سعید کی کتب سے بھی میں نے استفادہ کیا۔ آپ داؤد ظاہری کی فقہ کی راہ پر گامزن تھے اور ان کے زبردست حامی تھے۔ ان کی دونوں کتابیں احکام القرآن کے موضوع پر ہیں۔ قاضی منذر کی کچھ دیگر تصانیف بھی ہیں۔ الابانۃ عن حقائق اصول الدیانۃ بھی انہی کتب میں سے ہے۔

علم ابن حزم کے مصادر ثلاثہ۔ یہ طویل اقتباس اس حقیقت کا آئینہ ہے کہ ابن حزم اگرچہ تاخر زمانی کی بناء پر ان علماء سے استفادہ نہ کر سکے جن کا ذکر اس عبارت میں کیا گیا ہے مگر اپنی تصانیف کے توسط سے وہ بھی ابن حزم کے اساتذہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تین قسم کے چشمہ ہائے علمی سے پیاس بجھائی۔ ان تینوں میں سے صاف و شفاف علم کے نوارے پھوٹ رہے تھے اور ابن حزم درس و مطالعہ کے ذریعہ ان سے فکری غذا حاصل کرتے رہے۔

مصدر اول: پہلا چشمہ جس سے آپ مستفید ہوئے فقہ الحدیث ہے۔ آپ نے اُسے ان مبسوط و مفصل کتب سے اخذ کیا جو صحابہ و تابعین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و

انعال اور قضا یا تقریرات کے بارے میں لکھی گئی تھیں۔ یہ فقہ اقوال و آثار کا وہ چشمہ صافی ہے جسے کوئی قریب المعنی یا بعید المعنی تاویل یا تخریج مکر نہیں کر سکی۔  
 مصدر ثانی :- ابن حزم کے علم کا دوسرا مصدر و ماخذ ان فقہاء کے اقوال ہیں جو کسی کے مقلد نہ تھے  
 مثلاً وہ بقی بن مخلد کے اقوال کا مطالعہ کیا کرتے تھے اور وہ کسی فقہی مسلک کے پابند  
 نہ تھے۔ اسی طرح وہ ابن امیہ حجازی کے اقوال اخذ کرتے تھے، حالانکہ وہ شافعی المذہب  
 ہونے کے باوجود دیگر فقہی مسالک کے اقوال بھی لے لیا کرتے تھے۔ منذر بن سعید کا  
 طرز و منہاج بھی انتخاب و اختیار اقوال تھا۔

مصدر ثالث :- قبل انہیں نقل کردہ اقتباس اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ ابن حزم نے شافعی  
 فقہ، شافعی فقہاء کی کتابوں سے سیکھی۔ مثلاً ابن امیہ جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔  
 اسی طرح ظاہری فقہ کے حامل فقہاء کی تصانیف سے اخذ کی مثلاً منذر بن سعید کی کتب  
 سے جو داؤد ظاہری کا بڑا زبردست حامی تھا۔

مندرجہ بالا بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ فقہ شافعی سے اخذ و استفادہ کے وسائل ابن  
 حزم کے یہاں کلیتہً مفقود نہ تھے اگرچہ آپ نے شوافع سے براہ راست تعلیم حاصل نہ کی البتہ  
 ان کی تصانیف سے ضرور مستفید ہوئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان اصحاب مذاہب  
 کی طرف بھی مائل تھے جو اگرچہ ایک مذہب کی جانب منسوب تھے مگر اس کے تمام اقوال کے  
 پابند نہ تھے بلکہ دوسرے مذاہب و مسالک کے اقوال کو بھی لے لیا کرتے تھے۔ آپ نے مذکورہ  
 فقہاء سے بھی فائدہ اٹھایا اور حدیث و سنت کے اس مجموعہ سے بھی فیض یاب ہوئے جو  
 انہوں نے صدر حیات میں جمع کیا تھا۔ مزید براں آپ اقوال و آثار کی جامع مبسوطہ کتب  
 بھی مطالعہ کرتے رہے اور حریت فکر و نظر کے فطری جذبہ سے بھی فائدہ اٹھایا جو کسی فقہی مسلک  
 کی تنگنائی میں محدود ہونا گوارا نہ کرتا تھا۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ جن مورخین نے ابن حزم کے شافعی  
فقہ ظاہری اور ابن حزم فقہ سے مستفید ہونے کا تذکرہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے  
 اگرچہ مورخین کے بیانات بڑے مجمل و مبہم ہیں اور ان سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ابن حزم نے اپنی  
 زندگی کے کس دور میں فقہ شافعی کی طرف رجوع کیا اسی طرح ظاہری فقہ کا علم آپ نے ان  
 کتابوں سے اخذ کیا جو اس فقہ پر لکھی گئی تھیں۔ مثلاً منذر بن سعید کی تصانیف جس میں داؤد ظاہری

کے مسلک کی پرزور حمایت کی گئی تھی۔

سورجین کا بیان ہے کہ ابن حزم نے ظاہری فقہ اپنے استاد ابوالخیر مسعود بن سلیمان بن غفلت الملتونیؒ سے اخذ کی جو ظاہری فقہ پر کاربند تھے اور جنہوں نے فقہی مسائل میں بڑا اچھا انتخاب کیا ہے۔ البتہ ابوالخیر کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”ابوالخیر مسعود ظاہری فقہ کے عالم تھے اور ان کا مسلک اختیار احوال تھا۔ یہ ابن حزم کے استاد تھے۔ ابن حزم اپنی تصانیف میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔“

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن حزم نے ابوالخیر مسعود سے ظاہری فقہ کا علم حاصل کیا۔ ابوالخیر ظاہری ہونے کے باوجود اختیار احوال کی طرف مائل تھے ممکن ہے پہلے وہ کسی مسلک کے پابند ہوں جس میں وہ دوسرے ائمہ کے اقوال پر بھی عمل کر لیا کرتے ہوں اور پھر ظاہری فقہ کی طرف لوٹ آئے ہوں اور ظاہری فقہ و منہج پر چلنا پسند کیا ہو۔

سابقہ بیانات کا

**فقہ صحابہ و تابعین کی اہمیت ابن حزم کی نگاہ میں۔** خلاصہ یہ ہے کہ

پہلے ابن حزم نے فقہ شافعی کا درس لیا پھر ظاہری فقہ پر لکھی گئیں کتب اور ظاہری فقہ کے علماء سے یہ فقہ اخذ کی۔ ابن حزم آغاز تحصیل ہی میں فقہ صحابہ و تابعین سے بڑا اعتناء کرتے تھے۔ جیسا کہ قبل ازیں ہم ان علمی کتب کا ذکر کر چکے ہیں جن کے نام انہوں نے اس رسالہ میں گنائے ہیں جو علماء اندلس کی مدح و توصیف میں لکھا۔ فقہ الحدیث پر مشتمل کتب کا ذکر کرتے ہوئے ابن حزم لکھتے ہیں:

”جن کتب سے مجھے استفادہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، قاضی محمد بن یحییٰ بن مفرح کی کتب بھی ان میں شامل ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ سات تصانیف میں انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ جمع کی اور بہت سی کتابوں میں امام زہری کی فقہ کو مرتب کیا۔“

مندرجہ بالا اقتباس کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو فقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و تابعین خصوصاً اکابر اور متبوع صحابہ سے ماثورہ و منقول تھی ابن حزم اسے بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی بہترین فقہی مجموعہ کی کرشمہ سازی تھی۔ جسے آپ نے اپنی کتب

مثلاً علی اور الہام میں جمع کر دیا تھا۔ کہ آپ فقہ ہائے اربعہ کی مدد سے ایک آزاد فقہ مرتب کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ فقہ صرف قرآن حکیم اور احادیث و آثار پر مبنی تھی۔

مندرجہ بالا بیان علامہ ذہبی کے قول کا مفسر و ترجمان ہے کہ ابن حزم ایک مناظرہ میں شریک ہوئے مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے تھے پھر انہوں نے گھر پر مقیم رہ کر فقہ کا بنظر غائر مطالعہ کیا۔ جب اس کے بعد مناظرہ میں حصہ لیا تو بڑی شاندار کامیابی حاصل کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا۔

أَنَا بَتَّعُ الْكُفَّاءَ وَأَجْتَهِدُ فَإِنَّا  
الْقَيْدُ بِمَذْهَبٍ

میں حق کا پیرو ہوں اجتہاد کرتا ہوں اور کسی فقہی مسلک کا پابند نہیں۔

یقیناً انہوں نے خانہ نشینی کے دوران فقہ صحابہ و تابعین پر مشتمل مبسوط کتب کا مطالعہ کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ پھر کتاب و سنت کو ضم کیا فقہی مسالک کی حدود و قیود سے آزاد ہو کر کتاب و سنت کے سایہ میں آ گئے۔

اب تک ہم نے ان شیوخ و اساتذہ کا ذکر کیا ہے جن سے علم عقلیہ اور ابن حزم سے ابن حزم بالمشافہ مستفید ہوئے یا ان کی کتابوں سے استفادہ کیا اور براہ راست ان سے ملنے کی سعادت حاصل نہ کر سکے۔ ابھی تک ہم نے ان علوم عقلیہ پر روشنی نہیں ڈالی جن سے آپ بہرہ ور تھے۔ اور اس ضمن میں ان کے شیوخ و اساتذہ کا تذکرہ بھی نہیں کر پائے۔

علماء اندلس کی توصیف و تعریف میں آپ نے جو رسالہ لکھا اس میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک استاد سے انہوں نے علوم عقلیہ حاصل کئے تھے۔ ان کا نام نامی وہ محمد بن حسن ندجی بتاتے ہیں۔ لکھتے ہیں :-

”میں نے فلسفہ میں سعید بن فتحون سرقطی المعروف بالعمار کے چند رسائل ملاحظہ کئے جن سے ان کی مہارت فلسفہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ جہاں تک اساذ مکرم محمد بن حسن ندجی المعروف ابن الکتانی کے رسائل کا تعلق ہے وہ بڑے نفع بخش مشہور اور متداول ہیں۔“

علم عدد اور ہندسہ میں ہمیں کوئی دسترس حاصل نہ ہو سکی اور نہ ان کی تحقیق و تدقیق کا موقع ملا لہذا ہم یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ اندلس کے کون سے

علماء اس میں اونچا مقام رکھتے ہیں اور کون سے کم مرتبہ ہیں۔"

ابن حزم نے ابن کثیری سے منطق و فلسفہ کا درس لیا۔ یہ یقینی بات ہے کہ آپ اسی میں محدود و محصور نہیں رہے ہوں گے بلکہ اس میں مزید تہخص و تجسس سے کام لیا ہو گا کیوں کہ آپ کسی شخص یا کسی ایک فقہی مذہب کی تنگنائے میں محدود و مقید ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ بلکہ علم جہاں ملتا اسے اخذ کرتے اور حکمت کی بات جہاں سے دستیاب ہوتی اسے لے لیتے اسی طلب و تحقیق کے پتھر میں آپ کو علوم و فنون کا وہ عظیم ذخیرہ حاصل ہوا جسے بعد میں آئے والے لوگوں کے لئے آپ اپنی گراں قدر تصانیف میں چھوڑ گئے۔



## ابن حزم کا استغراق فی العلم

تخصیصِ علمِ کاملِ توجہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔  
 ذہین آدمی کو بعض اوقات تحصیلِ علم کے  
 جملہ اسباب میسر آتے ہیں۔ مثلاً قابل ترین

اساتذہ کی صحبت و صلاحیت و قابلیت اور علمی ماحول جو ان صلاحیتوں کو پروان چڑھنے کا موقع  
 عطا کرتا ہے۔ مگر بایں ہر مشاغلِ حیات کی کثرت تحصیلِ علم سے اسے روک دیتی ہے یا علم کی طرف  
 پوری توجہ دینے سے قاصر رہتا ہے۔ جب تک کامل توجہ اور استغراق سے علم حاصل نہ کیا جائے وہ کبھی  
 بار آور ثمرات و نتائج کا موجب نہیں بن سکتا۔ علم نفس انسانی میں کسی شریک و اسپہیم کو برداشت نہیں کرتا  
 کوئی عالمِ عالی ثمرات سے اسی وقت بہرہ یاب ہو سکتا ہے جب وہ علم ہی کا ہو کر رہ جائے۔ کیونکہ علم  
 غور و تامل و عمیق فکر و نظر اور استقراء و استیعاب کا محتاج ہے۔ جب نفس انسانی کسی دوسری الجھن  
 کا شکار ہو تو ان جملہ امور کا حصول ممکن نہیں۔ بعض اوقات ایک وزیر بڑے علم و فہم سے بہرہ ور  
 ہوتا ہے مگر وہ اس وقت تک محقق و مدقق اور صاحبِ تصانیف عالم نہیں بن سکتا۔ جب تک  
 وہ خلوت گزین ہو کر کامل توجہ و اہتمام سے علمی استقراء و استیعاب میں مشغول نہ ہو۔

حیاتِ ابن حزم کا تجلیل و تجزیہ :-  
 ابن حزم نے جب ہوش سنبالا اور فہم و شعور سے  
 بہرہ ور ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ علم کے سوا

کوئی مقصد ان کے پیش نظر نہیں۔ آپ یہ دیکھ چکے تھے ۳۹۸ھ میں ان کے والد گرامی نے وزارت  
 کو خیر باد کہہ دیا جب مشکل آپ چودہ سال کی عمر کو پہنچے تھے۔ پھر آپ کے والد ان حوادثِ دُلام  
 کی لپیٹ میں آگئے جو عموماً اہل قرطبہ پر نازل ہوئے اور ابن حزم کا خاندان خصوصاً ان کی آماجگاہ  
 بنا۔ یہاں تک کہ آپ کے والد نے اسی حزن و غم کے عالم میں داعی اجل کو لبیک کہا اس وقت  
 ابن حزم کی عمر اٹھارہ سال سے متجاوز نہ تھی۔ آپ ان دنوں مجالسِ حدیث میں آتے جلتے اور علماء  
 سے مستفید ہوتے تھے۔ آپ کا علم کی طرف متوجہ ہونا ناگزیر تھا کیوں کہ دوسرا کوئی کام آپ کے  
 پیش نظر نہ تھا۔ آپ کے سب رفقاء طالبِ علم تھے۔ آپ نے سیاسیات سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا یا

بالفاظ مناسب تر سیاست سے لذت اندوز نہ ہو سکے۔ بلکہ آغاز شباب ہی میں وہ سیاست کی تلخوں سے دوچار ہوئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ پورے انہماک و استغراق سے طلب علم میں لگ گئے۔ یہاں تک کہ ۱۸۲۵ء میں بیس برس کی عمر کو پہنچے۔ اس عمر کو پہنچ کر آپ ایک حادثہ میں مبتلا ہوئے جس کی بنا پر آپ کو سیاست کی طرف رخ کرنا پڑا۔ اگرچہ علم سے آپ کا رابطہ پھر بھی قائم رہا۔ زندگی کے اس موڑ پر پہنچ کر آپ میں اموی امراء کی نصرت و تائید کا داعیہ ابھرا اور آپ اموی امیر کی مدد کرنے کے لئے بلیغ منتقل ہو گئے۔ مگر جلد ہی علمی زندگی کی طرف لوٹ آئے کیوں کہ سیاسی لوگوں کی نسبت اس امیر کی سیاسی زندگی بحلی کی طرح بھی جو ابھی کوندی اور فوراً غائب ہو گئی۔ اب ابن حزم حسب سابق پھر ہمہ تن تحصیل علم میں لگ گئے۔

آپ پہلے کی طرح نفوس انسانیہ کے بارے میں سوچتے اور سیاسی اخلاق کا اسی طرح مطالعہ کرتے، جس طرح آپ نے اپنی زندگی کے تمام مراحل و ادوار میں انسانی تحریکات کا مطالعہ کیا تھا۔ پھر ۱۸۲۷ء اور ۱۸۲۸ء میں سیاست کا رخ کیا۔ جب پینتیس (۲۵) سال یا اس سے قدرے زیادہ عمر کو پہنچے تو سیاسی زندگی سے ہمیشہ کے لئے الگ ہو گئے اور اپنے آپ کو علمی زندگی کے لئے وقت کر دیا پھر پوری ذہانت و طباعی سے سینتیس سال تک علم کی خدمت کرتے رہے اور بہتر سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ علمی زندگی کے اس عرصہ میں اپنے گراں قدر علمی نتائج فکر کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کیا جس طرح ایک عمیق الفکر اور دقیق المنظر عالم دین اپنے علمی ثمرات کو پیش کر سکتا ہے۔ پیش ازیں بحیثیت مجموعی آپ کی زندگی اگرچہ علمی تھی مگر بعض اوقات آپ سیاسیات میں مشغول ہو جاتے تھے اگرچہ علم سے رابطہ اس وقت بھی قائم رہتا تھا۔ اور آپ اس اثنا میں بھی سیاسی امور سے پہلے نفوس انسانیہ کی گہرائی میں اتر کر ان کا مطالعہ کرتے اور احوال کا جائزہ لینے سے قبل رجال حدیث کی نقد و جرح میں مشغول ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے علمی مباحث میں لا تعداد نفسیاتی تجربات کا ذکر کیا ہے، جنہیں وہ اپنے رسالہ مدارۃ النفوس میں بیان کرتے ہیں:-

معاصر علماء سے ابن حزم کے مراسم - علماء سے گہرا تعلق رہا۔ بچپن میں علماء سے حدیث وفقہ کا درس لیا، بڑے ہو کر کتابوں کے مطالعہ میں مہمک ہوئے اور جن علماء سے دوستانہ روابط استوار کر چکے تھے ان کی صحبت سے محفوظ ہوئے۔ سیاسی کشمکش کے دور میں

جب آپ پر عمرہ حیات تنگ آچکا تھا بڑے چیدہ و برگزیدہ علماء کے ساتھ آپ کے مہمانہ و مخلصانہ مراسم تھے جن سے آپ ملتے جلتے اور بڑی کوشش سے اپنے ذاتی حقوق بھی انہیں سونپ دیتے تھے۔ ان سے طنز و مزاح کا معاملہ بھی رہتا۔ اپنے اہباب علماء کو خطوط بھی لکھتے۔ مثلاً طوق الحماہ یا وہ رسالہ جو آپ نے علماء اندلس کی شان میں لکھا بہت سے علماء کے ساتھ آپ کے لطائف و ظرائف بھی مشہور ہیں۔ مثلاً وہ ادبی واقعہ جو کتب تاریخ میں مذکور ہے اور جوان کے صدیق مکرم ابن عبدالبر کے ساتھ پیش آیا جن کی تعریف میں ابن حزم ہمیشہ رطب اللسان رہا کرتے تھے۔

نفع الطیب میں لکھتے ہیں:-

ابن حزم طوق الحماہ میں لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ اور ان کے دوست ابو عمر ابن عبدالبر مصنف الاستیعاب کا گذرا شبیلیہ کے کوچہ بکڑ ہاراں میں ہوا۔ وہاں وہ ایک خوبصورت نوجوان سے ملے۔ ابن حزم کہنے لگے یہ بڑا حسین ہے۔ ابن عبدالبر بولے ہم تو صرف چہرہ دیکھ رہے ہیں باقی جسم کا کیا پتا ہے کیسا ہو ابن حزم نے فی البدیہہ یہ اشعار کہے۔

وَذِي عَدْلٍ فِيمَنْ سَيَافُ حُسْنُهُ      يُطِيلُ مَلَايِحَ الْهُوَى وَيُقَوِّلُ

جس کے حسن نے مجھے اسیر محبت بنا رکھا تھا اس کے بارے میں ملاست کرنے مجھے طویل ملاست کی اور کہا۔

أَمِنْ أَجْلِ وَجْهِ لَاحٍ لَوْتَا غَيْرُهُ      وَكَلِمَةٍ كَيْفَا الْجِسْمِ أَنْتَ عَلِيلُهُ

کیا صرف چہرہ کو دیکھ کر تم رخصت ہو گئے حالانکہ باقی جسم کا حال تم جانتے ہی نہیں۔

فَقَلْتُ لَهُ أَسْرَفْتَ فِي اللُّومِ مَرَاتِي      عِنْدِي رَدُّ كَوْنِ أَشَاءِ طَوِيلُهُ

میں نے کہا ملاست گری میں تم نے بڑی زیادتی سے کام لیا ذرا ٹھہریے میرے پاس

اس کا بڑا طویل جواب موجود ہے

أَلَسَوْتَرَانِي ظَاهِرِيكَ وَ إِيَّتِي      عَلَى مَا أَدَى أَحْتِاقِ يَوْمٍ دَلِيلُهُ

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں ظاہری مسک کا پابند ہوں اور جب تک اس کے خلاف

دلیل قائم نہ ہو جائے میں اسی پر قائم رہتا ہوں۔

یہ واقعہ اس امر کا غماز ہے کہ ابن حزم اور ابن عبد البر کے مابین کتنے خوش گو اور روابط پائے جاتے تھے۔ سبھی علماء کے ساتھ ان کی عداوت نہ تھی بلکہ وہی علماء آپ کے دشمن تھے جو فقہی جہود کی بناء پر آپ کے علمی انکار کے ساتھ نہ چل سکتے تھے۔ علماء عصر کے ساتھ ابن حزم کے یہ مخلصانہ مراسم ان کی علمی زندگی اور علم کی طرف توجہ کامل کا ثمرہ تھے۔ بلکہ مشہور یہ ہے کہ علماء میں آپ کے دوست بھی پائے جاتے تھے اگرچہ دشمنوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی تھی۔

نمرہ علماء میں اُجیب و اعداء کا پایا جانا ان کے استغراق فی العلم کی روشن دلیل ہے۔ کیونکہ علماء میں آپ کے اعداء و اولیاء صرف ان کی علمی خصوصیات ہی کی بناء پر پائے جاتے تھے۔

**ابن حزم کے ادبی مذاکرات**۔ علم و ادب اور ان کے متعلقات سے ابن حزم کی وابستگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں اور ادباء عصر میں ادبی مقابلے

ہوئے، جن میں آپ بھوکے والوں کی تردید کرتے اور دوستوں کی حمایت کا فریضہ ادا کرتے دونوں حالات میں ابن حزم نے اپنا ادبی پایہ قائم رکھا۔ جیسے آپ کی تصانیف کا علمی پایہ معروف و مسلم ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ انہیں اپنے چچا زاد بھائی ابوالمغیرہ، عبد الوہاب ابن حزم سے پیش آیا۔ ان کے ساتھ ابن حزم کے تعلقات خوشگوار نہ تھے۔ ابوالمغیرہ نے ابن حزم کے نام ایک طویل مراسلہ لکھا اور اس میں ابن حزم کی تصانیف میں سے ایک کتاب ذکر کیا وہ لکھتے ہیں:-

”یہ کتاب عجیب و غریب ظلم و ارنج بہتان، ظاہری مجادلہ اور تکذیب پر مبنی و دلائل پر مبنی ہے۔ خدا نے اس کے انوار کو مٹا دیا ہے اس کے عیوب کو نمایاں کر دیا ہے اور اب وہ اس ویرانہ کی طرح ہے جس میں نہ پانی ہو نہ درخت اور اس شب و بچور کی مانند ہے جس میں نہ چاند ہو نہ ستارہ“

نیز وہ لکھتے ہیں:-

”ابن حزم تم اپنے حاشیہ نشینوں اور اس جماعت کو بھول گئے جس کی درس گاہ کے تم رئیس اور نگہبان تھے۔ تم ان کو عبرت آمیز باتیں سناتے اور جو بھلا بُرا ان میں وقوع پذیر ہو چکا ہے اس سے آگاہ کرتے تھے، کبھی سامری اور بچھڑے کی کہانی سناتے اور کبھی چیچڑ اور چیونٹی کا واقعہ بیان کرتے تھے، کبھی دشت موسیٰ علیہ السلام کی حکایت سنا کر رلاتے اور کبھی قوم جالوت کا واقعہ

بیان کر کے انہیں سناتے تھے۔  
تورات کو تم قرآن تصور کر بیٹھے تھے اور خزانہ کو اعتکاف گاہ سمجھنے لگے تھے۔

ابن حزم اس کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-  
"میں نے تمہاری بات سنی اور خداوند تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی۔ اس کا ارشاد ہے کہ جہلا سے کنارہ کش رہئے! میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی بھی تعمیل کی۔ آپ کا فرمان ہے کہ جو قطع تعلق کرے اس سے بھی صلہ رحمی کیجئے! مجھے حکماء کا یہ قول پسند ہے کہ جو شخص تمہارے درپے آزار ہو اس سے اعراض کرنا ہی تمہاری فتح مندی کی دلیل ہے!"

پھر ابن حزم نے یہ اشعار پڑھے:-

كُفَانِي ذِكْرُ النَّاسِ لِي وَمَا شِئِي وَمَا لَكَ فِيهِمْ يَا بَنَ عَمِي ذَاكِرِي  
میرے لئے یہی کافی ہے کہ لوگ میرے ماثر و فضائل ذکر کرتے ہیں اور اے میرے چچا زاد بھائی تمہارے اوصاف کوئی ذکر نہیں کرتا۔

عَدُوِّي وَاشْيَاعِي كَثِيرٌ كَذَلِكَ مِنْ غَدَاةِ الْمَسَاعِي وَضَائِي لِي  
میرے اجباب و اعداء بہت ہیں جیسے سلفت میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی مساعی نفع بخش ثابت ہوئیں اور بعض کی نقصان دہ۔

یہ ہیں ابن حزم کے ادبی مذاکرات جن سے آپ ابن حزم کے اعداء و انصار بھجورنے والوں کی تردید کیا کرتے تھے ان سے دو باتوں کا پتا چلتا ہے:-

امراؤں:- پہلا یہ کہ اس سے ابن حزم کے استغراق فی العلم کا پتا چلتا ہے کہ جو شخص آپ کی بچوگولی کے دپے ہوتا تھا وہ آپ کی تصانیف کو ہدف طعن بناتا تھا اور بس! جیسا کہ ابوالمغیرہ کی زبان سے کتاب کی مذمت آپ سن چکے۔ مقصد یہ ہے کہ مخالفین آپ کے علم پر حملہ آور ہوتے تھے اور اجباب و اعزہ علم کی بنا پر آپ سے مخلصانہ روابط قائم کرتے تھے۔

لہذا الرسالتان فی الذخیرہ لابن ہمام قسم اول جلد اول ص ۱۳۶۔

امرتانی :- دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابن حزم کے احباب و انصار بھی تھے اور آپ کے تلامذہ اور اتباع بھی آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ اور ایسا نہیں جیسا کہ ابن حبان کی تصانیف سے مفہوم ہوتا ہے کہ ہر طرف آپ کے دشمن ہی دشمن تھے۔ ان کے چچا زاد بھائی ابوالمغیرہ کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ ابن حزم کے اعوان و انصار بھی تھے جن کا وہ مذاق اڑاتا ہے۔ اس نے ملاحظہ کیا ہے کہ آپ کے دوست تھے اور دشمن بھی اور وہ سبھی آپ کے معزز ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ کیوں کہ اس سے ان کی شخصیت کا کمال واضح ہوتا ہے کہ آپ کے اعداء و خصوم بھی تھے جو آپ کو ناراض کرتے اور ہمیشہ درپے آزار رہتے اس کے دوش بدوش وہ احباب بھی رکھتے تھے جو بڑے وفا شعار تھے اور ہمیشہ انہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔

یہ جملہ بیانات اس حقیقت کے آئینہ دار تھے کہ ابن حزم علم ہی کی خاطر جیائے اسی کے لئے مصروف سعی و جہد رہے اور علم ہی نے آپ کو حیات جاوید پانے والوں کے درمیان زندہ پائیدہ اور تابندہ رکھا۔

## ابن حزم کا عصر و عہد

عصر و عہد کسی عالم کو بنانے یا بگاڑنے  
عصر و عہد سے اثر پذیر مری اور ابن حزم میں وہی اثر رکھتا ہے۔ جیسے ہوا و آفتاب

نباتات اور حیوانات کی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس طرح جاندار سانس لے کر  
 ہوا سے غذا حاصل کرتا اور آفتاب کی شعاعوں سے مستفید ہوتا ہے اسی طرح ہر عالم  
 اپنے عصر و عہد کے حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ کسی عالم کے اپنے زمانہ سے اثر پذیر ہونے  
 کا یہ معنی نہیں کہ عالم زمانے کی ہوا کے رخ چلنے لگے اور کسی بات میں اس کے خلاف نہ  
 ہو۔ بخلاف ازیں علماء عصر کی مخالفت بعض اوقات موافقت کی نسبت تاثر زماں پر  
 زیادہ دلالت کرتی ہے۔ آپ قبل ازیں معلوم کر چکے ہیں کہ ابن حزم نے اپنے معاصر محدثین  
 فقہاء کے علی الرغم عشق و عشاق کے بارے میں ایک رسالہ تحریر کیا تھا۔ پھر آپ نے  
 علم الاخلاق اور نفسیات کے علاج معالجہ میں بھی کتابیں تصنیف کیں۔ عشق و عشاق  
 کے بارے میں آپ کی یہ تصنیف روح عصر سے اثر پذیر ہونے کی آئینہ دار ہے جس  
 میں غزل گوئی کا عام رواج تھا اور شاعر اکثر غزل کہا کرتے تھے۔ نثر نویس نثر میں بھی  
 غزل کا رنگ پیدا کر دیا کرتے تھے۔ غزل گوئی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ امراء کی لڑکیاں  
 تک غزل کہا کرتی تھیں۔ حالانکہ ظہور اسلام کے بعد عربی خواتین میں اس کا چنداں  
 رواج نہ تھا۔

ہم کسی ایسے عالم سے آشنا نہیں ہیں جو اپنے عصر و عہد سے ابن حزم کے مقابلہ  
 میں زیادہ شدیداً متاثر ہو۔ آپ کے وہ مضامین جو فلسفہ اخلاق، تحلیل نفوس اور نفسیاتی  
 علاج معالجہ سے متعلق ہیں۔ اس امر کا روشن ثبوت ہیں کہ آپ اپنے دور و عصر کی  
 اجتماعی، علمی اور سیاسی روح سے کامل اتفاق رکھتے تھے۔ لہذا ہم پر واجب ہے

کہ ہم عصر ابن حزم کے سیاسی، اجتماعی اور علمی احوال و تحریکات سے بحث کریں۔ ابن حزم نے اپنی کتاب الفِصَل میں مختلف اسلامی فرقوں سے اپنے جدل و مناظرہ کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا ہمارے لئے یہ بھی ناگزیر ہے کہ ہم مختصراً ان فرقوں کا ذکر کریں جن سے آپ مصروف جدل ہوئے تاکہ ہمیں ابن حزم کے ان اقوال سے پوری واقفیت حاصل ہو سکے جو انہوں نے اسلامی فرقوں کے متعلق کہے ہیں۔ پہلے ہم سیاسی احوال سے آغاز کلام کرتے ہیں۔



## عصر ابن ہزم کے سیاسی حالات

اندلس کا پرسکون ماحول :- نفع الطیب میں لکھتے ہیں :-

”جب عرب مغربی ممالک پر حملہ آور ہوئے تو فرنگی بادشاہ قادر نے کہا میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ابھی عربوں سے کچھ تعرض نہ کیجیے۔ ان کی حالت ابھی اس طوفان ایسی ہے، جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ابھی یہ نئے نئے اٹھے ہیں اور ان میں وہ خلوص نیت پایا جاتا ہے جس کی موجودگی میں یہ کثرت افراد سے بے نیاز ہیں۔ ان کے دل اتنے مضبوط ہیں کہ انہیں ظاہری مخالفت کے لئے زرہ کی ضرورت نہیں۔ ابھی اتنی مہلت دو کہ ان کے ہاتھ زرد دولت سے بھر جائیں۔ مکانات کی تعمیر کر لیں حکومت و سلطنت سے واپسی لیتے لگیں اور ایک دوسرے کے مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوں۔ جب یہ ساری باتیں ان میں آجائیں تو قریب بڑی آسانی سے ان پر قابو پا لو گے۔ بخدا جو کچھ فرنگی بادشاہ نے کہا تھا وہ سچ نکلا۔ مسلمانوں کی یہ حالت ہوئی کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف اپنے پڑوسی عیسائیوں سے مدد کے خواست گار ہوئے۔“

فرنگی بادشاہ کی طرف اس قول کی نسبت صحیح ہو یا غلط مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بات نا جگہ درست ہے۔ عرب جو نہی اندلس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے اور نسیم صبح کے دھوکوں نے شام جان کو معطر کیا تو وہ آرام کی نیند سو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خانہ جنگی میں ملتا ہو گئے اور ان میں شدید اختلافات رونما ہوئے۔

نفع الطیب ج ۲ ص ۲۲۷ طبع الرفاعی۔

## اندلس میں فسادات کا دور دورہ

اندلس میں برابر اور مختلف عرب قبائل آباد تھے کوئی صاحب قوت و شوکت حاکم موجود

نہ تھا طوائف الملوک کا دور دورہ تھا، والیان حکومت کمزور تھے بعض سے ہنگامی سلطنت راضی بھی نہیں ہوا کرتی تھی جس کی بنا پر اس کی کمزوری میں اور اضافہ ہو جایا کرتا تھا کسی والی سے اگر حکومت راضی ہوتی تو اس کی امداد کرنے سے قاصر رہتی تھی، معاملہ یہاں تک پہنچا کہ سلطان مغرب اپنی طرف سے اندلس کا والی مقرر کیا کرتا تھا جب والی کی سیاسی قوت کمزور پڑ جاتی تو بڑی شدت سے اختلافات ظاہر ہونے لگتے، پہلے برابر اور عربوں میں فتنہ پیدا ہوا پھر عربوں میں باہم خانہ جنگی شروع ہوئی اور بڑی شدت اختیار کر گئی یعنی و مضری عربوں میں خاص طور سے زیادہ فسادات پھیلے، کبھی آپس میں لڑنے لگتے کبھی لڑائی بند کر دیتے مگر دلوں میں حسد و عناد کی آگ شعلہ زن رہتی جو تھوڑی دیر کے بعد شدید فسادات کی صورت اختیار کر لیتی اور اس سے اسلامی سلطنت کو بھی بڑی مصیبت کا سامنا ہوتا تھا۔

طوائف الملوک اور فتنہ پردازی کے اسی دور

## اندلس میں مروانی حکومت کا قیام :-

میں عبدالرحمن الداخل جو صقر قریش شاہین قریش

کے لقب سے مشہور تھا اور اندلس ہو کر اس پر مسلط ہو گیا اس نے اندلسی حکومت میں نظم و ضبط پیدا کیا اور سب کو ایک جھنڈے تلے کیا۔ اندلس کی سرسبز و شاداب وادی میں مروانی سلطنت اور اندلسی حضارت و تہذیب باہم مل جل گئیں ابن حزم ذکر کرتے ہیں کہ اندلس میں مروانی حکومت سب حکومتوں سے زیادہ پُر شوکت تھی اور دشمن اس سے لرزاں و ترساں رہا کرتے تھے، وہ عزت و شوکت کے اس مقام پر پہنچ گئی تھی جس میں اضافہ ممکن نہیں ہے۔

مروانی سلطنت کے زمانہ میں مسلمانوں کو بڑی فتوحات حاصل ہوئیں یہ سلطنت اعداء دین کے مقابلہ کے لئے جم کر کھڑی ہو گئی۔ دشمنان اسلام کے دماغوں سے ابھی عربوں کے پہلے حملہ کا خوف بھی دور نہ ہو سکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اموی حکومت کے قیام سے قبل مسلمانوں کے اختلافات کے دوران بھی وہ ان پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہ کر سکے۔ جب سرزمین اندلس میں تشنگت و تفرق کے بعد وحدت پیدا ہوئی تو یورپ کے اس حصہ میں دین اسلام کو مزید استحکام نصیب

ہوا۔ ملک کی سرحدیں مضبوط ہو گئیں پیہم اور مسلسل لڑائیوں سے فرنگی مضطرب ہو گئے یہاں تک کہ یورپ کے بادشاہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر امن و سلامتی کے خواستگار ہوئے۔ ان کے وفد قرطبہ کے دارالسلطنت میں حاضر ہوا کرتے تھے جو اس وقت بڑا بارونق شہر تھا قرطبہ کی نفاست کا یہ عالم تھا کہ بلند پہاڑوں سے پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں میں آتا اور محلات تک پہنچتا۔

تمام اموی سلاطین یکساں نہ تھے ان میں بعض کمزور تھے اور ان کے باسی ضعیف کے باعث

فتنے رونما ہوتے رہتے تھے۔ اور مسلمان بھی ان کی بناء پر اپنے اعداء کے مقابلہ میں کمزور پڑ جایا کرتے تھے جیسا کہ عبد الرحمن کے زمانہ میں ہوا تاہم اموی دور حکومت میں اسلام کا بول بالا رہا اموی حکمران بادشاہ تھے خلفاء نہ تھے۔ انہوں نے خلافت کا دعویٰ کبھی نہ کیا جب چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں عبد الرحمن الناصر سربراہ آرائے سلطنت ہوا اس وقت بغداد میں عباسی خلافت رونما ہوتی تھی امراء و وزراء اقتدار پر قابض تھے اور خلافت کا صرف نام باقی رہ گیا تھا اس دور میں عبد الرحمن الناصر نے خلافت کا دعویٰ کیا اور امیر المؤمنین کہلانے لگا بعد میں آنے والوں نے پھر یہی لقب اختیار کر لیا۔

عبد الرحمن الناصر کے عہد حکومت میں اندلس کی اسلامی حکومت رفعت و شوکت کی معراج پر پہنچ چکی تھی۔ فرنگی لرزاں و ترساں تھے۔ اسلامی ممالک میں الناصر کی حکومت بلاد مغرب تک پہنچ گئی تھی۔ مگر آفتاب حکومت کے وسط آسمان پر پہنچتے ہی زوال کے آثار نمودار ہونے لگے الناصر کے بعد اس کا تخت جگر الحکم تخت خلافت پر بیٹھا وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا مگر اس کی سلطنت دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ اس نے صرف سولہ سال حکومت کی جب کہ اس کا والد الناصر پچاس برس تک تخت خلافت پر متمکن رہا تھا الحکم کے بعد المستنصر تخت خلافت پر بیٹھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف نو برس تھی۔ یہ ایک عظیم آفت ہے جس سے سلطنتیں دوچار ہوتی ہیں، جب ہشام المویذ تخت خلافت پر متمکن ہوا تو اقتدار پر المنصور ابن ابی عامر مکمل طور پر قابض تھا۔ ابن حزم کے والد احمد بن سعید اسی کے وزیر تھے۔ المنصور کی ذاتی قوت و شوکت کی وجہ سے حکومت کا

لہ نفع الطیب ص ۱۲۵

لہ حوالہ مذکور ص ۱۰۴

نظام بدستور چلتا رہا۔ جب ۳۹۲ھ میں اس نے وفات پائی تو فسادات رونما ہوئے۔ قرطبہ ان کی اولین آماجگاہ بنا اور ابن حزم پہلے شخص تھے جو فسادات کی آگ میں جھونکے گئے۔

### اسلامی سلطنت کے زوال کی وجہ و وجہ :-

اب ہم اس امر کی جانب اشارہ کرتے

ہیں، جو مسلمانوں کے لئے عظیم مصیبت کا موجب ہوا۔ جب مسلمانوں نے اندلس فتح کیا تو عیسائیوں کو اندلس کے ایک مضبوط قلعہ میں جگہ دی تھی۔ اسلامی سلطنت کی ضرر رسانی کے لئے یہ قلعہ ایک کانٹے کی حیثیت رکھتا تھا یا یوں کہیے

کہ اسلامی سلطنت کے جسم میں ایک رستا ہونا سورتھا۔ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں اس مرض

کا استیصال نہ کیا۔ کیونکہ جسم انسانی جب طاقت ور ہو تو وہ مرض کو محسوس نہیں کرتا۔ کمزور ہونے پر

مرض بڑے زور سے حملہ آور ہوتا ہے اور جسم پر غلبہ کر کے اسے موت کی نیند سلا دیتا ہے اندلس

کے ایک قلعہ میں پناہ لینے والے عیسائیوں کی حالت بھی یہی تھی۔ وہ گھات میں لگے رہتے تھے جب

فرصت کا وقت پاتے تو اسے غنیمت تصور کرتے، ابو منصور عامر کی موت کے بعد یہ موقع انہیں

مل گیا مسلمانوں کی باہمی مخالفت عیسائیوں کی مزید معاون ثابت ہوئی۔ وہ ایک دوسرے کی

مخالفت کے لئے عیسائیوں سے مدد کے خواستگار ہوئے۔ اب ہم تفصیلاً یہ واقعات بیان کریں گے

اور جن عام لوگوں اور روساء و امراء نے اس میں حصہ لیا تھا، ان کے نام بھی ذکر کریں گے۔

ان دنوں ہشام المویذ ہر لے نام خلیفہ تھا منصور عامری کا بیٹا اپنے باپ کی طرح اقتدار

پر قابض تھا۔ بیٹا باپ ایسے اوصاف کا مالک نہ تھا۔ منصور عامری بذات خود بڑا ماہر سیاست

دان، دانشمند، عادل اور جنگجو تھا بیٹے پر خواہشات نفسانی اور حرص و آرزو کا غلبہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ

ہوا کہ وہ اس بات کی جرأت کر بیٹھا جس کے متعلق اس کا باپ بایں ہمہ عقل و دانش سوچ بھی نہ

سکا تھا۔ اور وہ یہ کہ اس نے امیر المومنین ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے ہشام سے بھی یہ عہد

لے لیا کیونکہ وہ کمزوری کے باعث ابن منصور کے ہاتھ میں کھٹ پٹی بنا ہوا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بربر

بغادت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے خلیفہ ہشام کو خلافت سے معزول کر دیا اور مہدی کے

نام سے ایک اور شخص کو تخت خلافت پر بیٹھا دیا مگر بربر نے اسے بھی مہلت نہ دی اور بڑے

فسادات رونما ہوئے جن کی وجہ سے قرطبہ برباد ہو کر رہ گیا اہل قرطبہ عموماً ان سے متاثر ہوئے۔

اور ابن حزم کا خاندان ان کی خصوصی آماجگاہ بنا ابن حزم نے یہ سب واقعات اپنے قلم سے لکھے

ہیں ان کی سرگزشت حیات بیان کرتے ہوئے ہم نے بعض حالات نقل کئے ہیں۔ اب ہم قدرے تفصیل

سے یہ واقعات بیان کرتے ہیں۔

خلیفہ مہدی اور مستعین کی نبرد آزمائی :- مہدی کو تختِ خلافت پر بٹھانے کے بعد بربر

بلکہ مستعین کی نصرت و تائید کے لئے وہ اذفونش رئیس نصاریٰ سے مدد کے خواستگار ہوئے علامہ مرقی نے مہدی اور مستعین کے باہمی جدل و قتال کا حال بیان کیا ہے یہ دونوں خلیفے بربر کے مقرر کردہ تھے۔

مورخ مرقی لکھتے ہیں :-

”خلیفہ مستعین بربر اور عیسائیوں کا لشکر پھر قرطبہ کی طرف مقابلہ کے لئے آیا۔ دوسری طرف سے مہدی اہل قرطبہ اور خواص دولت کے ساتھ میدان میں نکلا۔ مہدی نے شکست کھائی، بیس ہزار سے زیادہ اشخاص نے لڑائی میں حصہ لیا اس لڑائی میں صلح امت امکہ مساجد، مساجد کے خادموں اور موذنوں کی ایک جماعت کثیر کام آئی خلیفہ مستعین چوتھی صدی ہجری کے اختتام پر قرطبہ میں داخل ہوا،“

اب بربر سیاہ و سفید کے مالک بن گئے مستعین نے بربر اور عیسائیوں کی مدد سے فتح پائی۔ مگر مہدی

بھی آرام سے نہ بیٹھ سکا۔ اس نے رئیس نصاریٰ ابن اذفونش سے مدد طلب کی وہ اس پر راضی ہو گیا وہ پہلے ہی مسلمانوں کو باہم لڑانا چاہتا تھا۔ اس لئے اس نے امداد کا وغذہ اس بنا پر کیا کہ اسے مسلمانوں سے محبت تھی بلکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے درپے آزار تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور وہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس ارض پاک سے نکال باہر کیا جائے چنانچہ مستعین نے بربر کی معیت میں انہیں قرطبہ سے نکال دیا اور وہ مختلف شہروں میں چلے گئے پھر ایک اور جنگ پیا ہوا جس میں عیسائیوں نے شکست فاش کھائی اس جنگ میں بربر مستعین کی مدد کر رہے تھے اور مہدی کے معاون عیسائی تھے۔

خلیفہ ہشام المویّد اور مہدی کا قتل :- ان فسادات کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہدی کو معزول کر کے

قتل کر دیا گیا۔ اور ہشام المویّد پھر تختِ خلافت پر متمکن ہوا۔ مستعین اس کی مخالفت کرنے لگا۔ مورخ مرقی یہ داستان درد اس طرح بیان کرتے ہیں :-

لہ نفع الطیب ص ۱۹ ج ۲ طبع الرقاعی۔

”مستعین نے اذفونش کے لواحقین کو امداد کے لئے بلایا، ہشام المویذ نے جو امیر المومنین کے لقب سے ملقب تھا اپنے حاجب واضح العامری کو عیسیائیوں کی طرف بھیجا کہ اگر تم مستعین کا ساتھ نہ دو تو ہم قشتالہ کا علاقہ جسے منصور نے فتح کیا تھا تمہیں واپس دے دیں گے چنانچہ اذفونش مستعین کی مدد سے رک گیا حرب و پیکار کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ ۱۲۳ھ میں مستعین بربر کی مدد سے خفیہ طور پر قرطبہ میں داخل ہوا اور ہشام المویذ کو قتل کر دیا اٹالیاں قرطبہ کی خواتین اور بچوں کو ان فسادات کے دوران بڑی تکلیف کا سامنا ہوا۔ اب مستعین یہ سمجھنے لگا کہ اندلس میں اس کے پاؤں جم گئے ہیں“

اس کے بعد بربروں نے ملک کے حصے بخرے کر کے باہم تقسیم کر لئے اور ہر شخص اپنے علاقہ کا بادشاہ بن بیٹھا ہر طرف طوائف الملوک کا دور دورہ تھا بنو حمود سبتہ سے اندلس کا بکھرا ہوا شیرازہ جمع کرنے کے لئے لگے مگر کچھ نہ کر سکے انہوں نے ۱۲۷ھ سے ۱۲۸ھ تک حکومت کی مگر وہ بھی اتفاق و اتحاد کی دولت سے محروم تھے نیز حمود اور امویوں کے درمیان فسادات و نزاعات کا سلسلہ جاری رہا۔

**فسادات اندلس کے اثرات ابن حزم پر :-** ہم نے اندلس کے قابل ذکر فسادات کی

تفصیلات ذکر کی ہیں اور اس میں حصہ لینے

والوں کے نام بھی گنائے ہیں۔ یہ بات ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ مسلمانوں کی اس باہمی خانہ جنگی میں غالب کون تھا اور مغلوب کون! یہ لڑائیاں دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مصداق تھیں کہ ”القاتل والمقتول فی النار“ دراصل مسلمان سبھی مغلوب تھے اور اعداء اسلام کو غلبہ حاصل ہو رہا تھا عیسائی اس عرصہ میں قشتالہ کے علاقہ پر قابض ہو گئے تھے جسے مسلمانوں نے فتح کیا تھا پھر اس کے بعد ہوا جو کچھ ہوا۔

ہمارے نزدیک اہمیت کے حامل صرف دو امور ہیں۔

امراول برپہلی بات یہ ہے کہ یہ شدید فسادات اس سیاسی ضعف کی طرف اولین قدم تھا جس کی بنا پر آخر کار عیسائی اندلس پر قابض ہو گئے اور افسوس اس امر کا ہے کہ بڑے بڑے مسلمان ہی اس کے ذمہ دار تھے اور اس طرح وہ اپنی بربادی کا سامان خود ہی جمع کر رہے تھے۔ لہذا وہ مسلمان اور ان کے اعوان و انصار اور قیامت تک لعنت کے سزاوار ہیں

کیونکہ انہوں نے اس امر کا انکاب کیا، جو اسلام کے لئے بڑا خطرناک تھا۔

**اثر ثانی:** دوسری بات یہ ہے کہ ابن حزم نے یہ سب کچھ چشم خود ملاحظہ کیا اور ان پر اس کے گونا گوں اثرات مرتب ہوئے۔

**پہلا اثر:** ابن حزم پر ان فسادات کا پہلا اثر یہ ہوا کہ وہ فردوس اندلس یعنی قرطبہ کی بربادی سے شدید رنج و اہم کا شکار ہوئے۔ آپ نے اپنے رسالہ میں ان آلام و محن کی تصویر کھینچی ہے۔ جب انہوں نے قرطبہ میں اپنے آبائی مکانات کی بربادی کا حال سنا تو کہا۔

”جب قرطبہ سے اُنے والے ایک شخص سے میں نے اپنے مکانات کا

حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ بلاطِ معینت قرطبہ کی غزنی جانب اس نے ہمارے مکانات

ملاحظہ کئے۔ اب ان کا نشان تک باقی نہیں اور یہ بھی بتا نہیں چلتا کہ وہ کہاں واقع

تھے فرسودگی ان پر اثر انداز ہو چکی ہے اور آبادی کے بعد اب وہ سنان ویرانہ میں

تبدیل ہو چکے ہیں پہلے مانوس تھے اور اب وحشت ناک ہیں کسی زمانہ میں خوبصورت

تھے اور اب کھنڈر ہیں۔ اب وہ مہیب گھاٹیوں کی صورت اختیار کر چکے ہیں حالانکہ

پہلے وہ جائے سکون تھے اب وہاں بھیڑیے رہتے ہیں اور جن و غول صحرائی وہاں

سنتے کھیلتے ہیں پہلے وہاں شیروں ایسے بہادر آدمی اقامت گزین تھے اور اب وحشی

جانوروں کا بسیرا ہے۔“

**دوسرا اثر:** ابن حزم نے چشم خود دیکھا کہ نصاریٰ غالب ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمان کمزور ہیں

ابن حزم ایک مومن، متقی عالم اور محدث تھے ان کا ایمان تھا کہ غلبہ اللہ تعالیٰ رسول

علیہ السلام اور اہل ایمان کے لئے ہونا چاہیے وہ جانتے تھے کہ اس کمزوری کا راز

مسلمانوں کے تشقت و تفرق اور وحدت کے فقدان میں مضمر ہے اور اس کا واحد

علاج ایک ایسی شخصیت کا وجود ہے جو مسلمانوں کے پکھرے ہوئے شیرازہ کو مجتمع

کر دے وہ جانتے تھے کہ اہل اندلس بنو امیہ کے سوا بحیثیت جموعی کسی کی اطاعت

قبول نہیں کر سکتے بربر نے پہلے اور اب ملک کو صرف برباد کیا ہے اسے فائدہ

نہیں پہنچایا لہذا وہ اس کوشش میں لگ گئے بنو امیہ سے ان کے مراسم پہلے بھی خوشگوار تھے

تیسرا امر حاکم: ابن حزم ایک معزز سیاسی گھرانہ سے وابستہ تھے لہذا انہوں نے محسوس کیا کہ

ایک قومی و دینی فریضہ ان کے ذمہ واجب الادا ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ کے

لئے درس و مطالعہ سے الگ تھلگ ہو کر اس قومی ذمہ داری کو اپنے نازک کندھوں پر لے لیں چنانچہ وہ اس کے لئے تیار ہو گئے۔

جب تقریباً ۱۸۰ھ میں ایک صالح اموی شخص بلنسیہ میں اس کام کے لئے تیار ہو گیا تو آپ اس کی حمایت و نصرت کے لئے مکر بستہ ہو گئے آپ اس کے وزیر رہے بلکہ متعدد اموی خلفاء کی مندرجات پر فائز رہے جو یکے بعد دیگرے خلافت سے سرفراز ہوئے مثلاً آپ پہلے خلیفہ عبدالرحمن المستنصر کے وزیر تھے پھر ہشام المعتد باللہ کے وزیر رہے پھر وزارت کو خیر باد کہہ کر علم کی طرف لوٹ آئے اور اس کے چشمہ سے اپنی علمی پیاس بجھاتے رہے۔

**اندلس سے اموی حکومت کا خاتمہ :-** ابن حزم مسلمانوں کے انتشار سے مالوس ہو کر سیاست سے کنارہ کش ہو گئے ۲۲۲ھ

میں اموی خلافت بھی اندلس سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئی اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا سرزمین اندلس جسے فردوس ارضی کہا جاتا تھا پارہ پارہ ہو گئی علامہ مقرئ اس کی یوں منظر کشی کرتے ہیں :-

دو کمرہ ارضی سے اموی خلافت کا خاتمہ ہو گیا مغرب میں بھی خلافت کا شیرازہ بکھر گیا طوائف الملوکی کا دور دورہ تھا بربر عرب اور موالی میں سے جو لوگ امارت و سیادت سے بہرہ ور تھے ادھر ادھر پھیل گئے اور اندلس کو آپس میں بانٹ لیا ان امراء کو ہر وقت ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی فکر دامنیگر رہتی تھی آخر کار بعض امراء سیاسی غلبہ حاصل کرتے میں کامیاب ہو گئے وہ عیسائیوں کے زیر سایہ رہتے تھے اور انہیں خراج ادا کرتے تھے مبادا وہ ان پر غالب ہو کر ان کا ملک چھین لیں کچھ عرصہ تک ان کی یہی حالت رہی یہاں تک کہ والی مراکش امیر المسلمین یوسف بن تاشفین سمندر عبور کر کے آئے اور ان سے حکومت و سلطنت چھین کر خود قابض ہو گئے، اے

جب یہ مسلمان امراء عیسائیوں کو خراج ادا کیا کرتے تھے طوائف الملوکی کے اسی دور میں ابن حزم پروان چڑھے ان امراء میں سے زیادہ مشہور سلاطین اشبیلیہ بنو عباد تھے جن کے دوسرے بادشاہ المعتضد نے ابن حزم کی تصانیف کو نذر آتش کیا قرطبہ کے بنو جہور بھی انہی میں شامل ہیں ان کا ملک آخر کار المعتمد بن عباد کی سلطنت میں مدغم ہو گیا تھا اسی قسم کے اور بھی بہت سے امراء تھے ان میں سب سے زیادہ سیاسی غلبہ بنو عباد کے حصہ میں آیا۔

لہ نفع الطیب ج ۲ ص ۵۹ طبع الرفاعی۔



## ترک سیاست کے اسباب اور ابن حزم :-

یہ تھے ابن حزم کے عہد میں اندلس کے احوال و کوائف پہلے مسلمانوں میں بڑی زبردست سلطنت و حکومت کے مالک تھے پھر فسادات ان کے سیاسی شباب میں رخنہ انداز ہو کر اس کے ضعف و انحطاط کا موجب بنے پھر مسلمانوں میں انتشار رونما ہوا اور وہ اعداء اسلام کے سامنے جھکتے پر مجبور ہوئے یہاں تک کہ عیسائی حکام کو خراج تک ادا کرتے رہے۔ ابن حزم کی وفات تک اندلس کے حالات دیگر گوں اور امن و سکون پیدا نہ ہو سکا ایسے حالات میں ابن حزم کا سیاست سے الگ ہو جانا کچھ زیادہ موجب حیرت و استعجاب نہیں عالم شباب میں آپ نے بربر کے فسادات دیکھے اور چشم خود ملاحظہ کیا کہ مسلمان امراء عیسائیوں سے مدد کے خواست گار ہو رہے ہیں ان وجوہات کی بنا پر آپ کو سیاست سے نفرت ہو گئی جب بعض اموی امراء کی امداد کر کے آپ نے سیاسی اصلاحات کا بیڑا اٹھایا تو زمانہ نے وفانہ کی ان حالات کے پیش نظر آپ نے سیاست کو خیر باد کہہ کر علم کا رخ کیا پھر چھتیس سال تک لگاتار علم کی خدمت میں لگے رہے۔

ہم قطعی طور پر یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ اگر سیاسی امور سازگار ہوتے تو ابن حزم کیا ہوتے وہ کونسا ورثہ یا ردگار چھوڑتے اور اسلام کو ان کی ذات سے کیا فائدہ پہنچتا؟

کیا اس رقت بھی وہ اتنے گراں بہا علمی آثار باقی چھوڑتے یا سیاست میں انہیں وہ مقام رفیع حاصل ہوتا جو ان کے علمی مرتبہ کے مساوی ہوتا جو اب انہیں حاصل ہوا اور انہیں وہی زندہ جاوید نام ملتا جو اب ملا۔ بلاشبہ بہتر وہی ہے جو خدا نے پسند کیا اور انہیں اسلامی خدمت کا شرف عطا کیا۔ رَبُّنَا مَنْ يَرْثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا.

## نصاری سے اختلاف کے اثرات ابن حزم پر :-

ہم دو امور کی طرف اشارہ کئے بغیر اس موضوع کلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پہلا یہ کہ اندلس میں مسلمانوں کے عیسائیوں سے اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن حزم نے بنظر غائر مختلف ادیان و مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا وہ کامل غور و خوض سے یہ سوچنے لگے کہ عیسائی مذہب میں تحریف کے وجوہات کیا ہیں عیسائیت سے پوری طرح واقفیت حاصل کرنے کے بعد آپ ان سے مصروف جدل و مناظرہ ہوئے ان کے مصادر و مواد سے آشنائی پیدا کی ان کے افکار و معتقدات سے آگاہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی اولین دعوت سے روشناس ہوئے۔

امر ثانی :- یہ طبعی بات تھی کہ ابن حزم ان امراء کو عزت و احترام کی نگاہ سے نہ دیکھتے جو نصاریٰ سے مدد کے خواستگار ہوتے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے یا ان کو خراج ادا کرتے تھے بخلاف ازہب ابن حزم ان کو حقیر تصور کرتے تھے کیونکہ انہوں نے دنیا کو آخرت، ذلت کو عزت اور گھٹیا چیزوں کو دین کے مقابلہ میں ترجیح دی یہی وجہ تھی کہ امراء آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کی کتابیں تک جلا دیں وطن عزیز پر آپ کے لئے سازگار نہ رہا اور آپ اپنی آبائی زمین میں آکر سکونت گزین ہو گئے وہاں رہتے ہوئے آپ درس و مطالعہ، تصنیف و تالیف اور علماء سے مراسلت کرنے میں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے جا ملے۔

## عصر ابن حزم کے علمی احوال و کوائف

ابن حزم کے دور میں جس قدر زیادہ سیاسی اندلس میں نشأت علمی کا ظہور ہوا۔ مناقشات کا ظہور ہوا اسی کثرت سے علوم و فنون نے رواج پایا ابن حزم کا عصر و عہد اندلس میں نہضت علمی کا دور تھا اسی دور میں بلا دانلس میں علمی تحریک اٹھی جس نے مغرب تک کو اپنے علمی افکار کی روشنی سے منور کر دیا اس دور میں بڑے بڑے اجل علماء موجود تھے جن میں بڑی جامعیت اور وسعت پائی جاتی تھی وہ اپنے مطالعہ کو فقہ ہائے اربعہ کے دائرہ تک محدود نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ادیب اور مورخ بھی تھے انہی علماء میں سے ابن حزم کے رفیق محترم ابن عبدالبر تھے اور انہی میں سے ان کے علمی معاند و مخالف ابوالولید باجی تھے اور اسی قسم کے لاتعداد علماء مر تھے جو بڑے وسیع العلم اور متنوع الفنون تھے۔

اندلس میں ایک اور لحاظ سے بھی فکری نہضت کا آغاز ہوا۔ فلسفیانہ علوم ترجمہ ہو کر مشرق سے مغرب پہنچے۔ علمی تراجم کی جو تحریک خلیفہ مامون کے عہد خلافت میں اٹھی تھی اور جو تمام یونانی علوم کو محیط تھی وہ تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے اواخر میں اندلس میں باز آ رہی تھی پھر اندلس میں ابن رشد اور ابن ماجہ ایسے عظیم فلاسفہ پیدا ہوئے ابن حزم قبل ازیں اس چشمہ علمی سے فیض یاب ہو چکے تھے جیسا کہ ان کی ان تصانیف سے معلوم ہوتا ہے جو انہوں نے خطابت منطوق اور مختلف فرقوں کی تردید میں لکھی ہیں۔ ابن حزم کی تصانیف ان علوم کی آئینہ دار ہیں جن کا ترجمہ آپ کے دور میں ہوا اور قبل ازیں جو یونانی کتب وہاں موجود تھیں۔

جب اموی خلافت کو اندلس میں استحکام نصیب ہوا اور ان کی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا تو

مشرق کے بہت سے علماء اپنے علوم کی نشر و اشاعت اور اموی خلفاء کے عطایا و ہدایا کی امید کی بنا پر اندلس کا رخ کرنے لگے وہاں پہنچ کر انہوں نے علم کا دروازہ چوہا کھول دیا اسی

طرح اندلسی فضلہ مشرقی ممالک کی سیاحت اور اخذ و استفادہ کے شوق کا رخ کرنے لگے۔  
یہ بتانا ہمارے لئے از بس ضروری ہے کہ مشرقی ممالک میں جب بعض عجمی سلاطین مسند  
اقتدار پر قابض ہوئے جو فصاحت و بلاغت سے نابلد محض تھے تو عین اسی دور میں اندلس کے  
اموی خلفاء خالص عرب تھے اور شعر و ادب کے بڑے قدردان تھے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر بعض  
شاعر تھے اور بعض بہترین فنی نثر لکھا کرتے تھے جو اعلیٰ ترین عبارات و اشارات پر مشتمل ہوتی تھی  
بہت کم اموی خلفاء ایسے تھے جو اس صفت سے بہرہ ور نہ ہوں۔

جب طوائف الملوکی کا آغاز ہوا تو ان میں سے اکثر بنو امیہ کے اتباع و انصار تھے لہذا  
وہ بھی اسی راہ پر گامزن رہے چنانچہ ان میں سے ادیب بھی تھے اور شاعر بھی، ان کے وزراء اور  
لواحقین کا بھی یہی عالم رہا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اموی خلفاء کے عہد حکومت میں علم اندلس میں پھیلا پھولا اور اس میں  
بڑی وسعت پیدا ہوئی کتابیں بڑی کثرت سے تصنیف کی گئیں، یہاں تک کہ اندلس نے اس دور  
میں گلستان علم و ادب کی حیثیت حاصل کر لی سیاسی ضعف کے باوجود علم اندلس میں باوقار رہا  
اور ریاست دانوں کی طرح اندلس میں علماء کا ستارہ غروب نہ ہو سکا۔

عبدالرحمن الناصر اور الحکم کی ادب تواریخ :- یہ ابن حزم کے عصر و عہد کی علمی زندگی کا اجمالی  
نقشہ ہے ہم تخصیص کرنا چاہتے ہیں اور تعمیم

ہیں کہ علم کی ترویج و اشاعت کا سہرا عبدالرحمن الناصر کے سر ہے جو ۳۰۰ھ سے لے کر ۳۵۰ھ تک  
کامل پچاس سال اندلس پر حکمران رہا اور امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب ہوا۔ جب کہ بغداد میں  
عباسی خلفاء کا ستارہ غروب ہو رہا تھا الناصر سے بھی زیادہ علمی خدمت کا موقع اس کے ہاتھ لگا  
کو بلا جو اس کے بعد تخت خلافت پر متمکن ہوا تھا الحکم کا علم کی طرف متوجہ ہونا بعینہ مامون کی  
توجہات علمیہ کی مانند ہے۔

الحکم نے مشرقی ممالک سے علماء کو بلایا لائبریریاں قائم کیں مشرقی ممالک میں جو کتابیں تصنیف  
ہوئی تھیں انہیں منگوا یا علامہ مقرئ الحکم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

» الحکم کو علم سے بڑی محبت تھی وہ علماء کی بڑی قدر کرتا تھا مختلف علوم و  
فتون میں اس نے اس قدر کتابیں جمع کیں کہ کوئی بادشاہ نہ کر سکا ابن حزم کا  
قول ہے کہ تلید الحفی دار بنی مروان کی لائبریری کا محافظ تھا اس نے مجھے

بتایا کہ جن فہرستوں میں کتابوں کے نام درج تھے ان کی تعداد چوبیس تھی ہر فہرست بیس اوراق پر مشتمل تھی، ان میں کتابوں کے ناموں کے سوا اور کچھ نہ تھا، الحکم نے علم اور اہل علم کے لئے ایک منڈی قائم کر رکھی تھی جس میں خرید و فروخت کی گرم بازاری رہتی تھی ملک کے ہر گوشہ سے وہاں سامان فروخت کے لئے آتا تھا،

ابو محمد بن خلدون کا بیان ہے کہ خلیفہ الحکم اطراف ملک میں تاجروں کو کتابیں خریدنے کے لئے بھیجا کرتا تھا اور اس مقصد کے لئے بہت سامان انہیں دیا کرتا تھا نتیجہ کے طور پر انڈس میں اتنی کتابیں جمع ہو گئیں کہ کبھی نہ ہوتی تھیں۔

ابوالقرج اصفہانی سے جو اموی خاندان سے وابستہ تھے کتاب الاغانی خریدنے کے لئے ہزار دینار زر نقدان کی طرف بھیجا چنانچہ اصفہانی نے عراق میں کتاب ظاہر کرنے سے پیشتر اس کا ایک نسخہ خلیفہ الحکم کو بھیج دیا۔ قاضی ابوبکر ابہری مالکی نے جب مختصر ابن عبدالحکم کی شرح لکھی تو الحکم نے ان سے بھی یہی سلوک کیا۔ الغرض تاریخ میں دسیوں ایسے واقعات مذکور ہیں الحکم کے دربار میں بڑے ماہر خوش نویس اور جلد ساز جمع ہو گئے تھے انڈس میں علمی کتب کی وہ بھرمار ہوئی کہ نہ پہلے ہوتی تھی اور نہ بعد میں ہو سکی تھی

خلیفہ الحکم کی لائبریری :- یہ عدیم المثال لائبریری جو لاتعداد کتب پر مشتمل تھی اور جس کے متعلق ابن خلدون فرماتے ہیں کہ الحکم سے قبل اور بعد کبھی

ایسی لائبریری قائم نہ ہو سکی۔ یہ ضروری ہے کہ ابن حزم کو اس چشمہ علمی سے استفادہ و انتفاع کا موقع ملا ہو گا یہ عظیم لائبریری علوم عربیہ اسلامیہ اور شرق و غرب میں پائے جانے والی تمام کتب پر مشتمل تھی ابن حزم نے یقیناً انہیں پڑھا بلکہ لکھ لیا ہو گا اسی علمی غذا کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے زندہ

لے قاضی ابوبکر ابہری مالکی فقیہ تھے اور عراق میں سکونت رکھتے تھے یہ ورع و تقویٰ میں یگانہ روزگار تھے، ان کو منصب قضاء پر فائز ہونے کے لئے کہا گیا تھا مگر انہوں نے یہ پیش کش مسترد کر دی ان کا انتقال ۳۵۰ھ میں ہوا۔

اے محمد بن سعید اللہ بن حکم مالکی فقیہ تھے۔ انہوں نے تلامذہ امام مالک سے مالکی فقہ کا درس لیا۔ امام شافعی کے سامنے زانوئے تلمذتہ کر چکے تھے۔ جب امام شافعی فوت ہو گئے باقی ۱۶۶ پر۔

جاوید تصانیف کی صورت میں اپنی لازوال یادگار باقی چھوڑی۔  
ہمارا خیال ہے کہ بلاشبہ ابن حزم اس مکتبہ سے آگاہ تھے اور وہ ان کے زیر تصرف تھا  
کیونکہ ۳۹۹ھ سے ۴۰۳ھ تک قرطبہ میں جو فسادات رونما ہوئے یہ لائبریری ان ایام میں  
جوں کی توں تھی۔

ابن خلدون لکھتے ہیں:-

”یہ کتابیں قرطبہ کے محل میں محفوظ رہیں اور بربر کے محاصرہ کے زمانہ  
میں ان میں سے اکثر فروخت کر دی گئیں۔ منصور بن عامر کے حاجب و امخ نامی  
نے ان کتابوں کو باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ جب بربر قرطبہ میں داخل ہوئے  
تو باقی ماندہ کتابیں لوٹ لی گئیں تھے،“

خلاصہ کلام یہ کہ ابن حزم نے یہ لائبریری مشاہدہ کی تھی اور لازمی طور پر اس سے مستفید  
ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ لوٹ جانے کے بعد یہ کتب جلائی نہیں گئی تھیں بلکہ لوگ  
انہیں ادھر ادھر لے گئے تھے۔ ممکن ہے ابن حزم کے ہاتھ بھی کچھ کتابیں لگ گئی ہوں اور وہ کم بھی  
نہیں ہوں گی۔ ابن حزم نے کچھ کتابیں نقل بھی کر لی ہوں گی۔ الغرض وہ کتابیں جن معلومات پر مشتمل  
تھیں وہ بالکل رائگاں نہیں گئیں۔ کیونکہ وہ کتابیں نہ دریا میں غرق ہوئیں نہ جلائی گئیں۔

مختلف قسم کی علمی کتب اور فکر اسلامی کے ثمرات و نتائج اندلس میں  
خلاصہ کلام:- جمع ہو گئے تھے خواہ وہ علمی کتب خلفار و امراء کی لائبریریوں میں

ہوں یا لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں لوگ یکے بعد دیگرے ان کا مطالعہ کرتے اور جو چاہتے ان میں سے  
لکھ دیتے اندلس میں صرف علمی کتب ہی کی بھرمار نہ تھی بلکہ کثرت سے علماء موجود تھے جو ان کتابوں  
کو پڑھتے اور ان سے تخریج و استنباط کرتے چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں اندلس میں علماء کا  
ایک جم غفیر موجود تھا جو معقول و منقول اور علم سلف و خلف کے کسی حد تک جامع تھے اور جنہوں

بقیہ حاشیہ ۱۶۵) تو یہ مالکی فقہ کی طرف لوٹ آئے انہوں نے مالکی فقہ کی ترویج و اشاعت میں کثرت سے کتابیں  
تخریر کیں ۲۱۴ھ میں وفات پائی ان کی قبر مصر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قبر کے پہلو میں ہے۔  
۳۳ نفع الطیب ج ۳ ص ۲۴۱ طبع الرغای۔

حاشیہ صفحہ ۱۶۵ حوالہ مذکور ج ۴ ص ۲۴۳،

نے ان دیار و امصار میں بڑا اچھا علمی ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ ابن حزم نے علماء اندلس کی تعریف و توصیف میں جو رسالہ لکھا ہے وہ اندلس کے علمی ماحول کی منظر کشی کرتا ہے جو اس عظیم شخصیت کے بننے اور ابھرنے کا موجب ہوا۔ ہم اس کے چند اقتباسات نقل کرتے ہیں:-

”ہمارا ملک اندلس اگرچہ چشمہ ہائے علمی سے دور اور علماء کے مقام سے بہور ہے مگر یہاں اس کثرت سے علمی کتب تصنیف ہوئی ہیں کہ جن کا فارس اور ہوا نہ دیار مضرو ربیعہ، یمن اور شام میں تلاش کرنا دشوار ہے حالانکہ وہ علاقے علم کے مرکز و محور اور ارباب علم کے مستقر و مسکن یعنی عراق سے بہت قریب ہیں اے“

پھر ابن حزم مشرقی علماء اور اندلس کے فضلاء کے مابین موازنہ کرتے ہیں اور ان کی تصانیف کو بھی تقابلی نقطہ نظر سے جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مشرق میں کوئی ایسا قابل شخص نہیں گزرا جو مشرق کے لئے سرمایہ افتخار ہو مگر اندلس میں اس کا نظیر و مثیل ضرور ہو گا جو اس کے لئے موجب فخر ہو گا مثلاً امام بخاری رح مشرق میں ہوئے اندلس میں ان کے ہم پلہ یعنی بن مغلہ میں اسی طرح مشرق میں امام مزنی کے تلمیذ فعال شافعی ہوئے ان کے مقابلہ میں اندلس میں مزنی کے شاگرد قاسم بن محمد ہیں امام مزنی، امام شافعی کے شاگرد تھے۔ ابن حزم اسی طرح مقابلہ کئے جاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری، چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں اندلس میں علماء کی ایک جماعت موجود تھی جنہوں نے اندلس میں ایسا علمی ماحول پیدا کر دیا تھا جو عراق کے مرکز علمی سے کسی طرح کم نہ تھا جیسا کہ ابن حزم کا بیان ہے۔

سابقہ بیانات اس حقیقت کے آئینہ دار ہیں کہ ابن حزم ایک سایہ دار تناور درخت کی طرح تھے جس نے علم کی آغوش میں تربیت پائی علم کی کان میں پلے بڑھے اسی فضاء میں غذا پائی اس سے واضح ہوتا ہے کہ ابن حزم کو علم و معرفت کے اسباب مکمل طور پر حاصل ہو گئے تھے بچپن میں علماء کی صحبت سے مستفید ہوئے مخزن علم میں جیلائے اور اپنے علم و فضل کے پختہ علمی نتائج و ثمرات گراں قدر تصانیف کی صورت میں پیش کئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ علمی مرتبہ کیونکر پایا آپ نے فرمایا،

”میں علم کی کان میں رہا اور ایک عالم کی صحبت سے مستفید ہوا،“

ابن حزم کی بھی یہی حالت تھی، امرکز علمی میں پروان چڑھے اور یچین کا زمانہ علمبرکبار کی صحبت میں گزارا۔ ہم آپ کی داستانِ حیات کا ذکر کرتے ہوئے اس علمی ماحول کا تذکرہ کر چکے ہیں جس میں آپ نے اپنا یچین گزارا اور بڑے ہو کر اس سے مستفید ہوئے لہذا ہم ان واقعات کا اعادہ نہیں کرنا چاہتے۔



## عصر ابن حزم کے اجتماعی حالات

ابن حزم کا معاشرہ ہمارے لئے ابن حزم کے معاشرہ کا مختصر تذکرہ ناگزیر ہے کیونکہ ابن حزم کی بعض تصانیف کا مواد ان کے معاشرہ سے ماخوذ ہے مثلاً ان کی کتاب طوق الحمامہ اندلسی معاشرہ کی عکاسی کرتی ہے اس کے اکثر و بیشتر مندرجات و مضمونیات اندلسی معاشرہ کے کوائف و احوال سے مستنبط ہیں آپ پیش پا افتادہ مسئلہ یا واقعہ ذکر کرتے ہیں پھر اس کی تائید میں دوسرے واقعات بیان کرتے ہیں اخلاق و سیر کے بارے میں آپ نے جو رسالہ تحریر کیا تھا اس میں حکم و مواظبات جن کی تائید میں وہ معاشرہ کی ایسی تصویروں کا ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے پچشم خود ملاحظہ کی تھیں۔ جب آپ اخلاقیات یا عشق و عشاق پر لکھتے تھے تو ساتھ ساتھ کتاب معاشرہ کی ورق گردانی کر کے اسے بھی مطالعہ کرتے جاتے تھے۔

ابن حزم اپنے معاشرہ میں صورتِ انسانی کی صحیح تصویر تھے چونکہ ہر معاشرہ میں فضائل بھی ہوتے ہیں اور رذائل بھی یالیوں کہیے کہ معاشرہ میں کچھ احساسات ایسے پائے جاتے ہیں جو جادہ مستقیم سے بھٹک کر حرام میں بڑتے ہیں اور کچھ اعتدال کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں اور فضیلت کی راہ سے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے۔ خدا کی حلال کردہ اشیاء کی تحریم کا ارتکاب بھی نہیں کرتے وہ اس آیت قرآنی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔

”قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي

اُخْتِجَ بِعِبَادِهِ“ (الأعراف - ۳۲) کی ہے اسے کس نے حرام قرار دیا ہے؟

ابن حزم کا تعلق انسانوں کی اس قسم سے تھا جن کا دل احساساتِ حسن و جمال سے لبریز ہوتا ہے مگر وہ حلال کے دائرہ میں محدود رہتے تھے۔ اور محرمات سے مجتنب رہے بلکہ حق و شرع سے آگے بڑھنے کی جرأت نہ کرتے وہ اپنی کتاب طوق الحمامہ میں قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ حرام کاری کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ گویا آپ ہر حال میں مومن متقی اور پاکباز رہتے تھے اس سے واضح ہوا کہ ابن حزم اس معاشرہ میں جو خواہشاتِ نفسانی اور تند و تیز عواطف و احساسات سے ٹھاٹھیں

مار رہا تھا ابن حزم عظمت و فضیلت انسانی کی صحیح اور سچی تصویر تھے۔

مزید برآں ہمارے لئے ابن حزم کے معاشرہ کی عکاسی کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ ان کے معاشرہ میں اگر مختلف عناصر کا باہمی امتزاج نہ ہوتا اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے باہم گہرے روابط و تعلقات نہ ہوتے جو بعد میں افکار و معتقدات میں جدل و مناظرہ کا باعث بنے تو ابن حزم ان موضوعات پر لکھنے سے قاصر رہتے جن پر انہوں نے خامہ فرسائی کی ابن حزم کی تصانیف اس جدل و بحث کی آئینہ دار ہیں جو ان کے دور و عصر میں رائج تھا۔

بنابریں اس معاشرہ کا ذکر و بیان بے حد اندلس میں مختلف عناصر کا امتزاج ضروری ہے جس نے ابن حزم کے خوابیدہ

افکار و آراء اور احساسات کو بیدار کر دیا اور انہیں ایسا مصنف بننے میں کامیابی نصیب ہوئی جو فخر و عقائد پر لکھنے کے ساتھ ساتھ حسن و عشق کے بارے میں بھی خیال کرتا تھا اندلسی معاشرہ کے سمندر میں اس وقت مختلف عناصر موج زن تھے جو اگرچہ ایک جگہ جمع ہو گئے تھے مگر ہر ایک اپنی جداگانہ اصلیت و خصوصیت کا حامل تھا ان میں خاص عرب بھی تھے جن کی تہذیب و لغت خیالات اور اسلوب بیان کا سکھ اندلس میں جاری تھا یہی وجہ ہے کہ اندلس کا ملک ایک ادبی و فکری وحدت کی لڑی میں پروردیا ہوا تھا اور اس کی وحدت کا راز اسی رفیع زبان میں مضمر تھا جسے قرآن کریم کی زبان ہونے کا شرف حاصل ہے۔

اندلس میں بربر بھی تھے جن میں سے بعض نے فتوحات میں بڑا نام پیدا کیا۔ بڑے طبعاً تند مزاج تھے اور دوسروں سے نفرت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اندلس میں فسادات کو ہوا دی ان میں سے بعض بڑے شائستہ اور تہذیب یافتہ تھے جنہوں نے علم و ادب کے دائرہ میں بڑی شہرت حاصل کی اسی معاشرہ میں صقلیہ بھی آباد تھے اور اندلس کے اصلی باشندے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مسلمانوں نے جنوبی فرانس اور بحر ابیض کے جزائر میں بہت سی لڑائیاں لڑیں تھیں۔ جب واپس لوٹے تو اپنے ساتھ لاتعداد قیدی بھی لائے ان فتوحات کثیرہ کے نتیجے کے طور پر معاشرہ میں حسین و جمیل یا ندلیوں کی بڑی بھرمار ہو گئی تھی جنہوں نے اندلسی معاشرہ کو متاثر کیا اور اسے ادب عالی اور تہذیب و ثقافت سے روشناس کیا جس سے عربوں کے تند و تیز جذبات جو اب تک خوابیدہ تھے، حسن و عشق کے تصورات میں مگن ہو گئے۔ اب شعراء شعرا گوئی میں مصروف ہوئے ادیبوں نے ادبی مضامین لکھنے شروع کئے۔ انسانی جذبات و عواطف

جنگ کا اٹھے۔ جذبات کے تلام میں کچھ لوگ جاہ مستقیم پر گامزن رہے اور جذبات کے سیلاب میں بہنا گوارا نہ کیا بعض لوگوں میں ایسا لوعواطف کا یہ طوفان ایسی شدت اختیار کر گیا جسے نہ عقل روک سکی نہ فکر و نظر کی حد قیود اسے تھام سکیں اور نہ شہری احکام اس پر پابندی عائد کرنے میں کامیاب ہوئے اور وہ حد و قیود سے آزاد ہو گئے۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ عصر ابن حزم میں مسلمانوں  
باہمی امتزاج کے ثمرات و نتائج اور عیسائیوں میں باہم اختلاط واقع ہوا تھا  
 اسلامی معاشرہ میں مختلف عناصر و اقوام کے جہتی و طبعی اختلاف کے باوجود مسلمانوں اور عیسائیوں  
 کے مابین آمیزش واقع ہوئی تھی مسلمانوں اور عیسائیوں کا یہ اختلاط و امتزاج اس وقت بھی  
 قائم رہا جب دونوں میں لڑائی کے شعلے بھڑک رہے تھے حرب و پیکار کے دوران اگرچہ آلات  
 جنگ کی بھینکار سنائی دیتی رہی مگر تلواروں کی چمک و دمک سے پھپھپا کر فکری امتزاج بھی اپنا  
 کام کرتا رہا اس میں شبہ نہیں کہ لڑائیوں کے دوران حرب و ضرب سے جو نقصان پہنچا، صلح کے زمانہ  
 میں اس باہمی اختلاط کے فوائد و ثمرات برآمد ہونے لگے صلیبی جنگیں جن کے شعلوں نے مشرق و غرب  
 کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس سے یورپین لوگوں کو یہ فائدہ پہنچا کہ وہ مشرق کے نور و عرفان  
 سے منور ہوئے نور و معرفت کا جو ذخیرہ یورپین اقوام نے مشرق سے حاصل کیا تھا اس کے  
 بل بوتے پر یورپ میں ایک ایسی تحریک کا آغاز ہوا جس میں یورپین اقوام مشرق سے حاصل کردہ  
 نور و معرفت کی روشنی میں زندگی کی اس شاہراہ پر گامزن ہوئے جو ان کے مناسب حال تھی اور  
 یہ مادہ پرستی کی راہ تھی جس کے تصورات ہر وقت ان پر پھلے رہتے تھے۔

تصادم حرب و ضرب کے علاوہ بھی مسلمان عیسائیوں سے ملنے رہتے تھے نصاریٰ قسطنطنیہ  
 اور دیگر قریبی عیسائی علاقوں سے وفد کی صورت میں وارد اندس ہوتے تھے علاوہ ازیں عیسائی  
 ذمئی ہونے کی حیثیت سے اندس میں آباد تھے اور انہیں مسلمانوں کی طرح شہری حقوق حاصل  
 تھے یوں بھی اسلامی عدل و انصاف کا دامن سب کے لئے کھلا ہوا ہے کسی وقت اگر کوئی ظالم  
 حاکم برسر اقتدار ہوتا تو اس سے مسلمانوں اور عیسائیوں کو یکساں طور پر تکلیف کا سامنا ہوتا  
 تھا جب مسلمان حکام اندس میں سیاسی ضعف کا شکار ہوئے تو مسلمانوں اور عیسائیوں میں  
 اختلاط پہلے کی نسبت بڑھ گیا مسلمان بعض اوقات عیسائیوں سے امداد طلب کرتے  
 بعض اوقات انہیں خراج دیتے۔ خلاصہ یہ کہ ان کا باہمی اختلاط بہت بڑھ گیا تھا اگرچہ  
 یہ میل جول اسلام اور اہل اسلام کے حق میں چنداں مفید نہ تھا مسلمانوں اور عیسائیوں کے

باہم میل جول کا نتیجہ فکری و جدلی ربط و تعلق کی صورت میں نمودار ہوا اور اس کے ثمرات تصانیف ابن حزم پر بھی نمایاں ہوئے جیسا کہ ہم قبل ازیں تحریر کر چکے ہیں۔

مختلف اور متنوع اقوام و عناصر کے امتزاج سے  
اہل اندلس کی خصوصیات :-

ایک ایسا مرکب تیار ہوا جس میں بہترین عناصر بھی تھے اور شدید و عقیف بھی اندلس میں مختلف عناصر سے مرکب ہو کر ایسے طبقہ نے جنم لیا جس میں ضعیف و قوی ہر طرح کے عناصر و عوامل پائے جاتے تھے ساکنان اندلس اس اختلاف سے زیادہ قریب تھے اور عقل و فکر کے اعتبار سے بھی وہ دوسرے لوگوں کی نسبت ممتاز تھے جب اندلس میں سیاسی ضعف و انتشار انتہا کو پہنچا ہوا تھا اس وقت تہذیب و ثقافت اپنے تمام انواع و اصناف کے اعتبار سے اندلس میں معراج کمال پر پہنچی ہوئی تھی اس دور میں ادب کو وہ ترقی نصیب ہوئی کہ کبھی نہ ہوئی تھی فلسفہ پھلا پھولا اور دیگر علوم و فنون اکناف ارضی میں اشاعت پذیر ہوئے۔

جب سکان اندلس مختلف خالوادوں سے تعلق رکھتے تھے تو ان میں خاندانی خصوصیات کا وجود ناگزیر ہے۔

علامہ مقبری نفع الطیب میں اہل اندلس کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

” باشندگان اندلس نسباً بھی عرب تھے اور ان میں عربوں کی قومی خصوصیات مثلاً عزت و غیرت، عالی ہمتی، فصاحت و بلاغت، پاکیزگی، طبع، خودداری، ذلت کا عدم قبول جو دو سخاوت، فخر و غرور اور دناوت و کمینگی سے بعد و اجتناب بھی پائی جاتی تھیں، اندلس کے باشندے ہندی لوگوں کی طرح علوم کے ضبط و اتقان اور ان کی نقل و روایت سے برطی حجت رکھتے تھے نظافت و ظرافت، لطافت، اخلاق، ذہانت و فطانت، حسن نظر، جودت، طبع، لطافت، اذہان اور تیزئی افکار میں بغدادیوں کی طرح تھے، یونانیوں کی طرح انہیں چشمہ ہائے آب و باغات، ثمرات و فواکہ، طرح طرح کی سبزیات اور گلہائے رنگارنگ سے باغات کو آراستہ و پیراستہ کرنے کا بے حد شوق تھا، زمینداری سے برطی

واقفیت رکھتے تھے۔ صناعات و اعمال کی تجویز و تجویز میں وہ تکلیفات کو گوارا کر سکتے تھے، وہ بڑے شہسوار ہوتے تھے اور طعن و ضرب میں بڑی مہارت رکھتے تھے صنعت و حرفت اور آلات کے بنانے میں وہ چینی لوگوں کی طرح ماہر تھے۔ جنگی آلات و شدائد جنگی آلات کے استعمال اور فوجی مہمات کے ضبط و تنظیم میں وہ ترکوں ایسی چابکدستی رکھتے تھے۔

یہ اندلسی اقوام و جماعات کی خصوصیات ہیں  
اندلس میں علوم و فنون کی فراوانی :- معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہر طبقہ کسی خاص فن

میں مہارت رکھتا تھا اس کے یہ معنی نہیں کہ اندلس کا ہر فرد ان صفات کا حامل تھا، بلکہ ہر خصوصیت کسی ایک قوم کے ساتھ مختص تھی بعض لوگ باغبانی میں بڑا کمال رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اندلس میں ایسے پھلدار درخت پائے جاتے تھے جو ہمیشہ پھل آور رہتے۔ اندلس کے شہر باغات سے آراستہ و پیراستہ تھے اور اسے فردوسِ ارضی کہا جاتا تھا یہ فردوس ارضی خوب پھلا اور پھولا اس میں انواع و اقسام کے پھل میوے پائے جاتے تھے۔ اندلس میں ایسے کاریگر معمار پائے جاتے تھے جو محلات تعمیر کرتے اور سر بفلک عمارتیں استوار کیا کرتے تھے جن کی بناء پر وہاں ہر طرح کی سہولیتیں مہیا تھیں۔ پھر اندلس میں علم دین کے وارث علماء پیدا ہوئے اور وہ بھی جنہوں نے یونانی علوم و فنون کو ورثہ میں پایا۔ فلسفہ کو حیات نو بخشی اور یورپ کو اس سے بہرہ ور کیا۔

اسی طرح اندلس میں اقوام و عناصر کا وہ معجون مرکب تیار ہوا جس سے تہذیب و حضارت کو چار چاند لگ گئے۔ علوم و فنون نے دوبارہ زندگی پائی۔ سیاست اس دور میں رو بڑوال تھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی انحطاط اور اموی خلافت کے بعد طوائف الملوکی کے اس دور میں علم کو ارتقاء نصیب ہوا۔ ذوق و فن پھلے پھولے۔ دینی، لسانی اور صناعتی علوم کو معراج کمال حاصل ہوا۔

عربی زبان ذریعہ اتحاد و یگانگت :- عربی زبان نے اندلس کی مختلف اقوام کو ایک

کر دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اہل اندلس کی زبان بڑی فصیح و بلیغ تھی اور عظمت اس پر اثر انداز نہ ہو سکی تھی۔ ابو علی القالی جو عبدالرحمن الناصر کے عہد خلافت میں اندلس گیا تھا وہاں کی عربی زبان کے بارے میں لکھتا ہے :-

”میں قیردان پہنچا تو میری حالت یہ تھی کہ جس علاقہ میں سے گزرتا وہاں کے رہتے والوں کو تہنظر ٹاڈ دیکھتا۔ حسن عبادت اور قلت فہم کے اعتبار سے اہل اندلس کے مختلف درجات تھے۔ مہتمدن مقامات اور شاہراہوں سے قرب و بعد کے اعتبار سے ان کے علمی مدارج جداگانہ نوعیت کے تھے۔ میں نے سوچا کہ جن لوگوں کو میں دیکھ چکا ہوں ان کے مقابلہ میں اگر اہل اندلس کا فہم و شعور اتنا کم ہوا جتنی کمی کہ ان میں سابقہ لوگوں کی نسبت سے پائی جاتی ہے تو مجھے ایک ترجمان کی ضرورت لاحق ہوگی ابن بسام کہتے ہیں کہ علامہ قالی نے اہل اندلس کی فطانت و ذکاوت پر اظہار تعجب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے علامہ قالی اہل اندلس کے مناظرہ و مناقشہ سے جی چراتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا علم روایت پر مبنی ہے اور روایت پر نہیں لہذا میں جو بات نہیں بتاؤں وہ لے لیا کرو لے“

ان دنوں افکار و آراء کا ذریعہ اظہار صرف عزنی زبان تھی اس دور کی کتابیں خشک علمی زبان میں نہیں لکھی گئی تھیں بلکہ جو علوم و فنون ان کتابوں میں درج تھے اور ابھی تک ہمارے پیش نظر ہیں وہ سلامت تعبیر اور عمدگی تصویر میں ممتاز ہیں۔ اس کی حد یہ ہے کہ علوم، فقہ، اصول اور فن تجوید و قرأت پر مشتمل کتابیں بھی علمی تحقیق کے باوجود حسن زبان و خوبی تعبیر و بیان کا منظر ہیں ان کا پایہ گویا خشک علمی زبان اور خالص ادبی اسلوب بیان کے درمیان ہے۔ اندلس میں جو کتابیں پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں تصنیف ہوئیں اگر ان کا موازنہ اسی دور کی مشرقی تصانیف سے کیا جائے تو دونوں اسلوبوں کے مابین بڑا واضح فرق محسوس ہوگا۔

وہ اندلس کا ایسا اجتماعی دور تھا کہ کرہ ارضی  
ارض اندلس کی صاحب علم خواتین کے کسی حصہ کو نصیب نہ ہو سکا اس دور

میں کثرت سے شاعر اور ادیب خواتین منصبہ شہود بر آئیں قاری جب ان مستورات کے علم و فضل سے آگاہ ہوتا ہے تو سوچنے لگ جاتا ہے کہ ساکنان اندلس کتنے باذوق اور لطیف مزاج تھے کہ وہاں کا ہر شخص شاعر اور انشا پرداز تھا آدمیوں کی طرح عورتیں بھی بڑی لغزگو شاعر تھیں یہاں تک کہ شعراء کی طرح اس دور کے محدثین اور فقہاء بھی شعر کہا کرتے تھے الغرض

ہرفن کے جاننے والے موجود تھے جو اس فن میں ماہرانہ بصیرت رکھتے تھے اور وہ خاص صنعت  
انہی کا حصہ ہو کر رہ گئی تھی۔

اس سے بڑھ کر اس دور میں بہت سی ایسی باندیاں بھی تھیں جو شعر گوئی میں مہارت  
رکھتی تھیں جدید علوم وضع کرتیں اور اس مہارت سے اس میں کلام کرتیں کہ اس فن میں ان کا  
متخصص ہونا معلوم ہوتا تھا لفتح الطیب میں ایک خود ان لوندی کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے  
ہیں:-

دان خواتین میں سے ایک عروض دان عورت تھی جو ابوالمطرف عبدالرحمن بن  
غلیون الکاتب کی آزاد کردہ کبوتر تھی اور بلنسیہ میں اقامت گزین تھی اس نے اپنے  
آقا سے نحو و لغت کے علوم پڑھے تھے مگر عروض میں اسے خصوصی مہارت تھی اسے  
الکامل للمیرد اور النوادر للقالی ایسی ضخیم کتب زبانی یاد تھیں اور وہ ان کی  
تشریح کیا کرتی تھی ابو داؤد سلیمان بن نجاح کہتے ہیں میں نے اس سے دونوں کتابیں  
پڑھیں اور علم عروض بھی سیکھا۔ اپنے آقا کے بعد اس نے تقریباً ۵۰ سالہ میں  
وفات پائی لے،

جب عورتیں علوم ادب و لغت میں اس قدر ماہرانہ بصیرت رکھتی تھیں تو اس میں ذرا  
بھرتعجب نہیں کہ ابن حزم نے بچپن میں خواتین سے علمی استفادہ کیا ہو۔

خلیفہ عبدالرحمن الناصر کا ایک واقعہ:- اس دور میں حسن ذوق اور نفاست اقوال  
و افعال اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا خلفاء و امراء کے محلات میں ایسی لوندیوں کو بڑی قدر کی نگاہ  
سے دیکھا جاتا تھا ابن حزم کی کتاب طوق الحمامہ ان شعر شناس لوندیوں کی حکایات سے لبریز  
ہے جنہوں نے اجتماعی زندگی پر اثر ڈالا۔

مورخ مقری لفتح الطیب میں لکھتے ہیں:-

» امیر عبدالرحمن الناصر سے جو عجیب ترین حکایت بیان کی گئی ہے وہ یہ  
ہے کہ ایک مرتبہ اس نے فصد کرنا چاہا اس مقصد کی بناء پر وہ ایک مجلس کبیر  
میں اپنے محل کے صحن میں بیٹھ گیا۔ طبیب کو بلایا وہ ضروری آلات لے کر آ گیا

اور خلیفہ الناصر کے ہاتھ کو ٹٹولنے لگا اسی اثنا میں ایک پرندہ آکر سونے کے  
برتن پر بیٹھ گیا اور یہ شعر پڑھنے لگا۔

أَيُّهَا النَّاصِرُ بِفَقْأِ بَامْنِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  
إِنَّمَا تَفْصِدُ عِرْدًا فِيهِ مَحْيَا الْعَالَمِينَ

(امیر المؤمنین پر دراز می کرنا۔)

تم ایسی رگ کا فصد کر رہے ہو جس میں سب جہاں کی زندگی مضمر ہے) اس  
نے کئی مرتبہ یہ اشعار دہرائے عبدالرحمن الناصر کو یہ ادا بہت پسند آئی وہ بہت  
خوش ہوا اور دریافت کیا کہ یہ اشعار کس کے ہیں، تب خلیفہ کو بتایا گیا کہ الیڈہ  
الکبریٰ مرجانہ نے یہ اشعار کہے اور اس پرندہ کو سکھائے لے،

اس دور میں لوندیوں کی یہ کثرت ان کی تہذیب و ثقافت اور معاشرہ میں عام طور سے  
ان کا ظہور و بروز اس امر کا آئینہ دار ہے کہ مستورات عام طور سے چلتی پھرتی تھیں اور دیکھنے  
والے انہیں دیکھا کرتے تھے ابن حزم کی کتاب طوق الحمامہ اس کی شاہد عدل ہے طوق الحمامہ  
میں ایسے فضلاء کے واقعات مذکور ہیں کہ راستہ میں کسی لوندی کو دیکھ کر اس کے عشق کے جال  
میں گرفتار ہو گئے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمرنی خواتین بلکہ اموی خاندان کی عورتیں غزل کہا کرتی  
تھیں۔ عاشقانہ کلام کی دلدادہ تھیں وہ شعر میں ہویا نثر میں خلیفہ المستکفی کی بیٹی ولادہ غزل کہا کرتی  
تھی بلکہ ایسے اشعار کہا کرتی تھی جو دین پسند لوگوں کی نگاہ میں غزل سے بھی شدید تر ہیں اور ہم  
انہیں اپنی کتاب میں تحریر کرنا پسند نہیں کرتے ولادہ کے متعلق صرف یہی بات بتانا کافی ہے  
کہ اس نے اپنی دائیں جانب کپڑے کے دامن پر آب زر سے یہ شعر کندہ کر رکھا تھا

أَنَا وَاللَّهِ أَصْلَحُ لِلْعَالَمِ  
وَأَمْشِي مَشِيَّتِي وَأَيْتُهُ مِثْلَهَا

(میں کاروائے نمایاں کی صلاحیت سے بہرہ ور ہوں اور متکبرانہ انداز سے مشک  
مشک کر چلتی ہوں۔)

بائیں پہلو پر یہ شعر تحریر تھا۔

وَأَمْشِي مَشِيَّتِي مِمَّنْ صَفَحَ خَدِّي  
وَأَعْطَى قَبْلَتِي مَنْ يَشْتَهِيهَا

دیں عاشق کو اپنے رخسار پر قادر کر دیتی ہوں اور جو چاہتا ہے میں اسے اپنا بوسہ دے

دیتی ہوں۔)



مورخ مقرر کہتا ہے کہ بایں ہمہ وہ پاک دامن اور عقیف خاتون تھی۔

یہ امر ذرا بھر تعجب خیز نہیں کہ ولادہ عقیف  
ہونے کے باوجود شعر کہتی ہو جو ہم نے

اندلس میں علمی کتب کی افراط :-

ابھی ذکر کئے یا جن کا ذکر کرنے سے احتراز کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کی زندگی میں  
مختلف و متنقض مظاہر پائے جاتے تھے آپ جانتے ہیں کہ قرطبہ دینی شعائر کی ادائیگی  
کے اعتبار سے بھی بہترین شہر تھا۔

مورخ مقرر کہتے ہیں :-

» قرطبہ کے محاسن میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہاں کے رہنے والے بڑے  
خوش پوش متدین اور نمازی تھے وہ جامع اعظم کے بڑے قدر دان تھے جہاں  
شراب کے برتن دیکھتے توڑ ڈالتے، منکرات و فواحش کو چھپائے رکھتے خاندانی  
نجابت فوجی ہونے اور علم کو سرمایہ افتخار قرار دیتے۔ جملہ بلاد اندلس کے مقابلہ  
میں قرطبہ کثرت کتب کے اعتبار سے فائق تھا یہاں کے لوگ لائبریریوں کی بڑی  
حفاظت کرتے لائبریریوں کا قیام وہاں امارت و ریاست کے لوازم میں سے تھا۔  
وہاں کے رؤساء کتابوں سے نابلد محض ہونے کے باوصف صرف اسی لئے لائبریریاں  
قائم کرتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں کے یہاں لائبریری ہے اور اس کے پاس ایسی  
کتاب موجود ہے جو کہیں نہیں۔ یا یہ کہ فلاں کتاب جو فلاں کے ہاتھ کی تحریر کردہ ہے  
اس کے پاس موجود ہے۔

حضرمی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں قرطبہ میں سکونت گزین ہوا۔ اور کتابوں  
کی منڈی میں مقیم رہ کر ایک کتاب کا منتظر رہا جس کی مجھے سخت ضرورت تھی۔ یہاں  
تک کہ وہ کتاب منڈی میں آگئی۔ کتاب بڑی خوشخط تھی اور بہترین شرح و تفسیر  
کی حامل تھی۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی نیلامی شروع ہوئی۔ میں کتاب کی قیمت بڑھاتا  
رہا دوسرے خریدار اس پر مزید اضافہ کر دیتے یہاں تک کہ اس کی قیمت بہت  
بڑھ گئی میں نے فروخت کنندہ سے کہا ذرا مجھے وہ شخص دکھائیے تو جو اس کی قیمت  
بڑھاتا جا رہا ہے اس نے مجھے ایک شخص دکھایا جو ریشمان لباس زیب تن کئے تھا  
میں اس کے قریب آیا اور کہا اے ہمارے سردار فقیر! خدا آپ کو عزت دے اگر

اگر آپ کو کتاب کی ضرورت ہے تو میں آپ کی خاطر اسے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس کی قیمت اب بڑھ گئی ہے وہ بولامیں فقیہ نہیں ہوں میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ البتہ میں نے ایک لائبریری قائم کر رکھی ہے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اٹالیان شہر میں مجھے وقعت کی نگاہ سے دیکھا جائے میری لائبریری میں صرف ایک کتاب کی جگہ خالی ہے جو اس سے پر ہو جائے گی۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کتاب کا خط بڑا عمدہ اور جلد نفیس ہے تو اسے پسند کیا اور قیمت کی کچھ پروا نہ کی خدا کا دیا ہوا رزق میرے پاس بہت ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے،

دینی شعائر کے قیام منکرات و فواحش کو چھپانے  
شراب کے برتنوں کو توڑنے اور لائبریریاں قائم

### قرطبہ کی تفریح گاہیں :-

کرتے کی مساعی جمیلہ کے پہلو یہ پہلو انڈس کی تفریح گاہوں میں منکرات و فواحش اور لغو گوئی بھی زوروں پر تھی مگر اس کی طرف اشارہ کر کے عبرت پذیری اور چشم حق واکرے کا مشورہ دیتے ہیں۔

وہ لکھتے ہیں :-

” قبل ازیں اس سلسلہ میں جو کچھ تحریر کر چکا ہوں میں فتح نامی راوی کی زبان سے قرطبہ کی سیر گاہوں اور محافل عشق و محبت کا کچھ مزید تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کو دیکھ کر طبیعت میں بڑی بشاشت پیدا ہوتی تھی قرطبہ اور زہرا کے علاوہ دیگر مقامات کا ذکر تبعا آ گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا ذکر و بیان عبرت پذیری کا موجب ہے جنہوں نے تفریح طبع کی خاطر موسم گرما و موسم بہار گزارنے کے لئے علیحدہ علیحدہ تفریح گاہیں قائم کر رکھی تھیں۔ پھر زمانہ نے ان کا نامہ ہی لپیٹ دیا اور ان کے عالی قدر علامات و آثار کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ان واقعات کو ذکر کرنے سے ہمارا مقصد عبرت دلانا ہے نہ کہ

لے نفع الطیب ج ۴ ص ۱۱۳، ۱۱۴ طبع الرفاعی

لے کتاب مذکورہ ص ۵ ص ۱۱۹، ۱۲۰ - ۲۲ -

حرمات کی تسہیل و ترغیب اور اعمال کا انحصار نیت کے حسن یا قبح پر ہے لہذا  
 خلاصہ کلام یہ کہ اندلس میں دینی جدوجہد اور فواحشات کو پس پردہ رکھنے کی کوششوں کے دوش  
 بدوش تفریح گاہوں میں لہو و لعب کا بھی عام چرچا تھا بلاشبہ یہ مختلف اقوام و عناصر سے مرکب معاشرہ  
 کا مظہر تھا جس میں حضارت ہائے گونا گوں اور ثقافت ہائے بولمہون باہم گھل مل گئی تھیں اور عربی  
 زبان نے ان کی شیرازہ بندی کر رکھی تھی تاہم بایں ہمہ وحدت و یگانگت اجتماعیات کے مختلف گوشوں  
 میں ان مختلف و متضاد عناصر کے اثرات نمایاں تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عزائم و مقاصد میں اتحاد پایا جاتا  
 ہو تو افکار و نظریات اور سیاسیات میں وحدت پیدا کرنا چنداں دشوار نہیں البتہ نفوس انسانی کے  
 مابین وحدت و یگانگت پیدا کرنا اور انہیں ایک مسلک پر لانا بہت دشوار کام ہے۔

ابن حزم اس قرطبہ میں پروان چڑھے جس کی سیرگاہیں اور  
 تفریحی مقامات دیگر بلادِ اندلس کی طرح لہو و لعب کا

### خلاصہ بیانات سابقہ

مرکز تھے اور جن میں حلال کے ساتھ حرام بھی ملا جلا ہوا تھا اس کے پہلو بہ پہلو وہاں سنجیدگی  
 و متانت کے مظاہر بھی دیکھنے میں آتے تھے مثلاً دینی شعائر کا احترام کیا جاتا تھا منکرات کا  
 ارتکاب اعلانیہ نہیں کرتے تھے اور اگر شراب کہیں دیکھنے میں آتی تو اس کے برتن توڑ پھوڑ دیتے تھے  
 اندرون خانہ اگر شراب استعمال کر لی جاتی تو اس کے لئے کوئی سزا مقرر نہ تھی۔ ابن حزم نے تہذیب  
 و حضارت کے اسی دور میں پرورش پائی اور اس سے متہمت ہوئے اس کے ساتھ ساتھ علمی مجالس میں  
 بھی جاتے مسجدوں میں حاضری دیتے درسِ حدیث میں شریک ہوتے بلاشبہ آپ کا خاندان کتابیں  
 جمع کرنے کا اہتمام بھی کرتا ہوگا جیسا کہ خوشحال طبقہ میں عام طور سے دستور تھا البتہ اتنا فرق ہے کہ  
 ان کے کتبہ میں ابن حزم ایسا شخص موجود تھا جو کتابوں کو پڑھتا اور ان پر نقد و جرح کرتا تھا جب کہ  
 ان کے علاوہ دوسرے لوگ صرف تزیین و آرائش اور خانہ پُری کے لئے کتابیں جمع کرتے تھے  
 تاکہ خالی جگہ بدنام معلوم نہ ہو۔

ابن حزم نے اپنی ابتدائی زندگی کے بیس سال اسی تہذیب و حضارت میں رہ کر گزارے  
 جو تہذیب ہائے مختلفہ کی جامع تھی آپ ۳۸۴ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۳۰ھ میں قرطبہ کو تیر باد  
 کہا اس کے بعد بھی آپ گاہے بگاہے قرطبہ آتے رہے آپ جن بلادِ اندلس کی طرف منتقل ہوئے  
 تھے وہ بھی اسی قسم کے شہر تھے اگرچہ زبرد و دلع کے اعتبار سے قرطبہ سے کم درجہ تھے۔  
 بلاشبہ یہ اجتماعی ماحول ابن حزم کی ذات اور ان کے افکار و آراء پر اثر انداز ہوا۔ ان کی ذات

پہر اس کا یہ اثر ہوا کہ ان میں رقت طبع کے ساتھ ساتھ گاہے درشتی طبع بھی دیکھتے ہیں آتی۔ مگر  
 یاس ہمہ آپ غزل کہتے اور عشق و عشاق پر مضامین سپرد قلم کرتے۔ آپ کی تحریروں کا انداز اس  
 شخص ایسا ہوتا جو بذات خود گرفتار محبت رہا ہو۔ اور اس کا ذوق آشنا ہو۔ اس شخص کی طرح  
 نہیں جس نے صرف دیکھا ہو اور آزمایا نہ ہو۔ مگر آپ کی زندگی کا یہ پہلو بھی قابل ملاحظہ ہو کہ آپ  
 عمر بھر عقیقت رہے اور آپ کا دامن گناہ کی آلودگی سے ملوث نہ ہونے پایا۔

بہر کیفیت یہ معاشرہ آپ کے افکار پر اثر انداز ہوئے بغیر نہ رہا اور آپ نے درس و مطالعہ  
 نقد و موازنہ اور تحلیل و تجزیہ کے لئے اس سے بڑا مواد حاصل کیا۔ آپ کے دونوں رسالے  
 طوق الحامہ اور مدوۃ النقوس نفسیاتی مطالعہ کے ان نتائج سے لبریز ہیں جو آپ نے مختلف و  
 متضاد عناصر پر مشتمل ہونے والے اس معاشرہ سے اخذ کئے تھے۔

حق بات یہ ہے کہ اندلس کی ہر چیز ابن حزم ایسے عظیم امام اور جلیل القدر عالم دین کی  
 نگوین و تخلیق کی مقتضی تھی بشرطیکہ کوئی شخص ان دماغی صلاحیتوں سے بہرہ ور ہوتا جو ابن حزم  
 کے حصہ میں آئیں اور اسے ابن حزم ایسا سازگار ماحول ملتا۔ خوش قسمت سے یہ تمام عناصر  
 ابن حزم کے موافق و مطابق تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اندلس کے امام و فقیہ اور محی الکتا  
 والسننہ کے منصب جلیل پر فائز ہونے میں کامیاب ہوئے۔ ابن حزم کی وفات کے بعد ایک  
 عرصہ تک آپ کے افکار اگرچہ چنداں مشہور نہ ہوئے مگر دو صدیاں گزرنے پر انہیں بڑا قبول  
 عام حاصل ہوا۔ ابھی تک عالم اسلامی کے دور افتادہ گوشوں میں افکار ابن حزم کی صدائے  
 بازگشت گونج رہی ہے یہ اور بات ہے کہ بعض علاقوں میں ان کا نام بدل گیا۔ چنانچہ  
 اس کی تفصیلات ہم ذکر کریں گے۔

## اسلامی فرقے

اندلس میں اسلامی فرقے :- تذکرہ ہما سے لے کر ناگزیر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل میں ایک ایک فرقہ کا حال ذکر کر کے اس پر تنقید کی ہے۔ لہذا اس ضمن میں ان کے افکار و آراء معلوم کرنے سے قبل قاری کا ان فرقوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے جن کے حالات کتابوں میں مندرج تھے۔ ابن حزم نے کتاب الفصل میں ان کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اور یہی شدت سے ان کے خلفاء مصر و جبل و کث ہوئے ہیں جس میں نرمی کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا۔ ہمیں اس امر پر تردد تھا کہ آیا فرقہ ہائے اسلامی سے متعلقہ تفصیلات ابن حزم کے عہد و عہد کے ضمن میں درج کی جائیں گی کیوں کہ ان کا تعلق بھی ان کے عہد سے ہے یا انہیں ان کے افکار و نظریات کے سلسلہ میں بیان کیا جائے۔

خداوند کریم سے استخارہ کرنے کے بعد ہم نے اسی بات کو ترجیح دی کہ ہماری دیگر تصنیفات کی طرح اسلامی فرقوں کا حال کتاب کے اسی مقام پر لکھا جائے مگر خلفاء معمول ہم یہاں اختصار سے کام لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندلس میں اعتقادی اور سیاسی فرقے نہیں تھے۔ ابن حزم اپنے رسالہ میں جو آپ نے علماء اندلس کی تعریف و توصیف میں لکھا، اس کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”سرزمین اندلس میں اگرچہ فرقہ بازی کا زور نہ تھا اور اس لئے علم الکلام کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ تاہم بلاد اندلس اس سے بالکل خالی نہ تھے۔ اندلس میں بعض معتزلہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے کتابیں بھی تصنیف کیں۔ مثلاً خلیل بن اسحاق، یحییٰ بن سہیم، حاجب بن موسیٰ بن جدیر اور ان کے برادر احمد نامی جو وزیر تھے۔ یہ معتزلہ مذہب کے داعی تھے اور اپنے مسلک کو چھپاتے نہ تھے۔ ہم نے اہل الحدیث کا جو مسلک اختیار کیا ہے۔ اس ضمن میں ایک کتاب بھی تحریر کی ہے جو صغیر الجرم، قلیل الاوراق ہونے کے باوجود وہ صدکتی پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ہم

نے سب ضروری مواد کو حذف کر دیا ہے۔ طوالت سے امکان حد تک احتراز کیا ہے، ہم نے صرف وہی براہین و دلائل ذکر کئے ہیں جو صحیح مقدمات سے ماخوذ اور حسی شہادات پر مبنی ہیں۔ ہم نے متعدد کتب تصنیف کی ہیں جو تحقیقات علمیہ کا گنجینہ ہیں ان میں سے بعض تکمیل پذیر ہو چکی ہیں اور بعض قریب اتمام ہیں۔ بعض کتب کا کچھ حصہ لکھ چکا ہوں۔ خداوند کریم ان کی تکمیل کی توفیق ارزانی فرمائے۔ ان کا تذکرہ و تسمیہ، فخر و بناہات کی بناء پر نہیں کر رہا بلکہ رضا خداوندی مطلوب و مقصود ہے۔ وہی مددگار حقیقی ہے اور جزا دینے والا ہے جو چیز رضا خداوندی کے لئے ہو وہ نمایاں ہو کر رہتی ہے۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ  
دآل عمران - ۱۷۳

معتزلہ اور اشاعرہ اندلس میں۔  
ذکر کردہ بیان اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ ابن حزم نے علم الکلام میں معاصرین کے آراء و افکار کا مطالعہ کیا تھا۔ کتابیں تصنیف کیں اور نقد و جرح سے بھی کام لیا۔ مختصر اور مبسوط ہر قسم کی کتابیں تحریر کیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اندلس میں معتزلہ بھی تھے۔ بعض اوقات جو لوگ مسند اقتدار پر قابض ہوتے تھے وہ بھی معتزلہ کا ساتھ دیتے تھے، ساکنان اندلس اہل مشرق کی طرح ابوالحسن اشعری کے افکار و معتقدات کے پیرو تھے۔ ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ ابن حزم ان دونوں فرقوں کے خلاف تھے۔ لہذا ان مذاہب و آراء سے واقفیت ضروری ہے جو ابن حزم کے پیش نظر تھے اور جن کی تردید میں انہوں نے کتاب الفصل تحریر کی۔

اعتقادات میں ابن حزم کا اعتماد اولین صحابہ و تابعین پر تھا۔ یہ ضروری ہے کہ ہم فکر اسلامی پر آنے والے نظری و فکری ادوار کا جائزہ لیں تاکہ ہم صحیح طور پر ابن حزم کے مسلک کا تعین کر سکیں اور علی وجہ البصیرت بیان کر سکیں کہ ان کا مسلک کیا تھا لہذا فرقہ ہائے اسلامی پر روشنی ڈالنا ہمارے لئے از بس ضروری ہے۔ چنانچہ ہم سیاسی فرقوں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔

## سیاسی فرقے

**شہادت حضرت عثمان و ظہورِ فتنہ**۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک جب کہ فسادات رونما ہوئے مسلمان ایک شیرازہ میں منہمک تھے۔ حضرت عثمان کے عہد حکومت میں کچھ لوگ نسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گئے تھے جن کے ہاتھوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق یہ فتنے ظہور پذیر ہوئے۔ آنحضرت کا ارشاد ہے۔

سَيَكُونُ فِتْنٌ الْقَاعِدُ خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ  
خَيْرُ الْقَائِمِ مِنَ الْمَأْشُوعِ وَالْمَأْشُوعِ  
خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ  
لَهَا تَشَرَّفَ فَهُ مَنْ وَجَدَ فِيهَا  
مُلْجَاؤًا مَعَاذَ أَفْلِحَ بِهِ

امیرے بوسے فتنے بپا ہوں گے ان میں بیٹھا رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اچھا ہے اور چلنے والا بھاگنے والے سے افضل ہے جو ان کی طرف بھاگے گا فتنے اس کا رخ کریں گے جو شخص فتنے پروری کے اس دور میں کوئی جائے پناہ پائے تو اس میں پناہ لے لے

فتنہ پروری کا یہی عالم رہا یہاں تک کہ خلیفہ مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی اس وقت مسلمانوں کا رہا سہا شیرازہ بھی بکھر گیا۔ ہر طرف بغض و عناد کی کارفرمائی تھی۔ ایسے اڑے وقت میں اہل اسلام نے اپنی شیرازہ بندی کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چنا۔ اگر دل جاہلی تعصبات سے پاک ہوتے تو آپ کی خلافت پر اجتماع عام ہو جاتا مگر فتنہ پر دازی کا جو باب ہوا تھا بند نہ ہو سکا۔ شیطان کے دروازے ہر طرف کھل گئے۔ مسلمان تفرق و تجزیر کا شکار ہوئے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے ماہین ملک شام میں صفین کا واقعہ پیش آیا جس میں حضرت معاویہ نے آپ پر خروج کیا تھا۔ اگر حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاصؓ کی دانشمندی اڑے نہ آتی تو بائیسوں کا خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ جنگ صفین

کے نتیجے کے طور پر دو حکم مقرر کئے گئے اور اسی طرح خوارج کے فتنے نے سر نکالا۔

**فرقہ ہائے ثلاثہ**۔ مسلمان اس کے بعد تین فرقوں میں بٹ گئے۔

اول شیعہ :- وہ مسلمان جو حضرت علی کے طرفدار تھے۔ آپ کی شہادت تک آپ کے ساتھ رہے اور بعد ازاں حضرت علی کے اہل بیت کے دست راست بنے رہے یہ شیعہ کہلائے۔

دوم اصحابِ حضرت معاویہ :- دوسری قسم کے مسلمان وہ تھے جو حضرت معاویہ اور ان کے حاشیوں کے طرفدار تھے۔ انہی میں سے ایک فرقہ ہوا جسے ناصیہ کہتے ہیں یہ لوگ حضرت علی اور ان کے اہل بیت کے دشمن تھے۔ ابن حزم چونکہ بتواریخ سے وابستہ رہے تھے اس لئے انہیں بھی ناصیہ کہا جاتا ہے۔ ان کے رسالہ اصحاب سے نقل کر کے ہم بتائیں گے کہ اس ضمن میں حق بات کیا تھی۔

سوم خوارج :- تیسرا فرقہ خوارج ہے۔ اس فرقہ کا موضوع خلافت ہے نیز یہ کہ خلافت کا حق وار کون ہے اور کس کی اطاعت افضل ہے۔ پھر انہوں نے سرے سے خلافت ہی کو موضوع بحث قرار دیا کہ آیا خلافت ایک دینی فریضہ ہے یا خالص دنیوی امر ہے اور دین سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔

ہم یہاں اس ضمن میں ابن حزم کا فیصلہ نقل کرتے ہیں جسے وہ اجماعی امر قرار دیتے ہوئے "الفصل" میں لکھتے ہیں۔

"جمیع اہل السنۃ، مزجمہ، شیعہ اور خوارج کا اس امر پر اجماع ہے کہ امامت واجب ہے۔ امت مسلمہ پر کسی امام عادل کی اطاعت ضروری ہے۔ جو ان میں خدا کے احکام نافذ کرے اور انہیں ان شرعی احکام پر چلائے، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے مگر خوارج کا فرقہ انجذات امامت کو ضروری تصور نہیں کرتا بلکہ ان کا خیال ہے کہ مسلمان باہم مل کر متنازعہ امور کا فیصلہ کر لیا کریں۔ اس کے پیرو اب کہیں موجود نہیں۔ یہ فرقہ سجدہ بن عمرو حنفی کی طرف منسوب ہے جو قبیلہ بنو حنیفہ سے وابستہ تھا۔"

اب ان سیاسی فرقوں میں سے ہم ہر ایک کا مختصر حال بیان کرتے ہیں :-



**شیعہ :-** یہ اسلامی فرقوں میں سے قدیم ترین فرقہ ہے۔ اس کا ظہور حضرت عثمان کے عہدِ خلافت میں ہوا بلکہ بعض مورخین کے نزدیک یہ اس سے بھی قبل ظہور پذیر ہوا۔ اس کی تخم ریزی ان صحابہ میں ہوئی جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ حضرت علی کو حضرت ابوبکر کی نسبت خلافت کا زیادہ مستحق سمجھتے تھے۔ شیعہ کے مذہب کی اساس دو چیزوں پر ہے۔ اول :- اول یہ کہ امامت اساس اسلام ہے۔ کسی نبی کے لئے جائز نہیں کہ وہ غفلت کی بنا پر اسے امت کو تفویض کرے۔ بلکہ امام کا مقرر کرنا اس پر واجب ہے خواہ وہ اس کے اوصاف بیان کرے یا لے سے معین کرے۔

دوم :- دوم یہ کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ مختار اور افضل الصحابہ تھے۔ اس حد تک شیعہ کے تمام فرقے متحد خیال ہیں۔ دیگر فرقوں میں ان کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیعہ کے بعض فرقے حضرت علی کے بارے میں اغراق و مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ بعض اعتدال پسند ہیں۔ معتدل شیعہ حضرت علی کو افضل الصحابہ سمجھتے ہیں مگر وہ حضرت ابوبکر و عمر کی بیعت کو بھی درست خیال کرتے ہیں اور ان کو بڑا بھلا کہنے سے احتراز کرتے ہیں کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر و عمر کی بیعت کی تھی۔

غالی شیعہ میں سے بعض لوگ حضرت علی کی شان میں بے حد مبالغہ سے کام لیتے ہیں اور انہیں منصب نبوت پر فائزہ کرتے ہیں۔ بعض اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ذات خداوندی حضرت علی میں حلول کر آئی تھی۔ عبد اللہ بن سبا کے متبعین کا خیال یہ تھا۔ اب یہ لوگ کہیں نہیں پائے جاتے۔

**نصبِ امام میں شیعہ کا باہمی اختلاف :-** شیعہ خلیفہ کے انتخاب میں مختلف خیال ہیں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف خلیفہ کے اوصاف مقرر فرمادیتے تھے یا شخصی طور پر اس کا تعین کرتے تھے۔ اس کے بعد خلیفہ مختار اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو خود مقرر کرتا تھا اور اس طرح آگے تک یہ تسلسل جاری رہتا۔ یہ تمام خلفاء اصل شرع کی جانب منسوب ہوتے کیونکہ خلیفہ اول کو آنحضرت نے شخصاً خود متعین و مقرر فرمایا تھا۔

**زید یہ :-** جن شیعہ کا خیال یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف خلیفہ کے اوصاف متعین

فرماتے تھے ان کو زید یہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ حضرت زین العابدین بن حسین کے بیٹے زید کی پیروی کرتے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ جو شخص آنحضرت کے بیان کردہ اوصاف کا حامل ہو اور لوگ اس کی بیعت کر لیں تو وہ لوگوں کا امام کہلائے گا۔ حضرت علی کے بعد آنے والے امام ہیں شیعوں کے نزدیک ان اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے۔

۱۔ وہ فاطمی ہو۔

۲۔ متقی و پرہیزگار ہو۔

۳۔ عالم ہو

۴۔ سخی ہو

۵۔ اپنی امامت کا داعی ہو۔

حضرت زید امام زید یہ کے بھائی محمد باقر اس ضمن میں ان کے خلاف تھے۔ ان کی رائے میں امام کا داعی ہونا شرط نہیں بلکہ یہی کافی ہے کہ لوگ پہچان کر اس کی بیعت کر لیں۔ وہ اپنے بھائی حضرت زید کو کہا کرتے تھے۔

”اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد امام نہ تھے کیوں کہ انہوں نے اپنی خلافت کی کبھی دعوت نہیں دی تھی۔“

حضرت زید اور ان کے اتباع کا خیال یہ تھا کہ مفضول کی امامت درست ہے۔ قبل ازیں ذکر کردہ اوصاف افضل اور امام کامل میں پائے جاتے ہیں جو دوسروں کی نسبت امامت کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے۔ اگر امامت کے ارباب بست و کشاد کسی ایسے امام کو مقرر کر لیں جو مذکورہ صفات میں سے بعض کا حامل نہ ہو اور لوگ اس کی بیعت بھی کر لیں تو اس کی امامت درست ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر کی امامت ان کے خیال میں اسی قاعدہ پر مبنی ہے۔ زید یہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جن صحابہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی ہے۔ وہ کافر نہ تھے۔ وہ بیعت دو مختلف علاقوں میں دو اماموں کے خروج کو جائزہ تصور کرتے تھے۔ ان میں سے ہر امام کی امامت اپنے علاقہ تک محدود ہوگی بشرطیکہ وہ مذکورہ اوصاف کا حامل ہو۔

۱۔ ابن حزم نے اپنے رسالہ الصحابہ کی ایک فصل میں حضرت ابو بکر و علی کے مابین موازنہ کیا ہے جسے ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

یہ شیعہ کا اعتدال پسند فرقہ تھا۔ ان کا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ  
 زہد یہ کے عقائد۔ علیہ وسلم صرف امام کے اوصاف بتا دیتے تھے اور اس کی شخصی تعیین

نہیں فرماتے تھے۔ فریق ثانی کا بیان ہے کہ امام کی تعیین شخصی نبی کا کام ہے۔ وہ اس امر پر  
 متی الجہال تھے کہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن اور ان کے بعد حضرت حسین منصب خلافت  
 پر فائز تھے۔ اس کے بعد آنے والے خلفاء کے بارے میں ان کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے

شیعہ کے فرقہ کیسائیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین کے بعد امامت کے حق دار  
 کیسائیہ۔ آپ کے علاقے بھائی محمد بن حنفیہ تھے۔ ان کی رائے میں ائمہ معصومین عن الخطار  
 ہوتے ہیں۔ وہ محمد بن حنفیہ کو زندہ تصور کرتے ہیں جو رضوی کے پہاڑ میں اقامت گزیرے ہیں۔  
 وہ تناسخ کے قائل ہیں ان کے خیال میں روح ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں داخل ہو  
 جاتی ہے۔ یہ ہندوؤں کا قدیم عقیدہ ہے۔

وہ خدا کے متعلق "بداء" کا عقیدہ رکھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کے علم میں  
 تغیر پیدا ہوتا ہے تو اس کے تحت ذات خداوندی میں بھی تغیر ہوجاتا ہے۔

امامیہ اثنا عشریہ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ  
 امامیہ اثنا عشریہ کے بعد امامت کے مستحق آپ کے بیٹے حضرت زین العابدین تھے

ان کے بعد محمد باقر پھر جعفر صادق بن محمد باقر پھر ان کے بیٹے موسیٰ کاظم پھر علی رضا، پھر محمد جواد  
 پھر علی ہادی پھر حسن عسکری پھر ان کے بیٹے محمد جو بارہویں امام تھے۔ فرقہ اثنا عشریہ کا خیال  
 ہے کہ ستر من رائی کے شہر میں آپ ایک تہ خانہ میں داخل ہوئے اور لوٹ کر نہ آئے  
 یہ امر مختلف فیہ ہے کہ غیبت کے وقت آپ کا سن و سال کیا تھا۔ بعض کے نزدیک چار  
 اور بعض کی رائے میں آٹھ سال کے تھے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس عمر میں آپ ان  
 تمام امور سے آگاہ تھے جن کا جاننا ایک امام کے لئے ضروری ہے لہذا آپ کی اطاعت  
 واجب ہے۔ بعض اثنا عشری یہ بھی کہتے ہیں کہ اثنا عشری علماء اس وقت حکم دیا کرتے  
 تھے۔ اثنا عشری فرقہ ابھی تک موجود ہے۔ ایرانی لوگ بھی اثنا عشری ہیں۔ ان کا ایک  
 فقہی مسلک بھی ہے جس کے اصول منضبط کئے جا چکے ہیں اور ان کی روشنی میں ان کے  
 فروع و وضع کئے گئے ہیں۔ مصر کے جدید دستور میں بعض دفعات اثنا عشری فقہ سے  
 ماخوذ ہیں۔ مثلاً وارث کو وصیت کرنا۔ حالانکہ اثنا عشری فقہ میں اسے ایک رائے کی حیثیت

حاصل ہے۔ اگرچہ ترجیح یافتہ نہیں ہے۔

اسماعیلیہ شیعہ امامیہ کا ایک فرقہ ہے جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ امامیہ اسماعیلیہ امام کی تعیین شخصی طور پر کی جاتی ہے۔ صرف اوصاف بتانے سے نہیں۔ یہ فرقہ اسماعیل بن جعفر صادق بن محمد باقر کی جانب منسوب ہے اس کا خیال ہے کہ جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل امام تھے۔ اسماعیلیہ امام جعفر صادق تک فرقہ اثنا عشریہ سے متفق ہیں۔ پھر دو قسموں میں بٹ گئے۔ اثنا عشریہ کے نزدیک امام جعفر صادق کے بعد حضرت موسیٰ کاظم امامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اسماعیلیہ کی رائے میں امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل امام قرار پائے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اسماعیل نے اپنے والد سے قبل وفات پائی تھی پھر وہ اپنے والد کے بعد امام کیسے بن سکتے تھے؟ اسماعیلیہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے صراحتاً ان کا امام ہونا بیان کیا تھا۔ اس تصریح کا نائدہ یہ ہے کہ اپنے والد سے قبل فوت ہو جانے کے باوجود ان کی امامت ان کے لواحقین میں باقی رہے گی۔ اسماعیل کے ذریعہ امامت محمد المکتوم کو ملی وہ ائمہ مستورین میں سے اولین امام تھے۔ اسماعیلیہ کی رائے میں امام تقیہ کے طور پر مخفی بھی رہ سکتا ہے اور اس سے اس کی امامت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محمد المکتوم کے بعد ان کے بیٹے جعفر مصدق امام بنے پھر ان کے بیٹے محمد حبیب پھر ان کے بیٹے عبداللہ الہدیٰ جو مغرب کے بادشاہ قرار پائے پھر ان کی اولاد مصر پر قابض ہوئی اور اس طرح دولت فاطمیہ وجود میں آئی۔

عراق میں بھی اسماعیلیہ فرقہ کا ظہور ہوا تھا۔ جب وہاں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تو وہ فارس کی طرف بھاگ گئے۔ فارس میں جا کر وہاں کے قدیم عقائد اسماعیلیہ کے عقائد میں گھل مل گئے۔ بعض اسماعیلیہ نے ان عقائد کو تسلیم کیا۔ بعض منحرف ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد فرقے اسماعیلیہ کے نام سے موسوم ہوئے بعض نے اسلام کی حدود سے تجاوز نہ کیا بعض بہت سے غلط عقائد کو اپنا کر اسلام سے بہت دُور نکل گئے۔

ان کو باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نام سے موسوم کرنے کے متعدد اسباب تھے جو ان میں پائے جاتے تھے۔

پہلی وجہ :- باطنیہ کہلانے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ ان کے خیال میں امام مستور بھی رہ سکتا ہے۔

دوسری وجہ :- دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی رائے میں شریعت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن  
اسی بنا پر انہوں نے الفاظ قرآنی کی بڑی بعیدانہ کارتاویلیں کی تھیں۔ ان تاویلات بعیدہ  
درکبیکہ کہ وہ باطن اور لوگوں کے علم کو ظاہر قرار دیتے تھے۔  
تیسری وجہ :- تیسری وجہ یہ ہے کہ امام جن اسرار سے واقف ہوا کرتا تھا۔ وہ انہیں پوشیدہ  
رکھتا تھا۔

چوتھی وجہ :- وہ جملہ اعمال میں تقیہ کے قائل تھے۔ وہ اپنے خیالات کو پوشیدہ رکھتے تھے اور  
صرف اپنی خیالات کا اظہار کرتے جن کے ظاہر کرنے کے لئے حالات سازگار ہوتے  
تھے۔ ان امور و اسباب کے پیش نظر وہ باطنیہ کہلاتے۔

**اسماعیلیہ کی تعلیمات :-** اعتدال پسند اسماعیلیہ کی تعلیمات تین قسموں  
میں منقسم ہیں :-

پہلی قسم :- خداوند کریم کی جانب سے ائمہ کو معرفت کا خصوصی فیضان ہوتا ہے اور وہ اپنی  
امانت کے پیش نظر لوگوں پر فائق ہوتے ہیں۔ وہ علمی خصوصیات سے بہرہ ور ہوتے ہیں  
لوگ اس علم سے عاری ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان شرعی امور کو بھی جانتے ہیں جن  
سے لوگ نابلد محض ہوتے ہیں۔

دوسری قسم :- دوسرا یہ کہ امام کا ظاہر اور معروف ہونا ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مستور و  
مخوب ہو۔ بایں ہمہ امام واجب الطاعت ہوتا ہے اور وہ ایسا پیشوا ہوتا ہے جس کی اطاعت  
کے لوگ رشتہ و ہدایت پاسکتے ہیں۔ نیز یہ کہ اگر ایک زمانہ میں اس کا ظہور نہ ہو تو وہ آئندہ  
زمانوں میں ظہور پذیر ہو سکتا ہے اور اس کے ظاہر ہونے سے قبل قیامت بھی قائم  
نہیں ہو سکتی۔

تیسری قسم :- اسماعیلیہ کی تیسری تعلیم یہ تھی کہ شریعت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن۔  
باطن حقیقی کا رازدان صرف امام ہوتا ہے جسے خداوند کریم نے نور معرفت سے بہرہ ور  
کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کسی کے سامنے جواب دہ نہیں اور نہ کسی شخص کو  
اس پر تنقید کرنے کا حق حاصل ہے بلکہ اس بات کی تصدیق و تائید کرنا ضروری ہے  
کہ جو کچھ وہ کہتا ہے درست ہے اور اس میں برائی کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے۔ اسی بنا پر  
پہر اسماعیلیہ کہتے ہیں کہ ائمہ معصوم عن الخطاء ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں

وہ ان کا ارتکاب نہیں کرتے بلکہ مقصد یہ ہے کہ جن کاموں کو ہم اپنی طرف نسبت کر کے گناہ تصور کرتے ہیں عین ممکن ہے کہ ائمہ کے نورِ معرفت کی روشنی میں وہ کام ان کے لئے معیوب نہ ہوں بلکہ جائز ہوں۔ اگرچہ لوگوں کے لئے ناروا ہوں۔ اس اندازِ فکر کو کفرِ قطعی قرار نہیں دے سکتے۔ البتہ قرآن حکیم اور سنت صحیحہ میں یہ کہیں مذکور نہیں۔ اسی طرزِ فکر و نظر کے نتیجے میں بہت سے عالمی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کا اجرا اپنی گردن سے اتار پھینکا اور اس کی حدود سے تجاوز کر گئے۔ فرقہ اسماعیلیہ میں سے باطنیہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اس فرقہ کے مسلک و منہج کو بے بنیاد اور دوراز کار خیالات کے نشرواظہار کا ذریعہ بنایا۔

یہ ہیں شیعہ کے مختلف فرقے جن کا ذکر ہم نے بالا اختصار کیا ہے کیوں کہ ان کا تفصیلی تذکرہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ہم نے ان کی جانب اس لئے اشارہ کیا ہے کہ ابن حزم نے اپنے رسالہ الصحاہ میں ان کے اقوال کی تردید کی ہے نیز اس لئے کہ انہوں نے اپنی کتاب الفصل میں بڑے شرح و بسط سے شیعہ کے عقائد ذکر کر کے ان کا بطلان ثابت کیا ہے جیسا کہ اپنے موقع پر ذکر کیا جائے گا۔

## خوارج

یہ تیسرا فرقہ ہے جس نے اسلامی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا۔ خوارج کے معتقدات :-

کے متعدد فرقے تھے جن پر ہم مختصراً روشنی ڈالیں گے۔ یہ فرقہ اپنے افکار و معتقدات کی تائید و تصدیق اور ان کی حمایت کا فریضہ ادا کرنے میں بڑا متشدد واقع ہوا تھا۔ جب پہلے پہل حکیم کا مسئلہ معرض ظہور میں آیا تو حضرت علی کے لشکر سے خوارج کا آغاز ہوا۔ یہ پہلے حکیم کے حق میں تھے بلکہ انہوں نے حضرت علی کو حکم کا فیصلہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا تھا پھر اس نظریہ کی مخالفت کرنے لگے اور اسے کفر قرار دیا۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حکم صرف خدا کی ذات ہے جو مسئلہ خداوند تعالیٰ سے متعلق ہے۔ اشخاص و رجال اس میں فیصلہ صادر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حضرت عثمان سے برأت کا اعلان کر دیا تھا۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبول حکیم سے توبہ نہ کی تو ہم ان سے بھی بری ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس امر کا اعتراف کرنا ہو گا کہ حکیم کو قبول کر کے وہ کافر ہو گئے تھے اور اب انہوں نے اس سے توبہ کر لی ہے۔ وہ اس بات کے قائل تھے کہ خلیفہ تمام مسلمانوں میں سے انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ کسی قبیلہ اور خاندان کی تخصیص ضروری نہیں۔ خوارج کے فرقہ النجدات کا نقطہ نظریہ تھا کہ دینی اعتبار سے خلیفہ کا تقرر ضروری نہیں بلکہ یہ ایک دنیوی کام ہے۔ اگر خلیفہ کے بغیر مسلمانوں کا کام حل ہو سکتا ہو تو بلا خلیفہ رہنے میں کوئی دینی حرج نہیں۔ ہم ابن حزم کا کلام اس ضمن میں نقل کر چکے ہیں۔

خوارج کا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ کیا ٹر کا مرتکب گناہ گار ہے۔ وہ چھوٹے بڑے گناہوں میں تفریق و امتیاز نہیں کرتے تھے۔ بلکہ یہ سب کو کافر قرار دیتے تھے۔ خوارج کا فرقہ ابان ضیہ گناہ گاروں کو ناسپاس گزار اور کافر نعمت سمجھتا تھا۔ وہ ان کو اہل قبیلہ تصور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خوارج اپنے مخالفین کو جو ان کے ہمنوا تھے کافر سمجھتے تھے۔

۱۱) ازارقہ :- جیسا کہ قبل ازیں ہم بیان کر چکے کہ خوارج کے متعدد فرقے ہیں۔ ان سب

میں متشدد ازارقہ ہیں۔ یہ نافع بن اذرق کی پیروی کرتے ہیں جو بنو حنیفہ کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے عقائد یہ ہیں :-

(ا) جو مسلمان ان کے ہم خیال نہیں وہ مشرک ہیں بلکہ ان کی اولاد بھی مشرک ہے۔  
 (ب) ان کے مخالفت ابدی جہنمی ہیں اور ان کا ملک دارالحرب ہے۔  
 (ج) مخالفین اور ان کے بیوی بچوں کو قتل کرنا اور قیدی بنانا جائز ہے۔  
 (د) کسی خارجی کو غیر خارجی لوگوں میں اقامت گزین رہنا روا نہیں ورنہ وہ بھی کافر ٹھہرے گا۔

(ذ) ان کے خیال میں انبیاء سے بھی کیا ٹمہ کا صدور ممکن ہے۔  
 (س) قرآن میں زانی کو رجم کرنے کا حکم مذکور نہیں لہذا اسے صرف کوڑوں کی سزا دی جاسکتی ہے۔

(ص) حد قذف عقیت عورت پر بہتان لگانے کی صورت میں لگائی جاسکتی ہے مگر مرد پر بہتان لگاتے کی صورت میں یہ نہیں دی جاسکتی۔

یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے نجدہ بن عویمر کے پیرو تھے۔ جو خوارج اپنے  
(۲) الخیارات :- مخالفین سے لڑتے نہ تھے۔ یہ فرقہ ازارقہ کے علی الرغم، ان کے کفر کے قائل نہ تھے۔ ان کے خیال میں مخالفین کے بچوں کو قتل کرنا روا نہیں۔ البتہ معاہدین اور ذمی لوگوں کے قتل کو جائز تصور کرتے تھے۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ خلیفہ کا تقرر دینی اعتبار سے ضروری نہیں بلکہ دنیوی مصالح کے پیش نظر اسے مقرر کیا جاتا ہے اگر ضرورت کا تقاضا ہو تو مقرر کر لیا جائے۔ ورنہ لوگ اپنے امور خود نپٹالیا کریں۔

یہ زیادہ صفر کے پیرو تھے۔ یہ اپنے انکار و نظریات میں ازارقہ  
(۳) الصفریہ :- سے کم درجہ لیکن دوسروں کی نسبت متشدد تھے۔ یہ کبانہ کے ارتکاب کرنے والوں کے بارے میں ازارقہ سے اختلاف رکھتے تھے اور ان کو مشرک نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان میں سے بعض کا خیال یہ تھا کہ جن گناہوں کے بارے میں قرآن مجید میں حد کا ذکر کیا ہے وہ اسی نام سے موسوم ہو گا جو خدا نے ان کے لئے مقرر کیا ہے۔ مثلاً سارق اور زانی وغیرہ۔ جن گناہوں کی حد مقرر نہیں کی گئی ان کا مرتکب بے شک کافر ہے۔ بعض صفریہ کا خیال یہ بھی تھا کہ گناہ پر جب تک حاکم حد جاری نہ کر دے اس وقت تک اس



کو کافر نہیں کہا جاسکتا۔ اسی بنا پر ایسے کبار کا ارتکاب کرنے والے کو جس میں حد نہ ہو وہ کافر قرار نہیں دیتے تھے۔

اس فرقہ کے لوگ عبدالکریم بن عجرد کے پیرو تھے۔ یہ لوگ اصلی مذہب (۴) عجاردہ کے اعتبار سے فرقہ نجدات سے قریب تر ہیں۔ ان کے نزدیک جنگ سے جی چرانے والے خارجی اگر دیانت دار ہوں تو انہیں کافر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ وہ ہجرت کو فضیلت پر محمول کرتے تھے اور فرض نہیں سمجھتے تھے، مخالفت کا مال ان کے نزدیک اس وقت تک مال غنیمت قرار نہیں دیا جائے گا جب تک اسے موت کے گھاٹ نہ اتار دیا جائے۔

عجاردہ کے یہاں متعدد امور میں اختلاف رونما ہوا اور وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ متنازع فیہ امور میں سے کچھ قضا و قدر سے متعلق تھے نیز یہ کہ مخالفین کے بچوں سے قبل از بلوغت تعرض کیا جائے گا یا نہیں؟

یہ لوگ عبداللہ بن اباض کے پیرو تھے۔ یہ فرقہ خارجیوں میں اعتدال پسند (۵) اباضیہ تھا اور فکر و رائے میں عام مسلمانوں سے قریب تر تھا، ان کا دامن غلو اور انتہا پسندی سے پاک تھا اور مسلک اعتدال پر گامزن تھے۔ ان کے عقائد یہ تھے۔  
(ا) غیر خارجی مسلمان نہ مشرک ہیں نہ مومن البتہ انہیں کفرانِ نعمت کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کافر کہا جائے گا۔

(ب) غیر خارجی مسلمانوں کا چوری چھپے خون بہانا حرام ہے ہاں علانیہ انہیں قتل کیا جاسکتا ہے۔ ان کا ملک دار التوجید کہلائے گا۔ البتہ سلطان کی لشکر گاہ اس سے مستثنیٰ ہوگی۔

(ج) غیر خارجی مسلمانوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد ان کے آلاتِ جنگ، گھوڑوں اور جانوروں کو نیز ان تمام چیزوں کو جن سے جنگ میں کام لیا جاتا ہو، مالِ غنیمت میں شمار کیا جائے گا۔ البتہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔

فرقہ اباضیہ کے ان افکار و آراء سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرے خارجی فرقوں کے مقابلہ میں یہ لوگ اعتدال پسند تھے اور اپنے مخالفوں کے نسبتاً رواداری کا سلوک کرنے پر آمادہ رہتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مغربی صحراؤں اور بلادِ مغرب کے بعض علاقوں میں یہ اب تک موجود ہیں۔

## خوارج ظاہری نظر و فکر کے موجد کی حیثیت سے۔

ابن حزم نے خوارج کے احوال ذکر کر کے ان کی

تردید کی ہے۔ علماء اندلس سے متعلق آپ نے جو رسالہ تحریر کیا ہے اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ سرزمین اندلس خوارج کے وجود سے خالی تھی۔ ہم نے مختصراً خوارج کا ذکر اس لئے کیا ہے تاکہ ابن حزم کی کتاب "الفصل" کا قاری جان لے۔ خوارج کے تذکرہ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابن حزم نے کتاب و سنت کی تشریح و توضیح میں خالص ظاہری مسلک کو اختیار کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت علیؑ کے بارے میں "لا حکم الا للہ" کہہ کر خوارج نے ظاہری انداز فکر کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔

ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ابن حزم خوارج کی طرح جادہ مستقیم سے منحرف تھے یا خوارج کی طرح نصوص کتاب و سنت کا ظاہری مطلب مراد لینے میں میانہ آمیزی سے کام لیتے تھے، یا خوارج کی طرح اپنے مخالفین کی تکفیر کرتے تھے۔ بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خوارج اولین لوگ تھے جنہوں نے ظواہر کتاب و سنت سے وابستہ رہنے کی بنا ڈالی اور یہ امر خوارج اور ابن حزم کے مابین مشترک طور پر پایا جاتا ہے۔ کامل مشابہت و مماثلت ثابت کرنا ہمارا مقصد نہیں۔

## مسلمانوں کے اعتقادی فرقے

موضوع زیر بحث کی اہمیت و ضرورت نظریات سے آگاہ ہونے کے اعتقادی مسائل میں ابن حزم کے لئے ان فرقہ ہائے اسلامی سے آشنائی پیدا کرنا از بس ضروری ہے جو ابن حزم کے پیش رو تھے اور جنہوں نے اعتقادیات کے بلے میں اظہار خیال کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ ابن حزم نے ان کے کن اقوال سے اظہار اتفاق کیا اور آپ کے اختیار کردہ مسلک و منہاج اور ان کے پیش رو فرقہ جات میں کس حد تک فرق و امتیاز پایا جاتا ہے۔ بلاشبہ اندلس میں علم الکلام کے ماہر علماء موجود تھے اور ان کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی جیسا کہ علماء اندلس سے متعلق اپنے رسالہ میں ابن حزم ذکر کرتے ہیں۔ ابن حزم نے علماء علم الکلام کے آراء کی تنقیح و تردید میں کافی نام پایا ہے۔ ان کے شغل مطالعہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح آپ فقہی مسائل میں ظاہری المسلک تھے اسی طرح اعتقادیات میں بھی ظاہری بن گئے۔ اگے چل کر مناسب موقع پر اس کی تفصیل آئے گی۔ ہم بتائیں گے کہ علماء سلف میں ابن حزم کا مقام کیا تھا اور متاخرین پر بہتوں نے کیا اثر ڈالا؟ لہذا فرقہ ہائے اعتقادی کا باہمی فرق اور ان کے افکار کا خلاصہ بیان کرنا ہمارے لئے از بس ناگزیر ہے۔ چنانچہ ہم اعتقادی فرقوں کا حال بیان کرتے ہیں:-

متنازع فیہا مسائل خلیفہ ثالث کے عہد خلافت کے اواخر اور خلیفہ رابع کے پورے دور سلطنت میں جن سیاسی اختلافات نے سر

اٹھایا تھا، اس کے پہلو پہ پہلو اعتقادیات میں بھی اختلاف پیدا ہونے لگا تھا۔ مثلاً تقدیر کا مسئلہ اجماع یہ وہی مسئلہ ہے جس کا سودا قدیم مذاہب کے لوگوں کے سر میں سمایا تھا اور مشرکین بھی اس سے ناواقف نہ تھے۔ وہ کہا کرتے تھے

«وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ

اگر مشیت ایزدی کا تقاضا نہ ہوتا تو ہم اور

دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا آيَاءَ فَادْكُلُوا حَرْثَنَا  
 مِنْ شَيْءٍ ۝ (قرآن کریم) کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔

حضرت علیؑ کے عہدِ خلافت کے آخر اور آپ کے بعد مسئلہ تقدیر بہت زور پکڑا گیا تھا۔ لوگ عام طور سے کہا کرتے تھے کہ اگر ہر کام خدا کی تقدیر سے ہوتا ہے تو ثواب و عقاب کس بنا پر ہوگا؟ جہم بن صفوان اولین شخص تھا جس نے کہا کہ خدا کے ارادہ کے سامنے انسان کا ارادہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ یہ کہتے تھے کہ انسان میں قوتِ ارادی پائی جاتی ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے پہرہ یاب کیا ہے تاکہ وہ اپنے ارادہ میں آزاد ہو۔ اسی حریتِ ارادہ کی بنا پر اس کو اپنے اعمال کی سزا ملے گی۔ یہ کہنے والے معتزلہ تھے۔

پھر کبائر کا ارتکاب کرنے والوں کے بائے میں اختلاف رونما ہوا کہ آیا وہ صاحبِ ایمان، ناسق یا خارج از اسلام کافر ہیں؟ یا اس کے بین بین ہیں۔ پہلا قول مسلمانوں کا تھا، دوسرا خوارج اور قسیرا معتزلہ کا۔ چوتھے گروہ کا خیال تھا کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا جس طرح کفر کی موجودگی میں غایات و اعمال بے کار ہیں۔ اسی طرح صفاتِ باری تعالیٰ اور خلقِ قرآن کے مسائل اُبھرے۔ ان تنازعات کو بپا کرنے والے اموی دور میں جہم بن صفوان اور جہد بن درہم تھے۔ مامون الرشید کے عہدِ خلافت میں یہ فتنہ اُدبج کمال کو پہنچا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بے حد صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہ مسائل عمیق مطالعہ کے محتاج تھے۔ ابن حزم نے انہیں پورے غور و خوض سے مطالعہ کر کے بعض لوگوں کی مخالفت کی اور بعض سے اظہارِ موافقت کیا۔ لہذا فرقہ بائے اعتقادی کا مختصر تذکرہ ہم کے لئے یہ حد ضروری تھا۔

صحابہ کے آخری عہد میں مسلمانوں نے مسئلہ تقدیر اور خدا کی قدرت و **جبر** پر یہ ارادہ کے مقابلہ میں انسانی قدرت کے ایسے مسائل پر غور و خوض کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر وہ ان مسائل میں زیادہ فکر و تامل سے کام نہ لیتے تھے بلکہ صرف کتاب و سنت کی پیروی کا دم بھرتے تھے۔ جب صحابہ کا مبارک زمانہ ختم ہوا اور مسلمان مذاہبِ قدیمہ کی حامل اقوام سے ملنے جلنے لگے تو ایسی سختوں کا دائرہ وسیع ہوا اور مسلمان ان میں حصہ لینے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اختلاف کا شکار ہو گئے۔

جبریہ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق نہیں ہے اور جو افعال بظاہر اس کی طرف منسوب ہیں ان سے اسے کوئی واسطہ نہیں۔ اس فرقہ کا مرکزی نقطہ نظریہ تھا کہ بندے سے افعال کو نفی کر کے انہیں ذات خداوندی کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان میں افعال کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے نباتات حرکت کرتے ہیں، درخت پھل لاتا ہے، پانی جاری ہوتا ہے، آسمان ابر آلود ہوتا ہے، بارش برسنے لگتی ہے، زمین پر پھل پھول اگنے لگتے ہیں اور نباتات کا ظہور ہوتا ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس فرقہ کا اولین داعی ایک یہودی تھا۔ بعض کے نزدیک اس کا داعی اول جعد بن درہم تھا جس نے مسئلہ خلق قرآن کی بنا ڈالی۔ جعد بن درہم نے یہ نظریہ شام کے ایک یہودی سے اخذ کیا۔ اس نے اسے بصرہ میں خوب پھیلا یا۔ پھر بنو امیہ کے عہد خلافت میں جعد سے یہ عقیدہ جہم بن صفوان نے سیکھا جس نے اس کی نشر و اشاعت میں بڑی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ جہم کی طرف نسبت کر کے اس فرقہ کو جہمیہ بھی کہتے ہیں، جہم نے بلاد فارس و خراسان کو اس نظریہ کی توسیع و اشاعت کے لئے بڑا سازگار پایا اور یہ مذہب وہاں خوب پھلا پھولا۔ کیوں کہ قبل از اسلام وہاں اس قسم کے عقائد پائے جاتے تھے۔

**جہم بن صفوان کے عقائد:** جہم بن صفوان جبریہ کے علاوہ مندرجہ ذیل عقائد کی دعوت بھی دیتا تھا۔

- ۱۔ جنت و دوزخ آخر فنا سے ہمکنار ہوں گے۔
- ۲۔ خدا کا علم اور کلام دونوں حادث ہیں۔
- ۳۔ خدا تعالیٰ حیات سے موصوت نہیں، کیونکہ یہ حوادث کے اوصاف میں سے ہے۔
- ۴۔ بروز قیامت رُوبیت باری تعالیٰ کی نفی۔
- ۵۔ قرآن مخلوق ہے۔

ویسے تو بہت سے لوگ ان خیالات میں جہم کے ہمنوا ہو گئے تھے مگر جہمیہ کا امتیازی

ملہ جعد بن درہم کو اموی خلافت میں قتل کیا گیا تھا اسے خالد بن عبداللہ قسری نے قتل کیا جو بنو امیہ کی طرف سے خراسان کے والی تھے۔

عقیدہ جس میں اس کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی نظریہ جبر تھا۔ یعنی یہ کہ انسان مجبور محض ہے نہ اس کا کوئی ارادہ ہے نہ قدرت ہے نہ فعل۔ علماء سلف و خلف سب جبر پر ہی ترویج کے لئے آگے بڑھے۔ بعض علماء کے خیالات ان سے ملتے جلتے تھے۔ اگرچہ ان کا مسلک و منہج جدا گانہ نوعیت کا تھا۔ بعض علماء ایسے تھے جو کلیتہً جبر پر کے خلاف تھے۔ اور کسی بات میں ان سے ہم آہنگ نہ تھے۔

یہ فرقہ انسانی ارادہ کے اعتبار سے جبر پر ہی کی ضد تھا۔ جبر پر ہی کی طرح اس فرقہ **معتزلہ** نے بھی اموی عہد میں بال و پور نکالے۔ ابتداً معتزلہ نے دو باتوں کا اظہار کیا۔ اول :- اول یہ کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے اور اپنے جملہ افعال میں مختار ہے۔ اسی بناء پر اسے شرعی احکام کا مکلف قرار دیا گیا ہے۔ اس عقیدہ کی نشر و اشاعت میں عیسان و مشقی نے بڑا حصہ لیا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عہد خلافت میں اس کی دعوت دیا کرتا تھا بلکہ وعظ و نصیحت کے طور پر انہیں خطوط بھی لکھا کرتا تھا۔ اس کی داعیانہ جدوجہد کا یہی عالم رہا، یہاں تک کہ ہشام بن عبدالملک اموی نے اسے قتل کر دیا۔

دوم :- معتزلہ کا دوسرا مشہور نظریہ یہ تھا کہ کبائر کا ارتکاب کرنے والا نہ مومن ہے نہ کافر بلکہ فاسق ہے۔ گویا کفر و اسلام کے بین بین ہے۔ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں کہ اس نے اہل جنت ایسے اعمال انجام نہیں دیئے۔ چونکہ یہ اسلام کا اظہار کرتا ہے اور کلمہ گو ہے لہذا اسے مسلم کہتے ہیں کوئی مضائقہ نہیں البتہ اسے مومن نہیں کہا جاسکتا۔

معتزلہ کا یہ نظریہ کہ کبائر کا ارتکاب کرنے والا نہ کافر ہے نہ مومن بلکہ اس کا مرتبہ ان دونوں کے درمیان ہے اس میں ابن حزم کے عہد و عہد کی جھلک نظر آتی ہے۔ حضرت علی کے عہد خلافت کے اواخر اور اموی عہد میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ مختلف فرقے اس ضمن میں مختلف خیالات رکھتے تھے اس مسئلہ سے متعلق خوارج کے بعض اقوال ہم نقل کر چکے ہیں۔

علماء تابعین میں سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مرتکب کبائر منافق ہے مومن نہیں۔ مرجئہ یہ کہتے تھے کہ ایمان کی موجودگی میں گناہوں سے کوئی ضرر لاحق نہیں ہوتا جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے طاعات و اعمال عبث ہیں۔ بخلاف ازیں جہور

مسلمان اسے گنہگار مومن قرار دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بُرے اعمال کا محاسبہ کریں گے الا یہ کہ وہ تائب ہو جائے یا خداوند تعالیٰ اپنی رحمت بیکراں کے باعث اسے معاف کر دیں۔ لہذا اس میں ذرا بھرحیرت واستعجاب نہیں پایا جاتا کہ معتزلہ نے ایک درمیانی راستہ اختیار کر لیا ہو کہ وہ نہ مومن ہے نہ کافر بلکہ اس کا مرتبہ ان دونوں کے درمیان ہے۔

یہ معتزلہ کے ابتدائی عقائد تھے۔ مگر یہ فرقہ بڑا ترقی پسند  
**معتزلہ کے اصولِ خمسہ** :- اور متحرک تھا کسی ایک بات پر رک جانے کا عادی  
 نہ تھا۔ آخر کار معتزلہ نے اپنے عقائد کو پانچ امور میں محدود و محصور کر دیا۔ ابوالحسن خیاط نے  
 کتاب الانتصار میں ان کا خلاصہ تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :-

"کوئی شخص جب تک ذیل کے اصولِ خمسہ کا معتقد نہ ہو معتزلی کہلانے کا سزاوار  
 نہیں ہو سکتا۔ وہ اصولِ خمسہ یہ ہیں :-

۱۔ توجیب

۲۔ عدل

۳۔ وعد و وعید

۴۔ کفر و اسلام کی درمیانی منزل کا اقرار

۵۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر

امام ابوالحسن اشعری اپنی کتاب "مقالات الاسلامیین" میں توجیب کی وضاحت  
**توجیب** :- کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"توجیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شبیبہ و نظیر سے پاک ہے اس کی مثل  
 کوئی چیز نہیں۔ اس کی سلطنت میں کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں۔ لوگ جن واقعات و  
 حوادث سے دوچار ہوتے ہیں خدا کی ذات ان سے پاک ہے۔ وہ مفرت  
 منافع دونوں سے بے نیاز ہے۔ وہ لذت و سرور اور نقص و عجز سے پاکیزہ  
 ہے۔ وہ عورتوں کو چھونے سے منزہ ہے۔ نہ اسے بیوی کی ضرورت ہے  
 نہ بچوں کی"

معتزلہ اپنے اسی قاعدہ کی بنا پر (الف) قیامت کے دن رویت باری تعالیٰ کو محال

سمجھتے تھے کیوں کہ اس سے خدا کی جمائنت اور جہت لازم آتی ہے (ب) اور یہ کہ صفات ذات سے غیر نہیں ہیں ورنہ تعدد و قدماء لازم آئے گا (ج) اس پر مبنی قرار دیتے ہوئے وہ قرآن کو مخلوق سمجھتے تھے کیونکہ وہ صحت کلام کو خدا کی صفت تسلیم نہیں کرتے تھے۔

عدل کا مطلب یہ ہے کہ خدا فساد کو نہیں چاہتا، نہ افعال عباد کو پیدا کرتا ہے۔  
**۲- عدل**۔ لوگ خدا کے اوامر کو بجالاتے ہیں۔ اس کے منہیات سے رک جاتے ہیں تو یہ اس قدرت کے باعث ہے جو اللہ نے انہیں ودیعت کر رکھی ہے۔ خدا وہی حکم دیتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اسی بات سے روکتا ہے جسے بڑا سمجھتا ہے۔ ہر نیکی جس کا اس نے حکم دیا اس کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ہر وہ بُرائی اچھی نہیں جس سے اس نے روکا ہے وہ بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا نہ ان سے کام چاہتا ہے جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے۔

وعد اور وعید کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی جزا دیتا ہے اور بدی کی سزا اور یہ  
**۳- وعد و وعید**۔ کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کی توبہ کے بغیر مغفرت نہیں کرتا۔

معتزلہ کے شیخ واصل بن عطاء نے اس کی یوں  
**۴- کفر و اسلام میں درمیانہ درجہ**۔ وضاحت کی ہے۔

”ایمان عبارت ہے خصال خیر سے جب یہ کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ مومن ہے۔ مومن ایک توصیفی نام ہے۔ چونکہ فاسق میں خصال خیر کبھی جمع نہیں ہوتے لہذا وہ توصیفی نام کا مستحق نہیں پس اسے مومن بھی نہیں کہا جائے گا۔ مگر اسے علی الاطلاق کافر بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کلمہ شہادت کا قائل ہے۔ اور دوسرے اعمال خیر بھی اس میں موجود ہیں جن سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن اگر وہ دنیا سے اس طرح رخصت ہو کہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو چکا ہو اور توبہ نہ کی ہو تو وہ دوزخی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کیونکہ آخرت میں صرف دو ہی فریق ہوں گے، ایک فریق جنت میں ہوگا اور دوسرا جہنم میں۔ البتہ اس کے ساتھ یہ رعایت کی جائے گی کہ عذاب کچھ کم دیا جائے۔ اور اسے کافروں سے ایک درجہ اوپر رکھا جائے گا۔“

**۵- امر بالمعروف اور نہی عن المنکر**۔ معتزلہ کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر



مومنوں پر واجب ہے تاکہ دعوت اسلام اور ارشاد و تبلیغ کی نشرو اشاعت کی جائے جیسے  
 بھی بن پڑے تقریر و تحریر سے ہو یا سیف و سنان سے جیسا بھی صورت حال کا تقاضا ہو۔  
 بیان عقائد میں معتزلہ نقلی دلائل کے بجائے عقلی براہین و  
معتزلہ کا طرز استدلال دلائل پر زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ آثار عقل پر ہی اعتماد کا نتیجہ  
 تھا کہ معتزلہ اشیاء کے حسن و قبح کا فیصلہ از روئے عقل کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ علامہ شہرستانی  
 الملک و النخل میں لکھتے ہیں۔ معتزلہ کہا کرتے تھے۔

”سب معارف (عقائدی مسائل) عقل سے سمجھے جاسکتے ہیں اور واجب ہے  
 کہ عقل ہی سے ان میں غور کیا جائے۔ مثلاً نقل (وحی) کے وارد ہونے سے  
 پہلے ہی معلوم تھا کہ محسن کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ حسن اور قبح، حسن اور قبح  
 کی دو ذاتی صفات ہیں۔“

شیخ المعتزلہ علامہ جباتی کا قول ہے :-

”ہر وہ معصیت جس کے متعلق عقل یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کو اس کا امر کرنا چاہیے۔  
 لیکن اگر اللہ نے اس سے منع کر دیا ہو تو وہ نہیں الہی کی وجہ سے قبح قرار پائے گا۔  
 لیکن جس گناہ کے بارے میں عقل کا فیصلہ بھی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت  
 نہیں دے سکتا تو سمجھنا چاہیے کہ وہ گناہ بذات خود قبح ہے۔ جیسے ذات  
 خداوندی کو نہ جاننا اور اس کے مخالف عقیدہ رکھنا بعینہ اسی طرح اگر کسی بات  
 کا اللہ نے امر کر دیا ہے تو وہ حکم الہی کے باعث حسن ہو جائے گا۔ اگرچہ  
 عقلاً اس کو ممنوع ہونا چاہیے تھا اور جو احکام ہوں ہی ایسے کہ ان کا حکم دینا  
 اللہ تعالیٰ کے لئے ضروری تھا وہ بذات خود حسن ٹھہریں گے۔“

معتزلہ کا خدا کے لئے وجوب صلاح کا نظریہ اسی پر مبنی ہے۔ جمہور معتزلہ یہ عقیدہ رکھتے  
 ہیں کہ خدا سے وہی بات صادر ہو سکتی ہے جو اپنے اندر صلاح کا پہلو رکھتی ہو لہذا ”صلاح“ اس  
 کے لئے واجب ٹھہری کیوں کہ اللہ جو کچھ بھی کرے گا وہ صالح ہے یہ محال ہے کہ وہ کوئی غیر صالح  
 فعل کرے۔

معتزلہ کے افکار و آراء اس حقیقت کی غمازی کرتے  
معتزلہ فلاسفہ اسلام تھے :- ہیں کہ وہ فلسفہ سے متاثر ہوئے تھے جس کی عباسی

دور میں بڑی گرم بازاری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فلسفہ کی راہ پر چلنے والا ہر عالم یہ محسوس کرتا ہے کہ فرقہ ہائے اسلامی میں سے صرف معتزلہ ہی فلسفہ کی طرف میلان رکھتے تھے۔ معتزلہ کے اکثر علماء فلسفیانہ دراسات میں مشغول و مہمک رہتے تھے۔ کسی حد تک فلسفہ کا مطالعہ کرنے کے لئے وہ مجبور بھی تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا سامنا مخالفین اسلام سے ہوتا تھا جن میں فلاسفہ بھی پائے جاتے تھے۔ لہذا اعداء اسلام کے مقابلہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے معتزلہ نے بھی فلسفیانہ طرز استدلال اختیار کیا اور ان کے قواعد سیکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معتزلہ درحقیقت فلاسفہ اسلام تھے جنہوں نے اغیار کے اعتراضات کی مدافعت کی۔

عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں معتزلہ کو خلفاء کا تقرب حاصل رہا۔ کیوں کہ زنادقہ کے خلافت بنو آتما ہونے کے لئے خلیفہ مہدی کو معتزلہ کی ضرورت تھی۔ الحاد و زندقہ کے دعویٰ سیاسیات سے مل جل کر ایسی فضا پیدا کر رہے تھے جو فارس کی قدیم عظمت و مجد اور ادیان قدیمہ کے نشو و نما کے مقتضی تھے۔

خلیفہ مامون الرشید اپنے آپ کو معتزلی شمار کرتا تھا اور ان کا دست راست بنا رہا تھا۔ مامون نے معتزلہ میں سے امراء و وزراء کاتب اور اعوان و انصار بنائے تھے۔ مامون کے بعد معتصم اور واثق باللہ بھی اسی راہ پر گام زن رہے۔ ان تینوں نے امام اہل الحدیث حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر بڑے مظالم توڑے اور انہیں عقیدہ خلق قرآن پر مجبور کرنا چاہا مگر وہ نہ مانے اگرچہ آپ قرآن کو قدیم بھی نہیں مانتے تھے جیسا کہ آپ کے متعلق مشہور کیا جاتا ہے۔ جب خلیفہ متوکل کا دور آیا تو اس نے احمد بن حنبل سے بیک جنبش قلم سب تکلیفیں رفع کر دیں۔ اور معتزلہ کو جو روشدد کا نشانہ بنایا۔ پھر مرو زمان سے معتزلہ کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی۔ اگرچہ شیوعہ کے یہاں ان کی وقعت باقی رہی ابن ابی الحدید کا بیان ہے کہ اٹھارہویں فرقہ کے شیوعہ عقائد میں معتزلہ کے آراء سے احتجاج کرتے ہیں۔

بعض عباسی خلفاء کے عہد خلافت میں معتزلہ کا جو روستم بہت بڑھ گیا۔ اس دور میں کوئی معروف فقیہ مشہور محدث اور امام متبوع ایسا نہ تھا جو اپنے طرز فکر کی بناء پر ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنا ہو۔ یہاں تک کہ اس ابتلاء عام کے

پیش نظر لوگ یہ بھول گئے تھے کہ معتزلہ اسلام کی بدانت میں پیش پیش ہیں۔ معتزلہ کا فتنہ اس قدر ہمہ گیر تھا کہ صرف وہی شخص اس سے محفوظ رہ سکا جو ان کا ہمتوا تھا، جب خلیفہ متوکل سریر رائے خلافت ہوا تو اس نے معتزلہ کو قریب بازگاہی سے دور کر کے ان کے اعداء کو شرف باریابی عطا کیا۔ جس سے معتزلہ کی عظمت و شوکت جاتی رہی۔ اور علماء و فقہاء ان کے مقابلہ کے لئے میدان مناظرہ میں اتر آئے۔ عوام الناس ہی علماء کی حمایت کا فریضہ ادا کرتے تھے۔

**ابو منصور ماتریدی**۔ تیسری صدی ہجری کے آخر اور چوتھی صدی کے آغاز میں در عظیم شخص منصفہ شہور پر جلوہ گر ہوئے جو صدق نظر قوت دلائل اور کثرت اتباع کے اعتبار سے ممتاز تھے۔ ان میں سے ایک ابو منصور ماتریدی تھے۔ اور دوسرے ابو الحسن اشعری۔ یہ دونوں محدثین و فقہاء کے عقائد و مسائل کی طرف دعوت دیتے تھے۔ امام ابو منصور ماتریدی ماترید نامی پستی میں پیدا ہوئے جو سمرقند کے مضافات میں واقع ہے۔ آپ نے فقہ حنفی کا مطالعہ کیا اور اس میں اس قدر مہارت حاصل کی کہ ماوراء النہر کے علاقہ میں مرجع انام قرار پائے۔ لوگ فقہ و اصول اور دیگر علوم دینیہ کی تحصیل کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ نے اصول میں "کتاب الجدل" اور فقہ میں "کتاب ماخذ الشرعیہ" تصنیف کیں۔ پھر علم کلام میں شہرستانی اور اس میں ایک مستقل مکتب فکر کے بانی قرار پائے۔ جو اشعری مسلک کے قریب ہے۔ اہل خراسان زیادہ تر ماتریدی المسلک ہیں۔ ہمارے استاذ مکرم شیخ محمد عبدہ نے العقائد العصدیہ کے حواشی میں تحریر کیا ہے کہ ماتریدیہ اور اشاعرہ کے ماہین تیس مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے مگر اکثر علماء کا خیال ہے کہ یہ جزئی مسائل ہیں ان میں صرف لفظی اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ دونوں مسلک غایات و مقاصد کے اعتبار سے متحد ہیں۔ ماتریدی نے علم کلام میں مندرجہ ذیل کتابیں تصنیف کیں۔

۱۔ کتاب الرد علی الکعبی المعتزلی۔

۲۔ کتاب ادھام المعتزلہ۔

۳۔ کتاب الرد علی القرامطیہ

امام ماتریدی ۲۳۳ھ میں فوت ہوئے۔

## امام اشعری

امام اشعری بصرہ میں پیدا ہوئے اور تقریباً ۳۳۰ھ میں وفات پائی۔ یہ علم کلام میں معتزلہ کے شیخ جہانی کے شاگرد تھے۔ امام اشعری چونکہ بڑے طلیق اللسان تھے اس لئے اپنے شیخ کی موجودگی میں ان کی طرف سے مناظرہ کرتے تھے جہانی تحریری مناظرہ بڑی کامیابی سے کرتے تھے مگر تقریری بحث و جدل میں زیادہ ماہر نہ تھے اگرچہ امام اشعری معتزلہ کے تربیت یافتہ تھے۔ مگر اپنے افکار و آراء میں ان سے دور ہوتے چلے گئے۔ آخر کار محدثین و فقہاء کے ہمناہ بن گئے۔ اگرچہ آپ کو ان سے استفادہ کا موقع نہیں ملا تھا۔ اور نہ ان کے طرز پر آپ نے عقائد کا علم حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک عمر تک خانہ نشین رہ کر فریقین کے دلائل و براہین میں موازنہ کرتے رہے۔ تحقیق و تمحیص کے بعد اپنی رائے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس پر جمع ہونے کی دعوت دی۔ چنانچہ آپ بصرہ کی جامع مسجد کے منبر پر چڑھے اور لوگوں سے یوں مخاطب ہوئے۔

ہاں لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ میں خلق قرآن کا قائل تھا اور کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ بلاشبہ میں غلط کام کرتا رہا اور آپ ان سے تائب ہوتا ہوں۔ میں معتزلہ کے عقائد شیعہ کی تردید و ابطال کے لئے تیار ہوں اور ان کا راز طشت از بام کروینا چاہتا ہوں۔ ایسا الناس اعصرہ بھر آپ سے غائب رہنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اس دوران فریقین کے دلائل کا موازنہ کرتا رہا مگر مجھے کچھ پتلہ چل سکا کہ صحیح راستہ کونسا ہے۔ آخر میں تمہیں استخارہ کر کے بارگاہ ایزدی سے ہدایت کی دعائمانگی اور اس نے مجھے ان عقائد کی راہ دکھائی جو میں نے اپنی ان کتب میں ودیعت کر دی ہیں۔ میں نے معتزلی عقائد کے جتھے کو اسی طرح اتار دیا جس طرح میں یہ کپڑا اپنے سے دور پھینک رہا ہوں یہ کہہ کر آپ نے اپنی چادر جو اوڑھے ہوئے تھے دور پھینک دی۔ محدثین و فقہاء کی طرز پر جو کتابیں لکھی تھیں وہ لوگوں کے سپرد کر دیں۔ ان میں آپ نے معتزلہ پر بڑے اعتراضات کئے تھے۔

امام اشعری اپنی کتاب الابانۃ میں حمد و ثنا کے بعد لکھتے ہیں۔

”حمد و صلوة کے بعد بہت سے معتزلہ اور قدریہ ذاتی خواہشات کی بنا پر اپنے اسلاف و امراء

کے مقلد ہیں۔ وہ قرآن حکیم کی ایسی تفسیر بیان کرتے ہیں جس کی خدانے کوئی دلیل نہیں اتاری اور نہ کسی برہان سے اس کی وضاحت کی۔ نہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور نہ متقدمین سے۔ صحابہ سے جس قدر روایات و احادیث باہمی تعالیٰ کے بارے میں منقول ہیں وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ حالانکہ اس مسئلہ میں مختلف و متواتر آثار و اخبار اور روایات صحیحہ منقول ہیں۔ معتزلہ شفاقت رسول علیہ السلام کے منکر ہیں اور اس ضمن میں روایات سلف کا انکار کرتے ہیں۔ وہ عذابِ قبر اور تعذیب کفر کا بھی انکار کرتے ہیں حالانکہ صحابہ و تابعین کا اس پر اجماع قائم ہو چکا ہے۔ خلقِ قرآن کا عقیدہ گھڑ کر وہ کفار کی طرح یہ کہتے گئے کہ "إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ" ان کے خیال میں قرآن بھی انسانی کلام کی طرح حادث ہے۔ جو اس کی طرح وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ خالق دو ہیں۔ ایک خالق حیر اور دوسرا خالق شر۔ معتزلہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کی مشیت ایسے کاموں سے بھی وابستہ ہو سکتی ہے جو وجود میں نہیں آتے اور وہ بلا مشیت بعض چیزوں کو معرضِ وجود میں لے آتا ہے۔ بخلاف ازیں تمام اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ خداوند تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ قرآن میں ہے "فَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ"۔

اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ ہمیں اسی چیز کی چاہت اپنے اندر پیدا کرنا چاہئے جسے خداوند تعالیٰ ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہوں۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے :-

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلْنَا  
(ایقرہ - ۲۵۲) اگر خدا چاہتا تو وہ نہ لڑتے

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :-

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدًى  
(السجدہ - ۱۳) اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت سے بہرہ ور کر دیتے

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا :-

وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا  
(الاعراف - ۸۹) جب تک خدا تعالیٰ نہ چاہے ہم اس میں لوٹ  
اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا (کہ نہیں آسکتے)

یہی وجہ ہے کہ رسول علیہ السلام نے معتزلہ کو اس امت کے مجوس کہا ان کے اقوال و عقائد مجوس سے ملتے جلتے ہیں۔ مجوس کی طرح یہ بھی خیر و شر کے دو خالق تسلیم کرتے ہیں مجوس کی طرح ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خدا کی مشیت کے بغیر شر عالم وجود میں آسکتی ہے۔ اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ نفع و ضرر کے مالک ہیں حالانکہ قرآن میں وارو ہے۔

”قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ“  
 آپ یہ بات کہہ دیں کہ میں اپنے آپ کے لئے نفع و ضرر کا مالک نہیں جب تک خدا

(الاعراف - ۱۸۸) نہ چاہے۔

خلافت قرآن ہونے کے علاوہ یہ مسلمانوں کے اجماعی عقیدہ کے بھی خلاف ہے۔ معتزلہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ خدا کی ذات کے شواہد ذات خود ان میں اعمال بجالانے کی قدرت پائی جاتی ہے۔ گویا اس معاملہ میں وہ خدا سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ جس طرح مجوس کا نظریہ یہ ہے کہ وہ بلا قدرت خداوندی شر کے ارتکاب کی قدرت رکھتے ہیں۔ ان دلائل و شواہد کی روشنی میں ثابت ہوا کہ معتزلہ فی الواقع مجوس امت تھے۔ کہوں کہ وہ ان کی راہ پر گام زن تھے اور انہی کے گمراہ کن عقائد و اقوال سے تمسک کرتے تھے وہ لوگوں کو خدا کی رحمت سے یالوس کرتے اور کہتے تھے کہ گناہ گار ابدی جہنمی ہیں حالانکہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:-

”وَمَنْ يَعْصِ مَا وَدَّ ذَاكَ لَمْ يَنْسَأْ“ (النساء - ۴۸) سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔  
 جیسے چاہتا ہے وہ شرک کے سوا اس کے

امام اشعری کے عقائد:-  
 اسی طرح امام ابو الحسن اشعری معتزلہ کے اقوال کا بطلان ثابت کئے جاتے ہیں یا ان کی فصاحت کا راز طشت ازبام کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے خود فرمایا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے آراء بیان کرتے ہیں جن کو اہل اندلس اسلامی عقائد تصور کرتے تھے اور اشعری کے مسلک و منہج کا خلاصہ سمجھتے تھے جیسا کہ امام اشعری کی ان عبارتوں سے واضح ہوتا ہے جو مسلک اعتزال کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے تحریر کیا ہے:-

۱۔ کتاب و سنت میں جو عقائد مذکور ہیں امام اشعری کی رائے میں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کی تردید میں آپ بڑے مسکت دلائل پیش کرتے تھے۔

۲۔ جن آیات سے خدا کی تشبیہ کا وہم پڑتا ہے آپ ان کے ظاہری مفہوم پر عمل کرتے تھے اور تشبیہ کی طرف نہیں جاتے تھے۔ مثلاً ان کا اعتقاد ہے کہ خدا کا چہرہ بھی ہے اور ہاتھ بھی مگر عام انسانوں کی طرح نہیں۔

۳۔ امام اشعری عقائد کے بارے میں وارد شدہ احادیث احاد سے احتجاج کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اخبار احاد کو حجت تصور کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ علانیہ کہتے تھے کہ خبر واحد سے عقائد کا اثبات ہو جاتا ہے۔

۴۔ امام اشعری اپنے افکار و آراء میں مبتدعین اور اہل اہواء کے عموماً اور معتزلہ کے خصوصاً خلاف تھے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ منخرنین جن غلط عقائد میں مبتلا ہوئے ہیں ان سے بچ سکیں۔

حق بات یہ ہے کہ امام اشعری کے اکثر افکار و آراء بغیر آئینہ آئینہ کرنے والوں کی

## اشاعرہ کا مسلک اعتدال پر مبنی ہے۔

نسبت مبنی بر اعتدال ہیں اور آپ کا مسلک و منہاج انتہا پسندانہ نظریات کے مقابلہ میں طریق مستقیم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس عالم عظیم کی داستان حیات کا قاری بڑی آسانی سے یہ معلوم کر سکے گا کہ آپ کا علوم کثیرہ اور اطلاعات واسعہ متوسط ہیں۔ اور افرات و تفریط سے پاک ہیں۔ آپ کی تصنیف لطیف مقالات اسلامیہ اس امر کی شاہد عدل ہیں کہ آپ بڑے وسیع العلم تھے اور فرقہ ہائے اسلامی کے تباین مذاہب و تباہ مسالک کے باوصف ان کے معمولی فرق و امتیاز سے بھی آشنا تھے۔ آپ کے افکار و نظریات کا متلاشی بڑی آسانی سے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ آپ کے جملہ افکار و عقائد و صفات اعتدال سے موصوف تھے۔

۱۔ مثلاً صفات باری تعالیٰ میں آپ کی رائے معتزلہ اور جہمیہ کے بین ہیں ہے۔ یہ دونوں فرقے صفات باری مثلاً سمع و بصر اور کلام و حیات کی نفی کرتے ہیں۔

۲۔ اسی طرح آپ کا نظریہ حشریہ و مجسمہ کی نسبت معتدل ہے جو خدا کو حوادث سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تعالیٰ اللہ عنہا یَعْوَدُونَ عُلُوًّا کَبِیْرًا۔ (الاسراء - ۴۳)

۳۔ افعال العباد کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر جہمیہ اور معتزلہ کے درمیان ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کے احداث و کسب پر قادر ہے۔ جہمیہ کا قول ہے کہ انسان نہ احداث فعل پر قدرت رکھتا ہے اور نہ کسب فعل پر۔ اس ضمن میں امام اشعری کا تاویز نگاہ

یہ ہے کہ بندہ افعال کے احداث و خلق پر قادر نہیں البتہ خدا نے بندے کو کسبِ اعمال کی قدرت سے بہرہ ور کیا ہے لہذا وہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔

۴۔ مشبہہ کہتے ہیں کہ بروز قیامت خدا کو ملکیت اور محدود شکل و صورت میں دیکھیں گے معتزلہ اور جہمیہ کا قول ہے کہ خدا کسی صورت میں دیکھے جانے کے قابل نہیں۔ اشعری کا اختیار کردہ مسلک ان دونوں کے درمیان ہے وہ کہتے ہیں کہ بروز قیامت خدا تعالیٰ کی رویت ہوگی مگر ذات خداوندی نہ کسی میں حلول کرتی ہے نہ وہ حدود کی پابند ہے۔

۵۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں "بید اللہ" کا لفظ آیا ہے اس سے ظاہری لائق مراد ہے جو ایک عضو ہے۔ امام اشعری نے یہاں بھی درمیانی راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں "بید" خدا کی صفت ہے جیسے سمع و بصر اس کی صفت ہے

۶۔ معتزلہ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور مخلوق ہے۔ اس کے برعکس مشبہہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات نیز وہ اشیاء جن پر الفاظ قرآنی کو لکھا جاتا ہے جس روشنائی سے اس کے الفاظ کی کتابت کی جاتی ہے، الغرض جو کچھ ما بین اللہ قیبین ہے وہ سب کا سب قدیم ہے۔ اشعری کا اختیار کردہ مسلک یہاں بھی اعتدال پر مبنی ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور قدیم ہے نہ اس میں تبدیلی آسکتی ہے اور نہ مخلوق ہے۔ البتہ حروف تہجی اجسام اور اصوات محدودہ مخلوقات اور مخترعات کے قبیل سے ہیں۔

۷۔ معتزلہ کا قول ہے کہ کبائر کا ارتکاب کرنے والا ابدی جہنمی ہے۔ مرجئہ کہتے ہیں کہ باخلاص مومن کو کبائر کے ارتکاب سے کچھ نقصان لاحق نہیں ہوتا۔ اشعری کا مسلک ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب توحید مومن جو گناہ گار بھی ہو اس کا معاملہ خدا کی مشیت پر ہے اگر چاہے تو اسے معاف کر دے اور جنت میں داخل کرے۔ اور اگر چاہے تو گناہوں کے باعث اسے عذاب میں مبتلا کرے اور پھر جنت میں داخل کرے۔

۸۔ روافض کا قول ہے کہ رسول علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اذن خداوندی کے بغیر لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اس کے برعکس معتزلہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شفاعت کسی حال



میں نہ ہوگی۔ امام اشعری نے ان دونوں کے درمیان راستہ اختیار کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے اذن سے گناہ گار اور مستحق سزا مومنوں کی شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبولیت سے راستہ ہوگی مگر آپ کی شفاعت کا دائرہ انہی لوگوں تک محدود ہوگا جن کی شفاعت اللہ تعالیٰ چاہیں گے جیسا کہ قرآن میں وارد ہے۔

«وَالَّذِينَ يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ»  
 (الانبیاء - ۲۸)

صرف اسی کی شفاعت کریں گے جسے خدا تعالیٰ پسند کرتے ہوں گے؟

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام اشعری کا طرزِ فکر و نظر اعتدال اور وسط پر مبنی ہے اور حق و صدق بھی عام حالات میں وسط ہی کے اندر محدود ہوتا ہے۔

امام اشعری کے عقلی طرزِ استدلال کے اسباب :-

امام اشعری کا طرزِ استدلال عقائد میں عقلی ہے اور نقلی بھی کتاب و سنت میں خدا تعالیٰ اور انبیاء کرام کے جو اوصاف مذکور ہوئے ہیں وہ انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ وہ ملائکہ حساب و عقاب اور ثواب کا اثبات کرتے ہیں۔ صفاتِ خداوندی کے اثبات میں عقلی اور منطقی براہین و دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ ان فلسفیانہ قضیہ جات اور عقلی مسائل سے مدد لیتے ہیں جو فلاسفہ و مناظر کا شیوہ ہے۔ اس کے اسباب درج ذیل ہیں :-

پہلا سبب :- اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ اشعری معتزلہ کے ساختہ پر واختہ اور تربیت یافتہ تھے۔ انہی کے چشمہ علم و فضل سے اپنی علمی پائیں بچھائی تھی وجہ ہے کہ آپ نے اثبات عقائد میں معتزلہ کے طرزِ استدلال کی پیروی کی اگرچہ نتائج میں ان کے خلاف تھے اور دونوں کے غایات و مقاصد بھی جدا گانہ نوعیت کے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ معتزلہ کا طرزِ استدلال منطق و فلسفہ پر مبنی تھا۔

دوسرا سبب :- امام اشعری معتزلہ کے خلاف نبرد آزما ہوئے تھے لہذا یہ ضروری تھا کہ انہی کے اسلمہ سے ان کے خلاف معروف جنگ و پیکار ہوئے۔ تاکہ ان کے شکوک و شبہات سے قطع نظر کر کے انہی کے پیش آمدہ دلائل سے انہیں خاموش کر سکیں۔

تیسرا سبب :- اشعری فلاسفہ، قرامطہ، باطنیہ، حنفویہ اور رواقص کی تردید کے درپے تھے۔ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو برہانی قیاسات کے سوا کسی دلیل سے مطمئن نہ ہوتے تھے۔ بعض فلاسفہ تھے جن کے لئے وجہ اطمینان صرف عقلی دلائل تھے کسی اثر یا عقل

سے وہ مطمئن نہیں ہو سکتے تھے اور نہ ان کے بغیر معتزلہ کے اعتراضات کا منہ توڑ جواب مہیا ہو سکتا تھا۔

**امام اشعری کی قدر و منزلت**۔  
 اعوان و انصار تھے۔ حکام نے بھی آپ کی تائید کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا اور آپ کے اعداء و خصوم معتزلہ کو ہر جگہ ستایا جانے لگا۔ آپ کے تلامذہ و اتباع ہر طرف پھیل کر معتزلہ کے خلاف نبرد آزا ما ہوئے۔ اکثر علماء نے امام اشعری کو امام اہل السنۃ و الجماعت کے لقب سے ملقب کیا۔

وفات کے بعد امام اشعری کی قبولیت عامہ میں مزید اضافہ ہوا۔ تمام عالم اسلامی میں مشرق ہو یا مغرب علماء ان کے حلقہ بگوش ارادت ہو گئے۔ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں تمام کمرہ ارضی کے مسلمان فہم عقائد میں آپ ہی کے مسلک کو دین اسلام تصور کرتے تھے۔ اس کے سوا جو مذہب بھی تھا وہ انحراف سے خالی نہ تھا۔ چہر جو مذہب اشاعرہ کے نقطہ نظر سے جتنا دور ہوتا جائے گا اس کے انحراف میں اضافہ ہوتا جائے گا اور اس سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی مسلک صدق و صواب سے قریب ہوگا۔ جو شخص اس مذہب سے نکل جائے گا، وہ علماء کی رائے میں دین اسلام کے بنیادی مسلمات سے نکل جانے والا ہوگا۔

**محدث ابن حزم اور امام اشعری**۔  
 چوتھی صدی ہجری کے آخر میں سرزمین اندلس میں ایک عالم منصف شہود پر جلوہ گرہا جس نے پانچویں صدی ہجری کے آغاز میں بڑی شہرت حاصل کی اور اس صدی کے نصف بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ تک لوگوں کو اپنے علم میں مشغول کئے رکھا۔ اس عالم نے امام اشعری کے افکار و آراء کو نہ پسند کیا اور نہ اسے اہل السنۃ و الجماعت کا عقیدہ قرار دیا بلکہ وہ اسے نصوص کتاب و سنت اور دین کے اساسی معتقدات سے منحرف تصور کرتا رہا۔ اگرچہ ان کے تسلیم کرنے والوں کو کافر نہیں سمجھتا تھا۔ یہ عالم ابو محمد علی بن حزم اندلسی تھا۔ ابن حزم نے اشعری پر کڑی تنقید کی اور انہیں جبر یہ قرار دیا۔ کیوں کہ اشعری کا نقطہ نظر یہ ہے کہ افعال خدا کے پیدا کردہ ہیں اور کسب بندے سے صادر ہوتا ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ بعینہ جبر کا عقیدہ ہے جس پر نرم الفاظ کی تہ چڑھی ہوئی ہے ابن حزم کے نزدیک اشعری کا یہ انداز تعبیر انہیں جبر یہ کہنے سے روک نہیں سکتا۔ کبار کا ارتکاب کرنے والے کے بارے میں اشعری نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے اس کی بناء پر

ابن حزم انہیں مرجئہ قرار دیتے ہیں۔ اشعری کہتے ہیں کہ مرتکب کبائر کا معاملہ خدا کے سپرد ہے  
ابن حزم کہتے ہیں کہ مرجئہ بھی یہی کہتے ہیں۔ صرف الفاظ سے اس عقیدہ کی پردہ پوشی کی گئی ہے۔  
انصاف کی بات یہ ہے کہ مرجئہ کی دو قسمیں ہیں (۱) مرجئۃ البدعت  
مرجئہ کی دو قسمیں۔ (۲) مرجئۃ السنۃ

مرجئۃ البدعت: مرجئۃ البدعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان کی موجودگی میں معصیت ضرر رساں  
نہیں ہے جس طرح عدم ایمان کی صورت میں طاعات و اعمال بے کار ہیں۔ ان  
کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو بخلوں قلب کلمہ شہادت پڑھ لے اسے عذاب میں مبتلا نہیں  
کیا جائے گا۔

مرجئۃ السنۃ: بخلاف ازیں مرجئۃ السنۃ عذاب کے قائل ہیں۔ ان کی رائے میں کبائر کا  
ارتکاب کرنے والوں کا محاسبہ کر کے انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ مگر ہو سکتا ہے کہ  
خداوند کریم انہیں اپنی رحمتِ خصوصی کے دامن میں چھپالیں اور ان کی مغفرت ہو جائے۔  
دونوں نظریات کا باہمی فرق واضح ہے۔ مرجئۃ البدعت ستر کے قائل نہیں مگر مرجئۃ السنۃ  
اسے درست تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے پہلو بہ پہلو بخشش خداوندی کے امیدوار ہیں۔  
اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں:-

وَيُفَصِّرُ عَنْ كَثِيرٍ (اشعری - ۳۰) (وہ اکثر لوگوں کو معاف بھی کر دیتا ہے)

شہرستانی الملک والخل میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مرجئۃ السنۃ میں سے  
تھے۔ مگر میں (مصنف) کہتا ہوں کہ ائمہ اربعہ سبھی کا یہی مسلک تھا۔ ابن حزم نے جو امام اشعری کو  
مرجئہ کہا ہے تو اس سے مراد مرجئۃ السنۃ ہے۔

بلاشبہ مسئلہ زینت میں ابن حزم اشعری سے متحد خیال نہ تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا وہ  
معتزلہ کے ہمزوات تھے یا ان کا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ کبائر کے مرتکب عذاب سے بچ نہیں سکتے  
البتہ وہ ابدی جہنمی نہ ہوں گے۔ جیسا کہ معتزلہ سمجھتے ہیں؟ پھر کیفیت ابن حزم کا مسلک اس  
صفحہ میں اشاعرہ اور معتزلہ دونوں کے الگ تھلگ ہے۔ اپنے مقام پر ہم اس کی تفصیلات کا  
ذکر کریں گے۔

## خاتمہ

یہ ہے ابنِ حزم کی سرگزشت  
 حیات ان کا عصر و عہد، اخلاق و

عادات، خدا داد صلاحیتیں اور اسباب و محرکات جو ان کے مدد و معاون ثابت ہوئے۔ آپ نے ایک معزز گھرانے میں آنکھ کھولی۔ عظمت و مجد کے ماحول میں پلے بڑھے۔ اور آغاز کار ہی سے معمولی باتوں سے منہ موڑ کر عزائم امور میں لگ گئے۔ ابنِ حزم نے دیکھا کہ ان کے والد ہر طرح اوصافِ قیادت سے بہرہ ور تھے، وہ دولت مند تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے کنبہ کی عظمت و مجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ چنانچہ ابنِ حزم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے لگے اور یہ گوارا نہ کیا کہ ان کے والد نے خاندان کے عز و شرف کی جو عمارت استوار کی تھی اسے مسمار کر دیں۔ اتنا فرق ضرور تھا کہ ان کے والد ایک ایسی سلطنت کے وزیر رہے جو بڑی مضبوط و مستحکم تھی۔ بخلاف انہوں نے ابنِ حزم کے سیاسی حالات ہر لحظہ دگرگوں رہتے تھے اور ان میں کوئی استحکام نہیں پایا جاتا تھا تاکہ آپ اپنے والد کی شاہراہ پر گام زن ہو سکتے۔ ابنِ حزم کے والد کی زندگی کے آخری دور میں جو سیاسی اضطرابات رونما ہوئے اور جن کے دوران ان کے والد اپنے خالق حقیقی سے جاملے انہوں نے ابنِ حزم ایسے صیغہ السن نام زد پروردہ کو حوادث و آلام کی آگ میں بھلسنے کے لئے تہنا چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی کی یہ تلخیاں گوارا کر کے ابنِ حزم میں کمال تربیت قوت ارادی اور پختگی عزم کے جوہر پیدا ہو گئے۔ ابنِ حزم اس طرح خاندانی عز و شرف اور تجرباتِ حیات کا مرقع بن گئے آپ نے زندگی کے تلخ و شیریں کا مزہ چکھا اور اس طرح شہد و حنظل دونوں کے ذوق آشنا ہو گئے۔ آپ کو آئندہ زندگی میں اس کا یہ فائدہ پہنچا کہ آپ بڑے قوی النفس ہو گئے۔ حوادثِ آلام پر غالب آجاتے اور گردنِ روزگار کے طوفان میں مطلقاً نہ گھبرائے، آپ نے زندگی میں ایسا بلند و بالا مقام پیدا کیا جو آپ کی مجر و شرافت کے لئے موزوں تر تھا نہ لوگوں کی بھڑ بھڑ میں گھسے نہ علما کا بھنور میں پھینسا گوارا کیا نہ گزشتہ یا موجودہ کسی شخصیت میں کم ہونا پسند کیا بلکہ ایک

ایسی عظیم المثال یکتا شخصیت بننے میں کامیاب ہو گئے جو دوسروں پر اثر انداز ہوتی تھی مگر کسی سے مرعوب اور مستفید نہیں ہوتی تھی۔

ابن حزم کی زندہ جاوید یادگار۔ ابن حزم نے جن سیاسی حالات کے دوران شرف و مجد کو پایا تھا۔ چونکہ وہ اضطرابات سے دوچار تھے لہذا آپ

اس سے کنارہ کش ہو کر نیک نیتی سے رضاء الہی کے حصول کی خاطر طلب علم کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے آپ کو حقیقت کی تلاش میں گم کر دیا۔ چنانچہ آپ کتاب و سنت، عقل سلیم اور ذہانت و فطانت کی مشعل لے کر حقیقت کی تلاش میں نکلے۔ اگرچہ آپ اپنے والد کی سیاسی وجاہت کو نہ پاسکے مگر ان کا نام زندہ جاوید ہو گیا اور لوگوں کے لئے یہ تلاش کردہ حقیقت اپنی یادگار چھوڑ گئے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ علم اور طلب حقیقت کے سوا ہر عز و مجد آخر فنا ہو جائے گی۔ ہر مادی چیز سایہ کی طرح رُو بڑوالی ہے۔ اس کے مقابلہ میں جس چیز کا تعلق فکر و نظر و روح اور حقائق سے ہے وہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک انسان ادراک فہم سے پہرہ ور رہے گا اور دین اخلاق اور امور نفسیہ کے حقائق کی تلاش میں لگا رہے گا۔ علمی یادگار دنیا سے اس وقت تک مٹ نہیں سکتی جب تک متقدمین کے علم کے سمندر کی غواصی کرنے والی عقل انسانی دنیا میں موجود ہے اور جب تک انسان جدید علوم کا اضافہ کرتا رہے گا اور ایسے حقائق کی نشان دہی میں لگا رہے گا جن کا انکشاف آج تک نہ ہو سکا۔

ابن حزم کا انصراف الی العلم۔ ابن حزم خدا و اصلا جیتوں سے پہرہ ور تھے آپ نے حالات بھی سازگار پائے تھے۔ اسی لئے ہمہ تن

علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ سیاسیات میں مہمک رہ کر اپنے نور علم سے دین کی خدمت کرنا چاہتے تھے مگر سیاسی حالات مضرب تھے۔ ہر طرف فسادات کا دور دورہ تھا۔ ظاہر ہے کہ فسادات فسادات ہی ہوتے ہیں۔ ان میں جو شخص کھڑا رہتا ہے وہ بیٹھنے والے سے بہتر ہوتا ہے اور جو بیٹھا رہتا ہے وہ چلنے والے سے افضل ہے اور چلنے والا بھاگنے والے سے اچھا ہے۔ چنانچہ آپ کو ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا اور ہر طرف شب و بجزور کی طرح تاریک حوادث کی فتنہ سامانی دیکھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ سیاسیات کے اس بھر ظلمات سے نکل کر نور علم کی طرف آ گئے۔ چونکہ نور ہمیشہ روشنی ہی کا

موجب ہوتا ہے لہذا آپ نور علم سے مستنیر ہو گئے اور اس کی روشنی میں چل نکلے۔ یہاں تک کہ صحیح معنوں میں آپ اندلس کے یکتا عالم قرار پائے۔ گویا اندلس اور ابن حزم ایک دوسرے کا جزو لاینفک ہیں۔ جب ابن حزم کا ذکر آتا ہے تو اندلس کا ذکر بھی ناگزیر ہوتا ہے اور جب اندلس کے حالات پر روشنی ڈالنا مقصود ہوتا ہے تو علماء میں آپ کا نام نامی اور اسم گرامی ہر ذہن پر ہوتا ہے۔

**عصر ابن حزم کی خصوصیات :-** عصر ابن حزم اندلس کا علمی دور تھا۔ اس دور کے امراء میں سے بھی متعدد علماء ہوئے ہیں جو صاحب علم نہ تھے وہ بھی

اس امر کے لئے کوشاں ہتے تھے کہ ان کا گھر خزان العلوم ہو۔ چنانچہ وہ کتابیں جمع کرتے اور ان سے اپنے محلات کو راستہ پیراستہ کر کے اپنے لئے سرمایہ افتخار بناتے تھے۔ عصر ابن حزم سے پہلے مشرقی علوم و فنون مغرب کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ علماء و فضلاء اندلس کا رخ کرنے لگانے کے دیاں پہنچتے سے قبل ان کی تصانیف دیاں پہنچ چکی تھیں۔ اسی طرح اندلس کے علماء اپنی علمی پائیں بچھانے کے لئے مشرق کو جاتے۔ ابن حزم مختلف علوم و فنون پر مشتمل مبسوط، متوسط اور مختصر تصانیف سے استفادہ کر چکے تھے۔ آپ باط علم کی طرف نکتہ رس عقل اور حقیقت شناس دل کے ساتھ متوجہ ہوئے۔ اپنے مطالعہ کے حاصل سے ایک ایسے فقہی مسلک کی بنا ڈالی اور ایک ایسے انداز فکر و نظر میں ممتاز ہوئے جس نے عرصہ دراز تک لوگوں کو اس میں مشغول کئے رکھا۔ اگرچہ اس فقہی مسلک کی اصل الہی کتب میں موجود تھی جن سے آپ نے استفادہ کیا۔ گویا آپ کا فقہی طرز و منہاج بحیثیت مجموعی آپ کے مخصوص مزاج فکری کا ترجمان ہے آپ کے عہد و عہد میں جو مجاولات و نزاعات پھرتے تھے۔ نیز جس طرح آپ جو رو تشدد کا نشانہ بنائے گئے اس سے آپ کی خفتہ صلاحیتوں کے بیدار ہونے میں مزید مدد ملی۔ یہاں تک کہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی اکثر تصانیف آپ کے خلاف بغض و عناد اور تشدد کی کمر شہ سازی ہے۔ جب آپ کی تصانیف آپ کے خلاف حقد و عداوت کا پتہ ہیں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کتب اس دور کے جدل و مناظرہ اور نزاعات باہمی کی عکاسی کرتی ہوں گی۔ ہمارے لئے اب مناسب ہے کہ آپ کی داستانِ حیات سے فارغ ہو کر آپ کے علم و فضل کا جائزہ لیں اور یہی دراصل ہمارا مقصد و غایت ہے۔ واللہ ولی التوفیق

حصہ دوم  
 حیاتِ امام ابنِ حنبلہ

---

حضرت امام کی فقہ  
 اور  
 ان کے افکار و آراء







## علوم ابن حزم

ابن حزم کی جامعیت۔ ابن حیان ابن حزم کے علم و فضل کے بارے میں فرماتے ہیں:-  
 «ابو محمد ابن حزم گونا گوں و بوقلمون علوم کے ماہر تھے مثلاً حدیث و فقہ جدل و تسبی اور  
 متعلقات ادب اس کے پہلو پہ پہلو علوم قدیمہ مثلاً منطق و فلسفہ سے بھی پوری طرح  
 بہرہ ور تھے۔ انہوں نے ان فنون میں متعدد کتب تصنیف کی ہیں اگرچہ وہ اغلاط  
 سے مبرا نہیں جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ ہمیں جرأت سے علوم و فنون پر حملہ آور ہوتے  
 تھے۔»

یہ ہے ابن حیان کی رائے ابن حزم کے بارے میں! اس سے عیاں ہے کہ ابن حزم کا علمی  
 دائرہ خاص وسیع ہے۔ وہ صرف حدیث و فقہ کی تنگنائی میں محدود نہ تھے بلکہ سبھی علوم پر دھاوا بول  
 دیتے تھے خواہ وہ علوم عقلی ہوں یا نقلی۔ اس پر آپ نے علوم ادبیہ اور فلسفہ کا پیش بہا اضافہ کیا۔  
 آپ منطق میں اجتہاد کے درجہ تک پہنچ گئے تھے۔ آپ نے اپنے عقلی معیار پر اس کے قیاسات  
 وضع کئے اور مشائخ کی منطق کے دائرہ میں محصور و مقید نہ رہے بلکہ اس کا موازنہ کیا اور اسے آزمایا۔  
 آپ صرف نقلی علوم کے ہی عالم بے بدل نہ تھے بلکہ اس سے بڑھ کر عقلیات میں بھی کما حقہ  
 بصیرت رکھتے تھے۔ بایں ہمہ وہ اعلیٰ درجہ کے تاریخ دان بھی تھے۔

ابن حزم کی تصانیف۔ ابن حزم کا علم و فضل صرف قلب و لسان تک محدود نہ تھا کہ  
 صرف وہی تلامذہ اسے نقل و روایت کرتے جو آپ سے  
 فیض یافتہ تھے بلکہ انہوں نے اپنے علوم و فنون صفحات قرطاس پر بکھیر دئے تھے اور بڑی  
 بلیغ عبارت میں انہیں سپرد قلم کیا تھا جو آپ اپنی یادگار چھوڑ گئے اور تاریخ نے ہمیشہ کے

لئے انہیں اپنے اوراق میں سمیٹ لیا۔ یہ بیش قیمت علمی ذخیرہ اخلاف کے یہاں محفوظ رہا۔ جو دلائل و آثار فقہ و جدل اور اخلاق و فلسفہ کے رنگ میں اس کی یاد تازہ کرتے رہے۔ ان گران ثنائیت کے محتویات و شتملات سے ابن حزم ایسے عالم جلیل کی عظمت شان کا اندازہ ہوتا ہے ابن حیان ان کی بعض تصانیف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”شیخ ابو محمد ابن حزم نے ملعون یہود اور دیگر اہل مذاہب کے ساتھ بڑے مناظرے کئے جن کا حال کتب تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس ضمن میں آپ کی تصانیف نہایت مشہور و معروف ہیں۔ جدل و خلافیات میں آپ کی ان کتب نے زیادہ شہرت پائی۔“

(۱) الفصل بین اہل الآراء والتحل۔

(۲) کتاب الصادع والرادع۔

(۳) شرح موطا امام مالک۔

(۴) کتاب الجامع فی صحیح الحدیث۔

(۵) کتاب التلخیص والتلخیص فی المسائل النظریہ۔

(۶) کتاب منتقى الاجماع۔

(۷) کتاب الامامة والیاستہ (یہ خلفاء کی سیرت اور مراتب کے بارے میں ہے)۔

(۸) اخلاق النفس۔

(۹) الایصال الی فہم کتاب الخصال۔

(۱۰) کتاب کشف الالباس ما بین اصحاب الظاہر واصحاب القیاس۔

ان کے علاوہ آپ نے متعدد کتب اور مسائل تحریر کئے۔“

مذکورہ بالا بیان میں ابن حزم کی تمام تصانیف مذکور نہیں بلکہ آپ نے متعدد دیگر کتب تصنیف کیں۔

مثلاً درج ذیل کتب بھی آپ کی تصنیف ہیں جو ہمارے پیش نظر ہیں۔

(۱) جہرة الانساب۔

(۲) ألفا ضلّٰتہ بین الصحابۃ۔

(۳) الناسخ و المتسوخ۔

(۴) مداوۃ النفوس۔

(۵) نقط العروس۔

(۶) اَلْاَحْکَامُ فِیْ اَصُوْلِ الْاَحْکَامِ۔

(۷) المحلّٰی

(۸) طوق الحمامہ

(۹) کتاب التقریب یہ ابن حزم کی ایک مستقل مگر غیر معروف کتاب ہے۔ ابن حزم نے اپنی کتاب الفصن کی ابتداء اور اس کے دیگر اجزاء میں اس کا خلاصہ تحریر کر دیا ہے یہ کتاب ابن حزم کی ذرا سات شرعیہ و عقلیہ کا پختہ سمجھی جاتی ہے۔

ابن حزم کے بیٹے ابورافع الفضل فرماتے ہیں:-

”میرے یہاں میرے والد کی ہاتھ کی لکھی ہوئی تقریباً چار صد کتب جمع ہو گئی تھیں جو اسی نہر اور اوراق پر مشتمل تھیں“

تصانیف ابن حزم کی قدر و قیمت :- ذکر کردہ تصانیف سے تقلید ابن حزم کی وسعت و جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے

ہمیں کسی سنان دیرانہ میں نہیں چھوڑا کہ ہم ان کے افکار و آراء کی قدر و قیمت کرنے میں حیران و ششدر نہ ہوں اور ہمیں پتا نہ چل سکے کہ ان کے پیش رو علماء کے مقابلہ میں ان کے علمی نظریات کس درجہ کے ہیں۔ اس کے برعکس انہوں نے اپنے افکار کو پیش قیمت کتابوں کے اوراق میں مدون کر دیا ہے تاکہ علی البصیرت ہم ان کا مطالعہ کر سکیں اور موازنہ و مقایسہ کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ جاوہ مستقیم پر گامزن تھے یا سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے۔

اگرچہ ہماری ذرا سات کا اولیں اور بالذات موضوع ابن حزم کی حدیث و فقہ ہے۔ تاہم سیرت نویسی کے واجبات کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی علمی شخصیت کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں۔ کیونکہ فقہ و اصول کے ساتھ آپ کے کلامی آراء بھی باہم گھل مل گئے ہیں۔ نیز اس سے کہ خدمت

فکری مسالک و مناہج کا منبع نفس انسانی میں ایک ہی ہے اور ان کے رستے مخلوط و متحد ہیں مزید برآں ان کی فقہ و عقائد سے متعلقہ کتب میں دوسرے مذاہب کے افکار و آراء پر تنقید کی گئی ہے۔ لہذا آپ کے طرزِ جدل و بحث سے آگاہ ہونا ہی ہمارا فرض ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے لئے ان کے تمام فکری مناہج کا جائزہ لینا از بس ناگزیر ہے۔

حاصل کلام کسی عالم کی علمی شخصیت کا جائزہ لئے بغیر اس کے کسی خاص علمی پہلو کی نشان دہی کرنا بڑا دشوار کام ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کاتب اس شخصیت کے مختلف علمی مظاہر بنظر غائر دیکھے اور ہر پہلو پر مختصر تبصرہ کرے اور اپنی دراسات کے خاص موضوع کو نسبتاً زیادہ تفصیلات کے ساتھ بیان کرے۔

مذکورہ الصدر بیانات کی روشنی میں ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم ابن حزم کے کلامی

### علم الکلام تاریخ و دیگر موضوعات

آراء کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن حزم کا زاویہ نگاہ متعدد مسائل مثلاً صفات باری، افعال الانسان اور ترکیب کیا ہے میں امام اشعری سے جداگانہ نوعیت کا ہے علم کلام میں آپ نے چند ایسے مسائل کا اتباع کیا ہے جو اس کتاب و سنت سے ماخوذ مستنبط ہیں۔ ان کے استنباط میں وہ نصوص کی صرف لغوی تفسیر کرتے ہیں جیسا کہ آیات متشابہات اور ان آیات میں جن سے خدا کی تشبیہ کا وہم پڑتا ہے۔ ابن حزم نے ان کی صرف ظاہری تفسیر و توضیح کی ہے۔ لہذا ہم افکار ابن حزم کے اس گوشہ کی جانب متوجہ ہوں گے مگر ایجاز و اختصار کے ساتھ طوالت سے اجتناب کریں گے۔

ابن حزم نے تاریخ کی طرف بھی توجہ دی تھی اور اس کے دقیق و عویص جزو کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا اور وہ — انسب — ہے۔ علم الانساب میں آپ اپنی طرزِ خاص کے موجد ہیں۔ پھر آپ نے تاریخ کے اس گوشہ پر بھی اظہارِ خیال کیا جس میں علماء کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے اور وہ صحابہ کرام کا باہم موازنہ و مفاضلہ ہے۔ آپ نے اس موضوع پر ایک رسالہ بھی سپرد قلم کیا جس کی بناء پر آپ پرنا صبی ہونے کا اتمام لگا۔ محضراً اس پر روشنی ڈالنا بھی ضروری ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آپ بنو امیہ کی حمایت و عصیبت کے جرم میں فی الواقع نا صبی ہو گئے تھے یا یہ محض نفق و عدولت کی کرشمہ سازی ہے۔

ابن حزم نے فلسفیانہ دراسات سے بھی دلچسپی لی تھی بنطق سے آپ کو خصوصی لگاؤ تھا۔ اس

میں آپ نے اپنی کتاب التقریب تصنیف کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں آپ سے غلطیاں سرزد ہوئیں۔ اس کے منطقیانہ اصول ارسطو کے بھی خلاف ہیں۔ لہذا اس کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آیا ارسطو کی مخالفت ہی کو ناقابل تصحیح خطا قرار دیا جاتا ہے یا فی الواقع اس میں اغلاط موجود ہیں؟ اور کیا منطق میں ارسطو کی مخالفت کرنے والے آپ اولین شخص تھے یا پہلے بھی کسی نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے؟

ابن حزم نے نفسیات و اخلاق کے علوم کو بھی موضوع نظر و فکر بنایا تھا۔ ان موضوعات اور ان کے اساسات و منہاج کی تحقیق و تلاش بھی ضروری ہے جن پر آپ چلے اور ان نتائج کی نشان دہی کرنا بھی ہمارا فرض ہے جن تک آپ کو رسائی حاصل ہوئی۔ نیز یہ کہ علماء اخلاق کی نگاہ میں ابن حزم کے یہ نظریات کس قدر وقعت کے حامل تھے۔

بالآخر ابن حزم وہ عظیم فقیہ تھے جو اپنی فقہ کی راہ پر ایک مجتہد مستقل کی حیثیت سے گامزن رہے اگرچہ آپ نے فقہ ظاہری کو اپنا اور ڈھنا بچھونا بنایا تھا۔ تفصیل و تحقیق کا اصل مقام یہ ہے اور یہی ہماری دراسات کا مطلوب و مقصود ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن حزم اپنی دراسات ظواہر نصوص سے احتجاج اور ابن حزم ہے۔ فقہیہ میں ایک خاص طرز کے پابند رہتے

تھے یا یہ کہ ان کے علمی مزاج کی بناء پر ایک خاص طریقہ انہیں پسند آ گیا تھا اور دل پر غلبہ حاصل کر چکا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عقائد ہی مسائل پر بحث کرتے ہوئے بھی آپ اپنے فقہی انداز سے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے۔ جن دراسات اسلامیہ میں آپ صرف اسلامی فرقوں کے خلاف نبرد آزما ہوئے ہیں ان میں بھی آپ کا وہی طرز و منہاج نمایاں نظر آتا ہے۔ جب آپ معتزلہ کے عقلی قیاسات کی تردید میں قلم اٹھاتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے برہانی جدلیات کا ماہر فلسفی صرف عقلی احکام کی مدد سے زور استدل لال پیدا کر رہا ہو۔ اس کے ما سوا آپ کے تمام تضایا جن پر آپ کے عقائد مبنی ہوتے ہیں، صرف نصوص سے ماخوذ و مستنبط ہوتے ہیں۔ خواہ ان نصوص کا تعلق کتاب اللہ سے ہو یا سنت سے۔ خلاصہ کلام آپ عقائد و فروع میں ظاہری المسک ہیں اور آپ کا طرہ امتیاز نصوص و آثار سے استدلال کرتا ہے۔

جب آپ کا رویے سخن دیگر اہل مذاہب یا منکرین حدیث کی طرف ہوتا تو آپ محض

عقلی استدلال پیش کرتے۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں حق بجانب ہیں کہ آپ کے دو منہاج تھے (۱) منہاج عقلی (۲) منہاج اسلامی۔ دراسات مختلفہ میں ہر علم و فن پر بحث کرتے ہوئے آپ کا ایک خاص جزئی انداز ہوتا ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک طرز میں مل جاتا ہے آپ کے ہر طرز بحث میں علم سے وابستگی صاف نظر آتی ہے۔ مثلاً آپ کے دراسات نفسیات و اخلاق جو خالص تجربہ و استقراد پر مبنی ہیں۔ تاریخ میں آپ کا طرز بحث و نظر، تدقیق و تفحص کی غمازی کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابن حزم کے تمام مناہج و مسالک پر غور و فکر کرنا ہمارے لئے از بس ناگزیر ہے پہلے ہم آپ کے دونوں عمومی مناہج فکری کا جائزہ لیں گے۔ پھر آپ کے طریق جدل و بحث اور انداز تسوید و تحریر کے متعلق اپنا نقطہ نظر واضح کریں گے۔

## ابن حزم کا عام عقلی منہاج و مسلک

ابن حزم اپنے مجادلات میں چند ایک عقلی قیاسات کے پابند تھے جن سے باہر نکلنا آپ کو گوارا نہ تھا۔ اگر خصم ان سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا تو آپ بزور اسے ان قیاسات کی طرف کھینچ لاتے تھے اور اس کے حق میں ایسے تند و تیز کلمات کہتے کہ اسے راہ راست پر آتے ہی بن آتی یا وہ ان قیاسات کو اس کے طعن و تشنیع کی اساس قرار دیتے۔ اگر اس کے ساتھ خطاب کرنا دشوار ہوتا تو لکھ کر اس کی تردید کرتے۔

ابن حزم نے اپنی کتاب التقریب میں اس منہاج کی نشان دہی کی ہے جس کے وہ جدلیات کے دوران پابند رہتے ہیں۔ اپنی کتاب الفصائل میں انہوں نے اس کے ایک جزو کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ "الفصل" میں بیان کردہ جزو اس منہاج پر روشنی ڈالنے کے لئے کافی ہے لہذا ہم اسی پر اعتماد کریں گے۔

ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ انسان بحیثیت انسان بدیہیات اور بنی نوع انسان سے آگاہ ہے۔ وہ بدیہیات کو علم النفس کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس لئے کہ ہر نفس سلیم از خود بلا تعلیم و تلقین بدیہیات سے آگاہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک بچہ بھی بدیہیات کو جانتا اور مانتا ہے۔ جس بات کو وہ ان بدیہیات سے متصادم سمجھتا ہے جن کا علم اس کی ذات میں راسخ ہو چکا ہے وہ اسے ٹھکرا دیتا ہے۔ ابن حزم بدیہیات کی مثال دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جزو کل کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صغیر السن بچہ بھی اس کا ادراک کر سکتا ہے یہاں تک کہ سن تمیز کو پہنچنے سے قبل ہی وہ اس سے آشنا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ بچے کو ایک کھجور دیں تو وہ دوسری طلب کرتا ہے اور جب تیسری دے دیں تو وہ مزید خوش ہوتا ہے۔ پھر ابن حزم چند بدیہیات کا ذکر کرتے ہیں جن کا علم انسان

کی طبیعت میں واضح ہو چکا ہوتا ہے۔ مثلاً بچہ اس حقیقت سے آشنا ہے کہ دو متضاد چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ اگر تم بچے کو نذر رکھڑا رہنے کا حکم دو تو وہ رونے لگے گا اور بیٹھنے کی کوشش کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے بخوبی معلوم ہے کہ اٹھنے اور بیٹھنے کے دونوں کام ہر ایک وقت انجام نہیں پاسکتے۔ بچہ یہ بھی جانتا ہے کہ جسم واحد ہر ایک وقت دو جگہوں میں مقیم نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کسی جگہ جانا چاہتا ہو اور آپ اسے روک لیں تو زورنا شروع کر دے گا اور کہے گا کہ مجھے جانے دیجئے۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ جب تک وہ یہاں مقیم ہے اس جگہ نہیں پہنچ سکتا، جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ بدیہیات میں سے بچہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دو جسم یکجا نہیں سما سکتے۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں وہ بیٹھنا چاہتا ہے آپ سے لڑھکیگا کہ وہ جگہ حاصل کرے گا کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ اس جگہ میں اس کے ساتھ دوسرے شخص کی گنجائش نہیں۔ اگر تم بچے کو یہ کہو کہ دیوار پر جو چیز پڑی ہے ذرا پکڑ دیجئے جیب کہ دیوار سے وہ چیز اٹھانے پر قادر نہ ہو تو وہ کہے گا کہ میرا ہاتھ وہاں نہیں پہنچتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ طویل چیز قصیر کے مقابلہ میں زائد ہوتی ہے۔ اسی طرح بچہ جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی طرف چل کر جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ چلنے سے یہ فاصلہ طے ہو جائے گا اگرچہ وہ اپنے ان معلومات کے اظہار و بیان پر قادر نہ ہو۔

بچے کو یہ بھی معلوم ہے کہ غیب کی باتیں کسی کو معلوم نہیں۔ کیونکہ جب تم اس سے کوئی ایسی بات پوچھو جس سے وہ ناواقف ہو تو وہ انکار کرے گا اور کہے گا کہ مجھے علم نہیں۔ بچہ حق و باطل کے باہمی فرق سے بھی آگاہ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات بتائے گا تو ممکن ہے بعض اوقات اس کو ماننے کے لئے تیار نہ ہو۔ جب تک کسی ذریعہ سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے، جب اس کی تائید ہو جائے گی تو وہ مطمئن ہو جائے گا۔ بچہ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی زمانہ میں ہوتی ہے۔ جب اس سے کوئی بات کہو تو وہ دریافت کرے گا کہ وہ کب وقوع پذیر ہوئی؟ بچہ جانتا ہے کہ ہر چیز کی ایک ماہیت اور طبیعت ہوتی ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتی۔ جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس سے ناواقف ہو تو پوچھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب اس کا نام ذکر کر دیا جاتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔



بچے کو معلوم ہے کہ فعل فاعل کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہو سکتا جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً کہتا ہے اسے کس نے بنایا؟ اور کبھی اس پر قناعت گزین نہیں ہوتا کہ یہ چیز کسی صانع کے بغیر وجود میں آگئی۔ اسی طرح بچہ جانتا ہے کہ خبر سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی۔ اسی لئے وہ بعض خبروں کو مانتا ہے اور بعض کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ بعض میں توقف کر دیتا ہے یہ تمام امور ایسے ہیں کہ سب لوگوں کی ابتدائی زندگی میں ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

اسی طرح ابن حزم بدیہیات کی مثالیں ذکر کئے جاتے ہیں اور انہیں علم النفس کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انسان بخوبی جانتا ہے کہ غیب کے علم میں تعارض نہیں ہوتا جب ایک شخص آکر کوئی خبر بتائے پھر دوسرا شخص آئے جو پہلے سے نہ ملا ہو اور بعینہ وہی بات ذکر کرے تو اس پہلی بات کی تصدیق ہو جائے گی اور اگر دوسرے کی بات کسی ایک واقعہ میں بھی پہلے سے مختلف ہو تو دونوں میں سے کسی کی بھی تصدیق نہیں کی جاسکے گی۔

ابن حزم فرماتے ہیں :-

”جس خبر کے روایت کرنے والے دو یا دو سے زیادہ اشخاص ہوں وہ الگ الگ ہوں اور کبھی ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو اس کے باوجود وہ روایت کرنے میں یک زبان ہوں تو ایسی خبر حتمی اور قطعی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ قبل ازین وفات پا چکے ہیں ہم ان کی موت کی تصدیق کرتے ہیں اور جو پیدا ہوئے ان کی ولادت کی خبر کو بھی درست تسلیم کرتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس معزول شدہ لوگوں کی معزول امراء کی امارت، مرہقوں کی علالت، تندرستوں کی صحت یابی، مصیبت زدہ کی مصیبت زدگی، بلاد بعیدہ، گذشتہ واقعات، سلاطین و ملوک، انبیاء علیہم السلام اور ان کے مذاہب و ادیان، علماء اور ان کے اقوال فلاسفہ اور ان کی حکیمانہ باتیں ہم ان سب کو بلا مشاہدہ صحیح تسلیم کرتے ہیں۔“

بدیہیات معیارِ حق و صدق ہونے کے لحاظ سے :- یہ ہیں وہ بدیہیات جن کو ابن حزم علم النفس

کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور جن کو اپنے عقلی مجادلات کی معیار قرار دیتے ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ بدیہیات ہیں جو علم انسان کی اساس اولین ہیں اور یہ عقل و شعور کی حیثیت کا مظہر ہیں جس کی بناء پر انسان کو حیوانات کے مقابلہ میں افضل قرار دیا گیا ہے۔ ابن حزم کا

خیال ہے کہ انسان کو اپنی تفکر عقلی کی چار دیواری میں گم نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے معلومات کو ان بدیہیات کی میزان میں تولتا رہے اور اس کسوٹی پر کتنا ہے جو شبہات کی آمیزش سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حزم کی رائے میں منطقی مقدمات کو بھی اسی معیار پر پرکھنا چاہیے۔

فکر انسانی میں جو غلطی واقع ہوتی ہے، یا علماء کے مابین ادراکات عقلیہ میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کا منشا و مصدر بدیہیات کا اختلاف نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اختلافات میں بدیہیات سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ بعض اوقات مقدمات اس قدر طویل و قہمیر ہوتے ہیں کہ انہیں بدیہیات کی کسوٹی پر پرکھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال گویا حساب ایسی ہے کہ اس میں جس قدر ہند سے زیادہ ہوں گے غلطی کا امکان بڑھتا جائے گا اور نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ ہند سے جتنے کم ہوں گے اسی قدر غلطیاں کم ہوں گی اور نتائج میں بھی اختلاف رونما نہ ہوگا۔

ابن حزم فرماتے ہیں :-

ان مقدمات یعنی بدیہیات کے سوا استدلال کی کوئی صورت ہی نہیں اور کوئی چیز تبھی درست ہو سکتی ہے، جب ان کے معیار پر پوری اترتی ہو۔ ان مقدمات میں سے کوئی مقدمہ جس چیز کے حق میں صحت کی شہادت دے وہ صحیح ہے اور جس کے حق میں شہادت نہ دے وہ باطل اور ساقط عن الاحتجاج ہے۔ اتنا فرق ہے کہ بعض اوقات ان بدیہیات کی طرف قریب سے رجوع کیا جاتا ہے اور بعض اوقات دُور سے۔ جب قریب سے رجوع کیا جائے تو ہر شخص کے لئے اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ بخلاف ازیں جب مقدمات مذکورہ بعینہ ہوں تو استدلال کرنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے اور اس میں غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ البتہ غیر معمولی فطانت و ذہانت سے بہرہ وہ اشخاص غلطی سے محفوظ و مصئون رہ سکتے ہیں۔ استدلال میں غلطی واقع ہونے کا یہ معنی نہیں کہ جس چیز کو ان مقدمات پر پرکھا جا رہا ہے وہ حامل حق و صواب نہیں یا وہ مقدمات نادرست ہیں۔ بلاشبہ وہ دونوں حق ہیں۔ اس کی مثال ہندسوں سے دی جاسکتی ہے۔ جب ہند سے کم ہوں تو ان کو جمع کرنا آسان ہے اور ان میں غلطی کا امکان بھی کم ہوتا ہے اس کے

برعکس جب اعداد زیادہ ہوں اور ان کے جمع کرنے میں زیادہ عمل کی ضرورت ہو تو انہیں جمع کرنا دشوار ہوتا ہے اور اس میں غلطی کا احتمال بھی زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر معمولی ذہن کا صاحب دان اگر ہو تو وہ الگ بات ہے۔ اس سلسلہ میں قریب و بعید مقدمات کی کوئی خصوصیت نہیں یہ دونوں ہی حامل حق و صواب ہیں اور ان میں کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور نہ ہی کوئی مقدمہ دوسرے کے معارض ہوتا ہے۔

یہ بیانات اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ ابن حزم کے نزدیک بدیہیات عقلیہ مقدمات منطقیہ اور عام دراسات عقلیہ کے درمیان گہرا اور محکم رشتہ پایا جاتا ہے۔ ابن حزم مزید کہتے ہیں کہ اگرچہ اصحاب فکر و نظر ان مقدمات میں جو مبنی پر بدیہیات ہوتے ہیں باہم متحد الجہت ہوتے ہیں مگر خطاء اور اختلاف کے مورد و مصدر کا راز درحقیقت فکری مسائل کے ان بدیہیات سے دور ہونے میں مضمر ہے۔ ان دونوں میں باہم اس قدر بُعد پایا جاتا ہے کہ پیش پا افتادہ مثلہ یا حادثہ کو ان بدیہیات کی کسوٹی پر رکھنے میں بڑے طویل عمل کی ضرورت پڑتی ہے جس میں عقلی مقدمات کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے کہ جب کسی سلسلہ کے جملہ مقدمات قابل تسلیم نہ ہوں گے تو اختلاف اور غلطی کا مقام دراصل وہ ہے۔ البتہ اگر ایک مرتبہ بدیہیات تک رسائی حاصل ہو جائے تو مسلک حق و صداقت پوری تابانی و درخشانی کے ساتھ ابھر کر سامنے آجاتا ہے۔

بدیہیات سے انکار کے وجوہ و اسباب بھی ابن حزم کی رائے میں غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ اور اس کی وجہ فساد فکر و نظر اور مقدمات کے سلسلہ کو بدیہیات کے ساتھ جوڑنے میں غلطی کرنا ہے۔ یہ فکری فساد و ضلال، ہوا و ہوس، شہوات نفسانی اور کسی مذہب خاص سے تعصب کی بنا پر جنم لیتا ہے۔ چنانچہ یہ آفت فکر انسانی پر مسلط ہو کر اس کو غلطی میں مبتلا کر دیتی ہے اور اس طرح فکر انسانی بدیہیات تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ بعض اوقات یہ آفت اتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے کہ مقدمات کے انکار پر مجبور

کر دیتی ہے۔

ابن حزم فرماتے ہیں :-

”کوئی شخص بقائمی پوشش و حواس اس امر میں مشبہ نہیں کر سکتا کہ بدیہیات کسی شک و شبہ کے بغیر صحیح ہیں۔ ان کو جاننے کے بعد صرف وہی شخص ان میں تردد رہ سکتا ہے جو ماؤف الدماغ ہو اور عقل و تیز سے پہرہ ورنہ ہو یا غلط خیالات کا شکار ہو چکا ہو۔ جیسے صفراوی مزاج شخص شہد کو کڑوا سمجھتا ہے۔ یا جس طرح بعض اشخاص کے حواس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے جس کی بنا پر ان کی عقل میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔“

ابن حزم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ افکار میں غلطی جس طرح مسائل زیر بحث کے بدیہی مقدمات سے دور ہونے کی بنا پر واقع ہوتی ہے اسی طرح عقل کے ماؤف ہونے نیز ایسے ضعیف طبعی جس کی بنا پر کوئی شخص پیش آمدہ امور کو اصول پر رکھ کر پرکھنے سے قاصر ہو یا جمود و تعصب کی وجہ سے بھی انسان غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا طالب حقیقت کا اولین فریضہ ہے کہ وہ اپنے فکری قوائے کا امتحان کرنا رہے تاکہ کسی ایسی چیز میں نہ جا پڑے جو اس کی استطاعت کی حدود سے خارج ہو۔ کیونکہ ہر انسان کے لئے وہی کام آسان ہے جس کے لئے اس کی تخلیق عمل میں آئی ہو۔ طالب حق کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ان اشیاء سے کنارہ کش رہے جو پیش آمدہ امور کو اصول پر رکھ کر پرکھنے سے مانع ہوں ایسی حالت میں غور و فکر سے باز رہے۔ جب وہ کسی ایسی چیز سے متاثر ہو جو اسے امور و مسائل کو بدیہیات اولیہ کی طرف ٹوٹانے سے روک رہی ہو۔ ہمیشہ غیر محدود نگاہ سے امور کا جائزہ لیتا رہے تاکہ حق جہاں کہیں بھی ملے اسے سیدھی طرح سے پالے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محدود نگاہ ہمیشہ صداقت سے منحرف رہتی ہے۔ فکر و نظر کی کجی کو تلاش کرتی رہتی ہے۔ حالانکہ حق کی طرف پہنچانے والا راستہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے جس میں نہ کجی ہوتی ہے اور نہ انحراف۔ غلطی بدیہیات پر یقین رکھنے اور انہیں حق و باطل کا معیار قرار دینے کے باوجود ابن حزم اس امر کا اعتراف کرتے

ہیں کہ حواس سے غلطی بھی سرزد ہو جاتی ہے جیسا کہ سابقاً ذکر کردہ عبارت سے عیاں ہے۔ مگر یہ غلطی حواس کی خرابی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ محسوسات میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ بلکہ تمام عقلی احکام کو حواس پر مبنی قرار دینا درست نہیں کیوں کہ حواس غلطی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر انکھ میں خرابی ہو تو دیکھنے والا ایک کو دو سمجھتا ہے۔ اسی طرح اگر قوت ذائقہ میں کچھ خرابی ہو تو انسان کڑوی چیز کو بھی شیریں تصور کرنے لگتا ہے۔ ایسے شواہد و دلائل لاتعداد ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اشیاء و امور پر صرف حواس کی بناء پر ہی حکم صادر نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے کچھ اور بھی ذرائع ہیں۔ دیکھتے ایک سلیم النظر آدمی کو دُور سے کوئی چیز چھوٹی نظر آتی ہے اور قریب سے بڑی۔ اگر اشیاء پر صرف حواس ہی کی بناء پر حکم صادر کیا جاسکتا تو ایک ہی چیز کی جسامت قُرب و بُعد کے اعتبار سے مختلف ہوتی۔ لہذا یہ ضروری ٹھہرا کہ کسی چیز کی جسامت کا فیصلہ کرتے وقت کسی حسی یا فکری مقیاس کو بھی پیش نظر رکھا جائے تاکہ حواس کا اختلاف عقل کے حکم صادر کرنے میں غلطی کا باعث نہ ہو۔

حقائق الاشیاء اور ابن حزم  
 اگرچہ ابن حزم کو اس امر کا اعتراف ہے کہ حواس سے غلطی کا احتمال ہوتا ہے اور محسوسات پر صرف حواس کی بناء پر حکم نہیں لگایا جاسکتا تاہم وہ حقائق الاشیاء کا انکار کرنے والے سوفسطائیہ پر حقائق میں شک و شبہ کرنے اور یہ کہنے کی بناء پر کہ اشیاء کی حقیقت وہی ہوتی ہے جو کچھ سمجھنے والا اپنے اعتقاد میں اسے سمجھ لے شدید ترین تنقید کرتے ہیں۔

ابن حزم حقائق الوجود پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ محسوسات میں کچھ اوصاف ہوتے ہیں جن کی بناء پر حِس و عقل دونوں ان کے پہچاننے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ البتہ صرف حواس کی مدد سے ان کی پہچان دشوار ہے۔ اگر حواس کسی چیز کی منظر کشی میں غلطی کرتے تو ان کا قصور ہے نہ کہ محسوسات کا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ بعض ادقات حواس میں محسوسات کی صورت بدل جایا کرتی ہے۔ ابن حزم اس پر روشنی ڈالتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

«حواس اس امر کے شاہد عدل ہیں کہ ان میں محسوسات کی کوئی صفت صرف اس لئے تبدیل ہو جاتی ہے کہ حواس ماؤف ہوتے ہیں۔ اگرچہ محسوسات میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ یہ ایسا بدیہی اور مشاہدہ پر مبنی امر ہے کہ اس پر کسی

دلیل کا طلب کرنا درست نہیں ہے۔

ابن حزم اپنے عقلی و تجرباتی مسلک و منہج میں اس  
راہ پر گام زن ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو

مکان اور مخلوقات ارضی میں ایسے اصول منضبط کر رکھے ہیں جو یوں تو تبدیل نہیں ہوتے  
البتہ گاہے خارق عادت کے طور پر بندوں پر یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ وہی فاعل حقیقی  
صاحب ارادہ اور مختار کل ہے ان کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں۔

ابن حزم ارقام فرماتے ہیں۔

”تمام طبائع و عادات خدا کی پیدا کردہ ہیں۔ خدا نے انہیں پیدا کیا اور طبیعت

میں یہ صفت ودیعت فرمائی کہ وہ قابل تبدیلی ہے اور ہر سلیم العقل انسان

اسے تسلیم کرتا ہے۔ مثلاً انسان کی طبیعت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ

سلیم العقل ہو، ماؤف الدماغ نہ ہو تو وہ علوم و صناعات میں دسترس حاصل

کرتا ہے۔ گدھے اور خچر کی طبیعت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ اس پر

قادر نہیں ہیں۔ اسی طرح گندم سے جو یا اخروٹ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی

طرح تمام مخلوقات ارضی کا حال ہے۔ سبھی لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں

اسی کا نام طبیعت ہے۔ کیوں کہ موصوف میں صفات ایسی ہوتی ہیں جو

ذاتی ہوتی ہیں اور ان کے زوال کا کوئی امکان نہیں ہوتا الا یہ کہ ان صفات

کا حامل مقصود ہو جائے اور ان کا نام باقی نہ رہے۔ مثلاً شراب کے اوصاف

اگر زائل ہو جائیں تو اس کا نام سرکہ ہو جائے گا۔ اور اسے شراب نہیں

کہیں گے۔ بہر حال جس چیز میں بھی کوئی ذاتی صفت پائی جاتی ہو۔ اس

کا یہی حال ہے۔

ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ اشیاء کے اوصاف ان کے خواص لازمہ ہیں اور خدا کے پیدا کردہ

ہیں۔ یہ ابدی ہیں۔ لہذا ان میں تبدیلی کا کوئی احتمال نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند کیم ہے

اس عالم ارضی، تمام بنی نوع آدم اور کائنات ارضی کی ہر چیز کو کچھ طبعی عادات کے ساتھ پیدا کیا ہے

اور ان کا انکار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو حقائق الاشیاء کا منکر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حزم اشاعرہ پر شدید تنقید کرتے ہیں اور انہیں سوفسطائیہ سے تشبیہ دیتے ہیں، جو حقائق الاشیاء کے منکر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشاعرہ طبائع و عادات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ابن حزم مسئلہ زیر بحث میں اپنے کلام کو یہاں ختم کرتے ہیں:-

”اشیاء کے خواص و قوانین کے بارے میں یہ ہے حقیقت کلام! خواص الاشیاء

کو نہ ماننے والے سوفسطائیہ ہیں جو کہتے ہیں کہ حقائق الاشیاء کوئی چیز نہیں!“

طبائع الاشیاء استقراء سے معلوم ہوتے ہیں:- ابن حزم اپنے منہاج عقلی میں اسی

شاہراہ پر جاری و ساری رہتے

ہیں۔ وہ مقدمات کی جانچ پڑتال کے لئے ان کو ایسے بدھییات کی طرف لوٹاتے ہیں فطرت سلیمہ جن کا اثبات کرتی ہے، محسوسات کا جائزہ لینے میں وہ صرف حواس پر اعتماد نہیں کرتے۔ وہ اشیاء کے حقائق ثابتہ پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا انکار کرنے کی بناء پر سوفسطائیہ پر شدید نیکیر کرتے ہیں۔ حقائق الاشیاء کو تسلیم کر لینے کے بعد وہ ان کے طبائع و عادات کا اعتراف کرتے ہیں؟ خداوند کریم نے ان میں ودیعت کر رکھے ہیں بغیر اس کے ارادہ یا قدرت کو محدود و مقید کر دیا جائے۔

کائناتِ عالم اور نفوس انسانی کے طبائع و عادات معلوم کرنے میں ابن حزم استقراء پر اعتماد کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص مخلوقاتِ ارضی میں سُنن الہی کو معلوم کرنا چاہتا ہو۔ اور موجوداتِ عالم میں ایسے قوانین کو تلاش کرنے کے درپے ہو جو یکساں طور پر ہر چیز میں موجود ہیں یا ایسی صفات کی طلب و تحقیق اس کا مطلوب و مقصود ہو جو اشیاء میں ربط پیدا کرتی ہیں اور ان کو حکم و حد میں جکڑ دیتی ہیں حالانکہ اشیاء کے ذوات و اشخاص میں تعدد پایا جاتا ہے ایسے شخص کے لئے استقراء سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں۔

آپ کی کتاب طوق الحمامہ اور بردا وۃ النفوس ابن حزم کے استقراء تام اور اس سے پیدا شدہ نتائج کی بہترین مثال ہیں۔

ابن حزم کی تاریخی تحقیقات:- بلاشبہ جو شخص ابن حزم کی طرح تاریخی معلومات کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہے استقراء اس کے لئے بے حد

ضروری ہے۔ آپ کی تاریخی تحقیقات اس امر کا روشن ثبوت ہیں کہ آپ میں تلاش و تحقیق کی قدرت

کس حد تک پائی جاتی ہے۔ اس کی واضح ترین مثال آپ کا رسالہ نقطہ العروس ہے یہ مختصر علمی تاریخی استقراء کا عمدہ ترین نمونہ ہے۔ اس رسالہ میں ابن حزم پہلے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو خلفاء نے اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ پھر ان خلفاء کا ذکر کرتے ہیں جو القاب سے ملقب ہوئے پھر ان خلفاء کے نام گناتے ہیں جو اپنے والد کے حین حیات خلیفہ قرار پائے۔ آپ اس سلسلہ میں مشرق سے لے کر مغرب تک کے خلفاء کی چھان بین کرتے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے ایسے خلفاء کے ناموں کی فہرست پیش کی ہے جن کے نام یا لقب کے ساتھ "دولت اُمت یا ملت" کے الفاظ آتے ہیں، مثلاً "سیف الدولۃ، عقد الدولۃ، غیاث الامتہ، سیف الملئئہ" پھر سلسلہ کلام کو ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں :-

"پھر خلافت کی وہ شوکت و عظمت جاتی رہی اور مشرق و مغرب سے اس کا رعب اُٹھ گیا یہاں تک کہ منڈیوں کے دلال اور گھٹیا قسم کے لوگ خلفاء کے ناموں سے موسوم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا منظور تھا کہ یہی وہ خلافت تھی جس کے لئے وہ دوسروں سے لڑتے اور اسے اپنے لئے سرمایہ کبر و غرور سمجھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی کی صداقت ثابت ہوئی۔ آپ نے فرمایا :-

"حَقِيقُ الْأَيِّرِ نَجَّ النَّاسَ شَيْئًا إِلَّا  
وَصْنَعَهُ اللَّهُ۔"

دلوگ جس چیز کو بلند کرتے ہیں خدا سے  
نیچا کر دیتے ہیں۔"

اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی کہ اصل کام خدا کی عبادت، عدل و انصاف اخلاق جلیلہ اور لوگوں کو کتاب و سنت کی تعمیل پر آمادہ کرنا ہے۔ یہ وہ امورِ عظیمہ ہیں کہ کوئی سبک سہرا اور ضعیف طبع آدمی ان کو انجام نہیں دے سکتا۔ اسی سے طاقت و راہِ باہمت آدمی کی فضیلت ناکارہ لوگوں پر واضح ہوتی ہے۔ نام تجویز کر لینا کسی کے لئے باعثِ فضیلت نہیں کیونکہ یہ توہر کمینہ اور ادنیٰ آدمی بھی کر سکتا ہے۔

لِلَّهِ الْأُمُورُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ حُسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ ۝



ابن حزم اسی طرح ولایت و حکام کے بڑے بڑے القاب و آداب ذکر کئے جاتے ہیں اور پھر ان کا زوال و انحطاط ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان تحقیقات کے نتائج پر روشنی ڈالتے ہیں۔

عقلی استدلال کے مواقع۔ اب ہم ابن حزم کے عقلی استدلال کا تذکرہ کریں گے۔ وہ اپنے مجاولات اور ان عقلی مباحث کے دوران اختیار کرتے تھے جن میں وہ نصیحتوں کتاب و سنت اور آثار صحابہ و تابعین کو بالکل پیش نہیں کرتے تھے بلکہ صرف عقلی دلائل پر اکتفا کرتے تھے۔ یہ طرز استدلال آپ دو جگہ اختیار کرتے تھے۔

اول :- جب اعداء اسلام مثلاً یہود و نصاریٰ اور فلاسفہ اسلام کو ہدف طعن بناتے تو ابن حزم ان کے خلاف عقلی تیر و تفتک کو استعمال کرتے اور ان کے بیان کردہ مقدمات کو عقل سلیم کی روشنی میں جانچتے پرکھتے۔ ابن حزم کی رائے میں حقائق کے فہم و ادراک کے لئے سب سے بہتر طریق یہی ہے۔ عقلی طرز تکلم کے علاوہ ابن حزم مخالفین کے اقوال میں تناقض ثابت کرنے اور انہی کے علماء و کتب سے ان کی تردید کرنے کے التزامی طریقہ بدل و بحث اختیار کرتے تھے اور اس طرح انہیں خاموش کرا دیتے تھے۔

دوم :- ابن حزم کے عقلی طرز استدلال کا دوسرا مقام ان کے دراسات اخلاق، احوال نفوس اور ان کے امراض و معالجات ہیں۔ آپ ان میں عقل سے یوں کام لیتے جیسے کوئی لطیب حاذق جڑی بوٹیوں کی شناخت کرتا ہے اور ان کا تحلیل و تجزیہ کرنے کے بعد ان بیماریوں کا علاج تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جن کے حالات سے پوری طرح بہرہ درمخا۔ پھر بیماری کا علاج کرنے کے بارگاہ ایزدی سے شفاء کا طالب ہوتا ہے۔ ابن حزم کی حیثیت اس یاب میں ایک محقق و مدقق ایسی ہے جو منتشر و پراگندہ اجزاء کو باہم ملاتا اور ان سے ایک اخلاقی اور نفسیاتی دوا تیار کرتا ہے۔

دوم :- ابن حزم کے یہاں عقلی طرز استدلال کا ایک تیسرا مقام بھی ہے۔ جب مختلف اسلامی فرقے عقلی ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ابن حزم کے خلاف صفت آراء ہوتے تو یہ بھی ان کے خلاف عقلی تیروں کو استعمال کرنے پہماتہ آتے۔ مثلاً معتزلہ ان کے شاگرد

اشاعرہ اور ماتریدیہ دونوں اول الذکر اسلامی فرقے عقلی طرز استدلال کے عادی تھے۔ اگرچہ وہ نصوص کتاب و سنت اور ضروریات دین کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ اشاعرہ اور ان کے برادر ماتریدیہ دلائل کتاب و سنت کی تائید مزید کے لئے معتزلہ کی طرح عقلی دلائل سے کام لیتے تھے۔ قطع نظر اس سے کہ شرعی دلائل سنت متواترہ سے ثابت ہوں یا بطریق اخبار و آحاد۔

جب ابن حزم معتزلہ و اشاعرہ دونوں کے خلاف نبرد آزما تھے تو ان کے دلائل کا توڑ مہیا کرنے کے لئے عقلی طرز بحث و نظر کو اختیار کرنا از بس ضروری تھا تا کہ مخالف کے خلاف انہیں سہتیاروں سے بڑا جائے جنہیں وہ استعمال کرتا ہے۔

## اخلاق و نفسیات اور ابن حزم

اخلاق و نفسیات میں ابن حزم کی ماہرانہ بصیرت :- یہ ہے ابن حزم کا عقلی اور تجرباتی طرز تحریر! آپ کے

وہ مضامین جو اخلاق و نفسیات سے متعلق ہیں اسی استقرائی اور تجرباتی مسلک و منہج پر مبنی ہیں لہذا طرز استدلال کے بعد ہم اسے اپنا موضوع بحث بناتے ہیں۔

اگر ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو مستثنیٰ کر دیں تو ابن حزم واحد فقیہ تھے جنہوں نے اخلاق و نفسیات کو اظہار خیال کا موضوع بنایا۔ اس ضمن میں آپ نے دو رسالے لکھے ہیں داوۃ النفوس۔ پہلا رسالہ داوۃ النفوس ہے اس میں انہوں نے لوگوں کے اخلاق

و عادات پر بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ اخلاق ذمیرہ کی اصلاح کیونکر ممکن ہے

بعض ناشرین نے یا خود ابن حزم نے علی اختلاف الروایات اس کا نام داوۃ النفوس رکھا۔

طوق الحمامہ :- نفسیات کے متعلق آپ کا دوسرا رسالہ طوق الحمامہ ہے ان دونوں

رسالوں پر تنقید و تبصرہ ہم اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر دونوں رسالوں کے علاوہ ابن حزم اور کوئی کتاب نہ لکھتے تو بھی علماء میں آپ کو بلند مقام حاصل ہو جاتا یہ دونوں رسالے قلیل الحجم ہونے کے باوجود مصنف کی عقل رسا اور اس مقام رفیع کی نشاندہی کرتے ہیں جس پر آپ فائز تھے۔

رسالۃ الاخلاق :- یہ قلیل الحجم رسالہ آپ کی طرف منسوب ہے، ہم وثوق سے نہیں

کہہ سکتے کہ ابن حزم نے اسے کب لکھا البتہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی کے آخری حصہ کی تصنیف ہے یا کم از کم آپ نے پختہ عمر میں سرد و گرم کو آزمانے کے بعد لکھا جو انی میں یا آغاز زندگی میں نہیں لکھا۔

اس رسالہ کا قاری قدم قدم پر محسوس کرتا ہے کہ ابن حزم نے اس میں اخلاقیات کے

ان مسلمہ اصولوں پر اعتماد کیا ہے جو یونان کا ورثہ تھا اور دیگر کتب کی طرح عربی زبان میں منتقل ہوا۔ اس رسالہ میں ان عملی اخلاق کا تذکرہ بھی پایا جاتا ہے جو فارس و ہند میں عام طور سے معروف تھے اور جن کی وجہ سے ہندی لوگوں کے نفوس چمک اٹھے تھے ایسے اخلاق کا تذکرہ "کلیلہ و دمنہ" نیز عبد اللہ بن مقفع کی ادب الصغیر اور ادب الکبیر میں ملتا ہے ابن مقفع کی یہ دونوں کتابیں فارسی افکار سے ماخوذ ہیں اور فارسی افکار ہندی نظریات کا پختہ ہیں۔ رسالہ ہذا کا قاری اس تاثر کو نمایاں طور پر محسوس کرتا ہے۔

مگر حقیقت یہ ہے کہ ابن حزم کا اعتماد اخلاقیات میں صرف مذکورہ الصدر کتب پر ہی نہ تھا بلکہ آپ نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے اخلاق کا استقرار اور تتبع کیا تھا۔ ان سے ملے جلے ان کے نفوس کی گہرائی میں اتر کر دیکھا اور آزمایا یہ واضح ہے کہ عالم شباب میں ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہے۔

**فضائل و رذائل کے اصول :-** بنا بریں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسالہ کا مواد علم کے دو چشمہ ہائے صافی سے ماخوذ ہے۔

۱:- وہ فلسفیانہ تعلیمات جو عقل پر مبنی تھیں۔

۲:- آپ کے وہ خصوصی تجربات، جن کی بنیاد استقرار پر رکھی گئی ہے۔

قسم اول رسالہ سے صاف نمایاں ہے کیونکہ انہوں نے ارسطو کے وضع کردہ ضابطہ کو فضیلت و رذیلت کا معیار قرار دیا ہے ضابطہ کا خلاصہ یہ ہے کہ فضیلت و رذائل کے وسط میں ہوتی ہے چنانچہ ابن حزم بڑی دقیق عبارت میں اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں :-

”فضیلت افراط و تفریط کے درمیان ہوتی ہے افراط و تفریط کی دونوں طرفیں مذموم ہیں اور فضیلت ان دونوں کے وسط میں ہوتی ہے لہٰذا، پھر افراط عقل کو اس کلیتہ سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں کہ وہ مذموم نہیں فرماتے ہیں :-

”عقل اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اس میں افراط نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ احتیاط میں غلطی کرنا ضائع کرنے میں غلطی کا شکار ہونے سے افضل ہے“

لے رسالہ مذکورہ ص ۲۲۔

ابن حزم اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ افلاطون کی طرح اصول فضائل کو چار امور میں محدود و محصور قرار دیتے ہیں اگرچہ بعض اصولوں سے انہیں اختلاف بھی ہیں۔  
 فرماتے ہیں :-

» فضائل کے اصول چار ہیں ہر فضیلت انہی سے ترکیب پاتی ہے وہ یہ ہیں :-

۱:- عدل (۲) فہم (۳) شجاعت (۴) سخاوت۔

اسی طرح رذائل کے اصول بھی چار ہیں ہر رذیلت انہی سے مرکب ہوتی ہے، یہ مذکورہ اوصاف کی ضد ہیں وہ یہ ہیں :-

۱:- ظلم (۲) جہل (۳) بزدلی (۴) بخل

علاوہ ازیں عفت و امانت عدل اور سخاوت کی دو قسمیں ہیں لہٰذا ابن حزم پھر تفصیلاً بیان کرتے ہیں کہ جملہ فضائل مثلاً حلم، صبر وغیرہ۔ انہی اصول چہارگانہ سے ماخوذ ہیں۔

ابن حزم یونانی افکار کے ناقل محض نہ تھے :- بلاشبہ یہ بیانات اس امر کی غماز کرتے ہیں کہ فلاسفہ یونان نے علم

الاخلاق کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا اس سے آپ کلیتہً آگاہ تھے اگرچہ ابن حزم بعض اوقات ان کا نام ذکر نہیں کرتے تاہم ابن حزم کے تحریر کردہ مضامین سے اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ آپ فلاسفہ یونان کے اقوال سے باخبر تھے اور ان سے مستفید ہو چکے تھے۔ مگر ابن حزم ان کے اقوال کو اندھا دھند نقل نہیں کر دیتے بلکہ حسب عادت انہیں جانچتے پرکھتے اور ان میں سے پسندیدہ اقوال منتخب کر کے ان میں ذاتی طور پر اضافہ کرتے ہیں لہٰذا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی حیثیت صرف ایک ناقل کی ہو بلکہ آپ دوسروں کے اقوال اخذ کر کے انہیں اپنی ذات میں گم کر دیتے تھے اور ان پر اپنا شخصی اثر ڈال کر انہیں ظاہر کرتے تھے صرف ان کے دہرانے پر اکتفا نہیں کرتے تھے یونانی افکار پر ابن حزم کو جو اعتماد تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے اخلاق کا مطالعہ

عقلی اور تجرباتی حیثیت سے کیا خالص دینی نقطہ نظر نہیں البتہ تمام ادیان سماوی ، اخلاق فاضلہ کی دعوت دیتے ہیں اسلام خاص طور پر اخلاق کی اہمیت واضح کرتا ہے اسلام کی نگاہ میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق پسندیدہ ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں «اگر تم لوگوں کو اپنے مال سے نہیں جیت سکتے تو حسن اخلاق سے انہیں اپنا بنا لو» نیز فرمایا میری لعنت اس لئے ہوتی ہے کہ میں اخلاق مجلیلہ کی تکمیل کر دوں» یہ ایک طے شدہ بات ہے مگر رسالہ مداوۃ النفوس میں ابن حزم کا اعتماد زیادہ تر صرف عقل پر ہے ان کی رائے یہ ہے کہ عقل و معرفت ، تہذیب و اخلاق کے اصول و ضوابط ، فضائل مستمکہ کے قواعد نفسیاتی طریق علاج اور نیک چلنی کے قوانین ان جملہ امور کی معرفت و واقفیت انسان کو عبادہ مستقیم کی طرف لے آتے کی ذمہ دار ہے اسی لئے ابن حزم نصیحت کرتے ہیں کہ جو شخص اس قسم کی قدرت عقلیہ اور علاجیہ سے محروم ہو اسے صرف دینی امور کا اتباع کرنا چاہیے وہ اس بیش قیمت رسالہ میں فرماتے ہیں :-

«جو شخص فضائل سے نا آشنا ہو اسے چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کے اوامر کی پیروی کرے کیونکہ وہ تمام فضائل پر مشتمل ہے»

اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ابن حزم خصوصاً کتاب و سنت سے عقلی احکام کی تائید نہ جائے کہ ابن حزم اخلاقیات میں صرف عقل و تجربہ پر ہی اعتماد کرتے ہیں اور دینی اصولوں کی مطلقاً پروا نہیں کرتے بخلاف ازیں وہ نصوص کتاب و سنت سے عقلی احکام کی تائید و تصدیق کرتے ہیں پہلے عقلی اور تجرباتی قضایا پیش کرتے ہیں پھر قرآن حکیم کے بیان کردہ احکام و غیر سے اس کی توثیق کرتے ہیں یا کتاب و سنت کے بیان کردہ اوامر و احکام بیان کرتے ہیں مثلاً جہاں انہوں نے ادراک فضائل کی بناء پر عقل کی فضیلت بیان کی ہے اور یہ ذکر کیا ہے کہ رذائل انسان سے اسی وقت وقوع میں آتے ہیں جب اس کی عقل سلیم غفلت کا شکار ہو چکی ہو اسے ثابت کرنے کے لئے وہ قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں جس میں مذکور ہے کہ کفار بروزقیات کہیں گے۔

"لَوْ كُنَّا نَسْبِعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الشَّعِيرِ" (الملک - ۱۰) نہ ہوتے

ابن حزم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے قول پر مہر تصدیق مثبت کر دی ہے اور اس کی تردید نہیں فرمائی گو یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل سے کام نہ لینا کفار کا بدترین جرم ہے اس کے آگے قرآن میں ارشاد ہوا۔

"لَا تَعْتَرَفُوا بِذَنبِكُمْ - فَحَقًّا" (الملک - ۱۱) دوزخ والوں کے لئے دوری ہے۔

ابن حزم اس سے بڑھ کر یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ عقل دراصل وہی ہے جو طلعات و فضائل میں مشغول کر دے اہل معاصی کے یہاں دنیوی سیاسیات، تدبیر معاش اور دنیاوی کاموں کے بارے میں جو سوچو جو بوجھ پائی جاتی ہے اسے چالاکی، چابکدستی اور ہوشیاری تو کہہ سکتے ہیں البتہ عقل سے تعبیر نہیں کر سکتے کیونکہ عقل کا مقام اس سے بلند تر ہے عقل نام ہے حق کے سامنے جھک جانے کا اور دنیوی سیاست پر بایں طور عمل کرنے کا کہ وہ آخرت کی کھیتی بن جائے۔

ہم ان بیانات کی روشنی میں حکما یونان و ایران و اسلام سے کسب فیض :- یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہیں کہ

فلاسفہ یونان و ایران اور حکماء اسلام مثلاً حضرت حسن بصری کے اقوال کی صورت میں ابن حزم کے پاس علم کا ایک چشمہ صافی موجود تھا جس سے سیر ہونے کا موقع آپ کو ملا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ان اقوال میں اپنی شخصیت گم نہیں کی رسالہ کے بعض مندرجات سے اس کی تائید ہوتی ہے اس سے بڑھ کر ابن حزم بعض علماء الاخلاق کے نام بھی ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں :-

« علوم ناقصہ کا کشف و اظہار عقل کو مزید جلا بخشتا اور ہر آفت سے بچاتا ہے مگر کمزور عقل کے انسان کو اندر ہی صورت اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے بعض لوگ جنون کی گہرائی میں اتر کر اس کی کنہ دریافت کرنے کے درپے ہوتے

ہیں حالانکہ اگر وہ عقل کے سمندر میں غواہی کرتے تو حضرت حسن بصری افلاطون یونانی اور بزرجمبر ایرانی سے بڑے فلسفی ہوتے۔

یہ عبارت اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ ابن حزم جب یہ رسالہ لکھ رہے تھے تو حضرت حسن بصری کے حکم و مواعظ اور افلاطون و بزرجمبر کے اقوال و آثار آپ کے پیش نظر تھے جب صورت حال یہ ہے تو آپ نے لازمی طور پر ان سے استفادہ کیا ہوگا۔

تجربات زندگی سے استفادہ :-  
علم کا دوسرا چشمہ جس سے آپ نے اپنی علمی پیمائش بچھائی آپ کے تجربات تھے چنانچہ رسالہ مذکورہ

کے شروع میں لکھتے ہیں :-

”میں نے اپنی اس کتاب میں بہت سے علوم کو جمع کر دیا ہے جو مجھے وہاب حقیقی نے مرور ایام اور تعاقب احوال کے طفیل ارزانی فرمائے مجھے خداوند تعالیٰ نے گردشِ دوراں اور ان کے حالات کو جانچنے پر کھنے کا علم عطا کیا ہے میں نے اپنی عمر عزیز کا ایک گراں قدر حصہ اس کی خاطر صرف کیا زندگی کے ان تجربات کو لکھنے اور ان میں غور و فکر کرنے سے جو لذت حاصل ہوتی ہے میں نے اسے ان تمام لذائذ کے مقابلہ میں ترجیح دی جن کی طرف اکثر نفوس انسانی جھکا کرتے ہیں، میں نے دنیوی مال جمع کرنے پر بھی اسے ترجیح دی، میں نے اپنے تجربات کو اس کتاب کے اوراق کی نذر کر دیا تاکہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کتاب سے نفع اندوز کرے جس کے لئے میں نے مشقت اٹھائی اور عرصہ بھر سوچ و بچار میں مصروف رہا وہ خدا کا بندہ میری محنت کا ثمرہ بلا قیمت مجھ سے لے لے بڑی مسرت سے یہ ہدیہ میں اسے پیش کرتا ہوں جب وہ اس پر غور کرے گا اور اس سے استفادہ اس کے لئے آسان ہو جائے گا تو وہ اسے دولت کے خزانوں سے بھی افضل پائے گا، میں خدا کے بہت بڑے اجر کا امیدوار ہوں کیونکہ میری نیت خدا کے بندوں کو نفع پہنچانا ان کے اخلاق فاسدہ کی اصلاح کرنا اور ان کے روحانی امراض کا علاج کرنا ہے۔ وَاللّٰهُ اَسْتَعِيْنُ“

ذکر کردہ عبارت اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ ابن حزم نے قواعد کلیہ اور قضایا



عامہ میں استقرار و تجربہ، خدا و ادا و ذمہ داری، وقطانت، صدق فراست اور ضبط جزئیات کی قدرت پر اعتماد کیا تھا۔

اب ہم اس رسالہ پر ایک عام نگاہ ڈال کر اس کے اہم ترین مطالب ازالہ ہم و غم :- و مندرجات کی نشاندہی کریں گے۔

فضائل کے ذکر و بیان میں ابن حزم کا کلام غیر مربوط اور بے جوڑ قسم کا نہیں ہے بلکہ وہ معیار فضیلت سے سلسلہ کلام شروع کرتے ہیں، فضیلت کا معیار و مقیاس ان کے پاس ہے ازلہ ہم و غم ہے بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ حیات انسانی کا اصلی مقصود ان کی نگاہ میں لذت معنوی یا ازلہ افکار و غموم، مقیاس الخیر یا مطلوب حیات ہے۔

ابن حزم ارتقام فرماتے ہیں :-

» ایک عاقل کو اپنے فہم و شعور عالم کو اپنے علم حکم کو اپنی حکمت مجاہد کو اپنے جہاد سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اس لذت سے کہیں زیادہ ہے جو ایک کھانے والا اپنے کھانے پینے والا اپنے مشروب کا سب اپنے کسب تفریح کتہہ اپنے لہو و لعب اور آمر اپنے امر سے حاصل کرتا ہے۔

ابن حزم ایک ایسے حکم کی تفصیلات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو انہوں نے بڑی تحقیق و تدقیق سے معلوم کیا تھا۔

» میں نے ایک ایسی چیز کو تلاش کرنا شروع کیا جس کو سمجھی لوگ بنظر استحسان دیکھتے اور اس سے تلاش کرتے ہوں مگر اسے صرف ایک ہی پایا اور وہ ہے..... ازلہ ہم و غم..... جب میں نے مزید غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ سب لوگ اس کی پسندیدگی اور تلاش میں یکساں نہیں ہیں، البتہ مطالب و مرادات کے اختلاف کے باوجود ان کا آخری مقصد ازلہ حزن و ملال ہی ہوتا ہے جب بولتے ہیں تب بھی مقصد غم کا دور کرنا ہی ہوتا ہے البتہ اتنا

فرق ضرور ہے کہ بعض غم کی راہ پر چلنے لگتے ہیں، بعض خطا سے قریب ہوتے ہیں اور بعض جاوہ صواب پر گامزن ہوتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے خلاصہ کلام ازلہ غم ایک ایسا ہمہ گیر مطلوب و مقصود ہے کہ ابتداء خلق سے لے کر اس عالم ارضی کے ختم ہونے اور عالم حساب کے شروع ہونے تک سب لوگ اس کے بارے میں یک زبان چلے آتے ہیں اور اسی کے

لئے کوشاں رہتے ہیں ازالہ غم کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان لوگوں میں ان کو ناپسند کرنے والے ضرور موجود ہوں گے۔ مثلاً بعض لوگ بے دین ہوتے ہیں اور آخرت کے لئے کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ بعض دنیوی مال کو پسند نہیں کرتے مگر آغاز آفرینش سے لے کر دنیا کے فنا ہونے تک ایک انسان بھی ایسا نہیں جو غم کو چاہتا ہو اور اسے دور کرنے کا متمنی نہ ہو جو مجھ پر یہ راز کھلا اور اس عظیم خزانہ سے مجھے آگاہی حاصل ہوئی تو ایسے ذرائع و وسائل پر غور کرنا شروع کیا جن سے غم دور ہو جاتا ہو کیونکہ یہی ایک ایسا نفیس مطلوب ہے جس میں تمام بنی نوع انسان عالم ہوں یا جاہل صالح ہوں یا طالح سمجھی زبان ہیں، آخر کار میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ازالہ غم و غموم کا راز توجہ الی اللہ میں مضمر ہے،

یونانی فلسفی ابقیور اور ابن حزم :- ہم دیکھتے ہیں کہ ابن حزم نے فضیلت کے ناپ تول کے لئے جو پیمانہ مقرر

کیا تھا وہ دو اجزاء سے مرکب ہے اس کا اولین جزو وہ ہے جسے سب لوگ چاہتے ہیں اور اپنا مقصد و غایت تصور کرتے ہیں اور وہ غم کا دور کرنا ہے۔

اس کا دوسرا جزو وہ طریقہ ہے جس سے یہ مقصد حاصل ہوتا ہے اور وہ توجہ الی اللہ ہے اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ فضیلت کا اصل معیار و مقياس رضائے الہی کی تلاش ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جزو اول یعنی ازالہ غم کا نفع رسائی کے مسلک و مذہب کے ساتھ گہرا رابطہ ہے جس کا قائل اور موحد یونانی فلسفی ابقیور ہے جس نے سائنس قبل مسیح میں وفات پائی۔ اس کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ خیر و شر کا معیار نفع رسائی ہے اگر کسی فعل کے انجام دینے سے فاعل کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ خیر ہے اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ شر ہے پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ معنوی منافع کو معیار قرار دیتا ہے اس کے خیال میں ان کا حاصل کرنا خیر ہے اور دفع کرنا شر ہے۔

پھر اس سے ایک قدم ترقی کر کے آلام تک پہنچتا ہے اور آلام و محن کو معیار بناتا ہے اس کی رائے میں ان آلام کو دور کرنا خیر ہے اور ان کو دعوت دینا شر ہے۔ بلاشبہ ازالہ غموم ایک معنوی نفع ہے کیونکہ غم ایک نفسانی الم ہے جو کہ شر ہوتا ہے لہذا اسے دور

کرنا خیر ہوگا۔

اس کے برعکس ابن حزم ایک مسلم فلاسفر ہیں اور زیادہ دیر تک یونانی فلسفی کا ساتھ نہیں دے سکتے چنانچہ اسے چھوڑ کر اسلام کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آلام شہر ہیں اور اسی بنا پر غم و حزن کے موجب ہیں ان کے ازالہ کا اصلی طریقہ توجہ الی اللہ ہے جب کوئی شخص خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے غم دور ہو جاتے ہیں فضائل اسی صورت فضائل ہوں گے۔

جب جانب خداوندی کا رجحان و میلان ان میں نمایاں ہوگا۔

ابن حزم اسی طرح فضائل کا تجربہ کئے جاتے ہیں پھر نفوس کا تجزیہ کرتے اور رذائل پر روشنی ڈالتے ہیں بعد ازاں ازالہ ہجوم کے معیار کے پیش نظر توجہ الی اللہ اور طلبِ رضائے خداوندی کے ذریعہ نفوس انسانی کا علاج تجویز کرتے ہیں۔

اب اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہمارا فرض ہے کہ ابن

خیر و شر کا معیار :-

حزم باہر علم الاخلاق تھے اور اپنی تحقیقات کی روشنی میں اس نتیجہ تک پہنچے تھے کہ سب لوگوں کی اصلی غرض غم کا دور کرنا ہوتا ہے اور بس پھر آپ اسے خیر و شر کا معیار ٹھہراتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ علم الاخلاق کے علمائے قدیم و جدید کی نگاہ میں صرف وہی ضابطہ خیر و شر کا معیار بن سکتا ہے جو عام اور خاص نہ ہو کیونکہ یہ معیار ایک میزان کی حیثیت رکھتا ہے اور میزان وہی درست تسلیم کی جاسکتی ہے جس میں وزن کر کے سب افعال کی قیمت معلوم کی جاسکتی ہو نہ کہ بعض کی۔ کیونکہ اخلاقی احکام عام ہیں اور جملہ انسانی افعال کو شامل ہیں انسان جو کام انجام دیتا ہے علم الاخلاق اس کے بارے میں فیصلہ صادر کرتا ہے کہ وہ خیر ہے یا شر۔

کیا ابن حزم کے اقوال باہم متعارض ہیں؟ - پہلے فضیلت کی تعریف یہ کرتے ہیں

کہ وہ افراط و تفریط کے وسط میں ہوتی ہے یا یوں کہیے کہ ہر فضیلت دو رذائل کے درمیان ہوتی ہے، یہ ارسطو کا نظریہ ہے کبھی یہ کہتے ہیں کہ فضائل کے اصول چار ہیں یہ افلاطون کا قول ہے پھر کہتے ہیں کہ فضیلت کا انحصار نفع رسانی پر ہے اور نفع رسانی معنوی نفع ہی محصور ہے اور معنوی نفع کا راز ازالہ غم ہی مضمحل ہے آخر کار اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ غم و ہتم کا ازالہ توجہ الی اللہ ہی سے ممکن ہے یہ صریح تعارض و تناقض نہیں تو اور کیا ہے؟

اس کا جواب اپنے موقع پر آئے گا حقیقت یہ ہے کہ ابن حزم ان سبھی اصولوں کو معیارِ اخلاق مانتے تھے۔ البتہ اس سے یہ وہم ضرور برپا ہوتا ہے کہ آپ نے جانچے پرکھے بغیر فلاسفہ کے اقوال کو باہم مخلوط و ممزوج کر دیا ہے مگر اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ابن حزم فلاسفہ کے اقوال کو اپنے ذاتی نظریات کی حیثیت سے پیش نہیں کرتے تھے بلکہ ان اقوال کو صرف اپنے افکار کی تائید میں پیش کرتے تھے۔ کیونکہ یہ فلاسفہ بھی علم کی اس خاص نوع کے بارے میں اظہار خیال کر چکے تھے غور و فکر کے بعد آپ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ازالہِ رعم ہی دراصل معیارِ اخلاق ہے بالفاظِ دیگر یوں کہتے کہ اہم معنوی کو دور کر کے جو سلبی منفعت حاصل ہوتی ہے وہ معیارِ اخلاق ہے جہاں تک دوسرے دو امور کا تعلق ہے یعنی دو رذائل کے درمیان فضیلت کا ہونا اور اصول فضائل کو چار میں محدود کرنا تو یہ بھی کسی حد تک عملی معیار ہیں امر اول کی تائید استقراء و تفحص سے ہوتی ہے اور دوسری تقسیم بھی تقریباً جملہ فضائل پر مشتمل ہے۔

خلاصہ کلام ابن حزم اس رسالہ میں علمِ الاخلاق کی اصطلاحات ذکر نہیں کر رہے بلکہ جن معلومات کو بھی وہ اپنی عقل و فکر اور عمل و استقراء کی ترازو میں تول کر صحیح تصور کرتے ہیں انہیں ذکر کر دیتے ہیں۔ لہذا انہوں نے یہ اقوال ذکر کر دے اگرچہ وہ ان کے پابند نہیں ظاہر ہے کہ یہ اقوال آپ کے مقصد و غایت سے بے آہنگ بھی نہیں۔

لوگوں کی مدح و مذمت کے اثرات اور ابن حزم :- یہ ہے اس گراقدر رسالہ کا انداز و اسلوب اور یہ ہیں

اس کے مصادر و ماخذ اب قاری کے سامنے اس کے مندرجہ افکار و نظریات اور اس کے انداز بیان کا نمونہ پیش کرنے کے لئے ہم چند اقتباسات پیش کرنا چاہتے ہیں، اس ضمن میں ہم تین موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ علم ابن حزم کے بعض پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ اور وہ یہ ہیں :-

(۱) لوگوں کے اقوال پر تنقید و تبصرہ

(۲) پابندی مذہب و مسلک

(۳) دین داری اور بے دینی۔

لوگوں کی رائے کے احترام یا عدم احترام پر تبصرہ کرتے ہوئے ارتقا فرماتے ہیں:-

» لوگوں کی بات کو اہمیت نہ دینے اور کلام ربانی کے ساتھ اعتناء و اہتمام کرنے کا نام عقل ہے اور اسی میں راحت انسانی کا سامان پایا جاتا ہے جو شخص یہ کہتا ہو کہ وہ لوگوں کے طعن و تشنیع سے محفوظ ہے وہ مجنون ہے جس شخص نے اپنے آپ کو حقائق کے دائرے میں پناہ لینے کا عادی بنا لیا ہو.....

اگرچہ ابتداءً وہ اس کے لئے تکلیف کے موجب ہوئے ہوں..... اسے لوگوں کی خدمت سن کر ان کی مدح و ستائش کی نسبت زیادہ مسرت حاصل ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگ اس کی تعریف کرنے میں حق بجانب ہوں اور وہ فی الواقع مستحق مدح و ثنا ہو اور یہ تعریف اسے پہنچ بھی جائے تو وہ مغرور ہو جائے گا۔ اور اس کے فضائل جاتے رہیں گے اور اگر انہوں نے جھوٹ موٹ تعریف کے پل باندھے تھے تو وہ دروغ گوئی پر خوش ہوا اور یہ شدید نقص ہے جہاں تک لوگوں کی خدمت کا تعلق ہے اگر یہ درست ہے تو لبا اوقات اپنی برائی سن کر وہ اصلاح کی کوشش کرے گا یہ بڑی بات ہے اور کوئی ناقص آدمی ہی اسے حقیر تصور کرے گا اور اگر لوگ بلا وجہ اس کی خدمت کرتے ہیں اور وہ صبر کرتا رہتا ہے تو حلم و صبر کی بناء پر وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ علاوہ ازیں اسے اور فائدہ بھی ہوگا کہ وہ بلا وجہ خدمت کرتے والے کی نیکیاں لے لے گا جس سے اسے دارالآخرت میں فائدہ پہنچے گا جب کہ اسے ایسے اعمال کے ذریعہ نجات حاصل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی جن کے انجام دینے کی زحمت اس نے گوارا نہیں کی اور یہ اتنے بڑے فائدہ کا موجب ہے کہ کوئی پاگل آدمی ہی اس کی ناقدری کرے گا اور اگر لوگوں کی مدح و ستائش اسے نہیں پہنچتی تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے اگر لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کی خدمت اسے نہیں پہنچتی تو اس کا حال مدح گوئی سے مختلف ہے کیونکہ ہر حال میں اسے اجر ملے گا خواہ خدمت

کی خبر اسے پہنچے یا نہ پہنچے اگر لوگوں کی مدح و ثناء کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نہ ہوتا کہ مومن کے حق میں یہ عاجلانہ بشارت ہے تو ہر سلیم العقل انسان سچی مدح کے مقابلہ میں جھوٹی مذمت کو ترجیح دیتا ہے ۱۱

یہ ہیں لوگوں کی مدح و مذمت سے بے اعتنائی کے بارے میں ابن حزم کے خیالات وہ اس امر کی دعوت دیتے ہیں کہ مومن جس چیز کو حق سمجھتا ہے اسے اسی راہ پر گامزن رہنا چاہیے اور لوگوں کی مدح و مذمت کی طرف مطلقاً دھیان نہیں دینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن حزم کے یہ گراں قدر افکار ان کے تجربات کا پختہ ہیں وہ زندگی بھر دشمنوں کی مذمت و جفا کے جام نوش کرتے رہے لہذا قطعاً طور پر اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ مدح و تائید کا نتیجہ لیا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی فضائل سے محروم رہ کر عجز و نقص کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ آنحضرت کا ارشاد گرامی اگر موجود نہ ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ سچی تعریف کی نسبت جھوٹی مذمت بہتر ہے۔

رسالہ مذکورہ کا دوسرا قابل ذکر مسجبت فکر و عمل کی پابندی مذہب و مسلک :-

پختگی ہے ابن حزم کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں :-

(۱) استقامت و ثبات جس کا باعث صحت عقد ہو۔

(۲) و استقامت جو اصرار و نزاع پر مبنی ہو۔

ان دونوں میں صرف وہی شخص فرق کر سکتا ہے جو کیفیت اخلاق سے آشنا ہو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ قسم ثانی یعنی اصرار ہمیشہ باطل پر ہوا کرتا ہے جو کام آدمی باطل کی تائید و نصرت کے لئے کرتا ہے اسی قسم میں داخل ہے ایسے شخص پر بخوبی عیاں ہوتا ہے کہ وہ باطل کا پرستار ہے یا کم از کم اسے اس کے صواب و فساد کی کچھ خبر نہیں یہ مذموم ہے اور اس کی ضد انصاف ہے۔

جو استقامت صحت عقد پر مبنی ہے وہ صرف حق ہی پر ہوتی ہے یا جسے آدمی حق تصور کرتا ہو اور اس کا بطلان اس پر واضح نہ ہو یہ قابل تعریف ہے اس کی ضد اضطراب ہے لے باطل پر اڑے رہتے اور کسی چیز کی حق و صداقت پر ایمان لا کر اس کی تصدیق کرنے

کے مابین یہ بڑا نازک فرق ہے جو ابن حزم نے کیا ہے وہ پہلی قسم کو ظلم قرار دیتے ہیں اور دوسری قسم کو حق کے نام سے موسوم کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان صرف ہنگامی جذبات ہوتے ہیں جو کہیں نہیں بھڑکتے۔

دینداری اور بے دینی کے بارے میں ابن حزم نے بڑے گرانقدر خیالات کا اظہار کیا ہے اس

صنم میں ان کی تحقیق یہ ہے کہ متدین آدمی قابل اعتماد ہوتا ہے، خواہ وہ مسلمان نہ ہو بلکہ کسی اور مذہب پر ایمان رکھتا ہو اسی طرح بے دین آدمی اعتماد کے قابل نہیں ہوتا اگرچہ وہ مسلمانوں میں سے ہو۔

فرماتے ہیں:-

«متدین آدمی پر اعتماد کیجیے، اگرچہ وہ آپ کا ہم مذہب نہ ہو دین کی تحقیق کرنے والے پر بھروسہ نہ کیجیے، اگرچہ وہ آپ کا ہمنوا ہونے کا دعویٰ دار ہو جو دینی شعائر کو بے وقعتی کی نگاہ سے دیکھتا ہو اس پر کسی خطرناک معاملہ میں اعتماد نہ کیجیے بلکہ»

یہ عالم جلیل ارقام فرماتے ہیں کہ دینی شعائر کو بے وقعتی کی نگاہ سے دیکھنے والا چونکہ عقل و دین دونوں کی حدود کو بھانڈ جاتا ہے اس لئے وہ اپنا اعتماد کھو دیتا ہے لہذا جو شخص بھی خدا کی حرام کردہ اشیاء اور فضائل و رذائل کی طرف دھیان نہ دیتا ہو اس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ متشرع آدمی بھروسہ کے لائق ہوتا ہے اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو، کیونکہ وہ ایک فکری و دینی ضابطہ کا پابند ہے اور یوں بھی جملہ مذاہب و ادیان امانت کی ترغیب دینے اور خیانت سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔

بلاشبہ ابن حزم ایسے متشدد مسلمان جو عمر بھر اپنے قلم کی تلوار سے یہود و نصاریٰ کے خلاف مصروف جہد و پے کار رہے یہ بڑی پراز مغز و حکمت بات کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ دیندار آدمی بے دین کے مقابلہ میں بہتر اور قابل اعتماد ہے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو اسی طرح ایک بے دین آدمی بھروسہ کے لائق نہیں اگرچہ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر اپنے اسلام کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہو۔

ابن حزم نے مداوۃ النفوس نامی جوگر انقدر رسالہ تحریر کیا تھا یہ اس پر مسمری سا تبصرہ تھا اس کے مندرجات ابن حزم کے دقیق فلسفیانہ نظریات ان کے تجربات اور لوگوں کے احوال و اخلاق کے گہرے مطالعہ کی غمازی کرتے ہیں آخر کار وہ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ فضائل کا علم حاصل کرنا از بس ناگزیر ہے یا تو حکمت و فلسفہ اور تجربہ کے ذریعہ ان سے آشتانی پیدا کی جائے یا دین و مذہب کے مطالعہ سے انہیں سیکھا جائے وہ فرماتے ہیں۔

”علم ہر فضیلت میں حصہ دار ہوتا ہے اور جہالت ہر زفلیت میں شریک و ہمہم ہوتی ہے بے علم آدمی فضائل سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ غیر معمولی جسمانی صلاحیتوں کا مالک ہو اور یہ انبیاء کا خاصہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر بھلائی سے آگاہ کر دیا ہوتا ہے اور وہ لوگوں سے اس کا علم حاصل نہیں کرتے“

یہ دوسرا رسالہ ہے جس میں ابن حزم نے بنی نوع انسان کے جذبات طوق الحجامہ:- الفتن و محبت کو موضوع سخن بنایا ہے یہ رسالہ آپ نے ایک دوست کے کہنے پر شاطیہ میں لکھا تھا ابن حزم خود لکھتے ہیں کہ جس خط میں ان کے دوست نے یہ رسالہ لکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہ انہوں نے مریہ کے شہر سے ان کے دارال سکونت شاطیہ میں ارسال کیا تھا۔

اگرچہ اتنا معلوم ہے کہ یہ رسالہ شاطیہ میں لکھا گیا مگر جس زمانہ میں لکھا گیا اس کی تعیین بڑی دشوار ہے البتہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ۱۱۷۰ھ کے بعد کی تصنیف ہے کیونکہ اس میں بعض ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے جو اسی سال وقوع پذیر ہوئے مثلاً اس میں خیران عامری اور موفق ابو الحسن مجاہد کی معرکہ آرائی کا ذکر ہے یہ واقعہ ۱۱۷۰ھ میں پیش آیا وہ واقعہ یہ ہے۔

”میرا ایک دوست مریہ نامی شہر میں سکونت پذیر تھا، اسے شاطیہ جانے کی ضرورت لاحق ہوئی چنانچہ وہ شاطیہ آکر میرے ذاتی مکان میں مقیم رہا واپس مریہ جانے کی فکر اسے ہر وقت دامن گیر رہتی تھی اور اس وجہ سے وہ اکثر پریشان رہتا تھا اس کا خیال تھا کہ مریہ جا کر وہ فارغ البال ہو جائے گا اور پھر جلد لوٹ



کہ شاطبہ آجائے گا ابھی شاطبہ آئے ہوتے اسے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ الحجاز  
کا والی موفق ابوالحسن مجاہد ایک لشکر جرار لے کر مریہ پر حملہ آور ہوا اور وہاں  
کے حاکم خیران کو شہر سے نکال دیا اور اسے نیست و نابود کر دینا چاہا اس  
لڑائی کی وجہ سے راستے بند ہو گئے سڑکوں کی نگرانی کی جانے لگی سمندر پر حفاظتی  
چوکیاں بٹھادی گئیں مریہ کے راستے بند ہو جانے کی وجہ سے میرا دوست  
بڑا بے چین ہوا اور ہر وقت ہم و غم کا شکار رہنے لگا،  
مندرجہ بالا اقتباس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ رسالہ سالہ ۱۰۰۰ھ کے بعد لکھا گیا اس وقت  
آپ کی عمر تینتیس سال سے متجاوز تھی۔

**طوق الحمامہ کس زمانہ کی تصنیف ہے؟** — ظن غالب یہ ہے کہ طوق الحمامہ نامی  
کتاب انہوں نے اپنے شباب کے  
آخری دور اور آغاز کہولت میں تحریر کی اس کے مندرجات اس بات کی شہادت دیتے  
ہیں کہ آپ کا مصنف حیات و قوت سے بھرپور ہے البتہ وہ پختہ سالی کی زندگی ہے  
اور وہ قوت بھی جوانی کی بھول بھلیوں اور سرمستیوں سے اگلے دور کی ہے نیز یہ رسالہ  
آپ نے اس دور میں تحریر کیا جب آپ علوم حدیث و فقہ میں خاصی شہرت حاصل کر چکے  
تھے اس کی دو دلیلیں ہیں۔

**پہلی دلیل:** — ابن حزم صدر کتاب میں ارقام فرماتے ہیں: —  
”میرے نظریات کے مخالفین نے مجھے برا بھلا کہا مگر میں نے پھر بھی  
وفاداری کا ثبوت دیا میں نے ایک طویل قصیدہ میں اس وفا شعاری  
پر فخر و مباحات کا اظہار کیا قصیدہ گوئی کا محرک یہ امر ہوا کہ میرے مخالفین  
نے میرے منہ پر میرا مذاق اڑایا اور مجھ پر یہ بہتان باندھا کہ میں باطل کی حمایت  
کرتا ہوں اصل حقیقت یہ تھی کہ حق کی تائید و حمایت میں میں نے جو دلائل  
دئے تھے وہ جیب ان کی تاب نہ لاسکے تو بہتان طرازی سے کام لینے لگے،“  
**دوسری دلیل:** — اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جس دوست نے ابن حزم کو

۱۔ طوق الحمامہ ص ۸۶ طبع قاہرہ۔

۲۔ طوق الحمامہ ص ۸۲۔

عشق و عشاق کے بارے میں کتاب لکھنے کی فرمائش کی تھی اس کی طرف سے معذرت کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ ایسی تحریریں نفس انسانی کے لئے راحت کا موجب ہوتی ہیں۔ کتاب کے آغاز میں وہ اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”میں جلد آپ کی آرزو کی تکمیل کر رہا ہوں اگر آپ مجھے اس کے لئے مامور نہ بھی کرتے تو بھی یہ بڑا ضروری کام ہے کیونکہ یہ فکر کا ایک جزو ہے ہماری عمر ہی کیا ہے ہمیں چاہیے کہ اسے ایسے کاموں میں صرف کریں جن سے بروز قیامت اچھے نتائج کی امید ہو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ”اپنی جان کو ذرا باطل سے بہلا لیا کرو تاکہ تعمیل حق کی قدرت حاصل ہو سکے، اسی طرح سلف صالحین کا قول ہے :-

”جو قوت و شباب سے بہرہ ور نہیں وہ متقی بھی نہیں ہو سکتا، بعض آثار میں ہے۔

”اپنی جانوں کو راحت بھی پہنچایا کرو کیونکہ وہ لوہے کی طرح زنگ آلود ہو جاتی ہیں لے،

اس کے زبانیہ تصنیف آخر شباب اور اوائل کہولت کے علاوہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ حلا وطن رہے اور سفر ہی میں زندگی کے ایام کاٹتے رہے جیسا کہ ان کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے اسفار کے باب میں گزرا اب ہم اسے دہراتے نہیں۔

رحلات ابن حزم کے باب میں ذکر کردہ عبارت اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ آپ نے یہ رسالہ غریب الوطنی کے دوران لکھا جب آپ اہل و عیال سے دور اور وطن سے مہجور تھے اس سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ اس کتاب کو لکھتے وقت ان حوادث پر ایک عرصہ مدید گزر چکا تھا اور اس وقت ان کا تذکرہ و تجدید کچھ زیادہ مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسا آخر شباب یا آغاز کہولت میں ہی ہوتا ہے لہذا ہمارا اندازہ

یہ ہے کہ آپ نے یہ رسالہ اس وقت تصنیف کیا جب آپ کی عمر چالیس کے لگ بھگ تھی۔

طوق الحمامہ کے مصادر اور اسلوب بیان :- طوق الحمامہ میں عشق و عشاق کے بارے میں جو حوادث و احوال

درج ہیں ہمیں ان کی تفصیلات میں پڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ شعراء و ادباء کا محبوب موضوع ہے ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس رسالہ میں ذکر کردہ معلومات کا مصدر و ماخذ کیا ہے لہذا ہم جب سابق اس رسالہ کے مصادر و ماخذ اور اسلوب بیان سے تعرض کریں گے اور بس۔

اس رسالہ کی تحریر کے دوران ابن حزم کا اعتماد زیادہ تر استقرائے و نتیجہ پر رہا یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ یونانی فلسفہ سے بھی متاثر ہوئے تھے۔

محبت کی ماہیت و حقیقت :- ابن حزم نے جہاں محبت کی حقیقت بیان کی ہے اس سے صاف عیاں ہے کہ آپ یونانی

فلسفہ سے متاثر ہوئے تھے اور یونانی افکار آپ میں رچ گئے تھے۔  
ابن حزم لکھتے ہیں :-

”محبت کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے اور علماء نے اس میں طوالت سے کام لیا ہے اس ضمن میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ محبت اس اتصال کا نام ہے جو نفس انسانی کے اجزاء کے عنصر رفع میں پایا جاتا ہے یہ اتصال بایں طور ہوتا ہے کہ نفس کے مقرر حقیقی یعنی عالم علوی میں جو قوی تھے وہ باہم موافق و مطابق ہوں اور ہیئت ترکیبی کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہوں ہمیں بخوبی علم ہے کہ مخلوقات میں تخارط و تباین کا راز، اتصال اور انفصال میں مضمر ہے ایک صورت اپنے جیسی صورت کو چاہتی ہے اور دو متماثل اشیاء باہم مل کر سکون حاصل کرتی ہیں مجانست و مشابہت کے اثرات و اعمال صاف نمایاں ہوتے ہیں تنافر اعدا میں پایا جاتا ہے اور موافقت و مطابقت، نظائر و امثال میں ظاہر ہے کہ نفس انسانی اس سے کیونکر مختلف ہو سکتا ہے

حالانکہ یہ صاف و شفاف اور ہلکا پھلکا ہوتا ہے اس کا جوہر اوپر کو اٹھ جانے والا اور معتدل ہے اس کی طبیعت، روحان و میلان، اتفاق و انحراف اور شہوت و نفرت کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے انسان کے تصرفات کی فطرت معلوم کر کے یہ سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

وہ خدا کی ذات ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

(الاعراف - ۱۸۹)

اس آیت میں سکون کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اس کا ایک جزو ہے اگر محبت کی علت خود بصورتی ہوتی تو بد صورت سے کوئی محبت نہ کرتا حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ادنیٰ چیز کو ترجیح دیتے ہیں یا وجودیکہ وہ دوسری چیز کی فضیلت سے واقف ہوتے ہیں مگر ادنیٰ چیز کی محبت کو ترک نہیں کر سکتے اگر محبت کی وجہ اخلاقی موافقت و یگانگت ہوتی تو ایک شخص کسی ایسے آدمی سے محبت نہ کرتا جو اس کا ہم خیال نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو نفس کی ذات میں پائی جاتی ہے بعض اوقات محبت کا کوئی سبب ہوتا ہے اور سبب کے ختم ہونے سے محبت بھی جاتی رہتی ہے جو شخص تمہیں کسی خاص وجہ سے چاہتا ہو اس باعث و محرک کے تمام ہونے سے محبت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے لہٰذا

اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن حزم فلسفہ اور نصوص کتاب و سنت کو باہم مخلوط کر دیتے ہیں پہلے فلسفہ کی روشنی میں محبت کی تعریف کرتے ہیں پھر قرآن کریم کی آیات سے اس کی تائید کرتے ہیں۔

اعراض و جواب :- ابن حزم اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ محبت کی اساس جسم انسانی

میں حلول کرنے سے قبل نفوس علویہ کی باہم مشابہت و مماثلت ہے بلکہ اس کا تجزیہ کرتے اور اعتراضات پیش کر کے ان کا جواب دیتے ہیں۔

ابن حزم فرماتے ہیں :-

”اس سے معلوم ہوا کہ استحسان روحانی اور اختلاط لسانی کا نام محبت ہے اگر معترضین کہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو چاہیے کہ دونوں مماثل اشخاص یکساں طور پر ایک دوسرے کو چاہتے ہوں کیونکہ دونوں جزو اتصال میں برابر کے شریک ہیں اور ان کا حصہ مساوی ہے۔“

ابن حزم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ اعتراض بجا ہے مگر اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ جو شخص اپنے محب کو نہیں چاہتا وہ گونا گوں مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور طبائع ارضی کے پردے اسے گھیرے ہوئے ہیں لہذا اسے اس جزو کا احساس تک نہیں ہوتا جو اپنے جسم میں داخل ہونے سے قبل اس سے متصل تھی اگر وہ ان پردہ جات سے رہائی پاتے تو اپنے محب کی طرح یہ بھی اسے چاہنے لگے اس کے برعکس محبت کرنے والے کا نفس ایسی مشکلات سے آزاد ہوتا ہے اور وہ جانتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز اس سے متصل اس کی طلب گار اس کی متلاشی طالب ملاقات اور اس کے لئے اپنے اندر مقناطیسی کشش رکھتی ہے مثلاً مقناطیس کے جوہر کی قوت لوہے کے جوہر سے متصل ہوتی ہے مگر اس کے باوجود مقناطیس کی قوت جو حکم بھی ہوتی ہے اور صاف بھی مقناطیس کو لوہے کی طرف کھینچ کر نہیں لے جاتی حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے ہم شکل اور ہم عنصر ہوتے ہیں اس کے برعکس لوہا اپنی شدت کی بنا پر اپنے ہم شکل مقناطیس کا قصد کرتا اور اس کی طرف کھینچ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حرکت ہمیشہ اسی کی طرف سے ہوتی ہے جو قوی تر ہو پھر اس کے اُشاہ و امثال کا ذکر کرتے کہتے ہیں۔

”اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ہمیشہ انہی دو اشخاص کو باہم محبت کرنے والا پائیں گے جو باہم ملتے جلتے ہوں اور ان کے طبعی صفات میں مماثلت پائی جاتی ہو اگرچہ یہ مماثلت کم ہو مگر اس کا پایا جانا بے حد ضروری ہے مشابہت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر محبت میں اضافہ ہوگا اور وہ پختہ ہو جائے گی اس پر غور کیجئے تمہیں صاف دکھائی دے گی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس کی تائید کرتا ہے، ”آپ فرماتے ہیں :-

”عالم ارواح میں روحوں کے لشکر جمع تھے جو ایک دوسرے سے شناسا ہو گئے

ان میں محبت پیدا ہو گئی اور جو اجنبی رہے ان میں اختلاف رونما ہوا،  
کسی نیک آدمی سے یہ قول منقول ہے کہ:-

«مومنوں کی روحیں باہم شتا سا ہیں»

یہی وجہ ہے کہ جب حکیم بقراط سے کہا گیا کہ ایک معمولی آدمی آپ سے محبت کرتا ہے تو اسے کوئی غم نہ ہوا بلکہ اس نے کہا کہ میرے اخلاق اس سے ملتے جلتے ہیں جبھی وہ میری تعریف کر رہا ہے،

ابن حزم گاہے گاہے اپنے فلسفیانہ تجزیہ کی تائید میں احادیث نبویہ پیش کرتے ہیں اور کبھی بقراط کے قول سے استشہاد کرتے ہیں پھر افلاطون کے قول سے احتجاج کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت کی اساس مشاکلت و مماثلت ہے اور بغض و حسد صفات کے تضاد پر مبنی ہوتا ہے ابن حزم اپنی تائید میں تورات کی عبارتیں بھی پیش کرتے ہیں اور جیسا کہ ان کا عام دستور ہے کثرتِ معلومات اور زبردست قوتِ حافظہ کے بل بوتے پر سمندر کی طرح بے جاتے ہیں

یہ ہے وہ اولین اصل جس پر ابن حزم نے رسالہ ہذا میں اعتماد کیا ہے اور یہ اصل فلسفہ طوق الحما میں استقرار و تبلیغ ہے۔

اور متقدمین کے اقوال و آثار میں اصل ثانی استقرار اور تبلیغ ہے جو رسالہ کے مطالعہ سے صاف عیاں ہے اس رسالہ میں ابن حزم جو بات ذکر کرتے ہیں اس کے ثبوت میں عینی مشاہدات یا شہیدہ مگر مصدقہ ثبوت پیش کرتے ہیں اس کے پہلو بہ پہلو اپنے ذاتی نظریات اور دوسروں کے اقوال و ملاحظیات بھی پیش کرتے ہیں بلکہ یوں کہتے ہیں کہ تجربات و مشاہدات اس رسالہ میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ابن حزم اس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

«میں نے اس کتاب میں اختصار کا التزام کیا ہے اور صرف وہی باتیں درج کی ہیں جو بذاتِ خود دیکھیں یا قابلِ اعتماد لوگوں سے نقل ہو کر مجھ تک پہنچیں میں نے اعراب اور متقدمین کا تذکرہ اس لئے نہیں کیا کہ ان کا راستہ ہم سے الگ ہے اور ان کے واقعات بھی بہت زیادہ ہیں میری ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ میں غیر کی سواری

پر سوار نہیں ہوتا اور نہ مستعار زیورات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہتا ہوں  
رسالہ کے آخر میں لکھتے ہیں :-

» میں نے اپنے رسالہ میں صرف وہی حقائق معلومہ درج کئے ہیں جن کے سوا کسی  
حقیقت کا پایا جانا ممکن ہی نہیں،  
میں نے اس ضمن میں بہت سی چیزیں ذکر کر دی ہیں اور یہی کافی ہیں۔

یہ ہے طوق الحمامہ کا طرز و انداز اور یہ ہیں وہ  
ماخذ و مصدر جن سے آپ نے یہ رسالہ

طوق الحمامہ کی خصوصیات :-

ترتیب دیا یہ رسالہ دقت تنظیم اور حسن تبویب میں اپنی مثال آپ ہے میرے خیال میں ابن حزم  
کی کوئی کتاب ترتیب و تبویب کے اعتبار سے اس کے ہم پلہ نہیں ہے ترتیب و تبویب سے قطع نظر  
میرا خیال ہے کہ اس کے مندرجات و محتویات کو کسی کتاب میں اس سے بہتر اسلوب بیان میں تحریر  
نہیں کیا گیا یہ رسالہ اتنا آسان ہے کہ نفس انسانی کی رگ و پے میں جاری و ساری ہو جاتا ہے اور  
اس کے الفاظ میں وہ نظم پایا جاتا ہے کہ گویا یہ موتیوں کی لڑی ہے جس کا کوئی دانت بھی بے موقع  
نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ نفس انسانی کا تجزیہ بڑی خوبی سے کیا گیا ہے پھر دینی روح ہے جو  
ساری کتاب پر چھائی ہوئی نظر آتی ہے اور کاتب کی عفت و عصمت اس کی مہارت نفوس  
انسانی اور انسان کے احوال و اشکال اور مظاہر و ادوار سے گہری واقفیت کا اعلان کرتی ہوئی  
نظر آتی ہے اور اس پر طرہ یہ کہ حلال کا ذوق شناس ہونے کے باوجود اس کا مصنف فواحشات  
و منکرات سے الگ تھلگ رہا عشق و محبت پر اظہار خیال کرنے کے باوصف اس نے کبھی ایسا  
کام نہ کیا جو ان کے وقار کے منافی ہو وہ بڑے لطیف المزاج، نکتہ رس اور بہترین فہم و ادراک  
سے بہرہ ور تھے مگر گناہ سے آلودہ نہ ہوئے۔

وہ خود فرماتے ہیں :-

» خدا گواہ ہے کہ میں پاک دامن اور عقیف ہوں، میں خدا کی قسم کھا  
کر کہتا ہوں جس سے بڑی قسم دوسری کوئی نہیں کہ میں نے جیب سے ہوش  
سنجھالا ہے کبھی زنا کاری کے قریب بھی نہیں بھٹکا خدا تعالیٰ مجھ سے زنا کاری  
کے ارتکاب کا حساب نہیں لیں گے،

عجبت کے انواع و مراتب طوق الحمامہ کی روشنی میں :- اب مناسب ہوگا کہ نمونہ کے طور پر ہم طوق الحمامہ

کے چند اقتباسات پیش کریں ہم میں اجزاء کے نقل کرنے پر اکتفاء کریں گے :-

(۱) محبت کے مراتب و انواع

(۲) حب و استشہاد کا باہمی فرق

(۳) محبت کے انواع و مراتب ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”ہم جانتے ہیں کہ محبت کی کئی قسمیں ہیں سب سے افضل محبت وہ ہے جو رضائے خداوندی کے لئے ہو پھر یا تو وہ سعی عمل کی بنا پر ہوتی ہے یا اتحاد مذہب کی وجہ سے یا کثرتِ علم کے باعث۔“

پھر قرابت داری، الفت اشتراک مقاصد، صحبت و معرفت اور احسان کی محبت ہوتی ہے جو آدمی کسی سے انجام دیتا ہے محبوب کے جاہ و منصب کے لئے بھی محبت کی جاتی ہے محرم راز ہونے کی بنا پر بھی دو شخص باہم محبت کرنے لگتے ہیں ایسے راز کا پوشیدہ رکھنا ضروری ہوتا ہے لذت و قصد کے لئے بھی محبت کی جاتی ہے اس کے علاوہ عشق کی محبت بھی ہوتی ہے جس کا سبب صرف نفوس انسانی کا عالم علوی میں اتصال ہوتا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں محبت کے یہ تمام اقسام علل و اسباب پر مبنی ہوتے ہیں علت کے ختم ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں اور اس میں اضافہ ہونے سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے علت میں کمی واقع ہونے سے محبت کم ہو جاتی ہے علت کے قریب آنے سے پختہ ہوتی اور دور ہو جانے سے محبت نرم پڑ جاتی ہے البتہ عشق صحیح کی محبت موت ہی سے ختم ہوتی ہے انسان اس کو یاد کر کے اطمینان و سکون حاصل کرتا ہے معمر آدمی کو جب یہ محبت یاد آتی ہے تو مسرور و شادمان ہوتا ہے اور خوشی کے مارے جھومنے لگتا ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشقانہ محبت کی مداومت اور عدم انقطاع کو وہ اپنے



سابقہ ذکر کردہ نظریہ پر مبنی قرار دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ عشق کی اساس عالم علوی میں نفوس انسانی کے باہمی اتصال پر ہے جو جسم میں حلول کرنے سے قبل ہوتا ہے ہم ان کی رائے پر تنقید و تبصرہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمارا مقصد ان کے نظریات کو پیش کرنا ہے ان پر تنقید کرنا نہیں اس کا مقام الگ ہے اور اس کے ناقدین بھی وہ لوگ ہیں جن کا یہ موضوع ہے یہ ظاہر ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔

اب ہم ابن حزم کے افکار و آراء  
**محبت و شہوت کے باہم فرق و امتیاز**۔ کے دوسرے نمونہ کو پیش کرتے

ہیں اور وہ تجربہ اور ماہیت کے اعتبار سے محبت اور شہوت کا باہمی فرق ہے۔

ابن حزم لکھتے ہیں :-

”نفس انسانی اس دنیا میں مجرب و مستور رہتا ہے اسے بہت سے اعراض اور طبائع ارضیہ نے گھیر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی اکثر صفات پس پردہ ہیں اندریں حالت اتصال حقیقی کی امید صرف اسی صورت میں کی جاسکتی ہے جب نفس اس کے لئے تیار اور مستعد ہو اپنے موافق و مشاغل سے شناسائی پیدا کرے اور اپنے خفیہ اوصاف کا محبوب کے اوصاف و طبائع سے مقابلہ کرے تب کہیں جا کر دونوں میں اتصال صحیح پیدا ہوتا ہے جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جہاں تک اس محبت کا تعلق ہے، جو فی الفور کسی کے جسم کو دیکھ کر یا اس پر نظر پڑنے سے جو صرف ظاہری رنگ تک محدود ہوتی ہے ہو جاتی ہے یہ دراصل شہوت ہے جب شہوت غالب آجائے اور اس سے متجاوز ہو جائے اور جدائی کے دوران بھی اتصال نفسی باقی رہے جس میں طبائع باہم شریک ہوں تو اسے عشق کہیں گے یہی وجہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے دو شخصوں سے محبت ہے یا عشق ہے تو وہ غلطی پر ہے کیونکہ یہ عشق و محبت نہیں بلکہ شہوت ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا اس کو مجازاً محبت کہہ سکتے ہیں حقیقتہً نہیں جہاں تک محبت کے نفس کا تعلق ہے اس کے میلان خاطر میں کوئی خوبی ایسی نہیں پائی جاتی جسے وہ اسباب دینی یا دنیوی میں صرف کرے کسی دوسرے شخص سے محبت

کرتے کا مسئلہ ہی جداگانہ نوعیت کا ہے،

یہ اقتباس اس امر پر روشنی ڈالتا ہے کہ ابن حزم محبت اور شہوت کو ایک چیز نہیں سمجھتے ان کی رائے میں محبت اس اتصالِ نفسی کا نام ہے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے پایا جاتا تھا اس کے برعکس شہوت صرف ایک جسمانی تعلق کو کہتے ہیں محبت کا آغاز کبھی ظاہری حسن کو دیکھ کر بھی ہو جاتا ہے پھر ابن حزم عالمِ بالا کے اتصالِ نفسی پر روشنی ڈالتے ہیں شاید اس گراں بہا رسالہ میں جو مضمون

### عقیف مرد و عورت کی تعریف :-

بلخ ترین عبارت میں ادا ہوا ہے

وہ عقیف مرد اور عورت کی تعریف ہے چنانچہ ہم اسے نقل کرتے ہیں۔

میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگ لفظِ صلاح کا مفہوم بیان کرتے ہیں اکثر غلطی کا شکار ہوتے ہیں اس کی حقیقی تفسیر یہ ہے کہ صالحہ و راصل وہ عورت ہے جو روکنے سے رک جائے اور جب برائی کے ذرائع کو منقطع کر دیا جائے تو وہ باز رہے اس کے مقابلہ میں فاسدہ وہ عورت ہے جو روکنے سے نہ رکے اور جب فواحش و منکرات کے ذرائع کو ختم کر دیا جائے تو وہ ان تک رسائی حاصل کرنے کے لئے جیلے تلاش کرنے لگے اسی طرح صالح آدمی وہ ہے جو اہل فسق کی صحبت سے کنارہ کش رہے خواہشاتِ نفسانی پیدا کرنے والے مناظر سے گریزاں رہے اور حسین و جمیل صورتوں کو آنکھیں مچھاڑ مچھاڑ کر نہ دیکھے فاسق وہ ہے جو کمینہ لوگوں میں بود و باش رکھتا ہو حسین چہروں کو گھور گھور دیکھتا ہو اذیت رساں مناظر کے درپے رہتا ہو اور خصلاّتِ مہلکہ کا شائق ہو صالح مرد و عورت آگ کی اس چنگاری کی طرح ہیں جو صرف اسی وقت کسی کو جلاتی ہے جب اسے حرکت دی جائے اس کے برعکس فاسق مرد و عورت شعلہ زن آگ کی طرح ہر چیز کو بھسم کر کے رکھ دیتے ہیں جہاں تک بدکار مرد اور عورت کا تعلق ہے وہ دونوں ہلاک ہونے سے بچ نہیں سکتے یہی وجہ ہے کہ دینِ اسلام میں اجنبی عورت کے گانے سے مخطوط ہونا گناہ قرار دیا گیا ہے پہلی مرتبہ اچانک عورت کو دیکھنا روا ہے مگر دوسری دفعہ قصداً دیکھنا وبال جان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

”جو شخص روزہ کی حالت میں کسی عورت کو اس قدر غور سے دیکھے کہ اس کی ہڈیوں کی جسامت اسے معلوم ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اے“

عورت کیونکر پاک دامن رہ سکتی ہے؟ :- ذکر کردہ اقتباس اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ

ابن حزم کی رائے میں صالحہ عورت وہ ہے کہ اگر اسے فواحش و منکرات کے ذرائع سے دور کر دیا جائے تو وہ خواہشات کی طرح مائل نہ ہو اسی طرح صالح آدمی وہ ہے جو شہواتِ نفسانی کے اسباب سے روگردان رہتا ہو۔ بنا بریں اگر آدمی جادہ مستقیم سے منحرف ہوگا تو اس سے باز پرس کی جائے گی کیونکہ عورت کی خواہشات میں وہی مبتلا کرتا ہے بخلاف ازیں اگر نیک عورت میدھی راہ سے بھٹکے گی تو ان لوگوں سے باز پرس کی جائے گی جنہوں نے اسے نفسانی خواہشات کے محرکات سے دور نہ رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت طبعاً کمزور ہوتی ہے لہذا اس کی پاکدامنی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ وہ آدمیوں سے دور رہے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا سے روایت کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا:-

عَفَّةُ الْمَرْأَةِ أَلَّا تُسْرِى رَجُلًا  
اور نہ آدمی اسے دیکھے۔

ابن حزم مردوں کے مقابلہ میں عورت کی کمزوری پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ہیں وانشگاف الفاطمیں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ اگر عورت کسی جگہ محسوس کرتی ہو کہ وہاں کوئی مرد ہے جو اسے دیکھتا ہے یا اس کی باتیں سنتا ہے تو اس سے نیز معمولی اور خلاف دستور اقوال و حرکات صادر ہوتی ہیں وہ ایسی باتیں کرتی ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی حرکات اور انداز گفتگو پہلے سے مختلف ہوتا ہے عورتوں کو محسوس کر کے مردوں کی بھی یہی حالت ہوتی ہے عورتوں کی موجودگی میں زیب

وزینت کا اظہار کرنا، ناز و انداز سے چلنا اور عورت کو دیکھ کر مذاق  
بازی پر اتر آنا یہ تو ہر جگہ اظہارِ من الشمس ہے لے،

طوق الحمامہ کے مندرجات :- یہی معانی و مطالب اور قصص و اخبار  
کے بارے میں اس گراں بہار سالہ کے

اقتباسات علاوہ انہیں اس کا اندازِ تحریر بے حد سہل و سادہ اور ترتیب بڑی دلنشین  
ہے ہمارے پیش کردہ اقتباسات کتاب کے مطالب و معانی کی صورت گری کرتے ہیں  
اس کتاب میں عشاق کی نفیات کا تجزیہ کیا گیا ہے اخلاقیات سے بحث کی گئی ہے و فاء  
اور صدق پر روشنی ڈالی گئی ہے اور کشف اسرار کا راز منکشف کیا گیا ہے علاوہ  
انہیں اس میں عنط و نصیحت اور عبرت پذیری کا سامان بھی ہے جو ابن حزم ایسے تجربہ کار  
فلسفی نے اس میں جمع کر دیا ہے۔

## ابن حزم کا اسلامی مسلک و منہاج

اسلام کے اساسی معتقدات کے  
فہم و ادراک کیلئے عقل کی ضرورت  
ہم ابن حزم کا عقلی اور تجرباتی طرز و انداز ذکر کر چکے  
اب ہم ان کے اسلامی مسلک کی تفصیلات کا ذکر کرتے  
ہیں آپ کی سیرت و سوانح کا قاری سرسری طور پر

یہ محسوس کرتا ہے کہ ابن حزم اپنے دراستِ اسلامیہ میں عقل پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے مگر واقعہ یہ  
ہے کہ ابن حزم کے نزدیک عقل انسانی علومِ اسلامیہ کے فہم و ادراک کی اساس ہے دینِ اسلام  
میں جو مسائل و معتقدات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں مثلاً عقلی براہین و دلائل سے وحدانیت کا  
اثبات نبوت عقلی جواز حقائقِ اسلامیہ پر ایمان و ایقان قرآن کی وجہ اعجاز اور دیگر اصولی مسائل  
ان کے معلوم کرنے کے لئے عقل اساس و بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے چنانچہ ابن حزم اپنی کتاب  
”الاحکام فی اصول الاحکام“ میں لکھتے ہیں :-

”حصول علم صرف دو ہی طریقہ سے ممکن ہے :-

- (۱) پہلا وہ علم جو عقلی بدہیات اور محسوسات سے حاصل ہوتا ہے۔
- (۲) وہ مقدمات جو عقلی بدہیات اور محسوسات کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ایک  
دوسرے موقع پر ہم نے اس کی تفصیلات ذکر کر دی ہیں لہذا ہم انہیں دہراہیں  
گے نہیں ہم نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ مقدمات صحیحہ ضروریہ کی بنا پر ہم نے  
توحید خداوندی نبوت محمدی آپ کے اقوال کی صداقت اور اس بات کو معلوم کر  
لیا ہے کہ قرآن جو آپ ہماری طرف لائے یہ خدا کا عہد ہے جو بندوں سے کیا گیا جو  
امور اس میں ضروری قرار دے گئے ہیں وہ ہم پر لازم ہیں اور ممنوع امور سے باز  
رہنا ناگزیر ہے اطاعت گزار کے لئے ابدی نعمتوں کا وعدہ کیا اور نافرمانوں کو عذاب  
شدید سے ڈرایا ان امور میں ہمیں آپ کی صداقت پر پورا پورا یقین ہے اور تمام  
واجب الاطاعت احکام میں ہم آپ کے مطیع فرمان ہیں قرآن میں جو باتیں مذکور ہیں

ہم ان کی صحت پر یقین رکھتے ہیں اور لوگوں کے ذکر کردہ معجزات کو من کر جس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتا ہے ہم قرآنی معلومات سے انحراف نہیں کرتے قرآن کریم اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خدا کی طرف سے لائے تھے برحق ہے لہذا قرآن کا فہم وادراک حاصل کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لئے ضروری ٹھہرا قرآن اس بات پر متنبہ کرتا ہے کہ عقل وحواس کی مدد سے چیزوں کی جو حقیقت ہم معلوم کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن سے ہم عقل وحواس کے مدرکات کا تصحیح ہونا ثابت کرتے ہیں اور قرآن کی تصحیح سے پہلے ہم شک میں مبتلا تھے اگر ہم ایسا کرتے تو حقائق کو باطل ٹھہرانے والے ہوتے اور برہان دور کی راہ پر گامزن ہوتے جس سے قطعی طور پر کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی برہان دور کی صورت یہ ہوتی کہ اگر ہم سے پوچھا جاتا کہ تم نے قرآن کا حق وصدق ہوتا کیسے معلوم کیا؟ تو ہم کہیں عقل وحواس کے مقدمات صحیح کی بنا پر ہمیں قرآن کا حامل صدق و صواب ہونا معلوم ہوا پھر کہا جائے کہ عقل وحواس کی صحت نہیں کیونکہ معلوم ہوتی تو ہم کہیں قرآن سے ہمیں پتا چلا یہ فاسد استدلال ہے اور اسی کو برہان دور کہتے ہیں، یہ عبارت اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ ابن حزم اثبات توحید ونبوت مخبری میں عقل پر اعتماد کرنا ضروری خیال کرتے ہیں یہ اثبات ان بدیہیات عقلیہ کی راہ سے ہو گا جو فطرت انسانی میں جاگزیں ہیں اور جن کا شمار انسان کے ان مدرکات میں ہوتا ہے جو تمام حیوانات کی نسبت اس کی عظیم ترین خصوصیت ہیں اور اسے دیگر حیوانات سے ممتاز کرتے ہیں جب معجزات اور عقل کے مقدمات اولیہ کے ساتھ ربط و تعلق کی بناء پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت ثابت ہو گئی تو آپ کے تمام احکام و فرامین کی اطاعت واجب ہوگی۔

پھر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اس امر پر متنبہ کرتے ہیں کہ عقلی بدیہیات کو اسی صورت میں تسلیم کیا جاسکتا ہے جب قرآن ان کی تائید و تصدیق کرتا ہو کیونکہ اس کا نتیجہ دور

کی صورت میں رونما ہوتا ہے استدلال کی شکل یہ ہوگی۔

قرآن کا حق ہونا صرف عقلی بدیہیات سے معلوم ہوتا ہے اسی طرح عقلی بدیہیات کی صداقت قرآن سے معلوم کی جا سکتی ہے یہ طرز استدلال فاسد ہے اصل بات یہ ہے کہ عقلی بدیہیات انسانی عقلی کی فکری اساس ہیں اور یہ تمام انسانی علوم کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں خواہ وہ علم عقلی محض ہو یا نقلی یا تجرباتی قسم کا ہو۔

اظہارِ نصوص پر اعتماد :- اثباتِ توحید، صدقِ نبوت اور جوہ اعجاز کے مسائل میں ابن حزم عقل پر اعتماد کرتے ہیں وہ لفظ

رکھتے ہیں کہ قرآن کریم جن مسائل و احکام پر مشتمل ہے وہ خدا کے اوامر، نواہی، مباحات اور مستحبات ہیں۔

بعد ازاں ابن حزم نصوص پر اعتماد کرتے ہیں اور ظاہر یا باطناً انہی سے احتجاج کرتے ہیں وہ کسی تاویل و تعلیل کی بنا پر ان پر چھٹکارا حاصل نہیں کرنا چاہتے ابن حزم ظواہر نصوص سے اخذ و احتجاج کرتے ہیں خواہ وہ عقائد کے بارے میں وارد ہوئی ہیں یا عملی احکام کے متعلق مطلقاً ان کی تاویل نہیں کرتے مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-  
اَللّٰهُ عَلٰی الْعَرْشِ اَشَدُّ (طہ - ۵)

ابن حزم کہتے ہیں اس آیت سے استفادہ ہوا کہ خدا کا ایک عرش ہے جو اس کے ثابیان شان ہے وہ اس کی کوئی تاویل نہیں کرتے اسی طرح فرماتے ہیں کہ قرآن جب کوئی حکم صادر کرے گا تو علت معلوم کئے بغیر وہ ہمارے لئے واجب الاطاعت ہو گا اس کی وجہ یہ ہے کہ نصوص کتاب و سنت اللہ لطیف وخبیر کے اوامر ہیں اور ان کی اطاعت بالذات کی جائے گی نہ کہ ان کے علل کی بنا پر جب امور غیبی میں تاویل ناروا ہے اور شرعی احکام علل پر بھی مبنی نہیں تو ظواہر نصوص ہی سے استفادہ کیا جائے گا اور ان کے ماسوا دوسری کسی چیز کو معتبر نہیں سمجھا جائے گا اس لئے کہ دین اسلام نام ہے احکام قرآنی اور سنت نبوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس وقت رخصت ہوئے جب آپ نے خدا کے تمام احکام بندوں تک پہنچا دیئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

لَمَّا فَدَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (الانعام - ۲۸) ہم نے قرآن میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی۔

تیز فرمایا۔

آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اپنی  
نعمت پوری کر دی اور اسلام کو ایک دین کے  
اعتبار سے پسند کر لیا۔

”الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ  
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ  
دِينًا“  
(المائدہ - ۴)

ارشاد ہوتا ہے :-

کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے مہل چھوڑ دیا  
جائے گا :-

”أَيُّحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ  
شُدَى“  
(القیامہ - ۳۶)

خدا کے دین میں رائے سے کام لینا اور اس میں قیاس زنی کرنا بیان کردہ دلائل کے  
خلاف ہے۔

چونکہ ابن حزم صرف ظواہر نصوص پر اعتماد کرتے  
ہیں جن کی ولادت اپنے معنی پر بڑی واضح ہوتی

حُرْمَتِ تَقْلِيدِ اَوْرَابِنِ حَزْمٍ :-

ہے اس لئے ابن حزم خدا کے دین میں تقلید سے منع کرتے ہیں کیونکہ کتاب و سنت کے اسلامی  
اور نورانی دسترخوان تک ہر مسلم طالب حقیقت کی رسائی ممکن ہے۔

ابن حزم فرماتے ہیں :-

”کسی شخص کے لئے کسی زندہ یا فوت شدہ آدمی کی تقلید کرنا روا نہیں ہر  
شخص اپنی طاقت کے مطابق اجتہاد کر سکتا ہے جو شخص کسی سے دین کی کوئی بات  
دریافت کرے تو سائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں اس کے فرائض و واجبات  
کیا ہیں اگرچہ وہ شخص سب لوگوں سے زیادہ جاہل ہے اس پر یہ فریضہ عائد  
ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے پوچھے اس شہر میں دین اسلام کا سب سے بڑا عالم  
کون ہے پھر اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے مطلوبہ مسئلہ دریافت کرے پھر جب  
وہ فتویٰ دے تو سائل اس سے پوچھے کیا خدا کا حکم یوں ہی ہے اگر مفتی کہے کہ ہاں!  
تو سائل بلا تامل اس پر عمل کرے اور اگر فتویٰ دینے والوں کہے کہ میری رائے یہ  
ہے یا یہ قیاس ہے یا فلاں کا قول ہے اور اس کے ساتھ کسی عالم فقیہ یا قدیم



جدید کا نام ذکر کر دے یا مفتی خاموش رہے اور سائل کو ڈانٹ دے تو سائل کو ایسے شخص سے مسئلہ دریافت نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی اور سے پوچھے جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ عامی شخص کے لئے مفتی کی بات پر عمل کرنا واجب ہے تو اس نے باطل کا دعویٰ کیا اور ایک ایسی بات کہی جو کتاب و سنت اور اجماع و قیاس کسی میں مذکور نہیں ہے اور جو بات ایسی ہو وہ باطل ہوتی ہے کیونکہ یہ بلا دلیل قول ہے،

اس سے معلوم ہوا کہ ابن حزم قطعی طور پر تقلید سے منع کرتے ہیں وہ عامی کو بھی تقلید کا حق نہیں دیتے عالم کے لئے تو تقلید بلا اولیٰ منع ہوگی۔ عالم اور جاہل کے مابین فرق یہ پایا جاتا ہے کہ جاہل اپنی جہالت کی بنا پر علماء سے مسائل دریافت کرے گا جب وہ فتویٰ دیں گے تو ان کا قول اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کتاب و سنت کی وہ اصل نہ بیان کریں جہاں سے انہوں نے وہ مسئلہ اخذ کیا اگر وہ اپنا ماخذ نہ بتائیں تو ان کا قول ترک کر دیا جائے اور کسی اور سے دریافت کیا جائے جو یوں کہے کہ خدا نے اس طرح فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے جو صاحب علم علماء کی مدد کے بغیر کتاب و سنت سے مسائل اخذ کر سکتا ہو اس پر فرض ہے کہ کسی سے پوچھے بغیر کتاب و سنت کے احکام معلوم کرے البتہ اطمینان و سکون قلبی کی خاطر کسی عالم سے کوئی بات دریافت کرے تو کوئی حرج نہیں ابن حزم عالم کے بارے میں فرماتے ہیں:-

جو شخص بھی کسی عالم یا پیشوا کی تقلید کرتا ہے یا امام مالک، ابو حنیفہ رحمہ، امام شافعی رحمہ سفیان، اوزاعی، احمد یا داؤد رحمہم اللہ تعالیٰ کا مقلد ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بزرگان دین دنیا و آخرت میں تقلید سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے یا خدا یا! ہم تو تیرے اور تیرے نبی کے کلام ہی کو حکم مانا کرتے تھے اپنے تمام اختلافات اور تنازعات میں خدا و رسول کے ارشادات ہی سے فیصلہ چاہتے تھے اور اس سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے اگر روئے زمین کے لوگ اس بات پر ہم سے ناراض ہو جائیں اور ہمارے خلاف بزدانوں ہوں تو ہمیں مطلقاً اس کی پروا نہیں

ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارے دل اس پر رضا مند ہیں ہم اس پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں کسی تردد کا شکار نہیں۔ جو اس کے خلاف ہے ہم اس کی بات تسلیم نہیں کرتے اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ غلط کار ہے ہم حاملِ صدق و صواب ہیں اے اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں اس سے دور نہ کر۔ اے اللہ ہمارے بیٹوں اور بھائیوں کو بھی اسی راہ پر چلا یہاں تک کہ ہم اسے تھامے ہوئے تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تیرے یہاں پناہ لیں یا ارحم الراحمین اے،

ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امام جلیل (ابن حزم) علماء اور عوام کو پکار پکار کر خدا کے دین میں کسی کی تقلید کرنے سے منع کر رہا ہے اور اس بات سے روکتا ہے کہ نصوص کتاب و سنت کے بغیر کسی کا قول تسلیم کریں جہاں تک علماء کا تعلق ہے وہ شرعی احکام کو ان کے اصل منابع سے اخذ کرتے ہیں اور عوام علماء سے دریافت کرتے ہیں اگر کسی کا اتباع کرتے بھی ہیں تو صرف اسی حد تک کہ دینی مصادر کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔

ابن حزم اصول و فروع دونوں  
اعتقادی مسائل میں اخبارِ آحاد سے احتجاج :-  
میں ظواہر نصوص سے احتجاج

کرتے اور عقائد میں بلا تاویل انہیں تسلیم کرتے ہیں وہ اعمال کی طرح عقائد میں بھی اعتقاد سے استدلال کرتے ہیں اس ضمن میں اخبارِ آحاد ان کی رائے میں احادیث متواترہ کے مباری ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں وہ عقائد میں بھی اخبارِ آحاد سے استدلال کرتے ہیں حالانکہ علماء کئی کئی کثیر جماعت ان کے خلاف ہے ان کا خیال ہے کہ اعتقادی مسائل اخبارِ آحاد سے ثابت نہیں ہوتے خبر واحدہ ہوتی ہے کہ جس کو روایت کرنے والی ایک ایسی جماعت نہ ہو جس پر دروغ گوئی کا احتمال نہ ہو اور اسی طرح وہ سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جانے ابن حزم کے مخالف علماء کا کہنا ہے کہ اعتقادی مسائل صرف اخبارِ متواترہ سے ثابت ہوتے ہیں اخبارِ متواترہ ان احادیث کو کہتے ہیں جن کو ایک جماعت دوسری جماعت سے روایت کرتی ہو اور وہ اسی کثرت کے ساتھ آنحضرت تک پہنچ جائیں ابن حزم کا زاویہ نگاہ ان علماء کے خلاف ہے۔  
فرماتے ہیں :-

«ابو سلیمان حین بن علی کراہیسی اور جاریث محاسبی کا قول ہے کہ خبر واحدہ

ہے جس کا راوی عادل ہو اور وہ عادل راویوں سے حدیث نقل کرتا ہو جب ایسی روایت آنحضرت تک پہنچ جائے تو اس پر علم اور عمل دونوں واجب ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں، امام مالک سے بھی اسی طرح منقول ہے اس کے برعکس احناف، شوافع تمام مالکی فقہاء، جمیع معتزلہ و خوارج کا نقطہ نظر یہ ہے کہ خبر واحد علم یقینی کی موجب نہیں ہوتی ان سب کی رائے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کذب کا احتمال ہے یا وہم کا۔ یہ تمام فرقے اس نظر یہ میں یک زبان ہیں۔ چونکہ ابن حزم اعتقادات میں اخبار آحاد کو معتبر سمجھتے ہیں بنا بریں وہ بہت سے غیبی امور پر ایمان لانا واجب سمجھتے ہیں جو احادیث آحاد سے ثابت ہیں اور اخبار متواترہ سے نہیں مثلاً عذاب قبر، نزول عیسیٰ علیہ السلام، مسیح و جال کی آمد اور اس کے اوصاف پل صراط، حوض، بروز، قیامت شفاعت کی تفصیل تیزامت محمدی کے اہل کیا کر کے لئے آنحضرت کی شفاعت یہ جملہ امور حق ہیں اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں جو صرف اخبار آحاد سے ثابت ہیں لہٰذا

یہ ہے ابن حزم کا نقطہ نگاہ  
**احادیث آحاد علم اور عمل دونوں کی موجب ہیں** ان اخبار آحاد کے بارے

میں جو ثقات اور عدول راویوں سے منقول ہوں بشرطیکہ تو اتر کی حد تک نہ پہنچیں ان کا نظر یہ اس ضمن میں ائمہ اربعہ کے جمہور متبعین کے خلاف ہے جن کی رائے یہ ہے کہ احادیث آحاد عمل کی موجب تو ہوتی ہیں مگر یقین پیدا نہیں کرتیں ابن حزم ان پر یہ گرفت کرتے ہیں کہ وہ عمل و اعتقاد میں تفریق پیدا کرتے ہیں علاوہ ازیں وہ اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ خبر واحد کی بنا پر ان کے یہاں کسی کی جان لی جاسکتی ہے اور اس سے شرم گاہوں کو حلال بھی کہا جاسکتا ہے اگرچہ وہ یقین و اعتقاد پیدا نہیں کرتی ایہ کس قدر حیرت ناک ہے۔

ابن حزم کا یہ نظر یہ اس بات پر مبنی ہے کہ ان کے نزدیک ایک ثقہ اور عادل راوی کی روایت میں کذب کا احتمال نہیں ہوتا۔

فرماتے ہیں:-

»یہ بات یقین کی حد تک پہنچ چکی ہے کہ خبر واحد کا عادل راوی جب اپنے جیسے عادل سے روایت کرے اور اسی طرح یہ سلسلہ آنحضرت تک پہنچ جائے تو یہ حدیث قطعی طور پر حق ہے اور علم و عمل دونوں کی موجب ہے لہٰذا، عادل راویوں کی روایات کا اندازہ کرنے میں وہ اس قدر مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں کہ انہیں دروغ گوئی سے معصوم قرار دیتے ہیں اپنے مخالفین کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

»اگر معتزین اعتراض وارد کریں کہ تمہارے نظریہ سے تو راویوں کا بے خطا ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ وہ دانستہ جھوٹ بولتے ہیں نہ وہ ہم ہی پڑتے ہیں تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے جی ہاں! ہم یوں ہی کہتے ہیں اور ہمارا یہی اعتقاد ہے ہر عادل راوی جو آپ کے کسی قول و فعل کو روایت کرتا ہے، یہ دانستہ کذب بیانی سے معصوم ہے اور اس سے وہم بھی صادر نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کا کوئی ثبوت موجود ہو۔ ما

بلاشبہ احادیث آحاد کے رواۃ کے بارے میں ابن حزم کا نظریہ اغراق و مبالغہ آمیزی سے خالی نہیں تھا مگر ابن حزم نے اسے اس لئے قبول کیا کہ ان کے نزدیک دین اسلام کی نقل و روایت میں وہم یا دانستہ دروغ گوئی کو کوئی دخل نہیں رہا۔

ابن حزم نے اپنی تصانیف میں جدلی طرز استدلال کو اختیار کیا ہے آپ ایک ایک کر کے مخالف کے دلائل پیش کرتے ہیں پھر ان کی تردید کرتے۔ اپنے دعویٰ کو دلائل سے ثابت کرتے اور مخالف کے دعویٰ کا ابطال کرتے ہیں پھر جدل کے مراتب میں سے دوسرے مرتبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خصم کے اقوال ہی سے اس کی تردید کی جائے۔ گویا آپ الزام و انعام کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں جب کہ پہلے محبت و برہان کے راستہ پر جا رہے ہوتے۔

**فریق اول:-** علماء کے قدیم ہی سے دو فریق چلے آتے ہیں ایک فریق حمایت حق کا فریضہ ادا کرنے میں جدل کے جواز کا قائل تھا۔ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمہما

تعلق اسی گروہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے ایسے ہمیشہ بہا مناظرات منقول ہیں جن میں انہوں نے اپنے مخالفین کو دندان شکن جواب دیئے تھے۔

**فریق ثانی :-** دوسرا فریق دین میں جدل کو ناروا خیال کرتا تھا کیونکہ جدل حقائق کو دور کر دیتا ہے جب مجادلین باہم لڑتے جھگڑتے ہیں تو ایمان بالحق رختِ سفر باندھ لیتا ہے۔ اس فریق کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ مناظروں میں جو کھینچا تانی ہوتی ہے اس سے حقیقت پارہ پارہ ہو کر رہ جاتی ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب کوئی بڑا جھگڑالو شخص آجاتا ہے جو دوسرے پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے اس فریق کے رئیس اعظم حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

چونکہ ابن حزم پہلے فریق سے وابستہ تھے جو دین میں جدل کو جائز سمجھتا تھا بلکہ اس سے طشہ کر اس کے وجوب کا قائل تھا لہذا ہم جدلیات کے بارے میں آپ کے زاویہ نگاہ اور طرز منہاج پر روشنی ڈالتے ہیں۔

## جدل و مناظرہ اور ابن حزم

جدل و مناظرہ کا باہمی فرق :- بعض علماء جدل اور مناظرہ کے مابین فرق کرتے

ہیں وہ کہتے ہیں کہ مناظرہ اس تبادلاً افکار کا نام ہے جس کا مقصد حق و صداقت تک رسائی حاصل کرتا ہو اس کے برعکس جدل کا مقصد صرف خصم پر غالب آنا اور اسے خاموش کرانا ہوتا ہے نہ کہ حق کی طلب و تحقیق۔

جدل کی دو قسمیں :- یہ بعض علماء کی مقرر کردہ اصطلاح ہے مگر ابن حزم جدل کے لفظ کو عام

معنی میں استعمال کرتے ہیں اس سے وہ تبادلاً افکار بھی مراد لیتے ہیں جس کی غرض طلب حق ہوتی ہے تو یہ وتلبس کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اور خصم کے اِقمام و الزام کی خاطر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو دو قسموں میں منقسم کرتے ہیں :-

پہلی قسم :- پہلی قسم کا جدل وہ ہے جو ممدوح و ماجور اور اس شخص کے لئے واجب الادا ہے جو اثبات حق اور حجت اسلامی کو قائم کرنے کی قدرت سے بہرہ ور ہو اسی جدل کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔ فرمایا :-

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْحَقِّ  
هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الذِّبْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔

(المنکبوت - ۴۴)

اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا ہے کہ ترمی سے مناظرہ کیجیے، زبان درازی اور درشت کلامی سے احتراز کریں البتہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی اس کا آغاز کرے تو اس کے حق میں تلخ کلامی روا ہے۔

دوسری قسم :- جدل کی دوسری قسم جدل مذموم ہے یہ وہ جدل ہے کہ مجادل اس میں بلا حجت

دوران بحث کرنے پر اتر آتا ہے یا ظہور دلیل و حجت کے بعد بھی جھگڑتے سے باز نہیں آتا۔

ابن حزم جدلِ مذموم کو دو قسموں میں منقسم کرتے ہیں:-

**جدلِ مذموم کی دو قسمیں:-** ابن حزم لکھتے ہیں:-

جدلِ مذموم دو قسم کا ہوتا ہے۔

(۱) جو بلا علم مجادلہ کرتا ہے۔

(۲) جو برہان کے ظاہر ہونے کے بعد باطل کی پشت پناہی کے لئے ملمع سازی کے

طریقے سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے قرآنِ کریم انہی مجادلین کے بارے میں فرماتا ہے

"أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي

آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى لِيُصْرَفُونَ" (غافر- ۶۹)

کیا آپ جدال کرنے والوں کو دیکھتے ہیں

کہ وہ کس طرح بہکائے جا رہے ہیں۔

نیز فرمایا:-

اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو علم کے

بغیر اسی جھگڑتے رہتے ہیں اور سرکش شیطان

کے فرماں بردار ہیں:-

"وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ

عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ

(الحج - ۳)

ارشاد ہوتا ہے:-

اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو علم

و ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر

ہی مجادلہ میں مصروف رہتے ہیں۔

"وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ

عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

(الحج - ۸)

دوسری جگہ فرمایا۔

خدا کی آیات میں صرف وہی لوگ جدل

سے کام لیتے ہیں جو کافر ہیں ان کا شہرہ

میں چلنا پھرننا آپ کو دھوکا میں نہ ڈال

دے قبل ازیں حضرت نوح علیہ السلام

کی قوم نے اور دیگر گروہوں نے اس کی

تکذیب کی اور ہر گروہ نے اپنے رسول

کو پکڑ لیتے کا ارادہ کر لیا اور حق کو دبانے

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ

كَفَرُوا فَلَا يَخْرُجُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي

السُّبُلِ كَذَبَتْ قُلُوبُهُمْ قَوْمٌ

نُوحٍ وَالْأَحْزَابِ مِنْ بَعْدِ

هِيَ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ

بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوا وَجَادِلُوا

بِالْبَاطِلِ لِيُذْخِرُوا بَعْضُ

فَأَخَذَتْهُمُ فَكَيْفَ كَانَتْ  
عِقَابٌ -  
ر المؤمن - ۴ - ۵

کے لئے وہ جھوٹ موٹ جھگڑتے رہے  
پس میں نے ان کو پکڑ لیا پھر دیکھیے میں  
نے کتنی سخت سزا دی۔

ان آیات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ حرام وہ جدال ہے جس سے باطل کی نفرت  
و تائید کی جائے اور حق کو کسی علم کے بغیر جھٹلاتا منظور ہو لے،

جب کوئی مجادل حق سے آشنا ہو اور استدلال و اثبات کے  
صحیح طریقوں سے حق تلاش کرنا چاہتا ہو تو ابن حزم کی نگاہ میں  
**جدل محمود :-**

جدال واجب ہے کیونکہ جدل کے اس طریقہ سے خدا کی حجت قائم ہوتی خدا کا پیغام اس کے بندوں  
تک پہنچتا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم  
علیہ السلام نے غرود کے خلاف قوی ترین طرز استدلال اور نفرت حق کے لئے الزام و افحام کا طریقہ استعمال  
کیا تھا یہ آیت مطالعہ کیجیے :-

ارشاد ہوتا ہے :-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ أَبْرَاهِيمَ  
فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ  
أَبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ  
قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالُوا  
أَبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي  
بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ  
فَأَنْتَ بَهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ  
الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

(البقرة - ۲۵۸)

کیا آپ اس شخص کو جانتے نہیں جو اپنے  
رب کے بارے میں حضرت ابراہیم  
علیہ السلام سے جھگڑا تھا صرف اس  
لئے کہ خدا نے اسے تخت و سلطنت سے  
بہرہ ور کر رکھا تھا ابراہیم نے کہا میرا  
رب تو زندہ کرتا اور مارتا ہے اس نے  
کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا اور مار سکتا  
ہوں ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آفتاب  
کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے  
نمودار کرتے کافر حیران و ششدر رہ  
گیا اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی کامیابی  
سے ہمکنار نہیں کرے۔



ابن حزم کی رائے میں جدل محمود وہ ہے جس سے حجت و برہان کی روشنی میں حق کو بلند کیا جائے  
یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کیونکہ اس سے حق کا کلمہ بلند ہوتا ہے وہ اس میں حدیث نبوی پیش کرتے ہیں  
”اپنی جان و مال اور زبان سے مشرکین کے خلاف جہاد کیجئے“

ابن حزم اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے اس میں مناظرہ  
کو جہاد اور اتفاق فی سبیل اللہ کی طرح ضروری قرار دیا گیا ہے لہذا،

جدل محمود کے وجوب کے دلائل :- ابن حزم جدل محمود کے وجوب کو عمل صحابہ  
سے ثابت کرتے ہیں مہاجرین و انصار اور

جمع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں جھگڑا کرتے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت  
علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے خوارج کے ساتھ بحث و جدل میں حصہ لیا تھا صحابہ میں سے کسی نے بھی  
طلب حق میں جدل و بحث کرنے سے انکار نہیں کیا۔

ابن حزم لکھتے ہیں :-

”جو شخص جدل و بحث کے طریقہ ہی سے اس کا بطلان ثابت کرنا چاہتا ہے

اور مناظرہ کو ناسد قرار دینے میں تکلف سے کام لیتا ہے میں اس کے سامنے  
عجز و نیاز کا اظہار نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اپنے غلط کارہونے کا خود معترف  
ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دلیل جسے وہ پیش کر رہا ہے ان دلائل کا ایک جزو ہے  
جن کے ابطال کے وہ درپے ہے اور اس کا یہ فعل خود جدل ہے اور اس راہ پر تو  
کوئی جاہل سبک سہرا معاند ہی چل سکتا ہے۔ ہم جس جدل کے داعی ہیں وہ ایسا  
جدل ہے جس سے حق کی تائید و نصرت ہوتی ہو اور باطل کی دھجیاں فنائے آسمانی  
میں بکھیر دی جاتی ہوں جو شخص حق کا طالب ہونے کے باوجود باطل کی عمارت کو  
سمارنا کرنا چاہے وہ ملحد ہے اور اسے اہل باطل میں سے ہی شمار کرنا چاہیے،  
باطل کی حمایت کے لئے جھگڑنا وہی ہے جس کے بارے میں آنحضرت کا ارشاد ہے :-

”الْبغض الرجال اِلی اللہ  
اِلا الْخِصْمُ“  
جھگڑا لو شخص خدا کو سخت ناپسند ہے،

جدل کی ضرورت و اہمیت کے اسباب :- اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابن حزم

کس بنا پر کرتے ہیں جس کی انتہاء یہ ہے کہ دین کی حمایت میں جہاد نہ کرنے والوں کو وہ ملحد قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ حمایت حق کا فریضہ ادا نہ کر کے باطل کی اعانت کرتے ہیں۔

میرے خیال میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ابن حزم چونکہ بذات خود ایک ممتاز مناظر تھے اس لئے وہ حمایت دین کے سلسلہ میں جہاد کو واجب خیال کرتے ہیں آپ کے معاصر مالکی فقہاء جب آپ کے مناظرہ کی تاب نہ لاسکتے تو یہ کہہ کر خلاصی حاصل کرتے کہ ابن حزم ایک مجادل شخص ہے اور یہ حق و صداقت کی بنا پر غلبہ حاصل نہیں کرتا بلکہ اپنی جدلی قوت کی بنا پر سب کو پچھاڑ دیتا ہے پھر جہاد کی مذمت میں امام مدینہ منورہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پیش کرتے کہ جب کوئی بڑا جھگڑا لوشخص آتا ہے تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔

ابن حزم کی تمام تصانیف اس بات کی زندہ گواہ ہیں کہ آپ مناظرہ میں تیز زبان واقع ہوئے تھے آپ کے معاصر علماء اس بات سے بخوبی آگاہ تھے یہاں تک کہ مناظرات میں تشدد کا اظہار کرنے سے قبل بھی وہ آپ کی زندگی کے اس پہلو سے آشنا تھے ابن حزم طوق الحمامہ میں قیروان کے زمانہ اقامت کے ایک مناظرہ کا ذکر کرتے ہیں قیروان کے رہنے والے ایک عالم ابو عبد اللہ محمد بن کلیب زبان دراز تھے اور تمام علوم میں سوال کرنا جانتے تھے انہوں نے ایک مرتبہ ابن حزم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

”آپ تو ایک جدلی آدمی ہیں اور محبت کے سلسلہ میں کوئی قابل ذکر مجادلہ نہیں ہوتا“ (یعنی محبت کے سلسلہ میں تحریر کردہ آپ کے مضامین دلچسپ نہیں ہو سکتے۔)

ابن حزم پر حملہ آور ہونے سے قبل معاصر فقہاء ان کو یہ الزام دیا کرتے تھے جب ان کے خلاف مکمل طور پر صرف آراء ہوتے تو اس امر کو ابن حزم کی توہین کا باعث تصور کرنے لگے تب ابن حزم ان کی تردید کے لئے کمر بستہ ہوئے اور انہیں بتایا کہ جہاد محمود ازیس ضروری ہے اور متدین شخص اسے ترک نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے رسالت محمدیہ کی تبلیغ کا فریضہ ادا ہوتا ہے اور دین اسلام کی نصرت و حمایت ہوتی ہے۔

پھر کیف ابن حزم ایک جدلی الطبع عالم دین تھے لہذا آپ کے مجادلات کی تفصیلات بیان کرتا اور یہ بتانا کہ آپ کے جہاد کا طرز و انداز کیا تھا ہمارے لئے بے حد ضروری ہے۔

## ابن حزم کا طرزِ جدل و بحث

آپ کے طرزِ جدل و بحث کی اولین خصوصیت  
تعصب سے اجتناب اور ابن حزم :- یہ ہے کہ آپ حق کے طلب کار ہوتے تھے

اور صرف مخالف پر غلبہ حاصل کرنے یا زبان و قلم کی کاٹ دکھانے کے لئے میدانِ مناظرہ میں نہیں اترتے تھے آپ کا مقصد رضائے خداوندی کی خاطر حق کا تلاش کرنا اور خدا کے دین کی کھری اور اصلی بات کو معرضِ ظہور میں لانا ہوتا تھا اور بس جیسا کہ خود انہوں نے اس امر کی صراحت کی ہے وہ یہاں تک کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر مخالف کی بات کا قرینِ صدق و صواب ہونا مجھ پر واضح ہو جائے تو میں اس کی بات تسلیم کرنے کے لئے تیار ہوں، کیونکہ تعصب طالبِ حق کو حق و صداقت کی تلاش سے باز نہیں رکھ سکتا خواہ حق کہیں بھی ہو جدلِ محمود کی تائید میں آیاتِ قرآنیہ پیش کرنے کے بعد ابن حزم لکھتے ہیں :-

”ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحث و مناظرہ کے دوران عدل و انصاف کی تعلیم دی اور وہ یہ ہے کہ جو شخص واضح دلیل پیش کرے اس کے قول کو تسلیم کر لینا چاہیے ہم بھی امرِ خداوندی کی تعمیل میں یہی کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں کوئی شبہ لاحق ہے یا ہمیں یہ خطرہ درپیش ہے کہ کوئی شخص اس میں خرابی پیدا کر دے گا۔ بلکہ اس کے برخلاف ہمیں کامل وثوق ہے کہ کوئی شخص ان کا معارضہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عمر کا اکثر حصہ اسی بحث و تحقیق اور حج و دلائل کی تصحیح میں گزرا اور ہم بتوفیقِ ربانی جادہ مستقیم پر گامزن ہوئے خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان و یقین کی دولت سے بہرہ ور کر رکھا ہے جب کہ طبقہٴ جہلاء اور مقلدین تردد کا شکار رہتا ہے ہمارا قول یہی ہے اور اس کا اعتراف کرنے میں ہمیں کوئی چیز مانع نہیں ہے کہ جس ملک

پر ہم گامزن ہیں اگر اس سے بہتر مسلک و مذہب ہمیں میسر آیا تو ہم بلا تامل اسے تسلیم کر لیں گے اور اپنے طریقہ کو ترک کر دیں گے۔

اپنے مسلک پر اذعان و ایقان :- ابن حزم کی کتاب کا یہ اقتباس اس حقیقت

کا آئینہ دار ہے کہ ابن حزم جدل و بحث میں مخلصانہ طور سے حصہ لیتے تھے اور دشمن کو نیچا دکھانا آپ کا مقصد نہ تھا بلکہ آپ حق کا بول بالا کرنا چاہتے تھے اور اپنے قول کو چھوڑ کر مخالف کے مسلک کو اپنانے کے لئے بھی تیار رہتے تھے بشرطیکہ مخالف کے یہاں ایسا حق پایا جاتا ہو جو باطل کی آمیزش سے پاک ہو اس سے آپ کے جدل و بحث میں مخلص ہونے کا ثبوت ملتا ہے اتنی بات ہے کہ مندرجہ اقتباس سے جہاں آپ کے اخلاص کا پتہ چلتا ہے وہاں یہ حقیقت بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ آپ آسانی سے دوسرے شخص کی بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے آپ کی رائے کے عدم تغیر کا پتہ دو باتوں سے چلتا ہے۔

امر اول :- پہلی بات یہ ہے کہ انہیں اپنے افکار و آراء کے بارے میں کوئی شبہ لاحق نہ تھا وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے مخالفین کے پاس سرے سے کوئی دلیل موجود ہی نہیں آپ مناظرہ میں مشغول ہوتے تو اس اذعان و یقین کے ساتھ کہ مخالف کا دامن دلائل سے یکسر خالی ہے۔ ظاہر ہے کہ اندریں صورت دوسرے کی بات کو تسلیم کرنا بڑا دشوار ہے کیونکہ دوسرے کی رائے تب قبول کی جاسکتی ہے جب نفس انسانی میں اس کا گزر ممکن ہو مگر ابن حزم کے یہاں اس کے سب دروازے بند تھے۔ کیونکہ انہیں اپنے مسلک پر سو فیصد یقین تھا اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ مخالف دلائل سے عاری ہے لہذا مخالف کی رائے کو ابن حزم کے دل و دماغ تک پہنچنے کے لئے دو گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا تھا۔

(۱) اول ان کا یہ اعتقاد کہ خصم کے دلائل باطل کا ایک انبار ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

(۲) دوم یہ کہ ان کا کلام حق ہے اور شک و شبہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔

بلاشبہ جدل ابن حزم کی یہ خامی آپ کے اخلاص کو بڑی حد تک مشتبہ کر دیتی ہے بلکہ اپنے فکر و نظریں اس قدر غلو و تعصب، اخلاص میں کمی پیدا کر دیتا ہے کیونکہ تعصب سے حتی تک

پہنچنے کی سبب شاہراہیں مسدود ہو جاتی ہیں اور اس سے بلاشبہ اخلاص میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ طلبِ حق و صدق میں جو اخلاصِ رضا نے خداوندی کے لئے ہونا چاہیے تھا وہ اپنے فکر و نظر میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ حق بس اسی کا نام ہے اس ضمن میں امام ابن حزم اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے درمیان جو بہری فرق پایا جاتا ہے حالانکہ امام موصوف حیدل و مناظرہ میں شہرہ آفاق تھے۔ واقعہ یہ تھا کہ کسی سائل نے آپ سے دریافت کیا، کیا آپ کا یہ قول ہی بلا ریبِ مظہرِ حق و صدق ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا مجھے کیا معلوم ہی قولِ باطل کا آئینہ دار ہو اور اس کے باطل ہونے میں کوئی کلام نہ ہو فقہاءِ مذہب کا بھی یہی دستور ہے کہ وہ اپنے مسلک کو صحیح قرار دیتے ہیں اور دوسرے مسالک کے متعلق یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مبہنی برخطا ہیں تاہم ان میں صدق و صواب کا احتمال موجود ہے۔ گویا فقہاءِ مذہب میں بھی اتنی وسعت خیال پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے مسلک میں صواب کے احتمال کے قائل ہیں۔

بخلاف ازیں ابن حزم اپنے اقوال میں خطا کا احتمال تسلیم کرتے ہیں اور نہ مخالفین کے آراء میں احتمالِ صدق و صواب کو درست خیال کرتے ہیں لہذا ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ وہ متعصب تھے اور دوسروں کے اقوال کو تسلیم نہیں کرتے تھے ظاہر ہے کہ اس سے طلبِ حق میں آپ کا خلوص مشتبہ و مکدر ہو کر رہ جاتا ہے۔

اثر ثانی :- دوسری بات جس کی بناء پر ابن حزم کے لئے مخالفین کے اقوال کو تسلیم کرنا دشوار تھا ان کا یہ اعتقاد تھا کہ فقہاء اہل الطواہر بڑے محقق ہیں جو کسی مسئلہ کو تسلیم کرنے سے قبل دلائل کو خوب جانچتے پرکھتے ہیں اور اس کی طلب و تحقیق میں عمریں کھپا دیتے ہیں جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ظاہری فقہاء دلائل کی پیروی کرتے ہیں اور دلیل سے قبل کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس اعتقاد کا مطلب یہ ہے کہ ابن حزم بڑے بلند مقام پر کھڑے ہو کر بنگاہِ حقارت دوسروں کو جھانکتے ہیں اور ان کے افکار و آراء کو اپنی طرح نہیں سمجھتے دوسروں کے افکار کو آسانی سے قبول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خصم کو بھی اپنے جیسا عالمِ دین تصور کیا جائے اگر اسے اپنے سے گھٹیا فرض کر لیا جائے تو اس کی بات کبھی دل میں جاگزیں نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی

طرح انسانی افکار کے لئے بھی نیچے سے اوپر کو چڑھنا دشوار ہے مگر اوپر نیچے  
اترنا مقابلتہً سہل ہے۔

اپنے مسلک سے وابستگی :- مندرجہ بالا حقائق سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ ابن  
حزم اگرچہ دینی مسائل کی تحقیق میں بڑے مخلصانہ

واقع ہوئے تھے تاہم اپنے مسلک کے ساتھ انہیں جو وابستگی تھی اس کے پیش نظر وہ مخالفین  
کے نظریات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔

اسی بناء پر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ابن حزم جدل و بحث کے دوران مسئلہ  
زیر بحث پر اس اعتبار سے خیال آرائی نہیں کرتے تھے کہ فریق ثانی کے ساتھ مل کر مسئلہ کا حل تلاش  
کریں کیونکہ وہ ایک دینی مسئلہ ہے اور طلبِ حق و صدق کا پہلو اس کی ہر بات میں نمایاں  
ہونا چاہیے۔ بلکہ ابن حزم ہمیشہ جانبدارانہ نقطہ نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہیں۔ یہی وجہ ہے  
کہ ان کی نظر ہمیشہ محدود ہوتی ہے اور ایک محقق اور طالبِ حق کی نگاہ نہیں ہوتی۔ بلاشبہ  
یہ نقص آپ کے جدلیات کا طرہ امتیاز ہے شاید یہی وجہ ہے کہ معاصر فقہاء کو آپ سے نفرت  
ہو گئی تھی نفرت و حقارت کی مزید وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے افکار و آراء فقہاء کے انس  
نظریات سے متصادم تھے جن سے وہ بڑے مانوس ہو چکے تھے اس کے علاوہ آپ کبر و غرور  
کے اظہار میں بھی کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے جیسا کہ قبل ازیں ہم نے اشارہ کیا ہے یہی وجہ  
ہیں جن کی بناء پر معاصر فقہاء آپ کے شدید دشمن بن گئے۔

غیر مذاہب سے ابن حزم کے مناظرات :- یہ تھے مجادلات ابن حزم کے دو پہلو  
جو ان پر نمایاں تھے ان سے ابن حزم

کے جدل و مناظرہ کی اصلی صورت نکھر کر سامنے آجاتی ہے۔ ان سے واضح ہوتا ہے کہ جدل  
ابن حزم کا مقصد اپنے افکار کی تائید تھی اور بس۔ اگرچہ اپنے افکار پر آپ کا ایمان  
بڑا پُر خلوص تھا اور انہیں وہ ایسا حق تصور کرتے تھے جس میں شک و شبہ کی کوئی مجال نہیں اس  
سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ محدود نگاہ سے مسائل پر غور و فکر کرتے تھے اور آپ  
کو صرف اپنی دلائل کی تلاش ہوتی تھی جن سے ان کے نظریات کا اثبات ہوتا ہو ہم جب  
آپ کے طرزِ جدل و بحث میں نقصان کی نشاندہی کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد ان کے  
صرف وہ مجادلات ہیں جو انہوں نے مسلمان علماء سے کئے جہاں تک آپ کے ان مناظرات

کا تعلق ہے جو آپ نے غیر مسلموں سے کیئے ان کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ وہ آپ کے کمال  
جدل اور سلامت ذہن و عقل کی دلیل ہیں نہ کہ باعث تنقیص و تحقیر۔ کیونکہ اعداء اسلام  
کے خلاف مناظرہ کرتے وقت آپ اسلام کی مدافعت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔

ظاہر ہے کہ اسلام حق ہے اور دوسرے مذاہب اس کے مقابلہ میں حق نہیں لہذا ابن  
حزم جب مذاہب باطلہ یا زنادقہ کے خلاف نبرد آزما ہوں تو اس وقت یہ بات کہنا بے حد  
مناسب ہے کہ ان مذاہب کے یہاں بھی حق موجود ہے جس کی پشت پناہی کا فریضہ وہ انجام  
دے رہے ہیں یا اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ بخلاف ازیں وہ اسلامی حقائق کو بگاڑتا اور  
اسلامی عقائد کو خراب کرنا چاہتے ہیں یا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ افکار فاسدہ کو مسلمانوں  
میں پھیلا یا جائے اور ان کی تشہیر کی جائے۔ اسلام دشمنی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام کا وقار انہیں  
ایک آنکھ نہیں بھاتا اور وہ ہمیشہ فساد کے درپے رہتے ہیں لہذا ان کے اُتادیل باطلہ کی تردید  
اور اسلامی افکار و معتقدات کا تحفظ ایک اہم دینی فریضہ ہے اور اس پر مخلصانہ ایمان  
لانا ضروری ہے۔

## دیگر مذاہب سے مناظرات اور ان کی خصوصیات :- غیر مذاہب سے مناظرہ کرتے وقت ابن حزم کا

طرزِ جدل علماء اسلام کے مناظرات سے طویق استدلال کے اعتبار سے مختلف ہوتا تھا۔ البتہ  
شکل و صورت اور تعبیر و بیان کے نقطہ نظر سے ان میں چنداں فرق نہ تھا۔  
فلاسفہ سے مناظرہ کرتے وقت ابن حزم صرف عقلی دلائل پیش کرتے تھے۔ مثلاً فلاسفہ  
کا یہ قول کہ عالم کا صدور خدا کی ذات سے اسی طرح ہوا ہے جس طرح علت معلول سے  
وجود میں آتی ہے۔ اس کی تردید میں ابن حزم ان بدیہیات عقلیہ پر اعتماد کرتے ہیں جن کا اثبات  
منطقی اور عقلی مقدمات سے ہوتا ہے یہود و نصاریٰ کے خلاف مناظرہ میں حصہ لیتے ہوئے  
ابن حزم عقلی بدیہیات بھی پیش کرتے ہیں اور ان کو خاموش کرانے کے لئے الزامی طریقہ  
کے مطابق وہ نصوص پیش کرتے ہیں جن کو ان کے یہاں بنظر احترام دیکھا جاتا ہے پھر عقلی  
دلائل کی روشنی میں ان کے عقائد کا بطلان ثابت کرتے ہیں اعداء اسلام کے خلاف نبرد آزما  
ہوتے ہوئے آپ صرف حمایتِ اسلام کا فریضہ ہی انجام نہیں دیتے بلکہ ان پر تاثر توڑنے کے لئے  
کرتے ہیں تو رات کی عبارتوں کو پیش کر کے ایک وثیقہ رس کی طرح ان کا تجزیہ کرتے اور

ان کے مصادر و موارد بھی بتائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی بڑے مکمل طریقہ سے ان کے اخبار و احوال پر روشنی ڈالتے ہیں۔

مثلاً یہود شیخ کو باطل قرار دیتے اور تورات کے بیانات کی روشنی میں بداء کو جائز سمجھتے تھے۔ (بداء کے معنی یہ ہیں کہ جب خدا کے علم میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنا ارادہ بھی تبدیل کر لیتا ہے) ابن حزم تورات کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں بنی اسرائیل کو ہلاک کر کے آپ کو ایک اور امت عنایت کروں گا موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ یہ التجا کرتے رہے کہ ایسا نہ کیا جائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور یہ ارادہ ترک کر دیا۔ ابن حزم فرماتے ہیں اسی کا نام بداء اور دروغ گوئی ہے جس سے خدا کی ذات پاک ہے۔

یہ ایک مختصر اشارہ تھا، جو شخص فلاسفہ اور یہود و نصاریٰ کے تردید میں ابن حزم کے بیانات پڑھنے کا شائق ہو اسے کتاب الفصل کی جلد اول و ثانی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ ایسے بیانات سے لبریز ہے جن کی روشنی میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ابن حزم مختلف ادیان و مذاہب کے اخبار و عقائد سے کتنی وسیع واقفیت رکھتے۔

### کلامی فرقوں سے ابن حزم کے مناظرات :- یہ غیر مذاہب کے خلاف ان کے مناظرات کا حال تھا جہاں تک علماء اسلام

اصحاب مذاہب اور مقلدین کے ساتھ ان کے مباحثات کا تعلق ہے اس کے دو طریقے تھے اور دونوں کا طرز و منہاج ایک دوسرے سے جداگانہ نوعیت کا تھا جب آپ کلامی فرقوں مثلاً معتزلہ، اشاعرہ، شیعہ اور خوارج کے خلاف جہل آزما ہوتے تو ان کا طرز استدلال محدثین و فقہاء کے مناظرات سے مختلف ہوتا معتزلہ کے خلاف آپ کا طرز استدلال خالص عقلی انداز کا ہوتا کیونکہ وہ عقلی مسائل کے درمیان اثبات تھے۔ مثلاً خدا کی قدرت و ارادہ کے مقابلہ میں انسان کا ارادہ و صفات باری تعالیٰ ان کا غیر ذات یا عین ذات ہونا، ان مسائل میں آپ کا طرز فکر و نظر خالص عقلی انداز کا ہے۔ آپ اپنے دعویٰ کو بدیہات کے اصولوں کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں اور ان کے مخالف اقوال کو غیر اسلامی قرار دیتے ہیں اس ضمن میں آپ



حب عادات تشدد پر بھی اتراتے ہیں۔  
 اشاعرہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بناء پر عالم اور قدرت کی بناء پر قادر ہے۔  
 ابن حزم اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

در اس قول کی تردید میں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ شرک مجرّد ہے اور اس سے توحید کا ابطال ہوتا ہے کیونکہ حب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز ہو جو اس کے ساتھ لگی رہی ہو تو اس سے خدا کی وحدانیت کا باطل ہونا لازم آتا ہے بلکہ ازلی ہونے میں کوئی اور چیز بھی اس کی شریک ہوگی اور یہ صریح کفر اور عین عیسائیت ہونے کے علاوہ دعویٰ بلا دلیل بھی ہے۔ تیسری صدی ہجری کے بعد اس فرقہ کے سوا اہل اسلام کے کسی فرقہ نے یہ بات نہیں کہی۔ یہ اعتقاد یقینی اجماع کے خلاف بھی ہے میں نے بعض اشاعرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جب تم تسلیم کرتے ہو کہ خدا کے سوا کوئی الگ قسم کی چیز اس کے ہمراہ رہی ہے تو نصاریٰ کا عقیدہ تثلیث کی بناء پر ان کی تردید کیوں کرتے ہو؟

اسی طرح وہ اشاعرہ سے عقلی مناقشہ کرتے ہیں تاہم وہ گھوم پھر کر اس مناقشہ کا رخ ایک ایسے مسلم قاعدہ کی طرف پھیرتے ہیں جو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور وہ توحید ہے ان کا نقطہ نظر کہ اشاعرہ خدا کے علم کو غیر ذات قرار دے کر نصاریٰ سے مماثلت پیدا کرتے ہیں حالانکہ یہی وہ غلو و انحراف ہے جو ان کے مناظرات کا طرہ امتیاز ہے۔

یہ کلامی فرقوں سے ابن حزم  
 معاصر علماء سے مناظرات اور ان کا طرز و انداز کے مناظرات کا ذکر و بیان

تھا ابن حزم نے محدثین و فقہاء سے جو مناظرات کئے ان کا انداز مختلف ہے ان مباحثات میں آپ عقل سے بہت تھوڑا کام لیتے بلکہ اس کے برعکس نصوص و آثار اور فقہی استنباط کے قواعد و اصول بیان کرتے اور ان اقوال مختلفہ کی تردید میں احادیث نبویہ اور آیات قرآنیہ کا انبار لگا دیتے ہیں ابن حزم بخت کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے کھل کر مسئلہ زیر بحث کی توضیح کرتے اور بڑی دقت نظر سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں یہاں تک کہ متنازع قیہ مسئلہ میں مطلقاً ایہا

باقی نہیں رہتا گویا اس ضمن میں ان کی رائے حکم سقراط سے ملتی جلتی ہے جن کا قول ہے کہ مقام نزاع کی وضاحت سے اختلاف رفع ہو جاتا ہے خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو۔  
 مسئلہ زیر بحث کو واضح کرنے کے بعد ابن حزم مخالف کے دلائل پر روشنی ڈالتے ہیں کبھی طوالت سے کام لیتے ہیں اور کبھی مختصراً ذکر کرتے ہیں مگر اجمال و تفصیل کے دوران خصم کے دلائل کا مختصراً ذکر کرتے ہیں اور خصم کی کسی دلیل کو ذکر کئے بغیر نہیں چھوڑتے۔ خصم کے دلائل ذکر کرنے کے بعد آپ ایک ایک دلیل کی پر زور تردید کرتے ہوئے اس میں شدت کا طریقہ اختیار کرتے مخالف کے دلائل کا بطلان ثابت کرنے کے بعد اپنے دلائل پیش کرتے ایسا بہت کم ہوتا کہ مخالف کے دلائل کی تردید سے قبل اپنے دلائل پیش کریں۔

مخالف نظریات کی تردید میں ایجابی پہلو اختیار کرتے، جس میں آپ کا اعتماد دین کے مسلمہ اصول و قواعد پر ہوتا پھر الزامی طریقہ اختیار کر کے مخالف کو دندان شکن جواب دیتے مخالف جو اقوال پیش کرتا آپ ان کی تردید میں اسی کے وہ اقوال پیش کرتے جو اس نے کسی دیگر موقع پر کہے ہوتے اور اس کے حالیہ اقوال سے متصادم ہوتے۔

ابن حزم مخالفین کی تردید میں بعض اوقات ایک ایسا انداز اختیار کرتے جو قبل ازیں ذکر کردہ طریقہ سے مختلف ہے اور وہ یہ کہ آپ خصم کے دلائل کو یکجا ذکر نہیں کرتے بلکہ الگ الگ بیان کرتے ہیں اس کی ایک دلیل ذکر کر کے اس کی تردید کرتے اور پھر دوسری دلیل لاتے ہیں اور اسی طرح یکے بعد دیگرے اس کے دلائل کی دھجیاں فضائے آسمانی میں بکھرتے چلے جاتے ہیں پھر اپنے دعویٰ کو دلائل کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں آپ نے ان علماء کی تردید میں جو ذرائع کا سدباب کرنے کے لئے مشتبہات حرام قرار دیتے ہیں اسی طرز کو اختیار کیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تردید دلائل کا پہلا طریقہ موزوں تر ہے آپ دوسرا طریقہ اس وقت اختیار کرتے تھے جب مخالف ایک اہم دلیل پیش کرتا اور اس کے دیگر دلائل صرف دلیل اول کے مؤید و معین ہوتے اور اکثر یوں ہی ہوا

منوہ کے طور پر ہم آپ

احتجاج بالرای کے موضوع پر ابن حزم کا ایک مناظرہ :- کے ایک مناظرہ کا ذکر

کرتے ہیں جو ایک ایسے موضوع سے متعلق ہے جو ابن حزم کی خصوصیات میں سے ہے اور وہ استنباط بالرای کا مسئلہ ہے ابن حزم اسے ممنوع سمجھتے ہیں جب کہ جمہور اہل اسلام اسے درست تصور کرتے ہیں آپ مجوزین کے دلائل ذکر کرتے ہوئے آغاز سخن کرتے ہیں لکھتے ہیں۔

رائے کو جائز سمجھنے والے ان آیات سے استتہاد کرتے ہیں،

- ۱- وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (الاعران - ۱۵۹) آپ امور کے بارے میں ان سے مشورہ کیجیے
- ۲- فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (الاعران - ۱۵۹) جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو خدا پر بھروسہ کریں
- ۳- وَأَخِرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (الشوری - ۲۸) وہ اپنے امور شوریٰ سے طے کرتے ہیں۔

(۱) نیز مجوزین استنباط بالرائی اس حدیث سے احتجاج کرتے ہیں جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ اذان کا حکم نازل ہونے سے قبل نمازوں کے اوقات معین کرنے کے لئے آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس سلسلہ میں کیا کرنا چاہیے بعض نے آگ جلانے کا مشورہ دیا بعض نے کہا ناقوس بجا یا جائے۔

(۲) امام زہری سے مروی ہے کہ آنحضرت نے حدیبیہ کے دن لڑائی کرنے کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا امام زہری کا قول ہے کہ

(۳) حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اپنے اصحاب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ کرتا ہو۔

(۴) وہ عبدالرحمن بن ابی حنین کی روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت سے دریافت کیا گیا کہ حزم احتیاط کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا حزم اس چیز کا نام ہے کہ کسی دانا سے مشورہ طلب کیجیے اور پھر اس کی رائے پر عمل کریں۔

(۵) نیز عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا کہ دو شخص جھگڑتے ہوئے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا عمرو! ان کا فیصلہ میں نے عرض کیا حضور آپ مجھ سے بہتر فیصلہ فرما سکتے ہیں، آپ نے فرمایا تاہم آپ فیصلہ کریں میں نے عرض کیا حضور! کیونکہ فیصلہ کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہارا فیصلہ درست ہو تو مجھے دس نیکیاں ملیں گی اور اگر اجتہاد میں خطا ہو تو ہونی تو ایک نیکی۔

(۶) وہ اس روایت سے بھی احتجاج کرتے ہیں جسے جمہور کے رہنے والے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے تلامذہ بیان کرتے ہیں کہ جب آنحضرت نے انہیں یمن بھیجا چاہا تو دریافت فرمایا آپ فیصلہ کیونکر صادر کریں گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کتاب اللہ کی روشنی میں! فرمایا اگر کتاب اللہ میں وہ مسئلہ مذکور نہ ہو تو؟ عرض کیا آپ کی سنت کے مطابق۔ آپ نے پھر پوچھا اگر سنت میں بھی موجود نہ ہو؟ تو حضرت معاذ نے جواباً کہا میں اجتہاد کروں گا، اور اس میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑوں گا! آنحضرت نے ان کا سینہ ٹھونکا اور فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے رسول خدا کے فرستادہ کو توفیق عنایت فرمائی

کہ وہ انہیں راضی کر سکے۔

(۷) وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت سے عرض کی بعض اوقات ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو کہ کتاب اللہ میں مذکور ہوتا ہے اور نہ سنت رسول میں اس کا کوئی نشان ملتا ہے اس ضمن میں کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا اصحاب علم مومنین اور ایک روایت میں ہے کہ اہل عبادت مومنین کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیجئے اور کسی ایک شخص کی رائے پر عمل نہ کریں لے

اسی طرح ابن حزم مجوزین احتجاج بالرائی کے دلائل پیش کئے جاتے ہیں اور پھر ان پر تنقید کرتے ہیں اختصار پسندی کی بناء پر ہم آپ کے پیش کردہ تمام دلائل ذکر نہیں کرتے وہ لکھتے ہیں "یہ ہیں رائے کو جائز قرار دیتے والوں کے پیش کردہ مصنوعی دلائل ان کے سوا ان کے یہاں دوسری کوئی دلیل موجود نہیں ہمارا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی دلیل ان کے مفید مطلب نہیں ہے پھر ایک ایک کر کے تمام دلائل کی تردید کرتے ہیں آیت کریمہ "اَمْ هُمْ شُرَكَاءُ يَلْمِزُهُمْ" اور شوری سے متعلق احادیث نبویہ ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ ان کا دینی مسائل سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ دنیوی امور کے بارے میں وارد ہوئی ہیں یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ نماز اور اس کے احکام زکوٰۃ اور اس کے فروع فریض و موارث اور ورثہ پانے والے اصحاب کا فیصلہ شوری کی بناء پر کیا جائے پھر کہتے ہیں کسی مسلمان کے دل میں آخر اس جنون کا گزر کیونکر ہو سکتا ہے۔

جب کہ یہ آیت موجود ہے:-

خوب جان لو کہ تمہارے درمیان خدا کا رسول  
موجود ہے اگر اکثر باتوں میں وہ تمہاری  
اطاعت کرنے لگ جائے تو تمہیں بڑی مشقت

كَاٰهَلْمُوۡا۟ اَنْۢ يُّنۡزِلَ عَلَیۡكُمُ الرُّسُوۡلُ اللّٰهُ كُوۡلُوۡا  
مِمَّا رَزَقَکُمۡ فِیۡ حَرۡمِ اللّٰهِ حٰلَکُمۡ فِیۡ کَثِیۡرٍ مِّنَۤ الْاَمْرِ لَعَلَّکُمۡ

(الحجرات - ۷)

کا سامنا ہو۔

ایک عاقل کی عقل میں آخر یہ بات کیونکر سما سکتی ہے کہ آنحضرت پر صحابہ کی اطاعت لازم تھی

یہ تو واضح کفر اور بڑی کم عقلی کی بات ہے۔ اس کے مبتنی بر حجت ہونے کے وجوہ و اسباب بڑے روشن ہیں کوئی ان سے پوچھے کہ اگر صحابہ کسی شرعی مسئلہ میں آپ سے اختلاف رائے کرتے تو آپ صحابہ کی اطاعت کیونکر کرتے؟ اس دلیل کی تردید کو آپ ان الفاظ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔

یہ امر یقینی طور پر صحیح ہے کہ آپ کو صرف اپنی امور میں صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا جن میں وہ اپنے حسب مرضی تصرف کر سکتے تھے مثلاً آپ ان امور میں صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے تھے کہ فلاں قبیلہ پر کسے والی بتایا جائے اور جنگجو قبائل کے خلاف نبرد آزمانی کے لئے کون سا زیادہ آسان ہے،

اسی طرح ابن حزم مشورہ پر دلالت کرنے والی تمام احادیث کا باری باری جواب دیتے ہیں ان میں بعض احادیث کی سند متصل نہیں ہے اکثر ضعیف ہیں سب سے قوی تر اس باب میں حدیث معاذ رضی ہے آپ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”جہاں تک حضرت معاذ رضی کی روایت کردہ حدیث کا تعلق ہے وہ ساقط الاحتیاج ہے کیونکہ وہ صرف حارث بن عمرو کے طریقہ سے مروی ہے اور حارث مجہول ہے اور کسی شخص کو معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ مزید برآں اس کو روایت کرنے والے حمص کے چند اشخاص ہیں جن کے متعلق کچھ معلوم نہیں کہ وہ کون ہیں اس سے بڑھ کر یہ کہ اس روایت کو نہ عہد صحابہ میں کوئی جانتا تھا نہ دور تابعین میں صرف ابو سعید نے اس روایت کو کسی ایسے شخص سے اخذ کیا جس کے متعلق انہیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ اصحاب الرائی نے اس روایت کو شعبہ کے یہاں پالیا تو اسے لے اڑے اور اس کی تشہیر و اشاعت کا کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا حالانکہ یہ روایت قطعی طور پر بے بنیاد ہے“

ابن حزم پھر اس تردید پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس حدیث کی صحت فرض کر کے ”اجتہاد برائی“ کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ”میں کوشش کر کے کتاب و سنت کے دائرہ میں حق کو تلاش کروں گا اور اس کی طلب و تحقیق میں کوتاہی سے کام نہ لوں گا“

ابن حزم کا یہ قول محل نظر و تامل ہے جیسا کہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔

پھر اس سے تجاوز کر کے ابن حزم الزامی طرز بحث کو اختیار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اصحاب الرائی خود اس حدیث پر عمل پیرا نہیں اس حدیث کا مقتضی یہ ہے کہ آیت قرآنی کی موجودگی

میں سنت نبوی پر عمل نہ کیا جائے مگر اصحاب الرائی اس کے برخلاف بعض اوقات حدیث نبوی کی بنا پر قرآنی نص کو ترک کر دیتے یا حدیث سے اس کو مقید کرتے ہیں لہٰذا اس طرح ابن حزم الزامی جو ابیات دے کر مخالفین کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔

ایک ایک کر کے خصم کے دلائل کا توڑ مہیا کرنے اور  
**رائے کی مذمت پر دلائل :-** بطریق الزام و انعام اس کے منہ پر مہر سکوت  
 لگانے کے بعد ابن حزم اپنے دعویٰ کو دلائل کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں چنانچہ رائے کی مذمت  
 میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر بیان کرے وہ دور  
 میں اپنا گھر بنائے“

پھر رائے کی مذمت میں اقوال صحابہ پیش کرتے اور فرماتے ہیں کہ ہم یہ اقوال احتجاج  
 استدلال کے طور پر پیش نہیں کرتے۔ کیونکہ احتجاج تو صرف حدیث نبوی یا ایسے یقینی اجماع سے  
 سکتا ہے جس کا کوئی مخالف نہ ہو۔ ہم اقوال صحابہ کو صرف الزام دینے کے لئے پیش کرتے ہیں  
 یہ انہی کے لئے لازم ہے کیونکہ وہ ایسے اقوال سے احتجاج کرنے کے عادی ہیں۔ جو شخص ایک  
 پر کسی چیز کو دلیل بناتا ہو دوسرے موقع پر بھی اسے حجت ٹھہرانا اس کے لئے لازم ہے اور  
 وہ ان اقوال پر عمل نہیں کرتا تو دین اسلام میں تناقض پیدا کرنا چاہتا ہے اور ایک بے دلیل یا  
 کا دعویٰ کرتا ہے لہٰذا اس جگہ ہم ابن حزم کے پیش کردہ دلائل ذکر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کا  
 ایک جداگانہ مقام ہے وہاں ہم انہیں تفصیلاً ذکر کریں گے۔

یہ ہے ابن حزم کی بحث  
**ابن حزم کی تصانیف میں نازیبا الفاظ کا استعمال :-** کا ایک نمونہ جس میں انہوں  
 مخالفین کے دلائل کی تردید کی ہے جب ان کے اور فقہاء کے مابین سخت معرکہ آرائی ہو رہی تھی  
 ابن حزم کے مناظرات کا رنگ عموماً یہی ہوا کرتا تھا یہ اقتباسات اس حقیقت کی آئینہ داری  
 ہیں کہ آپ درشت الفاظ مثلاً سحیف (سبکی عقل) جنون حماقت اور جہالت کے الفاظ استعمال  
 کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ بھی استعمال کرتے اور

یہ ایک مخالفت کے منہ پر پتھر کی طرح دسے مارتے۔ جیسا کہ ابن جیان کا بیان ہے۔ آپ کے پیش کردہ دلائل و براہین میں جو زور بیان اور قوت استدلال پائی جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ان رکیک الفاظ کی موجودگی میں اس کی قدر و قیمت بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ ہم پوسے و ثوق سے کہتے ہیں کہ اگر ابن حزم کی تصانیف کا دامن الفاظ کے ان دھبوں سے بے داغ ہوتا تو ان کی قدر و قیمت کو چار چاند لگ جاتے۔

ابن حزم کے طرزِ جدل و بحث کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد ہمارا فرض ہے کہ ان کے اسلوب نگارش پر روشنی ڈالیں چنانچہ ہم اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔

## ابن حزم کا اسلوب

اسلوب ابن حزم پر ایجاز و اختصار کے علی الرغم طوالت تکرار و طوالت اور ابن حزم کا غلبہ ہے۔ طوالت کلام کے بغیر ان کی طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ یہاں اوقات وہ تکرار سے بھی کام لیتے ہیں۔ اور جہاں ضرورت ہوتی ہے سابقہ مضامین کو دہرا دیتے ہیں وہ اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے کہ ایک ہی کتاب کے مختلف متعدد مواضع پر ایک ہی مضمون بیان کر دیں۔ جب مضمون واحد سابقہ باب کے علاوہ کسی دوسرے باب کا مقدمہ ثابت ہو سکتا ہو تو ابن حزم صرف اشارہ کرنے کو کافی خیال نہیں کرتے بلکہ اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تصانیف اظہار مطالب میں بڑی واضح ہیں اور ان میں ابہام و اجمال کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ مطلوب و مقصود ان میں صاف دکھائی دیتا ہے اگرچہ آپ کا قلم اس وقت حقائق و دقائق کے سمندر میں غواہی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طوالت کا نتیجہ ہے کہ ابن حزم کے معانی قاری کے ذہن نشین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مطالب کو قاری کے دل و دماغ تک پہنچانے میں ان کا اعتماد زیادہ تر تکرار ہی پر ہوتا ہے۔ ابن حزم اس ضمن میں اس خطیب کی طرح ہیں جو بار بار اپنی بات کو اس لئے دہراتا ہو کہ وہ سامعین کے ذہن نشین ہو جائے مگر اس کے پہلو پہ پہلو تغیر و بیان کا حسن و جمال بھی ضائع نہ ہوتے پائے۔

اس موقع پر بتا دینا ہمارے لئے بے حد ضروری ہے کہ اسلوب تحریر کی دو قسمیں ہیں: ابن حزم کے اسلوب تحریر کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) علمی طرز تحریر جس میں انہوں نے اپنی کتابیں تحریر کیں۔

(۲) ادبی طرز نگارش جو فنی نشر کی ایک نفیس قسم ہے۔

ابن حزم کے ادبی طرز تحریر کی طرف اشارہ کرنا ہمارے لئے ضروری ہے۔ اگر ہماری کتاب کا علمی انداز تحریر اس کی اجازت دیتا تو ہم آپ کی شاعری پر بھی اظہار خیال کرتے مگر افسوس کہ



یہاں اس کی گنجائش نہیں۔ البتہ نثر فنی کو زیر بحث لانے کی گنجائش موجود ہے اور ہم اس کے متعلق اپنا نقطہ نظر واضح کریں گے۔ پھر ان کے چند اشعار بھی پیش کریں گے جن سے ان کی شاعری کا پتہ چل سکتا ہے۔

نثر فنی سے مراد وہ انداز تحریر ہے جو علم اسلوب کے بد مقابل ہے۔ نثر فنی کو لکھتے وقت کاتب کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ان بیانی صورت و اشکال کو معرضِ ظہور میں لائے جن کی تکوین و تخلیق ان ادبی قطعات سے ہوتی ہے جن میں جمال عبارت اور لطیف اشارت نمایاں ہوتا ہے۔ غرضیکہ اس کی تخلیق میں ادبی فن اور ذوق الفاظ و معانی مل جل کر حصہ لیتے ہیں۔

ابن حزم کی فنی نثر الفاظ و معانی اور حسن اسلوب کے اعتبار سے نہایت بلند مقام پر واقع ہے۔ اس میں الفاظ کا انتخاب بڑا پاکیزہ

ہے۔ ہر لفظ دوسرے کے ساتھ مربوط و متصل ہے اس کی صورت اور موضوع میں بھی گہرا رابطہ پایا جاتا ہے۔ اسلوب تحریر آسان ہونے کے باوجود بڑا دل فریب اور سہل ممتنع کے قبیل سے ہے جس میں سرے سے کوئی کجی یا اضطراب نہیں پایا جاتا اس میں تکلف اور آورد کا نام نہیں بلکہ بڑا رواں دواں ہے جس کے شیریں نغمے سامعہ نواز ہوتے ہیں دلپذیر اسلوب اور الفاظ صحیحہ کے علاوہ ان کے معانی و مطالب بھی باہم مربوط و متصل ہوتے ہیں اور ان کی صورت بیانہ خیال کو غذا بہم پہنچاتی ہے جس سے ذہن انسانی میں ایسے خیالات کی کرین پھوٹنے لگتی ہیں جو موضوع زیر بحث سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور فکر انسانی ان میں اپنی جولانی تابانی کے جوہر دکھاتا ہے۔

میرا خیال ہے کہ ابن حزم اپنی نثر فنی کے اعتبار سے اپنے دور کے بہت سے ادباء پر فوقیت رکھتے ہیں۔ کیونکہ آپ کی بات قاری کے دل نشین ہوتی چلی جاتی ہے اور اس میں تکلف و تصنع کی آمیزش نہیں ہوتی۔

ابن حزم کی نثر فنی کا نمونہ ان کی کتاب طوق الحمامہ اور ان کے مکتوبات نثر فنی کا نمونہ ہے۔ میں ملتا ہے ہم طوق الحمامہ سے محوڑی سی عبارت نقل کرتے ہیں جو انہوں نے ایک باغ کی تعریف کرتے ہوئے لکھی۔

رقطرانہ ہیں :-

میں چند ادباء و شرفاؤں کی رفاقت میں ایک باغ کی سیر کے لئے گیا۔ یہ باغ

میرے ایک دوست کی ملکیت تھا۔ تھوڑی دیر تک ہم ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے۔ پھر ایک ایسی جگہ بیٹھ گئے جس جیسی جگہ کبھی نہ دیکھی تھی۔ ہم ہرے ہرے باغات اور کسادہ زمین میں بیٹھ گئے اُنکے جدھر چاہتی اٹھ سکتی تھی اور نفس جہاں چاہتا سیر و سیاحت کے مزے لے سکتا۔ صاف شفاف پانی کی ندیاں چاندی کی ہلکیوں کی طرح اپنی چمک دکھا رہی تھیں۔ پرندے ایسے جان نواز نغمے بنا رہے تھے جو معبد اور غریب ایسے معنی بھی نہ سنا سکیں۔ پھلوں کے گچھے لٹک لٹک کر کھانے والوں کو صلائے عام دے رہے تھے۔ لمبے لمبے سائے تھے جن کے درمیان سے آفتاب ہمیں یوں نظر آ رہا تھا جیسے منقوش و مزین کپڑے پر شطرنج کے مہرے دھرے ہوں۔ آبِ شیریں تھا کہ لذتِ حیات کی طرح مزے دار تھا۔ ندیاں ساپنوں کی طرح بل کھاتی جا رہی تھیں۔ ان کی آوازیں عجیب قسم کا زیر و بم پایا جاتا تھا۔ گونا گوں دبو قلموں شکوے تھے۔ جنہیں باد نسیم حرکت دے رہی تھی۔ ہوا معتدل تھی نہ گرم اور نہ سرد۔ ہم نشینوں کے اخلاق ان سب اشیاء پر فوقیت رکھتے تھے۔ موسمِ ریشم اپنی بہار دکھا رہا تھا آفتاب جلوہ گر تھا مگر ہلکا پھلکا بادل اس پر سایہ فگن تھا۔ بادل کے پردہ سے کبھی آفتاب یوں نمودار ہوتا تھا جیسے شرمیلی نازنین پردہ سے باہر آ کر اپنے عاشق کے سامنے اُموجد ہوتی ہے اور جلد ہی رقبوں کے ڈر سے پس پردہ غائب ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے بعض یوں سرنگوں بیٹھے تھے جیسے کسی دوسرے شخص سے مشغول کلام ہوں۔

یہ ایک بہترین مین کی عمدہ ترین منظر کشی ہے، جس سے بہتر تصویر دو سو نمونہ شاید الفاظ میں نہیں اتاری جاسکتی۔ اب دیکھئے ایک جین کی تعریف آپ کن الفاظ میں کرتے ہیں۔

”عالم شباب میں مجھے ایک لونڈی سے محبت ہو گئی جس نے ہمارے گھر میں

تہ بیت پائی تھی۔ وہ لونڈی حسن و جمال عقل و فکرِ عفت و طہارت، لطافت مزاج اور شریفیہ پن میں اپنی مثال آپ تھی۔ نہ وہ کسی کا مذاق اڑاتی نہ بلا ضرورت خرچ کرتی وہ عجیب حسن و جمال کی مالک بڑی پردہ دار تھی گفتگو کم کرتی، کوئی اس کی مذمت بیان نہ کرتا۔ نگاہیں نیچی رکھتی بڑی پرہیزگار عیوب سے پاک، پیشانی پر شکن ڈالے رکھتی۔ اس کا روٹھ جانا بھی مہلا دکھائی دیتا اور اس کے انقباض میں بھی لذت محسوس ہوتی۔ اس کا اعراض بڑا دل ربا وہ بڑی سنجیدہ اور باوقار تھی اس کی نفرت بھی دل کشی سے خالی نہ ہوتی کوئی شخص اس کی طرف طمع کی نگاہ سے نہ دیکھ سکتا۔ اس کا چہرہ دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا اس کا حال اس کی طرف آنے والوں کو شکار کر لیتا تھا۔ وہ نخل و امساک میں اتنی حین دکھائی دیتی کہ دوسرے سخاوت میں بھی اس طرح دکھائی نہیں دیتے، وہ سنجیدہ رہنے کی عادی تھی اسے ہر دلعیب سے مطلقاً لگاؤ نہ تھا۔ اتنی بات ہے کہ وہ سرنگی بہت اچھی بجاتی تھی۔ چنانچہ میں اس کی طرف مائل ہو گیا اور اسے بے حد چلبے لگا۔ میں نے تقریباً دو سال کوشش کی کہ وہ مجھے کسی بات کا جواب دے اور میں اس کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ سنوں جسے کوئی دوسرا نہ سن سکے۔ مگر اس نے کوئی ایسی بات نہ کہی جسے میں لکھ سکوں۔

قاری کریم دیکھ سکتا ہے کہ اس عجیب و غریب اور بلیغ نثر میں جمال حسن اور جمال نفس دونوں کی تعریف پائی جاتی ہے۔ اس لونڈی کا جسم حسن و جمال سے آراستہ تھا اور اس کا نفس زیورِ عفت و طہارت سے مزین تھا۔ گویا اس میں جمال بھی تھا اور جلال و کمال بھی۔

ہم آپ کے چند اشعار نقل کرتے ہیں جو آپ کی طرز زندگی کے آئینہ دار ابن حزم کے اشعار ہیں اور جن سے واضح ہوتا ہے کہ معاصرین سے آپ کے تعلقات کی نوعیت کیا تھی اور ان میں احساں علم و فضل کس حد تک پایا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ فخریہ انداز میں کہتے ہیں :-

اشعار

(۱) اَنَا الشَّمْسُ فِي جَوْ الْعِلْمِ مَبْنِيَّةٌ      وَ لَكِنَّ عَيْنِي اَنْتَ مَطْلَعِي السُّورِ

میں علوم کی نضا میں ایک آفتاب درختاں ہوں مجھ میں صرف یہ عیب ہے کہ میں مغرب سے

نمودار ہوا ہوں۔

(۲) وَلَوْ أَنَّ مِنَ جَانِبِ الشَّرْقِ طَائِعٌ لِحَدِّ عَلَى مَا ضَاعَ مِنْ ذِكْرِى النَّهْبِ  
اگر میں مشرق سے طلوع پذیر ہوتا تو میری جو شہرت ضائع ہو چکی ہے اس پر مزید غارت گری  
شروع ہو جاتی۔

۳- وَبِى نَحْوِ اَكْنَافِ الْعِرَاقِ صُبَابَةٌ وَلَا عَثْرَ وَأَنْ لَيْسَ وَحِشَ الْكَلْبِ الْقَسْبُ  
میں عراق کے اطراف و جوانب سے محبت کرتا ہوں اور عاشق راز کا وحشت زدہ ہو  
جانا کچھ تعجب نیز نہیں۔

۴- يَا نَبِيَّ يَنْزِلُ الرَّحْمَنُ رَحِيًّا بَيْنَهُمْ  
فَحِينَئِذٍ يَبْدُو النَّاسُفَ وَالْكَرْبُ  
اگر خداوند کریم مجھے ان کے درمیان رہنے کا موقع عطا کرے تو اس وقت قلق و ملال  
خود ظاہر ہو کر رہے گا۔

۵- حِصَالُكَ يَدْرِى أَنَّ لِبَعْدِ غُصَّةٍ  
وَأَنَّ كَسَادَ الْعِلْمِ آفَتُهُ اَلْعَرَبُ  
تب پتا چلے گا کہ دور رہنا آدمی کے لئے کس قدر تکلیف کا موجب ہوتا ہے اور علم  
کی کساد بازاری کی وجہ مغرب میں سکونت پذیر ہوتا ہے۔

۶- فَوَ اَعْجَبًا مَنِ غَابَ عَنْهُمْ تَشَوُّقًا  
لَهُ وَرَدُّوْا لَمَرْءٍ مِنْ دَرَاهِمِهِ ذَنْبٌ  
تعجب کا مقام ہے کہ لوگوں سے جو غائب ہو جاتا ہے اس کے مشتاق ہو جاتے  
ہیں حالانکہ درہم و دینار کے قریب جانا گناہ کے موجب ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے قریب جانا  
اور اس کی صحبت میں رہنا گناہ کا باعث نہیں مگر لوگوں نے یونہی سمجھ رکھا ہے۔

۷- وَأَنَّ مَكَانًا ضَاقَ عَنِّي لَضِيْقٍ  
عَلَى أَنفِى فَيُحْ مَدَا هَيْئَةَ سُهْبٍ  
جو مقام میری وجہ سے تنگ ہو چکا ہے اسے تنگ ہی کہنا چاہئے۔ اگرچہ وہ جگہ کشادہ  
ہے اور اس کے راستے بڑے لمبے ہیں۔

۸- وَأَنَّ رِجَالًا صَبَعُوا فِى لَضِيْقٍ  
وَأَنَّ زَمَانًا كَمَا أَتَى خَصِيْبَةَ سَعْفٍ  
جن آدمیوں نے مجھے ضائع کر دیا وہ ضائع ہو جانے کے لائق ہیں اور جس زمانہ کی زرخیزی  
اور شادابی سے میں نے فائدہ نہیں اٹھایا وہ بھوکا ہے۔

۹- وَ لَكِنِّى بِنِى فِى بُؤْسَمَتِ خَيْرٍ أَسْوَدٍ  
وَلَيْسَ عَلَى مَنْ بِاللَّيْلِ اِعْتَنَى ذَنْبٌ  
مگر میرے لئے حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات میں بہترین نمود موجود ہے اور جو شخص نبی

کی پیروی کرتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں۔

۱۰۔ يَقُولُ مَا قَالَ الْحَقُّ وَالصِّدْقُ الْبَتَّى حَفِظْتُ عَلَيْهِ مَا عَلَى صَادِقٍ عَقِبٌ

حضرت یوسف علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا کہ میں صاحب علم اور دیانت وار ہوں اور راست باز شخص پر کوئی عتاب نہیں۔

جہاں تک آپ کے علمی اسلوب اسلوب ابن حزم کی وضاحت و صراحت :- تحریر کا تعلق ہے وہ عربیت کے

اعتبار سے تحریر کی عمدگی اور نفاست کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کے الفاظ مربوط اور ملزوم نگارش علمی انداز تحریر کا آئینہ وار ہے۔ آپ کے طرز تحریر کی بڑی خوبی سلاست بیان ہے جس کی وجہ طوالت تحریر نہیں بلکہ اس کی ذاتی وضاحت و صراحت ہے۔ اس کے تین ایجاب ہیں۔

پہلا سبب :- اسلوب ابن حزم کی وضاحت کی پہلی وجہ اس کی طوالت ہے۔ طوالت کی بنا پر قاری عبارت کا مطلب بڑی آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ اور اس کے فہم و شعور میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔

دوسرا سبب :- صراحت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ابن حزم جن موضوعات پر لکھتے ہیں ان پر انہیں انتہائی عبور حاصل ہے اور وہ ان پر اس شخص کی طرح اظہار خیال کرتے ہیں جس نے ان مسائل کو سمجھا ہو اور اس میں وہ رچ گئے ہوں۔ طرز تحریر میں الجھاؤ اور پیچیدگی کے دو اسباب ہوتے ہیں۔

(۱) پہلا یہ کہ کاتب عجمیت کی بناء پر وضاحت پر قادر نہیں ہوتا۔

(۲) دوسرا یہ کہ موضوع زیر بحث پر چنداں دسترس نہیں ہوتی یا اس کا صحیح فہم و شعور نہیں ہوتا مگر ابن حزم میں یہ دونوں باتیں نہ تھیں۔ نہ وہ لسان و قلم کے اعتبار سے عجمی تھے۔ اور نہ موضوع زیر بحث سے بیگانہ۔ بخلاف ازیں وہ زیر قلم عنوانات میں ماہرانہ بصیرت رکھتے تھے اور اس کے تمام پہلوؤں سے آگاہ تھے۔

تیسرا سبب :- وضاحت کی تیسری وجہ ابن حزم کی حسن تقسیم حصہ موضوعات اور ان کا تجزیہ و تحلیل ہے۔ وہ موضوع زیر بحث میں نہ کسی بیرونی مسئلہ کو داخل کرتے ہیں نہ اس میں کوئی ایسا ذکر چھیڑتے ہیں جو دوسرے موضوع کا جزو ہو اور موضوع کلام سے اسے کوئی واسطہ نہ ہو۔ جب

کسی مسئلہ کا تعلق دو مختلف موضوعات سے ہو تو اسے دونوں جگہ ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلے  
 نہیں تفصیلاً اور دوسرے میں اجمالاً۔ تاکہ ہر موضوع قائم بالذات اور اپنی جگہ پر بلا کسی اجمال و  
 ابہام کے واضح ہو۔ خلاصہ کلام ابن حزم کا علمی اسلوب ان کی ذات اور ان کے طرز فکر و  
 نظر کی طرح تباہاں و درخشاں ہے۔

ایک بات جو عام طور سے ابن حزم کے  
ابن حزم کی تلخ نوائی اور اس کے اسباب :- متعلق مشہور ہے اس کی طرف بھی اشارہ

ناگزیر ہے۔ اور وہ اخلاقی مسائل میں آپ کی تلخ بیانی ہے۔ بلاشبہ دوسروں کے افکار بیان  
 کرتے ہیں آپ کا لہجہ تیز و تند ہے یا ان کے اپنے الفاظ میں بیک سری اور خفت کا منہر ہے مثلاً  
 جہاں تکلیف کا موقع نہیں ہوتا وہاں وہ دوسروں کی تکلیف سے گریز نہیں کرتے۔ جو بیک سر نہیں ہوتا  
 اسے وہ اس عیب سے داغ دار کرتے ہیں اور دوسرے فقہاء کی نسبت ایسی تعبیرات سے  
 احتراز نہیں کرتے۔

اس میں شبہ نہیں کہ ابن حزم کی تلخ کلامی بعض اوقات درست اور اپنے محل پر ہوتی ہے  
 مگر اکثر دفعہ یہ بے موقع ہوتی ہے اور معقول حدود سے تجاوز کر جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کے مناقشات  
 سے واضح ہے۔ یہاں پہنچ کر قاری کے ذہن میں یہ سوال اُبھرتا ہے کہ اس حدت و شدت  
 کے اسباب کیا تھے؟ ہمارے خیال میں اس کے تین اسباب تھے۔

پہلا سبب اس کا پہلا سبب مرض تھا۔ ہم قبل ازیں ذکر کر چکے ہیں کہ آپ ایک شدید بیماری  
 میں مبتلا ہوئے تھے جس کی بنا پر ان کے مزاج میں چڑچڑاپن تنگ ظرفی اور قلت صبر کے  
 عوارض پیدا ہو گئے تھے۔ اس بیماری کے بعد انہوں نے اپنی طبیعت میں یہ تغیر محسوس کیا تھا۔  
 بے شک ابن حزم نے جو بات اپنے متعلق کہی ہے وہ درست ہے۔ کیونکہ ہر شخص اپنی  
 حالت دوسروں سے بہتر جانتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا سبب تندی و تیزی صرف اسی ایک  
 بات پر مبنی تھی؟ بیشک بیماری کا پیدا ہو جانا تغیر مزاج کا ایک جوہری سبب ہے مگر تنگ ظرفی  
 کا عارضہ جب کسی شخص کو لاحق ہوتا ہے تو اس کے آثار و محرکات کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ جب  
 محرکات ظاہر نہ ہوں تو نفس پر کون رہتا ہے۔ لہذا اس کے ساتھ کسی دوسرے سبب کا پایا جانا  
 ضروری ہے۔

**دوسرا سبب :-** ابن حزم کی تیزی طبع کا دوسرا سبب ان کے معاصرین کی بدسلوکی ہے۔ جس سے آپ کو متہم کیا گیا۔ قوم نے آپ سے تعلقات منقطع کر لئے۔ آپ پر مظالم ڈھائے گئے آپ کی ناقدری کی گئی آپ کو زاویہ گنہامی میں ڈالنے کی کوشش کی گئی بلکہ حد سے تجاوز کر کے آپ کے ثمرات فکر (تصانیف) کو علانیہ شہیلیہ کے شہر میں نذر آتش کر دیا گیا بڑے سے بڑا بردبار آدمی بھی اس کی تاب نہیں لاسکتا۔ چہ جائیکہ ایک ایسا شخص اسے برواشت کر سکتا جو مبتلائے مرض ہونے کی بنا پر اپنے علم کو کھو چکا تھا۔ اور اس میں تنگ ظرفی اور قلتِ صبر کے عوارض پیدا ہو گئے تھے۔ یا بقول ابن حزم کے ان میں خفتِ عقل نے جنم لے لیا تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ ابن حزم بڑے قوی الحس اور ادراک تھے۔ آپ دوسروں سے اُفت کرتے دوسرے آپ کو چاہتے۔ جیب آپ سے ننگ دلانہ سلوک کیا گیا تو یہ ایک ایسی نفسانی علت تھی جو آپ کی جسمانی بیماری سے بھی بڑھ کر تھی۔ اگر ایک طرف آپ مرض کا شکار تھے تو دوسری جانب لوگوں کی تساوت قلبی سے بھی دو چار تھے اور اس پر مزید یہ کہ آپ ضداد علمی صلاحیتوں کی بنا پر بڑے غیور و نفور بھی تھے۔ ان امور کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ آپ بھی مخالفین کو ترکی بر ترکی جواب دیتے اور ان کی غلطیوں کی نشان دہی بڑی بے باکی سے کرتے۔ بعض اوقات اعداء کی پیدا کردہ درشتی حد سے تجاوز کر جاتی اور آپ ان ائمہ کو جن کی تقلید کا دم وہ بھرتے تھے بڑی جسارت سے غلط کار قرار دیتے۔

درشتی طبع کا لازمی نتیجہ سخت گوئی کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ جیب اعداء نے آپ کو دینی شذوذ کی ہمت لگا کر ایذا دی تھی تو آپ نے بھی ان کے ائمہ کو جن کی وہ تقلید کرتے تھے۔ خطا کار اور سبک سر قرار دیا اور اس میں کسی گناہ یا ملامت کی پروا نہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملامت میں ابتداء کرنے والے ابن حزم کے مخالفین تھے پھر ان پر کیا عتاب ہو سکتا۔ محمود و شذوذ کا جو بہتان بلا دلیل لگایا جائے آخر اس کے سوا اس کا کیا علاج؟

**تیسرا سبب :-** خلائیات پر مشتمل ابن حزم کی تصانیف میں شدت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی تصانیف دراصل ان اعداء کی اشتعال انگیزی کا نتیجہ ہیں جو آپ کے خلاف صفت آراء تھے۔ گویا یوں کہئے کہ ان کتب کا خمیر ہی تیزی طبع سے اٹھایا گیا تھا اور ان کی آبیاری شدت و حدت ہی سے کی گئی تھی۔ لہذا ان میں تیز کلام کا ہونا ناگزیر تھا۔ کیوں کہ پھل درخت کے تاج ہوتا ہے جس قسم کا پودا لڑیا جاتا ہے پھل بھی اسی قسم کا آتا ہے۔ پھل بھی اسی پانی سے غذا پاتا ہے جس سے درخت اپنی خوراک لیتا ہے۔ ابن حزم نے خوراک کی مراحت کی کہ جہلاء کی تنقید نے

انہیں بڑا فائدہ پہنچایا۔ مخالفین کی نقد و برزخ کا ابن حزم پر یہ اثر ہوا کہ آپ کا ذہن روشن ہو گیا۔ طبیعت نے جلا پائی اور آپ کی ذہنی صلاحیتیں جاگ اٹھیں اس ذہنی بیداری کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابن حزم نے یہ کتب تصنیف کیں۔ اگر مخالفین آپ کی خوابیدہ صلاحیتوں کو نہ جگاتے تو ابن حزم اس قدر گراں کتابیں تصنیف نہ کر سکتے۔

خلاصہ کلام اختلافی مسائل پر مشتمل ابن حزم کی تصانیف ان مجادلات و تنازعات کا نتیجہ تھیں جو ان کے اور ان کے مخالفین کے درمیان بپا ہوئے لہذا ان کی عبارتوں میں جو شدت پائی جاتی ہے وہ نقد و برزخ کے ان مظاہر کی آئینہ دار ہے۔

یہ ہیں تحریرات ابن حزم میں شدت کے اسباب! بتائیں ہم آپ کی تصانیف کو دو قسموں میں منقسم کرتے ہیں۔

پہلی قسم کی وہ کتابیں ہیں جو آپ نے اس مرض میں مبتلا ہونے سے قبل تحریر کیں۔ ان میں وہ شدت نہیں پائی جاتی۔ مگر یہ بتانا نہیں چل سکا کہ یہ عارضہ آپ کو کب لاحق ہوا؟ ورنہ آپ کی تصانیف کے متعلق یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ وہ کس دور کی تصنیف ہیں تاکہ ہم اس سبب کا جائزہ لے سکیں۔ البتہ ظن غالب کی بناء پر ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کتاب طوق المحامہ بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے کی تصنیف ہے کیونکہ اس کے الفاظ سے فرحت و سرور اور قوت حیات کا مظاہرہ ہوتا ہے اور اس کا قاری یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ اس کا کاتب ترک وطن کے سوا کسی اور رنج و الم کا شکار ہے۔

دوسری قسم کی وہ تصانیف ہیں جو آپ نے مرض میں مبتلا ہو کر تحریر کیں۔ ان کی پھر دو قسمیں ہیں پہلی قسم کی وہ تصانیف ہیں جو اختلافی موضوعات سے متعلق ہیں۔ بلکہ ان کا موضوع صرف تحلیل و تجزیہ پاتا بیخ کی ترویج ہے۔ ان تصانیف کے راہ قبیر و انہار میں کوئی درشتی نہیں پائی جاتی بلکہ ان کا اسلوب بڑا رواں دواں اور لطیف ہے۔ مثلاً آپ کا رسالہ مداد النفوس۔ یہ کتاب ایک ایسے شخص کی تصنیف معلوم ہوتی ہے جو بڑا کہنہ مشق اور تجربہ کار ہے اور اخلاق و سلوک سے متعلق اپنے تجربات کا پتھر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔

دوسری قسم کی وہ تصانیف ہیں جو اختلافی مباحث سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی تعداد بہت ہے



اور ان کے طرز تحریر میں سختی اور درشتی نمایاں ہے۔ کیونکہ ان کی تصنیف کے وقت شریعت کے اسباب جمع ہو گئے تھے۔ یہ کتب اس عارضہ میں مبتلا ہونے کے بعد کی تصانیف ہیں۔ نیز اس زمانہ میں لکھی گئیں جب ابن حزم اور معاہد فقہاء کے مابین کشمکش اور چپقلش شروع ہو چکی تھی۔ لہذا ان کا اسی رنگ میں رنگا جانا از بس ضروری تھا۔

بہر کیفیت تصانیف ابن حزم کی عبارت کیسی بھی ہو وہ خیر کثیر کا گنجینہ ہیں۔ اور ان کی سلامت تبصیر ہی ان کے کمال کی دلیل ہے۔ بلاشبہ خدا کی ذات واحد ہی تمام کمالات کی جامع ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

## ابن حزم کے افکار و آراء

ابن حزم کی جامعیت بہ آپ نے تاریخ، منطق اور فلسفہ پر طبع آزمائی کی اور تو انہیں خطابت کو بھی جانچا رکھا۔ اسلامی عقائد و فقہ اور سیاسیات کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا۔

تاہم اس وسعت و جامعیت کے باوصف ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کی بناء پر آپ نے شہرت و دام حاصل کی اور اپنی علمی شخصیت کے بننے اور سنورنے میں اس سے مدد حاصل کی وہ آپ کی وراثات اسلامیہ ہیں۔ یہ امر محتاج بیان نہیں کہ منطق سے متعلق اپنی تحریرات کے بل بوتے پر آپ ابن سینا فارابی اور ان کے بعد آنے والے ابن رشد کے مرتبہ کو پاسکتے تھے اور نہ غزالی کے مرتبہ پر فائز ہو سکتے تھے جو فلسفہ کے سمندر میں اس حد تک غوطہ زن ہوئے کہ ناقدین کو یہ کہنا پڑا کہ آپ فلسفہ کے سمندر میں ڈوب کر پھر اس سے باہر نہ نکل سکے۔ بے شک ابن حزم نے بھی علوم عقلیہ میں قدم رکھا تھا مگر اس لئے نہیں کہ آپ فلسفہ کے عالم متجرب بن سکیں اور فلسفی کہلانے کے قابل ہوں بلکہ صرف اس لئے کہ آپ میں نختگی عقل و فہم پیدا ہو جائے نہ فلسفہ کے سمندر میں آپ نے ابن سینا اور فارابی ایسی غواہی کی اور نہ غزالی اور ابن رشد کی طرح مذہب و فلسفہ کے مابین ربط پیدا کرنے کی کوشش کی۔

آپ نے جن فلسفیانہ آراء کا اظہار کیا وہ آپ کے اصل علوم میں شامل نہیں بلکہ آپ کے علم و فضل کی ایک طرف واقع ہیں۔ یالیوں کہئے کہ آپ کی علمی وراثات کی تمہید ہیں۔ ان کا مطالعہ آپ نے صرف اس لئے کیا تھا کہ مقصود حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں اصل مقصود نہیں۔ ابن حزم نے اپنی تقریب میں اگرچہ ارسطو کی مخالفت کی ہے مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات سے متاثر تھے آپ کی ذہنی براقی اس ضمن میں آپ کی مددگار تھی۔ مزید برآں اکثر لوگوں نے ان کو ارسطو کی مخالفت میں حق بجانب قرار نہیں دیا۔ علامہ القفطی

اخبار الحکماء میں لکھتے ہیں :-

”ابن حزم نے علم منطق سے بھی اعتناء کیا اور التقریب نامی کتاب تصنیف کی۔ اس میں منطقی حدود بیان کیں اور بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کثرت سے فقہی مسئلہ اور شرعی قواعد بھی بیان کئے ہیں۔ اس کتاب میں ابن حزم ارسطو کی منطق کی مخالفت کرتے ہیں۔ مگر ان کی مخالفت اس شخص ایسی ہے جو بلا سمجھے کسی کی مخالفت پر اتر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حزم کی یہ کتاب اغلاط کا انبار ہے۔“

یہی علامہ قفطی علوم اسلامیہ میں ابن حزم کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-  
”اس کے بعد ابن حزم علوم اسلامیہ کے بحرِ زخار میں غوطہ زن ہوئے اور ان میں وہ مرتبہ پایا کہ انڈس میں کوئی نہ پاسکا۔ متعدد کتابیں تصنیف کیں جو بڑے پاکیزہ مقاصد پر مشتمل ہیں۔ یہ کتب زیادہ تر علم فقہ کے اصول و فروع کے موضوعات پر ہیں۔“

**منطق و فلسفہ اور ابن حزم :-** ابن حزم منطقی مسائل میں ارسطو کی مخالفت کرنے والے پہلے شخص نہ تھے بلکہ قبل انہیں شیخ ابو علی سینا نے اس کی طرح ڈالی تھی۔ اس ضمن میں انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی اس کے مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب میں ارسطو کی مخالفت کی ہے۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے خواص فلاسفہ کے لئے لکھی ہے۔ فلسفہ کے عام طلبہ کو وہ ہدایت کرتے ہیں کہ اپنی کتاب الشفاء انہوں نے اپنے لئے یعنی اس شخص کے لئے تحریر کی ہے جو منطق و فلسفہ میں ان کے ہم پلہ ہو۔

اس سے واضح ہوا کہ ابن سینا ابن حزم سے پہلے ارسطو کی مخالفت کر چکے تھے۔ مگر کوئی شخص یہ نہ کہہ سکا کہ ابن سینا ارسطو کی باتوں کو سمجھ نہ سکے تھے۔ آج تک کوئی مسلمان فلسفی یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ ارسطو کی منطق ابن سینا سے بہتر جانتا ہے۔ اس کی وجہ

۱۵۶ طبع الناجی مطبع دار السعادة۔

لے ایضاً

یہ ہے کہ ابن سینا فلسفی ہیں اور یہی ان کا پایہ نازقن ہے۔ اس کے برعکس فلسفہ ابن حزم کافن نہیں یہی وجہ ہے کہ جب وہ فلسفہ کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کو غلط کار کہا جاتا ہے حالانکہ آپ کی بات درست بھی ہو سکتی ہے۔ صرف اس لئے کہ آپ دوسرے علوم میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ آپ کے اصل علوم، علوم دینیہ ہیں۔ بناء بریں ہم صرف عقائد و سیاست اور فقہ کے متعلق آپ کے نظریات پر تبصرہ کریں گے۔ عقائد و سیاسیات اور مقام صحابہ کے متعلق ہم اختصار سے کام لیں گے کیوں کہ یہ آپ کا خاص موضوع ہے جس کی بناء پر آپ نے شہرت پائی۔

# اعتقادی مسائل اور ابن حزم

## (توجیہ دہاری تعالیٰ)

**اعتقادی مسائل** :- اعتقادی مسائل میں ابن حزم کا مسلک دو امور پر مبنی ہے۔  
**امراؤں** :- امراؤں وہ عقلی قواعد ہیں جن کو عقل انسانی تسلیم کرتی ہے۔ آپ اثبات توحید باری تعالیٰ و نبوت معجزات کے دال علی الرسالت ہونے، قرآن کے انمختور کی صداقت اور نصوص کتاب و سنت کو واضح کرنے کے بارے میں عقلی دلائل سے کام لیتے ہیں۔

**امرتانی** :- امرتانی نصوص شرعیہ ہیں۔ کیونکہ جب انمختور کی صداقت اور کتاب و سنت کے تمام شتملات و مندرجات کی صحت ثابت ہوگئی تو پھر نصوص شرعیہ ہی حجت ہوں گی اور ان کے ظواہر سے احتجاج کیا جائے گا لایہ کہ اس کے مقابلہ میں کوئی دوسری نص موجود ہو جو ظاہری مفہوم کی مقتضی نہ ہو۔ اندریں صورت ظاہری مفہوم کو اخذ نہیں کیا جائے گا۔ ظواہر نصوص کے مقابلہ میں رائے و اجتہاد عقلی قیاسات اور ان قیاسات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جن کا عقلی ہونا یقینی طور پر معلوم نہ ہو بلکہ وہم کی بنا پر ان کو عقلی سمجھا جاتا ہو۔

بنابریں اثبات توحید اور قرآن و رسول کی صداقت واضح ہو جانے کے بعد تمام عقائد کا مصدر و ماخذ کتاب و سنت ہوگی اور ان کے ظاہری مفہوم پر عمل کیا جائے گا۔ بجز اس کے کہ دوسری کوئی ایسی نص موجود ہو جو ظاہری مفہوم کے خلاف ہو۔

ابن حزم یہ بھی کہتے ہیں کہ صحیح حدیث جزم و یقین کی موجب ہوتی ہے اور اس سے مقائد اور فروع دونوں ثابت ہو جاتے ہیں۔ اثبات عقائد کے ضمن میں وہ اخباراً حاداً، احادیث مشہورہ اور متواترہ ہیں کوئی فرق نہیں کرتے ان کی رائے میں ان سب سے اعتقادی مسائل ثابت ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں کوئی شک بھی پیدا نہیں ہوتا۔ جب کوئی دوسری حدیث اس کی معارض ہوگی تو اس وقت ایک کو ترجیح دی جائے گی۔

یہی وجہ ہے کہ احادیث نبویہ میں جن امور غیبیہ کا ذکر ہے وہ تمام ثابت ہیں۔ مثلاً وہ احوال جو بروز قیامت پیش آئیں گے۔ اسی طرح ملائکہ اور ان کے احوال پلہراط میزان حساب و کتاب لوح محفوظ اور عرش ان سب پر احادیث نبویہ کی روشنی میں ایمان لانا واجب ہے۔

مشکل توحید اسلام کا مغز اور خلاصہ ہے۔ توحید ہی کا دوسرا نام اسلام عقیدہ توحید ہے اور توحید ہی اسلام کا منظر و شعار اور اس کی صورت اور حقیقت ہے۔ جو توحید کا اقرار نہیں کرتا وہ اسلام کے دائرہ سے خارج ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی اسلام اور غیر اسلام کے درمیان فارق و فاصل ہے ابن حزم بھی یہی لکھتے ہیں۔

”کلمہ طیبہ زبان سے ادا کرنا اور دل سے اس پر ایمان لانا ہر شخص کے لئے ضروری ہے اور اس کے بغیر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پر یقین اٹھا کا مل ہو کہ اس میں ذرا بھرتک نہ ہو۔“

ابن حزم کہتے ہیں عقیدہ توحید مومن سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ خدا کے خالق ہونے پر ایمان لائے۔ بے شک خدا کی ذات ہی خالق کل اور معبود ہے۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ کسی علت نے اسے پیدا کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ عالم کا صدور خدا سے اس طرح نہیں ہوا جیسے معلول علت سے صادر ہوتا ہے بلکہ اس حال میں پیدا کیا کہ وہ بارادہ جو چاہے کرنے والا اپنے بندوں پر غالب ہر چیز پر قادر علیم حکیم سمیع بصیر اور لطیف و خبیر ہے۔ حوادث میں سے کوئی چیز اس کے مماثل نہیں۔ اور وہ علیم و خبیر ہے۔ وہ مخلوقات کی مشابہت سے پاکیزہ ہے۔ وَتَعَالَىٰ عَن ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔

توحید کی دو شاخیں :- بنا بریں توحید کی دو شاخیں ہیں اور ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔

پہلی قسم توحید کی پہلی قسم وحدانیت معبود ہے۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ علیٰ وقدیر ہے۔ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، شرک کی عبادت باطل ہے۔ کسی انسان اور

پتھر کی عبادت درست نہیں اور نہ خدا کے سوا کسی اور چیز کی جو خدا کے سوا کسی اور کی پرستش کرتا ہے۔ وہ کافر ہے۔ نبی اور ولی بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ دوسری قسم: توحید کی دوسری قسم ذاتِ صفات کی وحدانیت ہے۔ حوادث میں سے کوئی چیز خدا کے مماثل نہیں۔ زمین و آسمان میں سب سے افضل و اول وہی ہے وہ عزیز و حکیم سے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس کی ذات کریم و احد ہے اور لوگوں کی طرح اجزاء سے مرکب نہیں۔ وہ تمام مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے۔

توحید کے ان اقسام میں سب علماء اور مذہبی فرقے اختلافی مباحث متخالفینا ہیں۔ فرق دوسری جزئیات میں پایا جاتا

مثلاً یہ کہ :-

۱۔ کیا صفات خداوندی خدا کے سوا کوئی چیز ہیں؟

۲۔ یا یہ اسماء ہیں اور صفات نہیں۔ مثلاً خدا کے عالم سمع اور بصیر ہونے سے مراد اس کا علم سمع اور بصیر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ صفات ہیں اور ذات سے جدا ہیں، یا یہ خدا کے نام ہیں۔

۳۔ یا ذات و صفات ایک ہی چیز ہیں۔ معتزلہ، ماتریدیہ اور اشاعرہ کے درمیان یہ اختلافی مباحث ہیں۔ ابن حزم کا بھی ان کے بارے میں ایک قول ہے۔ اس طرح اس طرح استواء علی العرش کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا کہ آیا یہ مثلاً بھی ذاتِ خداوندی کے حوادث سے پاک ہونے کے مسلمہ تاعدہ کے ساتھ ہم آہنگ ہے یا نہیں؟ نیز قرآن کریم میں اسی قسم کے جوا لفاظ آئے ہیں مثلاً "ید اللہ فوق ید بھہ" آیا حوادث کی مشابہت سے خدا کو منزہ قرار دینے کے لئے ان کی تاویل کی جائے یا اسے ظاہر پر محمول کیا جائے کہ خدا کے ہاتھ تو ہیں مگر مخلوقات کے مشابہ نہیں۔ اسی طرح خلق و ابداع اور تکوین کی وحدانیت میں بھی اختلاف رونما ہوا کہ آیا یہ وحدانیت بندہ کے خالق افعال ہونے کے منافی ہے؟ کیونکہ بندہ اسی صورت میں جواب دہ ہو سکتا ہے جب اسے اپنے افعال کا خالق تسلیم کیا جائے۔ یا یہ وحدانیت بندہ کے خالق افعال ہونے کے منافی ہے کیوں کہ بندہ اسی صورت میں جواب دہ ہو سکتا ہے جب اسے اپنے افعال کا خالق تسلیم کیا جائے۔ یا یہ وحدانیت کے منافی نہیں۔ افعال سب

خدا کے ہیں بندہ اور اس کے اعمال خدا کے زیرِ تصرف ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کے آگے جواب دہ نہیں۔ البتہ لوگوں سے ان کے اعمال کی بازپرس کی جائے گی۔ یہ چند فلسفیانہ مباحث مسلمانوں میں مابہ التزاع تھے۔ اصل توحید میں سب کا اتفاق ہے اور یہ بھی سب فرقوں کو تسلیم ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والا دین اسلام سے خارج ہے۔ چونکہ محض جزئیات میں اختلاف پایا جاتا ہے لہذا اس بات کی جانب اشارہ کرنا ناگزیر ہے کہ ان جزوی امور میں ابن حزم کی رائے کیا تھی۔



## توحید فی العبادت

انبیاء کے سوا کوئی شخص معصوم نہیں۔ اس بات پر ایمان لانا ہر مسلم پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ معبودِ برحق ہے۔ عبادت صرف اسی کی کرنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کے درمیان یہ ایک اجماعی عقیدہ ہے۔ اس کی بناء پر کسی شخص کی ایسی تقدیس روا نہیں جو عبادت کے مرتبہ تک پہنچ جائے۔ اس میں بھی سب علماء آپس میں متفق ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آیا کوئی انسان معصوم ہو بھی سکتا ہے ابن حزم کے یہاں اس کا قطعی جواب ایک ہی ہے کہ رسل و انبیاء کے سوا کوئی شخص معصوم نہیں ہو سکتا۔ مگر عصر ابن حزم اور تاریخ اسلام کے تمام ادوار میں کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جن کی تقدیس کا دعویٰ کیا گیا اور خدا کی ذات سے ان کے خصوصی تقرب کا اظہار کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر خوارقِ عادات بھی ظاہر کرتے ہیں۔ مگر ابن حزم اسے قطعی طور پر نہیں مانتے۔

بعض لوگوں کے متعلق یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ ان کے ہاتھ پر کرامات اور خوارقِ عادات کا ظہور ہوتا ہے حالانکہ انہوں نے یہ بات کبھی نہیں کہی۔ انہی خوارق کی بناء پر لوگ ان کی پیروی کرنے لگے اور انہیں مقدس قرار دینا شروع کر دیا۔ ابن حزم آئے تو انہوں نے انبیاء کے معجزات کے علاوہ ایسی باتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا جب آپ انبیاء کے سوا دوسرے لوگوں کے خوارق تسلیم نہیں کرتے تو اس سے ظاہر ہے کہ آپ ان کی تقدیس کے بھی قائل نہیں جس کی بناء پر بہت سے لوگ جاوہِ مستقیم سے جھٹک گئے تھے۔ اور اس کی حد یہ ہے کہ بقیہ حیات یا بعد از موت ان کی پوجا شروع کر دی۔ زندگی میں انہیں مقدس فرض کر کے ان کی اطاعت کرتے اور بعد از مرگ ان کی قبروں کا طواف کرتے۔

معجزہ اور کرامت میں فرق ہے۔ اس موقع پر ابن حزم کا قول نقل کرنے سے قبل ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علامہ باقلانی اور علماء

کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ خوارق انبیاء کے علاوہ دوسروں کے ہاتھ پر بھی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ وہ انبیاء کے معجزات اور غیر انبیاء کے خوارق میں فرق یہ کرتے ہیں کہ انبیاء اپنے معجزات کی بناء پر دوسرے لوگوں کو دعوتِ مقابلہ دیتے ہیں اور لوگ ان کے مقابلہ کی تاب نہیں لاسکتے۔ اس سے ان کی رسالت کا دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے خوارق تبی کے علاوہ کسی نیک شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہوں تو انہیں کرامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

یہ باقلانی کا نظریہ ہے۔ بخلاف ازیں ابن حزم کہتے ہیں کہ خوارق انبیاء کے سوا کسی اور سے ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ ابن حزم لکھتے ہیں :-

”کوئی نبی بذاتِ خود معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-  
 ”مَا كَانَ لِيَسْؤَلَ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ  
 إِلَّا بِإِذْنِهِ“ (الرعد - ۳۸) نہیں کر سکتا۔

دوسری جگہ فرمایا :-

”وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا  
 سِحْرٌ مُسْتَبْرَأٌ“ (القرآن - ۲) (اگر وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو جا دو کہہ کہ منہ موڑ لیتے ہیں)

اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کرتے ہیں :-  
 ”أَذْكُرُ جُنُودَكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ۚ تَاللَّهِ  
 كَأَنْتَ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْفَاعِلِينَ  
 فَأَلْقَى عَصَاهُ“ (الشعراء - ۳۰ - ۳۱) حضرت موسیٰ نے کہا اگر میں تمہارے سامنے کوئی واضح چیز لاؤں تو کیا تم اسے مان لو گے۔ فرعون نے کہا اگر آپ سچے ہیں تو لائیے چنانچہ آپ نے اپنا عصا پھینک دیا۔

تیسرے فرمایا :-

”فَذَاكُمُ جُودَ هَٰئَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى  
 مُدْعُونَ وَ مَلَا“ (القصاص - ۳۲) یہ فرعون اور اس کے امراء کے لئے خدا کی عطا کردہ دود لیلیں ہیں۔

جو شخص یہ کہتا ہے کہ خوارق اس وقت تک معجزہ قرار نہیں دئے جاسکتے جب تک نبی ان کے ساتھ لوگوں کو دعوتِ مقابلہ نہ دے وہ دروغ گوئی سے کام لیتا اور ایک ایسی بات کہتا ہے جس کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی اور جو ایسی بات ہو وہ باطل ہوا کرتی ہے۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مثلاً (۱) استون کی آہ وزاری کرنا (۲) تھوڑے سے کھانے کا بہت سے لوگوں کے لئے کافی ہو جانا حالانکہ وہ سیکڑوں تھے اور جو کا اٹا ایک صاع سے زیادہ نہ تھا (۳) آنحضرت کی انگلیوں سے پانی کا پھوٹ نکلنا (۴) چھوٹے سے پیالہ سے جو ایک یا لشت سے زیادہ نہ تھا۔ ایک ہزار چار صد لوگوں کی پیاس بجھانا۔ ان میں سے کوئی بات بھی معجزہ نہیں کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بنا پر کسی کو چیلنج نہیں کیا تھا۔

**سنن الہیہ ناقابلِ تبدیل ہیں**۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ کائناتِ ارضی ایک بندھے ٹکے نظام کے تحت معروف عمل ہے۔ اس نظام کو اللہ تعالیٰ اگر تبدیل بھی کرتے ہیں تو صرف ایک محدود مدت کے لئے اور وہ بھی صرف انبیاء کے ہاتھوں پر۔ نظام میں تبدیلی پیدا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کی نبوت کا ثبوت مہیا کیا جائے۔ لہذا ایسی تبدیلی صرف نبی کے ہاتھوں ہی انجام پذیر ہو سکتی ہے ورنہ نہیں فرماتے ہیں۔

انبیاء سے ایسی باتوں کا صدور صحیح ہے جن سے ان کی نبوت کا اثبات ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ پشیم خود اس کا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں۔ جن لوگوں نے بذاتِ خود نہیں دیکھا وہ بتواتر اسے نقل کرتے چلے آئے ہیں جس سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے لہذا ان کا اقرار ضروری ہوا۔ البتہ انبیاء کے سوا دوسرے لوگوں سے خوارقِ عادات کا صدور ممتنع ہے۔ ایسے امور نہ کسی ساحر کے ہاتھوں انجام پاسکتے ہیں اور نہ کسی صالح کے کیوں کہ اس کے اثبات کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں اور نہ کوئی نقل صحیح پائی جاتی ہے۔ یہ عقلاً بھی ممنوع ہیں۔ اگر یہ ممکن

ہوتا تو ممتنع ممکن اور واجب کے درمیان سرے سے کوئی فرق ہی باقی نہ رہتا جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ سارے حقائق باطل ہو جاتے۔

یہ بیانات اس امر کی غمازی کرتے ہیں کہ اللہ کے پیدا کردہ طبائع و عادات اور اس عالم کون و فساد کے قوانین کبھی نہیں بدلتے، ورنہ حقائق کا بطلان لازم آئے گا۔ البتہ نبوت و رسالت کے اثبات کے لئے اللہ تعالیٰ کا ہے گا ہے انہیں بدل دیتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھتے والوں نے بحیثیت خود دیکھا اور نہ دیکھنے والوں نے بتواتر اسے نقل کیا۔ مگر انبیاء کے علاوہ حقائق کبھی نہیں بدلتے اور جوں کے توں رہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ خوارق عادت کا ظہور صرف عہد نبوت ہی میں ہوتا ہے۔ نبوت کا زمانہ گزر جانے کے بعد نہیں۔ لہذا جو شخص خوارق کے ظہور کا دعویٰ کرے گا اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا ورنہ حقائق کا بدل جانا لازم آئے گا۔

جب صلحاء کے بہارِ وفات انبیاء سے خارقِ عادت کا ظہور نہیں ہوتا: ہاتھوں پر خوارق

کا ظہور نہیں ہو سکتا تو جس بنیاد پر ان کے تقدس کی عمارت کھڑی تھی وہی منہدم ہو گئی۔ اب اس امر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی ظہارت و عصمت میں مبالغہ کر کے اسے عبادت کا درجہ دے دیا جائے۔

ابن حزم انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگوں سے خوارق کی نفی کر کے اس پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس سے ایک قدم بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی موت کے بعد اس عالم ارضی کی تنظیم کے لئے ان سے کوئی معجزہ صادر نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ ان کی نبوت و رسالت اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئی اور ان کی وفات سے قبل اس پر دلائل و براہین قائم ہو گئے اب ان کی وفات کے بعد معجزہ کی قطعاً حاجت نہیں۔ ابن حزم ابو یوسف باقلانی کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

• اگر سوال کیا جائے کہ جب تمہارے نزدیک عصر نبوت میں نبی کی نبوت ثابت کرنے کے لئے غیر نبی سے خارقِ عادت کا ظہور ہو سکتا ہے تو نبی کی وفات کے بعد اس کی نبوت کی تائید کے لئے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم اس کا جواب

یہ ہیں گے کہ ہمارے نزدیک عمر بنوت میں خوارق کا ظہور حیوانات، عبادت اور تمام بنی نوع انسان کے ذریعہ انجام پا سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا ظہور صرف اصحاب فضیلت پر ہوتا ہے اور فاسق و فاجر لوگوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ ہر شخص سے ان کے صدور کا امکان ہے۔ جو لوگ خوارق عادت کو اہل فضیلت کے ساتھ مخصوص کرتے اور ان کی کرامت بتاتے ہیں ہم اسے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اگر بنی کی موت کے بعد بھی ایسا ہو سکتا تو معاملہ بڑا شتبہ ہو جاتا اور اس دعویٰ سے محفوظ رہنے کی کوئی صورت نہ ہوتی کہ اس خارق عادت کو کسی صاحب فضیلت فاسق یا کسی عام آدمی کی کرامت قرار دیا جائے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو دین میں شکوک و شبہات پڑ جاتے اور خدا کے بندے اول سے آخر تک فریب زدہ ہو جاتے۔ حالانکہ یہ خدا کے اس وعدہ کی خلاف ورزی ہے کہ اس نے بندوں کے لئے حق و باطل کو نکھار دیا ہے اور دونوں کے راستے ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ البتہ عمر بنوت کی حالت اس سے مختلف ہے۔ کیوں کہ بنی کے زمانہ میں جس خارق عادت کا ظہور ہو گا وہ ان کی طرف سے ہو گا اور ان کے اخبار و اقدار سے ہو گا جس سے واضح ہو جائے گا کہ یہ اعجاز غائی ان کی تائید و تصدیق کے لئے ہے نہ اس شخص کے لئے جس کے ہاتھوں وہ ظہور پذیر ہوئی۔ اور یہ بات بہت واضح ہے۔

ان بیانات  
اشخاص و رجال کو تقریب خداوندی کا وسیلہ بنانا شرک ہے۔ سے واضح ہوا کہ

خوارق کا ظہور عمر بنوت ہی میں ہو سکتا ہے۔ جب غیر بنی سے خوارق کا صدور ہو تو ان کا مقصد بنی کی تائید و تصدیق ہوتی ہے اور بس ابن حزم اس کی تائید میں کہتے ہیں کہ بنی دنیا سے اس وقت رحمت سفر باندھتا ہے جب ہدایت و ضلالت آپس میں ممتاز ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت خوارق کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات ان سے لوگوں

کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔

جن اشخاص کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ خوارق ان کے ہاتھ پر رونما ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد ان کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی کا نام شرک ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ مشرکین کی طرح لوگ ان کو تقرب خداوندی کے حصول کا ذریعہ ٹھہراتے ہیں۔ مشرکین بھی یہی کہتے تھے۔

”مَا نَعْبُدُ هُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُواَنَا إِلَى اللَّهِ زُنُفًى“ (النمر - ۳)

ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کا قرب حاصل ہو جائے۔

یا ان کو حوادث و آلام میں پکارنے لگتے ہیں اور انہیں خدا کے حضور میں وسیلہ بناتے ہیں اور یہ سب امور توحید فی العبادت کے منافی ہیں۔

ابن حزم نے اس شجرہ خبیثہ کو بیج و بطن سے اکھاڑ کر رکھ دیا اور حتمی طور پر کہہ دیا کہ خوارق کا ظہور سرے سے انبیاء کے سوا کسی پر ہوتا ہی نہیں۔ سب لوگ تخلیق و تکوین کے اعتبار سے مساوی ہیں۔ نہ کسی کی تقدیس کی جائے اور نہ کسی صالح یا طالع کے لئے خارق عادت کا اثبات کیا جائے۔ اشیاء کے طبائع و عادات صرف انبیاء کے ہاتھوں تبدیل ہوتے ہیں۔ کسی میں کوئی کرامت نہیں پائی جاتی۔ موت کے بعد انبیاء سے بھی معجزات صادر نہیں ہوتے۔

یہ ہیں ابن حزم کی تصریحات۔ گویا انہوں نے اپنے بعد ابن تیمیہ اور ابن حزم آنے والوں کے لئے ان ادہام کے ازالہ کا دروازہ کھول دیا جو مختلف اشخاص کی طرف اس لئے منسوب کئے جاتے ہیں کہ انہیں تقدیس کا مرتبہ دیا جائے بلکہ مشرکین کی طرح بارگاہ ایزدی میں وسیلہ بنایا جائے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ساتویں صدی ہجری کے آخر اور آٹھویں صدی ہجری کے اوائل میں آئے اور اسی دعوت کا آغاز کیا جسے ابن حزم ایسا نابغہ روزگار اپنے عصر و عہد میں شروع کر چکا تھا۔ ابن تیمیہ نے اس میں اپنی جولانی طبع کے جوہر دکھائے اور ابو بکر باقلانی کے اس دعویٰ کی زبردست تردید کی کہ بعض اشخاص سے کرامات کا صدور ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ کرامت اور معجزہ میں فرق پایا جاتا ہے کیونکہ معجزہ پس دعوت مقابلہ دی جاتی ہے اور کرامت میں نہیں۔ ابن تیمیہ نے اس کا بطلان ثابت کیا اس لئے کہ ہو سکتا ہے یہ تالیس و تصنع کا پیش خیمہ

ثابت ہو اور لوگ شریعت کے احکام کو چھوڑ کر اس کا مذاق اڑانے لگیں۔

جب ابن تیمیہ کی خصوصی دعوت یہ تھی کہ صالحین کو وسیلہ بنانا جائز نہیں تو خوب جان لینا چاہیے کہ اس کے اولین داعی ابن حزم تھے۔ کیوں کہ آپ نے اثباتِ خوارق کے عقیدہ ہی کو سرے سے باطل قرار دیا تھا جو توسل کی اساس اور اس کے لئے بیج و بن کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وفات کے بعد انبیاء سے کوئی معجزہ صادر نہیں ہوتا۔ لہذا خدا کی بارگاہ میں نہ اولیاء کو وسیلہ بنانا درست ہے اور نہ انبیاء کو۔ وسیلہ دراصل خدا کی اطاعت ہے مندرجہ ذیل آیت میں اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ  
دَائِبًا غَيْرًا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةُ (المائدہ - ۳۵)

اے ایمان والو! خدا سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔

اگرچہ ابن تیمیہ اور ابن حزم دونوں ہی کہتے ہیں کہ تقویٰ کے سوا کسی میں کوئی فضیلت نہیں پائی جاتی اور کسی کو وسیلہ بنانا بھی روا نہیں تاہم ابن تیمیہ اپنے استاد ابن حزم — جن سے انہوں نے ان کی تصانیف کے ذریعہ استفادہ کیا — سے دو باتوں میں اختلاف رکھتے ہیں۔

۱۔ اول۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ غیر انبیاء سے خوارق کا صدور نہیں ہوتا مگر ابن تیمیہ ان کا اثبات کرتے ہیں۔ جو خوارق غیر انبیاء سے ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کو ابن تیمیہ تین قسموں میں منقسم کرتے ہیں:

فرماتے ہیں۔

۱۔ خوارق سے اگر کوئی دینی فائدہ حاصل ہو تو ان اعمال صالحہ کے قبیل سے ہوں گے جو دینی اعتبار سے مقبول ہوتے ہیں۔

۲۔ اگر ان کے ذریعہ کوئی مباح امر حاصل ہوتا ہو تو اسے خدا کی دنیوی نعمتوں میں شمار کریں گے جو شکر کی موجب ہیں۔

۳۔ اور اگر کسی نہی تحریمی یا تنزیہی پر مشتمل ہوں تو موجب عذاب اور خدا کی ناراضگی کا باعث ہیں۔

پیش کردہ اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ غیر انبیاء سے خوارق کا صا ور ہونا جائز تصور کرتے ہیں مگر ابن حزم اس کے قائل نہیں ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ابن تیمیہ کے زمانہ میں جو سحر و شعبدہ بازی کا رور دورہ تھا آپ اس سے متاثر ہوئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صالحین اور غیر صالحین کے متعلق آپ کے زمانہ میں جن خوارق کا اکثر ذکر کیا جاتا تھا آپ نے ان کو تسلیم کر لیا ہو اگرچہ ان کے حاملین اولیاء نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دینی استقامت کو کرامت کے مقابلہ میں ترجیح دیتے ہیں۔ ابوعلی جرحائی کا قول ہے :-

كُنْ طَابِئًا لَا اسْتِقَامَةَ لِطَابِئًا  
لِلْكَرَامَةِ فَإِنَّ النَّفْسَ مَبْجُودَةٌ عَلَى  
طَلْبِ الْكَرَامَةِ وَرَبُّكَ يُطَلِّبُ مِنْكَ  
الاستقامة۔  
استقامت طلب کرنے والا ابن اور کرامت  
طلب کرنے والا نہ بن نفس انسانی کی جبلت  
یہ ہے کہ وہ کرامت کا طالب ہے حالانکہ  
اللہ تعالیٰ استقامت طلب کرتے ہیں۔

امر دوم :- دوسری بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ اس سے یہ مسئلہ استنباط کرتے ہیں کہ تبرک کے نقطہ نظر سے صلحاء کی قبروں کی زیارت ناروا ہے۔ ابن حزم کا بھی یہی خیال ہے۔ مگر ابن تیمیہ مبا لغہ آمیزی سے کام لیتے ہوئے ایسی عبارتیں نقل کرتے ہیں جن سے وہ اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ نصیحت کے بغیر کسی اور مقصد کے لئے انبیاء کی قبروں کی زیارت جائز نہیں۔ وہ اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔

”جس نے موت کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے زندگی میں مجھ سے ملاقات کی“

اسی طرح ان کی رائے میں مندرجہ ذیل حدیث بھی ضعیف ہے۔  
”خدا سے جب بھی کچھ مانگنا ہو میرے مرتبہ کے طفیل مانگئے کیوں کہ خدا کے نزدیک مجھے عظیم مرتبہ حاصل ہے“

حالانکہ اس روایت کے ضعیف قرار دینے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہم اسے ابن تیمیہ

سے اس روایت کے ضعیف ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ محدثین نے اسے ضعیف بلکہ موضوع تک کہا ہے۔ دیکھئے کتب موضوعات مگر شیخ ابوزہرہ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ بجز حدیث کے متنازع نہیں ہیں انہوں نے اپنی کتب میں جہاں بھی علم حدیث اور اس کے تعلقات پر گفتگو کی ہے وہاں پر ان کا کمزور پہلو سامنے آتا ہے وہ جتنے بڑے فقیہ تھے اتنے ہی کم درجہ کے حدیث دان تھے اور یہ امر چنداں حیرت انگیز نہیں۔ امام غزالی اس امر کے اکابر رجال میں سے تھے کہ ساری عمر حدیث سے ہی راجح رہے اور آخری عمر میں ”مات دا بخاری علی صدرہ“

(غلام احمد حریری مترجم ۱۶ جولائی ۱۹۸۷ء)



کی مبالغہ آمیزی پر محمول کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سب کچھ اپنی کتاب ابن تیمیہ میں تحریر کر دیا ہے  
لہذا اس کی طرف رجوع کیجئے۔

ابن حزم جہاں غیر اللہ

کی عبادت اور

**غیر اللہ کے احکام کی اطاعت ہی عبادت بغیر اللہ ہے**

تقدیس و تزکیہ کے خلاف ہیں وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ احکام کا ماخذ صرف ذات خداوندی  
اور رسول علیہ السلام ہیں کسی کا قول اس وقت تک حجت نہیں ہو سکتا جب تک وہ کتاب و  
سنت سے ماخوذ نہ ہو۔ جس نے ان دونوں کے سوا کسی اور جگہ سے شریعت حاصل کی اس  
نے خدا کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں یہود و نصاریٰ کے متعلق  
فرماتے ہیں۔

اِتَّخَذُوا اٰجْرَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ  
اِنَّهُمْ لَمِنَ اِلٰهِيْنَ اَعْرَابٍ لَّا يَخْبِرُوْنَكَ بِالْحَقِّ اَلْوَاكِلُ وَهُمْ غٰفِلُوْنَ  
(التوبہ - ۳۱) کے سوا معبود بنا لیا۔

چونکہ یہود نے اپنا دین علماء اور درویشوں سے اخذ کیا تھا گویا انہوں نے ان کو رب  
بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان شیعہ کو بہت بُری طرح لٹارتے ہیں جنہوں نے اپنے ائمہ کے  
اقوال کو دین قرار دے لیا تھا جسے وہ کبھی نہ چھوڑتے۔ شیعہ ان کو معصوم عن الخطاء تصور کرتے  
ہیں اور کہتے ہیں کہ دین کے اسرار و رموز صرف انہی کے پاس ہیں۔

ابن حزم اور تصوف :- ابن حزم چونکہ انبیاء کے سوا سب لوگوں کی مساوات کے  
قائل ہیں۔ ان کی رہٹے میں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے اور

تقویٰ ظاہری احکام کی اطاعت کا نام ہے کیوں کہ شریعت کا کوئی باطن نہیں۔ لہذا وہ صوفیہ  
پر بڑی لے دے کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اندلس میں ان دنوں صوفیہ کی تعداد  
اتنی زیادہ نہ تھی جتنی عراق ماوراء النہر اور دیگر بلاد اسلامیہ میں تھی جہاں ہندی تصور نقل مکانی کے  
کے پہنچ گیا تھا۔ افکار و آراء کی یہ خاصیت ہے کہ وہ پانی اور ہوا کی طرح نفوس انسانی  
میں سرایت کر جاتے ہیں۔

تصوف پر شدید نکتہ چینی کی وجہ صوفیہ کا یہ دعویٰ تھا کہ جس شخص کو تقرب خداوندی

حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ شرعی احکام سے بے نیاز ہو جاتا ہے حالانکہ شرعی احکام انبیاء سے بھی ساقط نہیں ہوتے جن کو خدا تعالیٰ شرف ہم کلامی سے مشرف کرتا ہے۔  
ابن حزم فرماتے ہیں :-

”صوفیہ میں سے ایک فریق کا دعویٰ ہے کہ اولیاء اللہ میں سے بعض رسولوں اور نبیوں سے بھی افضل ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص ولایت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے اس سے شرعی احکام مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح محرمات مثلاً زنا کاری اور شراب وغیرہ اس کے لئے حلال ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر وہ دوسری عورتوں کو بھی اپنے لئے حلال ٹھہراتے ہیں۔“

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھتے اور اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہمارے جی میں جو بات آتی ہے وہ ہمیشہ حق ہوتا ہے۔

صوفیہ میں سے ایک شخص ابن شمعون کا قول ہے :-

”خدا تعالیٰ کے ایک سو اسماء ہیں جن سے یک صد کی تکمیل ہوتی ہے۔ وہ چھتیس حروف ہیں ان میں سے حروف تہجی میں صرف ایک حرف پایا جاتا ہے اسی ایک کی بنا پر اہل مقامات خدا کی نماز پڑھتے ہیں۔ ابن شمعون یہ بھی کہتا ہے کہ ایک شخص نے خدا تعالیٰ کے سٹھنے کی صورت مجھے بتائی اس نے کہا کہ ایک روز اللہ تعالیٰ نے اپنے پاؤں پھیلا دیئے تب منادی کی گئی کہ سلاطین یوں نہیں بیٹھا کرتے۔ اس کے بعد اس نے کبھی پاؤں نہ پھیلائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے سٹھنے کا طریقہ بتا رہا تھا۔“

ابن حزم اس طرح ان توہمات کی تردید کرتے ہیں اور انہیں الزام دیتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض اہل کتاب کے ذہیم جات کو حرام سمجھتے ہیں حالانکہ خدا نے اور نبی علیہ السلام نے انہیں حلال قرار دیا ہے۔ ان میں سے بعض اولین صحابہ کے حق میں بدگوئی کرتے اور مرتدین کی حمایت کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ مرتدین کے خلاف جنگ اڑنا ہونے

میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غلطی پر تھے۔ بعض حشویہ کی طرح یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا جسم ہے اس کی شکل و صورت انسان کی طرح ہے۔ اس میں گوشت و پوست اور خون بھی ہے۔ وہ خوش بھی ہوتا ہے غم زدہ بھی ہوتا ہے۔ بیمار بھی ہوتا ہے اور صحت یاب بھی ہوتا ہے۔ وہ گلیوں میں گھومتا پھرتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک پاگل آدمی کی طرح چلتا پھرتا ہے بچے اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور پتھر مار مار کر اس کی ایڑیوں کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔

ابن حزم پہلے شخص تھے جنہوں نے صوفیہ کو اپنی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ابن تیمیہ آئے تو انہوں نے ابن حزم سے بھی زیادہ سخت تنقید کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن تیمیہ کو صوفیہ سے پالا پڑا تھا اور وہ دونوں باہم ایک دوسرے کے خلاف جدل آزما تھے۔ ابن تیمیہ جن مصائب سے دوچار ہوئے۔ ان کا سبب بھی صوفیہ ہی تھے۔ ابن تیمیہ مصر میں بھی صوفیہ کے خلاف صفت آراء ہوئے تھے اور ان کے عقیدہ حلول کی سخت تردید کی تھی۔ ابن حزم نے بھی صوفیہ کے عقیدہ حلول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جہاں وہ صوفیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جو شخص پاگلوں کی طرح بازاروں میں چلتا ہے اور بچے پتھر مار مار کر اس کے پاؤں کو لہو لہان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں حلول کرتا ہے۔ عصر ابن تیمیہ میں صوفیہ سے معرکہ آرائی کا میدان بہت وسیع ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صوفیہ کے اتباع کی بڑی کثرت تھی۔ ان میں علماء بھی تھے جو تصوف کی دعوت دیتے۔ صوفیہ میں بعض علماء ایسے بھی تھے جنہوں نے بڑی بلیغ اور زور دار عبارتوں میں اپنے نظریات کو قلمبند کیا۔ شاید صوفیہ میں نمایاں تر شخصیت ابن عربی تھے جنہوں نے تصانیف ابن حزم کو پڑھا اور پسند کیا تھا مگر وہ تصوف کی شاہراہ پر چل پڑے اور وحدت الوجود اور اتحاد عابد و معبود کی دعوت دینے لگے۔ ان کے بعد ابن تیمیہ آئے اور ان کے اقوال کا بطلان ثابت کیا۔

بنابریں ہم یہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ ابن حزم کی تصانیف کے واسطے سے ان کے شاگرد تھے۔ اسی طرح ابن عربی بھی ابن حزم کے تلمذ تھے۔ ابن عربی نے تصوف اور وحدت الوجود کی دعوت دی ابن تیمیہ ان کے خلاف نبرد آزما ہوئے اور اپنی کتابوں میں ان کی تردید کی۔ عرصیکہ ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں نے اختلاف پنج و مسلک کے باوجود ابن حزم کے دسترخوانِ علمی سے فائدہ اٹھایا۔

## وحدت ذات و صفات

وحدت ذات و صفات سے مراد دو امور ہیں:-  
۱) پہلا یہ کہ ذات خداوندی حوادث کے مشابہ نہیں  
 وہ جسم ہے، نہ اجزاء سے مرکب ہے، نہ زمان و مکان میں محدود ہے۔ اس کی ذات ان تمام امور سے پاک ہے۔

۲- دوسرا یہ کہ خدا کی ذات و صفات میں تعدد نہیں پایا جاتا جس طرح نصاریٰ اٹھانیم میں تعدد کے قائل ہیں۔ وہ ایک میں تین اور تین میں ایک تسلیم کرتے ہیں۔ بلکہ صفات خداوندی اس کے ذاتی اوصاف ہیں جن سے ان کی ذات پہچانی جاتی ہے اور ان کے تعدد سے قدامت کا تعدد لازم نہیں آتا۔

جہاں تک امر اول کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ حوادث کی مماثلت سے پاک ہے اور اپنی مخلوقات میں سے وہ کسی کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا۔ ابن حزم کا نظریہ یہی ہے وہ اسی کی تائید و تصدیق کرتے اور اپنے زبردست قلم کے ساتھ اس کی حمایت کا فریضہ ادا کرتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ جسم رکھتا ہے نہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے۔ ابن حزم فرقہ مشبہ کی تردید کرتے ہیں اور ان کے اس دعویٰ کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجسم ہے وہ ان کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے ہاتھ، آنکھ اور چہرے کا ذکر کرتے ہیں۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات انوار کو پہاڑ پر ڈالا تھا (تَجَلَّى رُشْدًا لِلْحَبَلِ) اس سے بھی خدا کی جسمائیت ثابت ہوتی ہے۔ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت بادل کے سایہ میں لوگوں کے پاس آئیں گے۔ مشبہ اسی قسم کی آیات پیش کرتے ہیں۔ ابن حزم ان کی تردید میں کہتے ہیں کہ یہ تمام نصوص بالکل واضح ہیں مگر ان سے ان کا مقصود ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن کے متشابہات ذکر کرتے وقت ہم اس ضمن میں افکار ابن حزم بیان کریں گے۔

ابن حزم بعض مشبہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے کیوں کہ قرآن میں وارد ہے  
 "اللہ نور السموات" وہ اس کی تردید میں کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کے نور ہونے کے  
 معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نفوس انسانیہ کو نور پدایت سے متور کر کے اس نور کی طرف راستہ  
 دکھاتے ہیں جو آسمان میں موجود ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو زمین  
 کے لئے بھی نور فرمایا ہے اگر نور سے مراد معروف نور ہوتا تو شب و روز روشنی کسی وقت  
 بھی پوشیدہ نہ ہوتی۔ جب ہم نے دیکھا کہ روشنی ہر وقت موجود نہیں رہتی تو ہم نے سمجھ لیا  
 کہ مقصود اس کے سوا کچھ اور ہے۔

جو شخص خدا کو جسم قرار دیتا ہے ابن حزم اسے ملحد  
 خدا کی تجسیم اور ابن حزم کہتے ہیں خواہ وہ خدا کے جسم کو باقی مخلوقات کی طرح  
 ماننا ہو یا اسے دیگر مخلوقات کے مماثل قرار دیتا ہو۔  
 وہ لکھتے ہیں:-

"جو شخص یہ کہتا ہے کہ خدا کا جسم تو ہے مگر مخلوقات کی طرح نہیں اسے  
 مشبہ (خدا کے جسم کو مخلوقات کے مشابہ سمجھنے والا) تو نہیں کہہ سکتے البتہ وہ ملحد  
 ضرور ہے۔ کیونکہ وہ خدا کو اس نام سے موسوم کرتا ہے جو اس نے مقرر نہیں کیا۔  
 بخلاف ازیں جو خدا کے جسم کو مخلوقات کے مماثل تصور کرتا ہے وہ ملحد بھی ہے  
 اور مشبہ میں سے بھی ہے۔"

آخر ابن حزم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ فریقین کو ملحد ہونا ثابت ہے۔ جو شخص خدا کی تجسیم کا قائل  
 ہے مگر اس کے جسم کو مخلوقات کی طرح نہیں ماننا وہ ملحد کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ خدا کو  
 ایک ایسے نام سے یاد کرتا ہے جو خود اس نے مقرر نہیں کیا۔ بخلاف ازیں جو اس کے جسم کو  
 لوگوں جیسا تسلیم کرتا ہے وہ دو امور کی بنا پر ملحد ہے۔ اول یہ کہ اس نے خدا کا نام اپنی مرضی  
 سے مقرر کیا۔ دوم یہ کہ وہ مشبہ میں سے ہے اور خدا کو حوادث کے مماثل قرار دیتا ہے۔ حالانکہ  
 قرآن میں وارد ہے "لیس مکثلہ شیء" جو شخص یہ کہتا ہے کہ خدا کا جسم دیگر اجسام  
 کی طرح ہے وہ اسے تمام اشیاء کے مماثل تسلیم کرتا ہے۔

ذاتِ خداوندی کی معرفت حاصل کرنے میں ابنِ حزم  
لفظِ صفات کا استعمال عقلی دلائل سے کام لیتے ہیں جس کے متعلق ہم قبل ان  
 اشارہ کر چکے ہیں کہ عقیدہ توحید کے اثبات میں وہ عقل سے کام لیتے اور عقلی براہین سے  
 اسے ثابت کرتے ہیں۔ مگر جو چیز بھی ذاتِ خداوندی سے متعلق ہوتی ہے اس کے  
 ذکر و بیان میں ابنِ حزم کتاب و سنت کے دائرہ سے باہر نہیں نکلتے۔ چنانچہ وہ ذاتِ  
 باری کو ان اسماء سے کبھی یاد نہیں کرتے جن کا قرآن میں ذکر نہ ہو۔ جہاں تک ممکن ہوتا  
 ہے آپ کتاب و سنت کے مندرجات کو عقل سے موید کرتے ہیں بشرطیکہ عقل  
 ان کے ادراک سے قاصر نہ ہو۔ مگر عقل کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ  
 ایسی چیز کو ثابت کر سکے جو قرآن نے ثابت نہیں کی۔ کیوں کہ ایسا کرنے سے عقل جاوہ  
 مستقیم سے بھٹک جاتی ہے۔

ایک مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ دینِ اسلام پر ایمان لائے اور ظواہرِ نصوص  
 پر عمل پیرا ہو جس طرح فروعات میں ظواہرِ نصوص پر عمل کیا جاتا ہے۔ ابنِ حزم کی ظاہر  
 پرستی کا تقاضا ہے کہ ان کی رائے میں قرآن میں خدا کے جو اسماء مذکور ہیں مثلاً علیم  
 حکیم، قادر اور سمیع و بصیر یہ خدا کے اسماء عسلی ہیں اور اس نے خود یہ نام مقرر کئے  
 ہیں۔ لہذا ان کو صفات نہیں کہہ سکتے۔ ان کے متعلق یہ کہتا بھی درست نہیں کہ یہ ذات  
 کے علاوہ کوئی چیز ہیں یا یہ کہ اسماء اور ذات ایک ہی چیز ہیں۔ ان کو صفات قرار دینے  
 والوں کی تردید میں کہتے ہیں کہ ان کا قول اشاعرہ کے مشابہ ہے جو کہتے ہیں کہ صفات  
 غیر ذات ہیں۔ نیز ان کے مماثل ہے جو اتحادِ ذات و صفات کا عقیدہ رکھتے ہیں جیسے  
 کہ معتزلہ چنانچہ ابنِ حزم لکھتے ہیں۔

”خدا کے لئے لفظِ صفات کا استعمال قطعاً طور پر ناروا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں  
 صفات یا صفت کے الفاظ کہیں مذکور نہیں۔ حدیث نبوی میں بھی اس  
 لفظ کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے بھی منقول  
 نہیں۔ جو لفظ ایسا ہو اس کا زبان پر لانا کسی کے لئے بھی زیبا نہیں۔ اگر ہم یہ  
 کہیں کہ اس لفظ کے ترک کرنے پر اجماع قائم ہو چکا ہے تو ہم ایسا کہنے میں حق  
 بجانب ہیں۔ خلاصہ کلام نہ لفظِ صفات کا تلفظ روا ہے اور نہ اس کا عقیدہ

رکھنا بلکہ یہ ایک مذموم قسم کی بدعت ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔  
 اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوٰى  
 الْاَنْفُسُ وَاَقْبَدُ جَاءَهُمْ مِّنْ  
 رَبِّهِمْ الْهُدٰى (البقرہ - ۱۷۳)

وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں  
 اور جو ان کے نفوس چاہتے ہیں۔ حالانکہ  
 ان کے رب کی ہدایت ان کے پاس اچکی  
 ہے)

ابن حزم مزید لکھتے ہیں :-

صفات کا لفظ معتزلہ اور ان کے ہم نوا روافض کا اختراع ہے۔ علماء کلام بھی  
 اسی شاہراہ پر چلتے رہے اور ایسا راستہ اختیار کیا جو سلف صالح نے پسند  
 نہیں کیا تھا اور نہ اس کا نمونہ عہد سلف میں ملتا ہے۔ "وَحَسْبنا اللہ و نعم الوکیل"  
 جو شخص خدا کے حدود کو بچاند جاتا ہے وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے۔ متاخرین  
 فقہاء میں سے صرف انہی لوگوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا جو محقق نہ تھے صفات  
 کا لفظ فضلاء کی غفلت اور علماء کی لغزش کا نتیجہ ہے۔ حق وہی ہے جو اللہ اور  
 رسول سے منقول ہو اس کے سوا سب ضلالت ہے۔

یہ اقتباس اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ قدیر مرید اور سمیع و بصیر وغیرہ خدا کے اسماء حسنیٰ  
 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ خدا کے اسماء ہوتے ہیں لفظ اللہ کے مترادف  
 ہیں۔ خلاصہ کلام یہ خدا کے اسماء ہیں اور غیر مشتق ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ بعض کتاب  
 سنت اور اجماع سب اسی کی تائید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

وَاللّٰهُ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَاَدْعُوْا بِهَا  
 وَذُرُّوا الدِّیْنَ یُحَدِّثُ فِیْ سَمٰوٰتِہِ  
 سُبْحٰنَہٗ وَنَ مَا کَانَ لَیَعْلَمُوْنَ (الاعراف - ۱۸۰)

خدا کے اچھے نام ہیں ان کے ساتھ اسے  
 پکارتے جو لوگ خدا کے ناموں میں الحاد پیدا کرتے  
 ہیں ان کو چھوڑ دینے انہیں کیے کا بدلہ ملے گا۔

آپ فرمادیں کہ اللہ یا رحمن کو پکاریں اسے جس نام سے  
 بھی پکاریں درست ہے کیونکہ اس کے نام اچھے ہیں۔

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ  
 اٰیٰمًا تَدْعُوْنَ اِلَیْہِ سَمٰوٰتِہِ الْحُسْنٰى  
 (الاسراء - ۱۱۰)

دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔

یہ تمام اسماء اللہ الحسنى ہیں۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ  
الْقَدِيمُ السَّلَامُ الْمُوْمِنُ الْمُتَمَيِّنُ

الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْبَارِكِ الْمُبَارَكِ

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (المشر - ۲۳-۲۴)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے ننانویں نام ہیں جو انہیں یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرد ہے اور فرد کو پسند کرتا ہے۔

ابن حزم صفات کے مسئلہ میں بھی اپنے ظاہری  
سورۃ اخلاص کا صفت الرحمن ہونا۔ ہونے کا ثبوت ہم پہنچاتے ہیں اور جب تک

اس میں نص وارد نہ ہوئی ہوا سے صفت کے نام سے موسوم نہیں کرتے۔ وہ سورۃ اخلاص  
کو اسی بنا پر خدا کا وصف قرار دیتے ہیں کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ آپ نے یوں فرمایا تھا  
وہ اس حدیث پر جرح و قدح کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

«اس حدیث میں سورۃ اخلاص کی تخصیص کی گئی ہے کہ اسے ذات خداوندی

کا وصف قرار دے سکتے ہیں "تَلْهُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" خدا تعالیٰ کی طرف سے

ایک سچی خبر ہے۔ ہم اسی بنا پر اسے اللہ کی صفت ٹھہراتے ہیں۔

ابن حزم خدا کے لئے علم کا اثبات کرتے ہیں اس لئے نہیں کہ اسم ذات لفظ عظیم سے  
مقرون ہے بلکہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا۔

أَتُوْكَ بِعِلْمِهِ ۗ (اس نے قرآن کریم کو اپنے علم سے اتارا)

ابن حزم کی یہ رائے بعض پہلوؤں کے اعتبار سے معتزلہ  
آیات قرآنیہ سے استدلال کے زاویہ نگاہ سے ملتی جلتی ہے۔ اگرچہ وہ انہیں صفات

کہتے ہیں اور ابن حزم اسماء کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کے بعد ابن تیمیہ آئے اور وہ ابن حزم  
کی طرح ان کو اسماء کے لفظ سے یاد کرتے رہے۔ مگر صفات کا اطلاق کرنے سے



روکتے نہ تھے۔ تاہم ان کا مسلک ابن حزم کی راہ سے زیادہ دور نہیں۔ ابن تیمیہ کبھی ان کو صفات کہتے اور کبھی اسماء کا نام دیتے۔ وہ اپنے رسالہ القدریہ میں لکھتے ہیں۔  
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات محکمات میں اپنے اسماء و صفات کو بیان کیا ہے  
یہ آیات ملاحظہ فرمائیے۔

۱- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (البقرہ-۲۵۵)

۲- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- اللَّهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ- وَلَمْ يُولَدْ- وَكَوْنُكَ

لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (الاخلاص-۱ تا ۴)

ان جملہ آیات میں اسماء و صفات باری تعالیٰ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

مختلف آیات میں یوں فرمایا:

۳- هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (الروم-۵۴)

۴- هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (البروج-۱۲-۱۵)

۵- فَعَالٌ لِّهَايِرٍ يَدُ- هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ

(البروج-۲۱)

شَيْءٍ عَلِيمٌ (المدید-۳)

۶- هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ  
الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ  
وَمَا يَصْعَدُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ اللَّهِ بِمَعْمُولِينَ بَصِيرٌ (المدید-۲)

ابن تیمیہ اسی طرح آیات قرآنیہ سے استشہاد کئے جاتے ہیں اور وہ آیات بھی پیش کرتے ہیں جن سے اس ضمن میں امام اندلس ابن حزم استدلال کر چکے تھے۔ وہ آیات یہ ہیں:-

۷- هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمَوْمِنُ

الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ

الْبَارِكُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (المشر-۲۳-۲۴)

اور اس قسم کی دیگر آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ جو ذات باری کے اسماء

صفات میں وارد ہوئی ہیں۔ ان تمام دلائل سے تفصیلاً ذات و صفات کا اثبات ہوتا ہے اور ذات خداوندی کی مماثلت کی نفی ہوتی ہے۔ یہی طریقہ مستقیم ہے جس کی طرف خدا نے اپنے بندوں کو ہدایت کی ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ بھی یہی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ اور ابن حزم قدرے اختلاف کے باوجود بڑی حد تک ایک دوسرے کے ہمنوا ہیں۔ اختلاف اس امر میں ہے کہ ابن حزم ان کو اسماء کہتے پر اصرار کرتے اور صفات کہنے والوں پر تنقید کرتے ہیں۔ ان دونوں اکابر کی وحدت فکر و نظر اس امر کی آئینہ دار ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے افکار ابن حزم کو دیکھا اور پسند کیا تھا۔ ابن حزم کے اختیار کردہ مسلک ہی کو وہ شاہراہ اسلاف قرار دیتے تھے جس کا سالک ضلالت و لغزش سے محفوظ و مصئون رہتا ہے۔

کتاب و سنت میں بعض ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جن سے مَوْجِبٌ تَشْبِيهِ الْفَاعِلِ مفہوم ہوتا ہے کہ خدا کے اعضاء ہیں۔ مثلاً ہاتھ کا ذکر اس آیت میں ہے۔

(الفتح - ۱۰)

پہلا نظریہ: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

چہرہ کا ذکر اس آیت میں ہے۔

(الرَّحْمٰن - ۲۷)

وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

آنکھ کا ذکر بھی ملتا ہے۔

(طہ - ۳۹)

وَلَتُصْنَعَنَّ عَلَىٰ عَيْنِي

پہلو کا ذکر بھی آتا ہے

(الزُّمَر - ۵۶)

يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَطْتِ فِي حَبْنِ اللَّهِ

ایسے الفاظ کے بارے میں علماء کے مختلف نظریات ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہ متشابہات کے قبیل سے ہیں ان کا علم خدا کو سوتپ دینا چاہیے جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

وہ خدا کی ذات ہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری  
اس میں سے آیات محکمت ہیں وہ اصل کتاب  
ہیں دوسری قسم کی آیات متشابہات ہیں جن کے  
دلوں میں کمی ہے۔ وہ فتنہ تلاش کرنے کے لئے  
متشابہات کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی تاویل  
ٹھونڈتے ہیں۔ حالانکہ اس کی تاویل صرف خدا کو  
معلوم ہے جو لوگ علم میں نچتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس  
پر ایمان لائے یہ سب خدا کی طرف سے ہیں صرف  
عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ  
آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ  
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ  
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ  
تَاوِيلِهِ وَمَا يَجْلُو تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ  
فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ  
رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

(ال عمران — ۷)

ان علماء کا خیال ہے کہ ان کا تعلق ان متشابہات سے ہے جن کا علم صرف خدا کی ذات کو ہے  
ان کا کہنا ہے کہ خدا کے ہاتھ تو ہیں مگر ہمیں ان کی کیفیت کا علم نہیں۔ خدا کے ہاتھ مخلوقات کے ہاتھوں  
مانند نہیں اسی طرح اس کا چہرہ اور آنکھیں بھی مخلوقات کی طرح نہیں۔ اس سے ان کا مقصد  
مخلوقات کی مشابہت کی نفی کرنا ہے۔ یہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے جو امام ابو الحسن اشعری کی پیروی کرتے  
ہیں۔ ان کو مفسرین کہتے ہیں (تفویض کا معنی سپرد کرنا ہے چونکہ یہ اعضاء کی کیفیت خدا کو سونپ  
دیتے ہیں اس لئے اس نام سے موسوم ہوئے) وہ اپنی رائے کو سلف کا مسلک قرار دیتے ہیں  
یونکہ یہ تفویض مطلق ہے اس میں کسی تاویل سے کام نہیں لیا گیا۔

دوسرا نظریہ ہے۔ علماء کی دوسری جماعت ان آیات کی تفسیر اس انداز سے کرتی ہے۔ جس میں  
تشریح و تقدیس کا رنگ پایا جاتا ہے۔ وہ یہ کا مفہوم قوت اور غلبہ بیان کرتے ہیں۔ وجہ سے  
ذات باری تعالیٰ مراد لیتے ہیں۔ استوی علی العرش کے معنی ان کی رائے میں غلبہ کامل ہے  
ان کو مؤویلین (تاویل کرنے والے) کہتے ہیں۔ یعنی وہ کلام کا ظاہری مفہوم مراد نہیں لیتے۔  
ان کو سلفی المشریح نہیں کہا جاتا کیونکہ ان کا نظریہ سلف صالحین کی آراء سے ہم آہنگ نہیں۔

تیسرا نظریہ ہے۔ ایک تیسری جماعت جن کو مشبہ خدا کے اعضاء کو مخلوقات کے مشابہ قرار دینے  
والے، کہتے ہیں اور جو اس وقت کے حثویہ ہیں ان کا خیال ہے کہ خدا کے اعضاء مخلوقات کے  
اعضاء کی مانند ہیں۔ یہ ایک باطل قول ہے جو ایک جاہل اور گمراہ ہی سے صادر ہو سکتا ہے  
اگر کوئی عالم یہ بات کہے تو وہ گمراہ کن ملحد ہے۔

مشابہ الفاظ کے بارے میں ابن حزم کی رائے یہ ہیں قرآن مجید میں وارد ہونے والے  
 الفاظ کے بارے میں علماء کے مختلف

نظریات۔ بعض لوگ ان کو تشبیہ و تجسیم پر محمول کرتے ہیں۔ ابن حزم اپنے ظاہری مسلک  
 کے مطابق ان الفاظ کو بھی لغوی مفہوم پر محمول کرتے ہیں خواہ وہ حقیقی ہو یا مجازی اور ان کے  
 ظاہری معنی کو ترک نہیں کرتے۔ وہ جس بات کو حق سمجھتے ہیں اسے واشکافات الفاظ میں بیان  
 کر دیتے ہیں اور اس بات کی پروا نہیں کرتے کہ کون ان کی مخالفت کرتا ہے اور کون موافق  
 ہے کبھی وہ معتزلہ کے ہمتوا ہوتے ہیں مگر اکثر مخالفت کرتے ہیں۔ ہم ابن حزم کی رائے  
 ذکر کرتے ہیں۔

آیت یَبْقَىٰ وَجْهٌ رَبَّكَ " میں ابن حزم "وجه" سے اللہ کی ذات مراد لیتے ہیں۔ وہ  
 کہتے ہیں اس سے ذات الہی کے سوا اور کچھ مراد نہیں۔ اس آیت کی دلیل یہ ایک ہے  
 "إِنَّمَا نَطَعُكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ" (الدھر - ۹)  
 ظاہر ہے کہ اس آیت میں وجه سے مراد ذات خداوندی ہے۔  
 دوسری جگہ فرمایا:

"أَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهٌ لِلَّهِ" (البقرہ - ۱۱۵)

اس کے معنی یہ ہیں کہ جہدھرم اپنا رخ پھیرو گے وہاں ہی خدا کی ذات اپنے علم اور فوقیت  
 کے ساتھ موجود ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ابن حزم لفظ وجه سے ذات الہی مراد لیتے  
 ہیں کیونکہ قرآن میں یہ لفظ اس معنی میں وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کا  
 ذکر کیا ہے جو صدقہ کرتے وقت کہتے ہیں "إِنَّمَا نَطَعُكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ" ہم تمہیں خدا  
 کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں) ان کی مراد یقیناً وجه کے لفظ سے ذات خداوندی ہے۔ ظاہر  
 ہے کہ یہ لغوی تفسیر ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی مجال نہیں۔

ان آیات میں لفظ ید کا لفظ وارد ہے۔

قرآنی آیات میں لفظ ید:- (۱) يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. (الفتح - ۱۰)

ابن حزم ان آیات میں "ید" اور ایدی سے خدا کی ذات مراد لیتے ہیں۔

۲- لَمَّا خَلَقْتُ بَيْدِي - (ص - ۵)

"يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ" کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی ذات ان کے اوپر ہے۔ ید

مبسوطان سے مراد یہ ہے کہ وہ حسب مرضی خرچ کرتا ہے۔ عِبَلَتْ اَيْدِيْنَا کا مفہوم ہے ہم نے بنایا۔

۳۔ مِمَّا عِبَلَتْ اَيْدِيْنَا دِيس = ایسا ظاہری اعجاز ہے جس سے ہر عربی والا شخص آشنا ہے  
۴۔ بَلْ يَدَاكَ مَبْسُوطَاتٍ (المائدہ - ۶۴)

ان آیات میں اسی قسم کی مجاز ہے جیسے "مَا مَلَكَتْ اَيْدِيْنَا نَكْمُ" میں اس کے معنی ہیں "تم مالک ہوئے" آج تک کسی نے یہ مفہوم نہیں سمجھا کہ دائیں ہاتھ کا مالک ہونا مراد ہے یہ مجازات اس قدر مشہور ہیں گویا یہ لغوی حقیقت ہیں۔ بلاغت میں ان کو عظیم مرتبہ حاصل ہے اور یہ مقتضائے حال کے مطابق ہیں۔ آیت کریمہ "فَاَتَاكَ بِاَعْيُنِنَا" سے مراد یہ ہے کہ ہم تمہارے قریب ہیں اور تو ہمارے قریب ہے۔ جو لفظ بھی جنسیت کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے ابن حزم اس سے ذات خداوندی مراد لیتے ہیں کیوں کہ خدا کی ذات نہ تجزی کو قبول کرتی ہے اور نہ ترکیب کو، بلکہ وہ شبیہ و ترکیب سے بالا اور مشابہت حوادث سے پاک ہے۔

حدیث نبوی میں وارد ہے :-

"حَتَّى يَضَعَ اللّٰهُ يَدَيْهَا قَدْ مَاتَ" (اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا قدم رکھیں گے)

ابن حزم قدم سے ذات خداوندی مراد لیتے ہیں۔

حدیث میں ہے۔

خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهِ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کو اپنے حسب مرضی شکل و صورت دی۔ ابن حزم کی رائے میں لفظ صورت کی اضافت ملکیت کے معنی میں ہے۔

ابن حزم استواء کی ایسی تفسیر بیان کرتے ہیں جو خداوند تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس

مسئلہ استواء اور مشابہت حوادث کے منافی ہے۔ وہ استواء سے انتہاء مراد لیتے

ہیں۔ آیت "استوی علی العرش" کے معنی یہ ہیں کہ اس کا فعل عرش تک پہنچ کر ختم ہو گیا بقصود یہ کہ خدا کی ذات وہاں ہے جہاں مخلوقات کا گذر نہیں کیوں کہ عرش کے بعد کوئی چیز نہیں۔ حدیث نبوی سے اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ انخصوصاً نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا سے فردوس علیٰ طلب

کیونکہ وہ جنت کے درمیان اور اعلیٰ ترین مقام پر واقع ہے۔ خدا کا عرش اس سے اوپر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عرش کے ماوراء کوئی مخلوق نہیں۔ وہاں پہنچ کر مخلوقات کی رسائی ختم ہو جاتی ہے اس کے پیچھے نہ خلا ہے نہ ملا جو شخص زمان و مکان کے اعتبار سے عالم کی انتہا کا قائل نہیں وہ اسلام کو چھوڑ کر دہریہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ استواء لغت عرب میں انتہا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

«فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ أَيْتَنَاهُ  
حُكْمًا وَعِلْمًا» (الفصص - ۱۷)

اس آیت میں "اَسْتَوَىٰ" کے معنی یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ قوت و خیر تک پہنچے۔ دوسری آیت میں فرمایا "ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ" یعنی زمین کو ترتیب دینے کے بعد آسمان کی طرف رجوع کیا و باللہ التوفیق یہی مسلک صحیح ہے اور ہم اس کے قائل ہیں۔ کیوں کہ یہ دلائل صحیحہ پر مبنی ہے یہ

یہ اقباسات اس حقیقت کے آئینہ دار ہیں کہ جن

**ابن حزم کا نظریہ صحیح ہے۔** الفاظ کے بارے میں علماء کو تشبیہ کا وہم ہوا ہے

ابن حزم ان کا لغوی مراد لیتے ہیں اور ان کی تاویل نہیں کرتے۔ ابن حزم جس مجاز مشہورہ کے قائل ہیں اسے تاویل نہیں کہا جاسکتا کیونکہ لغت فصیحہ میں یہ استعمال موجود ہے۔ اور اس سے مقصود باسانی سمجھا جاسکتا ہے اور عقل سے کام لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی جس کی بنا پر اس کا وہ ظاہری مفہوم قائم نہ رہے جسے ہر عربی شخص فکر و تامل کے بغیر سمجھ لیتا ہے۔ جب کوئی عربی نژاد شخص قرآن پڑھتا ہے تو وہ اس کا صرف ظاہری مفہوم مراد لیتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ فرض کرنا ضروری ہے کہ صحابہ و تابعین بھی ظاہری معنی ہی سمجھتے تھے۔ خواہ وہ مجاز ہو یا حقیقت کیونکہ جب مجاز کا کوئی قرینہ موجود ہو تو اس کی بنا پر کلام ظاہری حدود سے باہر نہیں نکلتا۔

ان الفاظ کی تفسیر و توضیح میں ہم بھی ابن حزم کے ہمتوا ہیں۔ البتہ لفظ استواء کی تفسیر میں

اختلاف ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ استواء کا وہ مفہوم اقرب الی الصواب ہے جو معتزلہ بیان کرتے ہیں۔ معتزلہ استواء کو استیلاء کے معنی پر محمول کرتے ہیں۔ لغت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے "استوی علی العرش" سے مراد یہ ہے کہ اس کا ثبات ارضی پر اسی کا غلبہ ہے۔ شاید ابن حزم کا یہ نظریہ اس لئے اختیار کیا کہ آثار سے عرش کا مخلوق مادی اور موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ابن حزم کا نقطہ نظریہ ہے کہ آثار صحیحہ اگرچہ بطریق آحاد منقول ہوں اس سے اسی طرح عقائد ثابت ہو جاتے ہیں، جس طرح ان سے احکام شرعیہ کا اثبات ہوتا ہے۔ بنا بریں استوی کے معنی انتہا کے ہوں گے۔ کیوں کہ احادیث سے عرش کا آخر المخلوقات ہونا واضح ہوتا ہے۔

بہر کیفیت مسئلہ استواء میں ابن حزم کا زاویہ نگاہ کیسا  
امام غزالی ابن حزم کے ہم نوا۔ بھی ہو حقیقت یہ ہے کہ اہل عرب کی طرح الفاظ کا ظاہری مفہوم مراد لینا اور ان کی ظاہری دلالت میں تاویل سے اجتناب کرنا ہی مسلک حق و صواب ہے۔ اسلاف کا طریق بھی یہی تھا۔ کیونکہ کوئی عربی نثر اذید اللہ فذوق ایدینہ کا مطلب یہ نہیں سمجھتا کہ خدا کے ہاتھ ہیں کیونکہ ان کا مجازی معنی عام طور سے معروف ہے عربی میں بولتے ہیں رَضِعَ الْكَمِيْرُ بَدَهُ عَلَى اَثْمِدِ اَيْنَةٍ۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ امیر نے اپنا ہاتھ شہر پر رکھ دیا۔ اس لئے کہ کوئی عربی شخص اس سے یہ مفہوم نہیں سمجھتا۔ ابن حزم اسی طریق مستقیم کے سالک تھے علماء کلام میں سے کوئی اس کی طرف سبقت نہ کر سکا۔ امام غزالی بعد میں آکر اسی راہ پر گامزن ہوئے وہ اپنی کتاب الجوامع العوام عن علم الکلام میں تقدیس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"تقدیس کے معنی یہ ہیں کہ جب کوئی شخص خدا کے ہاتھ یا انگلی کا نام سنے یا آنحضرت کی یہ حدیث مطالعہ کرے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم کا خمیر بنایا نیز یہ کہ مومن کا دل خدا کی انگلیوں کے درمیان ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ لفظ "ید" کا اطلاق دو معنی پر کیا جاتا ہے۔

(۱) اصلی مفہوم جو کہ ایک عضو کا نام ہے جو گوشت ہڈیوں اور اعصاب سے مرکب ہے۔ ظاہر ہے کہ گوشت، ہڈیاں اور اعصاب ایک خاص جسم رکھتے ہیں اور ان کے مخصوص صفات ہیں۔ جسم ایک مقدار کو کہتے ہیں جس میں طول، عرض اور عمق پایا جاتا ہے اور جب تک وہ

ایک جگہ میں موجود ہوتا ہے دوسرا اس میں نہیں سما سکتا۔ جب تک کہ اسے کسی دوسری جگہ منتقل نہ کیا جائے۔

۲۔ بعض اوقات یہ سے ایک مستعار معنی بھی مراد لیتے ہیں جو جسم نہیں ہے۔ مثلاً کہتے ہیں "شہر حاکم کے ہاتھ میں ہے" خواہ حاکم کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں۔ کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حاکم شہر پر قابض تھے۔ لہذا ہر عام و خاص کے لئے اس بات کی تحقیق کر لینا ضروری ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سے وہ ہاتھ مراد نہیں لیا جو گوشت ہڈیوں اور اعصاب سے مل کر بنتا ہے۔ کیونکہ خدا کے حق میں یہ محال ہے اور اس کی ذات اس سے پاک ہے بلکہ اس سے عیاں ہے کہ امام غزالی اس ضمن میں ابن حزم کے ہمتوا ہیں۔ وہ ان الفاظ کی مجازی تفسیر کرتے ہیں اور اسے الفاظ کا بدون تاویل ظاہری مفہوم سمجھتے ہیں۔ وہ تاویل کا سہارا مطلقاً نہیں لیتے۔ ہم نے اپنی کتاب "حیات ابن تیمیہ" میں اس کی تفصیلات ذکر کی ہیں اور اس امر کا فیصلہ کیا ہے کہ ابن تیمیہ کا یہ کہنا کہ خدا کے ہاتھ اور آنکھیں میں مگر دوگوں کی طرح نہیں اور ساتھ ہی دعویٰ کرنا کہ سلف صالحین میں عقیدہ رکھتے تھے کہاں تک صحیح ہے۔ موازنہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ صحابہ کرام چونکہ خالص عرب تھے لہذا انہوں نے لازمی طور پر ان الفاظ کی وہی تفسیر کی ہوگی جو غزالی کرتے ہیں۔

ہم امام غزالی کے ان افکار کو ابن حزم کی طرف منسوب کرتے ہیں کیوں کہ سب سے پہلے آپ نے ان مسائل پر گفتگو کی۔ لہذا ابن حزم اس ضمن میں ان کے پیش رو تھے۔ یہ ضروری ہے کہ غزالی نے ابن حزم کی کتب سے استفادہ کیا ہوگا اور ابن حزم کی کتاب الاسماء الحسنیٰ پڑھ کر اس سے متاثر ہوتے ہوں گے۔

**متشابهات کے دو اقسام**۔ ابن حزم کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ اصحابِ قہم و ادراک کے نزدیک اس میں سرے سے کوئی اغلاق و ابہام نہیں پایا جاتا۔ بشرطیکہ قاری عربی زبان سے آشنا ہو اور ترجمان قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فہم قرآن میں مدد لیتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت ایک ایسی روشن شاہراہ کے سالک تھے جس میں شب و روز کی کوئی تمیز نہیں بلکہ سب برابر ہیں۔

لہ الجام العوام عن علم الکلام۔



کسی شک کرنے والے کے ذہن میں شک و ریب کا گذر اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ زینغ و ریب کو چاہتا ہو اور اس کا ارادہ کرتا ہو۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ قرآن میں متشابہ امور صرف دو ہیں دیگر مسائل میں کوئی ذاتی خفاء موجود نہیں بلکہ سمجھنے والے کے فہم کا قصور ہے کہ یا تو وہ طلب حق کے لئے نص کی طرف رجوع نہیں کرتا یا اس حالت میں قرآن کا رخ کرتا ہے جب کہ قبل ازیں وہ خیالات باطلہ سے متاثر ہو چکا ہو۔ اس تاثر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیڑھی نظر سے نص کا ادراک کرتا ہے اور اس پر نظر مستقیم نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس ضمن میں ہم کلام ابن حزم سے چند اقتباسات پیش کریں گے۔ کیونکہ وہ نظر صحیح کی ترجمانی کرتے ہیں۔

ابن حزم کی رائے میں متشابہات جن کی پیروی کج رُخی کی موجب ہے اور محکمت کے مابین ایک بڑی حد فاصل پائی جاتی ہے ان کا ذکر اس آیت میں ملتا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ  
آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرَى  
مُتَشَابِهَاتٌ. (ال عمران - ۷)

”وہی ذات ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری۔ اس میں کچھ آیات محکمت ہیں جو اصل کتاب ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں“

ابن حزم کی قائم کردہ حد یہ ہے کہ جو شرعی احکام شائع کے مطلوب و مقصود ہیں ان میں وارد شدہ قرآنی آیات متشابہات نہیں ہو سکتیں۔ البتہ دوسرے مسائل میں آیات متشابہات وارد ہو سکتی ہیں۔ ابن حزم استقراء کی بنا پر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ متشابہات دو قسموں میں محدود و مقصور ہیں۔

- ۱۔ اقسام القرآن
- ۲۔ حروف مقطعات

ابن حزم رقمطراز ہیں۔

”قرآن میں غور و فکر کرنے سے یہ حقیقت ہم پر آشکار ہوئی کہ اس میں بہت سے مسائل و احکام ذکر کئے گئے ہیں۔ مثلاً ان میں مسئلہ توحید بھی شامل ہے۔ یہ ان بنیادی مسائل میں سے ہے جس پر اعتقاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ان متشابہات میں داخل نہیں جس کی پیروی سے روکا گیا ہے۔ ان حضور کی نبوت کی صداقت اور اس پر ایمان لانا ہی ان میں شامل ہے۔ اسی طرح فرائض محرمات، مندوبات، مکروہات، مباحات یہ

سب انہی امور میں داخل ہیں جن کی طلب و تحقیق ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مسائل بھی متشابہات میں شمار نہیں ہوتے جن کا اتباع شرعاً ممنوع ہے۔ اسی طرح قدرت خداوندی پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔

«أَخْلَقَ يَنْظُرُونَ رَأَى الْأَبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ»  
(الغاشیہ - ۱۷)

تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے

نیز فرمایا۔

«وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ»  
(زال عمران - ۱۹۱)

اور وہ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔

لہذا ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ متشابہات کے قبیل سے نہیں اسی طرح قرآن میں عبرت پذیری کے نقطہ خیال سے کچھ واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ فرمایا۔

«لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ»  
لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ (یوسف - ۱۱۱)

ان کے واقعہ میں دانشمندیوں کے لئے عبرت کا سامان موجود ہے۔

لہذا یہ بھی متشابہات میں داخل نہیں۔

اسی طرح قرآن میں وعدہ کی تعمیل کی رغبت دلائی اور وعید سے ڈرایا۔ اور ان میں فکر و تامل کا حکم دیا تاکہ ہم طلب جنت کی کوشش کریں اور جہنم سے خلاصی حاصل کریں۔ لہذا یہ بھی متشابہات نہیں ہو سکتے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ذکر کردہ احکام متشابہات میں شمار نہیں ہوتے اور یہ بھی یقیناً معلوم ہو گیا کہ قرآن میں محکمات و متشابہات کے علاوہ اور کچھ بھی مذکور نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ احکام کے علاوہ دیگر امور متشابہات ہوں گے۔ پھر ہم نے غور کیا کہ دیکھیں وہ کیا چیز ہیں تاکہ ہم ان سے کنارہ کش رہ سکیں یہ غور و فکر صرف اس کی ماہیت معلوم کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔ کیفیت اور معنی دریافت کرنے کے لئے نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے علاوہ قرآن میں صرف حروف مقطعات پائے جاتے ہیں جو بعض سورتوں کی ابتداء میں واقع ہیں یا قسیم ہیں۔ اس سے یقینی طور پر یہ بات

معلوم ہو گئی کہ انہی دو امور کا نام متشابہات ہے جس کی پیروی سے ہمیں روکا گیا ہے اور آنکھوں نے ان کی تلاش کرنے والوں کو ڈرایا ہے۔ جیسا کہ نامی شخص نے جب حضرت عمر سے والذاریات کے معنی پوچھے تو آپ نے اُسے پٹیا عطا کی لہذا انہی دونوں کا نام متشابہات ہے۔ کیونکہ مذکورہ سائل کے بعد صرف یہی دو قسمیں باقی رہ جاتی ہیں۔ پس ہر مسلمان پر حرام ہے کہ حروف مقطعات کا مفہوم تلاش کرے جو سورتوں کے شروع میں واقع ہیں۔ مثلاً کھایعص، حم، عسق، ت، الم، ص، طسم، اسی طرح سورتوں کے آغاز میں جو قسمیں مذکور ہیں ان کا مفہوم دریافت کرنا بھی حرام ہے۔ مثلاً وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ، وَالذَّارِيَاتِ، وَالسَّجَّادَاتِ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيءُ۔

یہ ہیں قرآنی متشابہات کے بارے میں ابن حزم کے افکار و آراء۔ ابن حزم نے متشابہات کی طلب و تحقیق میں استقراء سے کام لیا ہے۔ چنانچہ پہلے خدا کے اوامر و آیات کا سراغ لگایا۔ تمام آیات کریمہ کے موضوع کلام پر غور کیا اور آخر اس نتیجہ پر پہنچے کہ جن احکام کو شارع طلب کرے وہ حکامات ہوں گے۔ کیونکہ امر و نہی موجود نہ ہو اور اس کا مطلب بھی واضح نہ ہو تو وہ متشابہ ہوگی۔ استقراء و تتبع کا حاصل یہ ہے کہ ابن حزم کی رائے میں متشابہات صرف دو قسموں یعنی حروف مقطعات اور اقسام میں محدود و محصور ہیں۔

## وحدتِ خلق و تکوین

تمام اہل اسلام اس امر میں یک زبان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے۔ اس کائناتِ ارضی پر کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کی پیدا کردہ نہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو ہر چیز کا خالق کہا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز اس کی تخلیق کے بغیر عالم وجود میں آگئی وہ گمراہ اور خارج از اسلام ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

اس پر بھی سب اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ عالم ارضی کو اس نے اپنے ارادہ اختیار کے ساتھ پیدا کیا اور یہ خدا سے اس طرح صادر نہیں ہوا جیسے معلول علت سے ظہور پذیر ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ اپنے افعال میں مختار ہے۔ اس کے خلاف چلنے والے فلاسفہ اسی بنا پر گمراہ ہو گئے۔ ابن حزم نے ان کی خوب خبر لی اور زبردست عقلی دلائل کی روشنی میں ان کے اقوال کا بطلان ثابت کیا۔ امام غزالی بعد میں آئے تو انہوں نے اپنی کتاب تنہافتہ الفلاسفہ میں رہی سہی کسر بھی نکال دی اور یونانی اقوال کی دھجیاں فضائے آسمانی میں بکھیر دیں۔

ہر مسلمان کے لئے اس بات پر ایمان لانا از بس ناگزیر ہے کہ خدا کی ذات ہر شے کی خالق ہے۔ وہی اس کائناتِ عالم کا خالق و مبدع، قادر و مختار اور جو چاہے کرنے والا ہے سبحانہ و تعالیٰ مگر اموی دور سے لے کر عصر ابن حزم تک علماء اسلام کے مابین ایک مسئلہ مابہ المتزاع رہا۔ بلکہ عصر حاضر تک اس میں اختلاف پایا جاتا ہے اور پایا جاتا ہے گا۔ بعض اس میں ہدایت یاب ہیں اور بعض جاوہ مستقیم سے منحرف ہو چکے ہیں اور کچھ لوگ اس کا علم خدا کو سونپ دیتے ہیں زبان حال ان کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے

ذَرُّهُمُ حَتَّىٰ يَكُونُوا فِي عَدِيَّتٍ غَيْرِهِ  
ان کو چھوڑ دینے حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں (الانعام - ۶۸)

وہ متنازعہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا انسانی افعال خدا کے پیدا کردہ ہیں اور انسان ان میں بے بس

اور مجبور محض ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان شرعی اعمال کا مکلف و مامور اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ وہ اپنے افعال میں آزاد اور مختار ہو۔

دو باتوں میں مسلمان متحد الخیال ہیں اور ان میں کوئی اختلاف یا شک نہیں پایا جاتا۔  
(۱) پہلی بات یہ ہے کہ انسان اچھے یا بُرے اعمال کے لئے جواب دہ ہے۔ اچھے اعمال کی بناء پر وہ دائمی نعمتوں کا بدلہ پائے گا اور بُرے اعمال کی سزا ملے گی۔ البتہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو الگ بات ہے۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دے جسے چاہئے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اس کے ارادہ و قدرت کے ہوتے ہوئے ہر ارادہ وقتاً بے کار ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اس اتحادِ خیال کے باوجود انسانی افعال افعال العباد کے مسئلہ میں مذاہبِ اربعہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا انسان مضطرب و مجبور ہے یا آزاد و مختار ہے۔ جو لوگ اسے آزاد اور مختار سمجھتے ہیں ان کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے کہ انسان میں فعل کی استطاعت اس کے صدور سے قبل پیدا ہوتی ہے یا فعل کے ساتھ مقرون ہوتی ہے یا یہ کہ استطاعت سابق بھی ہوتی ہے۔ اور مقرون بھی۔

اس مسئلہ میں چار اقوال ہیں۔ ہر قول کی تائید میں ایک فریق دلائل پیش کرتا اس کی دعوت دیتا اور درس و تدریس کے ذریعہ اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے۔ قسم اول میں ہم ان فرقوں پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ جبر یہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، مختار نہیں۔ انسان اپنے افعال کے اعتبار سے اس پر کی طرح ہے جو ہوا کے رخ پڑا ہو اور ذاتی حرکت کے بغیر ہوا جس طرح چاہتی ہے اسے اڑا کر لے جاتی ہے۔ انسان کی بھی یہی حالت ہے۔ فاعل صرف خدا کی ذات ہے۔ اس امر میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر انسان کو اپنے افعال کا فاعل قرار دیا جائے۔ تو خلق و تکوین میں وہ خدا کا شریک نہیں بٹھے گا اور یہ وحدتِ خلق و تکوین کے منافی ہے جس پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ انسان کی طرف فعل کی نسبت اس اعتبار سے ہے کہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے اس لئے نہیں کہ وہ اس سے وقوع پذیر ہوا۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا قیام اس کے ساتھ ہے۔ یہ مراد

نہیں کہ اس نے موت کو پیدا کیا کیونکہ زندہ کرنے والی اور مارنے والی خدا کی ذات ہے۔ مخلوقات میں یہ بات کسی میں نہیں پائی جاتی۔ یہ جہیمہ کا قول ہے جو جہم بن صفوان کے پیر ہیں۔  
 یہ فرقہ جبر و اضطرار کا قائل ہے اور انسان  
فرقہ ہائے اربعہ کے نظریات کی تفصیل ہے۔ سے اختیار کی نفی کرتا ہے۔

پہلا فرقہ: یہ فرقہ بعض ظواہر نصوص سے احتجاج کرتا اور بعض کو ترک کر دیتا ہے گویا اس آیت کا مصداق ہے۔ اَكْفَتُوْا مِنْوْنَ بَبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْضُرُوْنَ بَبَعْضِ (البقرہ-۸۵)  
 دوسرا فرقہ: دوسرا گروہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ فعل کا فاعل دراصل خدا تعالیٰ ہے۔ انسان میں صرف استطاعت ہوتی ہے۔ ایجاد و تکوین نہیں صرف خدا کی ذات ہی مرید و مختار ہے۔ انسان جب فعل انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں استطاعت پیدا کرتے ہیں۔ اس کا نام کسب و اکتساب ہے۔ بندے سے جو باز پرس ہوگی اور اچھے بُرے اعمال کی اُسے جو جزا و سزا ملے گی وہ اسی پر مبنی ہے۔ اشاعرہ کا فرقہ جبریہ کے قریب ہے بلکہ بعض علماء اشاعرہ کو جبریہ میں شمار کرتے ہیں۔

تیسرا فرقہ: تیسرا فرقہ اکثر معتزلہ اور شیعہ امامیہ پر مشتمل ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان مختار ہے اور اپنی استطاعت کی بناء پر فعل کا ارادہ کرتا ہے۔ فعل کی قوت خدا نے بندے میں ودیعت کر رکھی ہے اسی کی بناء پر اس کے افعال اچھے بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کو چاہتا اور اس کا ارادہ کرتا ہے اور شر کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ پس اس کا ارادہ اور امر باہم لازم و ملزوم ہیں۔ جب وہ شر کا حکم نہیں دیتا تو اس کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔

چوتھا فرقہ: چوتھے فرقہ کا خیال ہے کہ فعل بندے سے صادر ہوتا ہے بندے میں فعل سے پہلے بھی استطاعت موجود ہے اور فعل انجام دیتے وقت بھی اس کے قائل بعض معتزلہ ہیں اور بعض غیر معتزلہ۔

خلاصہ کلام جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بندے میں فعل کی قوت پہلے سے ودیعت شدہ ہوتی ہے یا بعد میں اسے استطاعت سے بہرہ ور کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ودیعت

کردہ قوت کے بل بوتے پر بندے کے افعال کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تاکہ اسے کئے کی سزا دی جاسکے۔ اسے شرعی احکام کا مکلف اور اپنے افعال کا ذمہ دار قرار دیا جائے اور اس پر ثواب و عقاب کا تحقق ہو سکے۔ کیونکہ جب تک بندے میں قدرت نہ پائی جاتی ہو اس کا محاسبہ نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ معتزلہ مزید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرکاء ارادہ نہیں کرتا کیونکہ ان کی رائے میں امر اور ارادہ لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرکاء ارادہ اس لئے نہیں کرتا کہ اس نے شرکاء کا حکم نہیں دیا۔ وہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے مگر ضلالت کا نہیں۔

یہ افعال العباد کے مسئلہ میں مختلف اسلامی فرقوں کے نظریات

یہ افعال العباد کے مسئلہ میں ابن حزم کا نقطہ نگاہ :-

یہ افعال العباد کے مسئلہ میں ابن حزم کے بیانات سے یہ حقیقت بیان ہوتی ہے کہ اہل ہنوں نے اس ضمن میں دو باتیں کہی ہیں۔

مراول ۱۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسانی افعال بندے کی استطاعت سے صادر ہوتے ہیں۔ بندے میں اختیار، قصد اور عمل سبھی امور پائے جاتے ہیں۔ گویا ابن حزم اختیار کا پہلا خد کرتے اور عقیدہ جبر کی مخالفت کرتے ہیں کیوں کہ یہ عقیدہ عقل، لغت اور نص سب کے خلاف ہے۔ جہاں تک نص کا تعلق ہے قرآن میں وارد ہے۔

جَنَاءٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔

یہ تمہارے کئے کا بدلہ ہے۔

نیز فرمایا :-

لَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ (الصّف ۲) جو بات تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو۔

ان آیات میں عمل کی صراحت فرمائی اور اسے انسان کی طرف منسوب کیا ہے۔

عقل و ادراک عقیدہ جبر کے اس لئے مخالف ہے کہ ہمیں عقل کی بناء پر قطعی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ جس انسان کے اعضاء صحیح و سالم ہوں اس میں اور جس کے اعضاء سالم نہ ہوں ان میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ کیونکہ صحیح اعضاء شخص اپنی مرضی سے اٹھتا بیٹھتا اور دیگر امور انجام دیتا ہے جو شخص اعضاء سے محروم ہے اگر وہ چاہے تو بھی اس پر قادر نہیں ہے۔ اس فرق سے زیادہ بین فرق و امتیاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ مجبور لغت میں اسی شخص کو کہتے ہیں جس سے افعال بلا اختیار و قصد صادر ہوں جس سے افعال قصد و اختیار کی بنا پر صادر ہوں اسے لغت مجبور نہیں کہہ سکتے۔

امرتانی برابن حزم دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ فعل صرف استطاعت کی بناء پر ہی ظہور پذیر نہیں ہو سکتا بلکہ ان مواقع کا ازالہ بھی ضروری ہے جو استطاعت میں حائل ہو کر اس کے اثر کو نمایاں نہیں ہونے دیتے۔

این حزم فرماتے ہیں :-

”غور کرنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ جس شخص کے اعضاء صحیح و سالم ہوں اور وہ کسی کام کا ارادہ بھی کرنا چاہتا ہو تو بعض اوقات فعل کے انجام دینے میں ایسا مانع پیش آتا ہے کہ وہ فعل کو معرض ظہور میں نہیں لاسکتا۔ لہذا ہمیں معلوم ہوا کہ ایک چیز اور بھی ہے جس کے ساتھ استطاعت کی تکمیل ہوتی اور فعل معرض ظہور میں آجاتا ہے۔ بنا بریں اس امر کی صحت ثابت ہو گئی کہ استطاعت صحت اعضاء کے ساتھ ارتفاع موانع کا نام ہے۔ یہ دونوں امور (صحت اعضاء و ارتفاع موانع) تو فعل سے پہلے پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور قوت ہوتی ہے جو خدا کی ودیعت کردہ ہوتی ہے بلکہ

من درجہ اقتباس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ وقوع فعل کے لئے تین عناصر

درکار ہیں :-

۱۔ وہ استطاعت جو خدا کی طرف سے بندے کو ودیعت کی گئی ہے

۲۔ زوال موانع۔

۳۔ خدا کی طرف سے عطا کردہ قوت جسے توفیق کہتے ہیں۔

گویا قدرت انسانی کے پہلو بہ پہلو توفیق کی بھی ضرورت ہے وہ اس کی دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”اس قول کے صحیح ہونے کی دلیل تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ

سے توفیق طلب کرنا چاہئے اور رسوائی سے پناہ مانگنی چاہئے۔ وہ قوت جو

اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے اور اس سے وہ نیکی کا کام انجام دیتا ہے اس

کو اجمالاً توفیق عصمت اور تائید کہتے ہیں۔ خدا کی ودیعت کردہ جس قوت سے



بندہ ایسے کام انجام دیتا ہے جو نہ معصیت ہوتے ہیں اور نہ طاعت تو اسے عزم  
یا قوت یا قول کہا جاتا ہے۔ اس بیان سے لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ  
کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا ہے۔

مسک ابن حزم اور معتزلہ میں فرق و امتیاز ہے۔ اس بیان سے یہ بات نکھر کر سامنے  
آتی ہے کہ ابن حزم اس امر میں معتزلہ  
کے ساتھ ہم آہنگ تھے کہ افعال خدا کی عطا کردہ استطاعت کی بنیاد پر بندے کی طرف منسوب کئے  
جاتے ہیں۔ مگر ابن حزم اس پر اس بات کا اضافہ کرتے ہیں کہ بشری استطاعت کے ساتھ بندے  
کو خدا کی طرف سے توفیق بھی ارزانی ہوتی ہے اور اسے توفیق سے محروم بھی کر دیا جاتا ہے جسے  
خُذْلَان کہتے ہیں۔ اس طرح ابن حزم اس بات میں معتزلہ سے الگ ہو جاتے ہیں کہ ان کے  
نزویک اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ نہیں کر سکتا۔ اس کے برخلاف ابن حزم کہتے ہیں :-

”خدا تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتے اور جسے چاہے گمراہ کرتے ہیں۔ جو ہدایت  
کے راستہ پر چل دیتا ہے بارگاہِ ایزدی سے اس کو توفیق عطا کی جاتی ہے جو ہدایت  
سے دُور رہتا چاہتا ہے توفیق ربانی اس کے شامل حال نہیں ہوتی اور وہ گمراہ  
ہو جاتا ہے۔ ابن حزم آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی اطاعت میں توفیق  
جرمان اور ہدایت کو منجانب اللہ قرار دیتے ہیں۔“

اپنے مسلک کی تائید میں عقلی دلائل :- ابن حزم پھر اس کی تائید نفسانی اور اخلاقی  
دلائل سے کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں  
کہ نفسِ انسانی خیر و شر دونوں کا محرک ہوتا ہے اور ہر شخص کے لئے وہ کام بڑا سہل ہے جس  
کے لئے اس کی تخلیق عمل میں آئی۔ جو شخص خیر کی راہ پر گامزن ہوتا اور اس پر اصرار کرتا ہے اللہ اسے ہدایت  
کی توفیق دیتے ہیں اور جو شر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ اسے رسوا کرتے ہیں۔

ابن حزم نفسِ انسانی کے بارے میں فرماتے ہیں :-  
”اللہ تعالیٰ نے نفسِ انسانی کو پیدا کر کے اسے ایسی عقل و معرفت سے نوازا کہ وہ ہر چیز  
کو اس کی اصلی شکل و صورت میں پہچان لیتا ہے جو بات اُسے کہی جاتی ہے وہ

سمجھتا ہے، اسے حکم بھی دیا جاتا ہے اور روکا بھی جاتا ہے۔ وہ فعال بھی ہے۔  
 مُنْعَمٌ اور مُعَذِّبٌ بھی ہے۔ اس میں لذت و الم دونوں کا احساس پایا جاتا ہے۔ خدا  
 نے انسان میں دو ایسی قوتیں پیدا کر رکھی ہیں جو تاثیر کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد  
 ہیں۔ ایک کو قوتِ فہم و شعور اور دوسری کو خواہشِ نفس کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک  
 نفسِ انسانی پر غالب آنا چاہتی ہے۔ قوتِ فہم و شعور خاص طور سے انسانِ جن  
 اور ملائکہ میں پائی جاتی ہے غیر مکلف حیوانات میں نہیں۔ خواہشات مثلاً لذات  
 کی محبت میں جن انسان اور حیوانات سب برابر ہیں۔ جب خدا تعالیٰ کسی شخص کو پچانا چاہتے  
 ہیں تو خدا واد قوت سے فہم و ادراک کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور نفسِ انسانی کے سب  
 افعال مثلاً شہوات کا غلبہ اور حرص کی محبت، حدود و عادات، اخلاقِ رذیلہ اور معاصی  
 خداوند تعالیٰ کی ترتیب و تنظیم کے مطابق معرضِ ظہور میں آتے ہیں۔ اس بات پر دلائل  
 براہین قائم ہو چکے ہیں کہ نفسِ مخلوق ہے۔ اسی طرح اس میں ودیعت کردہ دونوں  
 قوتوں سے مزید جو قوی پیدا ہوتے ہیں وہ بھی مخلوق و موجود ہیں۔ یہ تمام قوی مخلوق  
 ہیں اور نفسِ انسانی میں ایک خاص ترتیب کے مطابق گھلے ملے ہوئے ہیں۔  
 ہر قوت اپنی طبیعت کے مطابق ہے جس پر پیدا کی گئی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ابنِ حزم کس طرح خدا کی پیدا کردہ استطاعت  
عادات ناقابلِ تبدیل ہیں اور خداوندی توفیق و خذلان پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان  
 کی رائے میں قوتِ تمیز اور حرص و ہوا کے مابین جو کشمکش پیدا ہوتی ہے اسی پر ثواب و عقاب  
 مبنی ہوتے ہیں۔ نیز یہ کہ توفیق و خذلان کے ساتھ ساتھ وہ قوت بھی کار فرما ہوتی ہے جو نفس  
 انسانی میں اپنا محلِ جاری رکھتی ہے اور ہر شخص کے لئے اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔  
 ابنِ حزم اس حقیقت پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ نفسِ انسانی اپنے مخصوص میلانات اور ایک ہی  
 حالت پر قائم رہنے کی بنا پر اسے چھوڑنے پر قادر نہیں۔ کیونکہ پیدائشی عادات ناقابلِ تبدیل ہیں  
 ابنِ حزم اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نفسِ انسانی میں جو استطاعت و دیعت شدہ ہوتی ہے، اس  
 کے ساتھ ساتھ خدا کا ارادہ اور توفیق بھی شامل حال ہوتی ہے۔

ابن حزم فرماتے ہیں :-

وہ جو شخص اخلاقِ محمودہ و مذمومہ کی ترکیب سے آشنا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ کوئی شخص خدا کے سپید کردہ اخلاق کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ حفظ کرنے والے کی قوتِ حافظہ اپنا کام ترک نہیں کر سکتی۔ ضعیف حافظہ والا حفظ پر قادر نہیں ہوتا۔ نہیم غبی نہیں بن سکتا اور غبی نہیم کا پارٹ ادا کرنے سے قاصر ہے۔ حاسدِ حسد کی عادت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ پاک سیرت آدمی حاسد نہیں بن سکتا۔ جریس حرص چھوڑنے پر قادر نہیں۔ بخیل خرچ نہیں کر سکتا۔ بزدل سے شجاعت کا فعل صادر نہیں ہو سکتا۔ دروغ گوئی کذب بیانی سے باز نہیں رہ سکتا۔ بچپن سے لیکران لوگوں کی یہی حالت رہتی ہے۔ بد اخلاق شخص بردبار نہیں بن سکتا ہے۔ حیا دار سے بے شرمی کا فعل صادر نہیں ہوتا اور بے شرم حیا دار نہیں بن سکتا۔ جو شخص فصاحتِ بیانی سے محروم ہو وہ فصاحت پر قدرت نہیں رکھتا۔ سبک سر آدمی صبر نہیں کر سکتا۔ غضبناک آدمی بردباری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ صابر شخص جلد بازی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ حلیم سے غضب ناک کا فعل صادر نہیں ہوتا۔ باعزت آدمی ذلت کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کمینہ آدمی باعزت نہیں بن سکتا۔ ہر چیز کی یہی حالت ہے۔ لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ کوئی شخص اس وقت تک کسی فعل پر قادر نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ اس میں فعل کی قوت پیدا نہ کرے۔ اگرچہ ظاہر انسان اس وہم کا شکار ہوتا ہے کہ جب جسم انسانی صحیح و سالم ہے اور کوئی مانع بھی موجود نہیں تو فعل کیونکر صادر نہ ہوگا؟ مگر اس کی حقیقت ایک وہم سے زیادہ نہیں ہے۔

یہ ہیں ابن حزم کے نظریات انفعالِ العباد کے بارے میں اور اس مسئلے میں کہ ذاتِ باری تعالیٰ انفعال پر کس قدر غالب ہے۔ بندہ کس حد تک قدرت رکھتا ہے۔ ابن حزم کے دلائل تین عناصر سے ماخوذ ہیں۔ وہ عناصر یہ ہیں :-

۱۔ عقل و شعور (۲) لُصُوص (۳) اخلاقی تعلیمات۔

(۱) عقل و شعور کی بنا پر خدا کی ودیعت کردہ قوت کے بل بوتے پر انسان میں اختیار ثابت ہوتا ہے۔ انسان اسی اختیار کی بنا پر خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔

۲۔ تصویص شرعیہ کی روشنی میں ثابت ہوا کہ نیک کاموں کو انجام دینے کے لئے توفیق خداوندی ناگنہ میر ہے۔

۳۔ نفیاتی دلائل سے خدا کی توفیق ثابت کی نیز واضح کیا کہ فعل کے وقت بجانب اللہ انسان میں جرقوت پیدا ہوتی ہے وہ طاعات و منہیات کے لئے ایک اساس کا حکم رکھتی ہے۔ بلاشبہ ابن حزم پہلے شخص تھے جنہوں نے مسئلہ زیر بحث کو اس قدر تفصیلاً بیان کیا کہ اس کا کوئی پہلو تشوہ تکمیل نہ چھوڑا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آیا یہ پیچیدہ اور قدیم مسئلہ اب حل ہو گیا؟ اشکال دو باتوں میں ہے۔

امراؤل: پہلا یہ کہ آیات کے فعل کا اختیار مطلقاً نہیں یا یہ کہ اختیار تو ہے مگر کامل نہیں؟ اگر ہم فرض کر لیں تو خدا کا ارادہ بندے سے فعل کے صادر ہونے میں موثر ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اسے ثواب و عذاب کیونکر ہوگا؟ بلاشبہ ثواب خدا کی رحمت ہے اور اس کے ساتھ عذاب کا بھی امکان ہے۔ کیونکہ خدا کا عدل اس کا مقتضی ہے اور یوں بھی جملہ امور اسی کی سپرد ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ پھر عذاب دینے کی وجہ کیا ہوئی؟

امرتانی: دوسری بات یہ ہے کہ اس عالم کون و فساد میں کوئی کام خدا کے ارادہ کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ ہمارا خیال ہے کہ ابن حزم نے اسی عقدہ کی گہرہ کشائی تو کر دی مگر مسئلہ کی پہلی جزو ہنوز قابل حل ہے۔ اس کے برخلاف معتزلہ جزو اول کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے مگر اس کا دوسرا حصہ ہنوز پیچیدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا معتزلہ اور ابن حزم کے نظریات میں جمع و تطبیق کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟ اس تطبیق میں ہی مسئلہ کا اصلی حل منظر ہے۔ بہر کیفیت کچھ بھی ہو مسئلہ زیر بحث پر ابن حزم نے جو گفتگو کی ہے وہ دوسروں کے کلام کی نسبت وسیع تر ہے۔

## ابن حزم کے سیاسی افکار

ابن حزم نے تمام دینی مسائل پر طبع آزمائی کی ہے اور اپنی تحریرات میں دوسروں کے اقوال پر لے دے کی ہے ہمارے لئے ان کی تمام تحریرات پر نقد و تبصرہ کرنا دشوار ہے۔ تاہم آپ کے سیاسی افکار پر رائے زنی کرنا ہمارے لئے از بس ضروری ہے۔ کیونکہ یہ سب سیاسی حالات ہی تھے جنہوں نے وحدتِ اسلامیہ کو پارہ پارہ کر دیا اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا نیز اس سے ابن حزم کا سیاسی موقف واضح ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ سیاست دانی بھی ابن حزم کی سیرت و سوانح کا جزو لاینفک ہے۔ اب ہم تین امور کے بارے میں ابن حزم کا نقطہ نگاہ واضح کریں گے۔ وہ یہ ہیں:-

- ۱۔ کبائر کا ارتکاب کرنے والے کے بارے میں ابن حزم کا نقطہ نگاہ۔
- ۲۔ خلافت کا مستحق کون ہے؟
- ۳۔ صحابہ کرام میں فرق مراتب۔ اس مسئلہ میں آپ نے ایک رسالہ بھی ارقام فرمایا ہے۔

دونوں آخری مسائل کا تعلق سیاست سے محتاج بیان نہیں۔ خلافت کا مسئلہ تو خالص سیاسی قسم کا ہے۔ مگر کب کبائر کے مسئلہ کا تعلق سیاست سے یہ ہے کہ یہ مسئلہ میدانِ سیاست کی پیداوار ہے۔ جب خوارج نے حضرت علیؑ کے خلافت سرائٹھایا تو یہ مسئلہ معرضِ وجود میں آیا۔ خوارج نے حضرت علیؑ کی اس بنا پر تکفیر کی تھی کہ انہوں نے تحکیم کا ارتکاب

---

۱۔ یہ رسالہ پروفیسر سعید افغانی نے دمشق سے شائع کیا اور ابن حزم کے حالاتِ زندگی بھی تحریر کیے۔

کیا تب سے یہ مسئلہ منصفہ شہود پر آیا اور علماء کے مابین ماہہ التزاع رہا۔ ہم ان تینوں مسائل پر مختصراً اظہار خیال کریں گے بلکہ یوں کہتے کہ عاجلانہ تبصرہ کریں گے اور پھر ابن حزم کی فقہ کی جانب متوجہ ہوں گے جو ان کی عظیم خصوصیت ہے اور ہمارے موضوع بحث کا جوہر خلاصہ ہے۔

---

## مترکب کبائر اور ابنِ حزم

مترکب کبائر کے بارے میں علماء کے نظریات :-  
 (۱) خوارج کہتے ہیں کہ کبائر کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے اور اہل قبلہ میں سے نہیں۔

۲۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسے منافق قرار دیتے ہیں جو اسلام کا اظہار کرتا ہے مگر اس کے اعمال اس کے کفر کے آئینہ دار ہیں۔

۳۔ معتزلہ کا قول ہے کہ وہ نہ کافر ہے نہ مومن بلکہ اس کا مرتبہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ وہ فاسق ہے اسے مسلم کہہ سکتے ہیں مگر مومن کے لفظ سے پکارا نہیں جاسکتا۔ وہ ابدی جہنمی ہے۔

۴۔ بعض مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان کی موجودگی میں معصیت سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے طاعات و اعمال بے کار ہیں۔ ان کے قول سے واضح ہوتا ہے کہ بروز قیامت گنہگار اور اطاعت شعار عامی اور ولی مترکب کبائر اور متقی کے مابین کوئی فرق و امتیاز نہ ہوگا۔

۵۔ بعض مرجیہ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ گنہگار کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے اگر چاہے اُسے معاف کر دے اور اگر چاہے اسے عذاب دے۔ کیونکہ وہ اس کا بندہ ہے۔ اگر اسے بخش دے گا تو اپنی عزت و حکمت اور رحمت کے بل بوتے پر ایسے مرجیہ کہ مرجیہ السنن کہتے ہیں۔ یہ رائے امام ابوحنیفہ، ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی اور دیگر ائمہ اعلیٰ کی طرف منسوب ہے حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کبائر میں سے جسے چاہیں بخش دیں اور جسے چاہیں عذاب میں مبتلا کریں۔ البتہ قاتل ابدی جہنمی ہے۔

۶۔ اہل اسلام کا ایک گروہ جو معتزلہ کے انکار سے متاثر ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو سب کبائر

کو ان کے گناہوں کے باعث عذاب میں مبتلا کرے گا یا سب کو معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فریق کو معاف کر دے اور دوسرے پر مواخذہ کرے۔ کیونکہ عدل اسی کا نام ہے۔ گویا وہ اس نظریہ کے قائل ہیں کہ خدا کی ذات کے لئے صلاح و اصلاح پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مگر ان کا یہ قول محتاج تامل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے افعال کا محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں وہی احکم الحاکمین ہے۔ کوئی اس پر محاکمہ نہیں کر سکتا کیوں کہ یہ انسان کی قدرت سے متجاوز ہے۔

یہ ہیں مسئلہ زیر بحث میں مختلف

مرتکب کبائثر کے بارے میں ابن حزم کا نقطہ نظر۔  
انکار و اراء اب سوال یہ ہے

کہ اس ضمن میں ابن حزم کی رائے کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ ہذا میں بھی ابن حزم اپنے ظاہری مسلک پر کاربند رہے اور نصوص شرعیہ کو پیش نظر رکھا۔ چنانچہ وہ نصوص جن میں خدا کی عفو و مغفرت کا ذکر پایا جاتا ہے نیز حساب و عقاب پر مشتمل دلائل دونوں آپ کے پیش نظر ہیں۔ فرماتے ہیں:-

"جو کبائثر سے تائب ہو کر خدا سے جا ملے یا اس نے کبائثر کا ارتکاب نہ کیا ہو اس کے سب گناہ معاف کر دئے جائیں گے۔ وہ جنتی ہو گا اور دوزخ میں نہیں جائے گا خواہ اس کے گناہ کتنے زیادہ ہوں۔ جو شخص کبائثر کا مرتکب ہونے کی صورت میں فوت ہو اور اس نے توبہ بھی نہ کی ہو تو اس کے اعمال میں موازنہ کیا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیاں اس کے کبائثر پر غالب آگئیں تو اس کے سب گناہ ساقط ہو جائیں گے۔ وہ جنت میں جائے گا اور جہنم میں داخل نہیں ہو گا۔ جن کے نیک اعمال کبائثر کے ہم پلہ ہوں گے۔ انہیں اہل اعراف کہا جاتا ہے وہ کچھ دیر تک بھڑے رہیں گے۔ دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے اور آخر کار جنت میں چلے جائیں گے۔ جس کے کبائثر نیکیوں کے مقابلہ میں زیادہ ہوں گے تو انہیں گناہوں کے برابر سزا دی جائے گی۔ بعض آدمی تھوڑی دیر تک دوزخ میں بھڑیں گے بعض پچاس ہزار سال تک دوزخ میں رہیں گے۔ پھر آنحضرت کی شفاعت اور رحمت خداوندی کی بناء پر جنت میں چلے جائیں گے۔ جو نیکیاں ان کی پچ جائیں گے انہیں ان کے عوض جنت ملے گی۔ جن کی کوئی نیکی زائد نہ ہوگی وہ اعراف والوں میں سے ہوں یا کوئی اور اور اسی طرح جو شکایت کی بنا پر دوزخ سے نکلے ہوں یہ سب جنت



میں برابر ہوں گے جس کی جتنی نیکیاں زائد ہوں گی ان کے اندازہ کے مطابق۔

یہ ہے ابن حزم کا مسلک مختار! ان کی یہ رائے آیات قرآنیہ و احادیث بنویہ سے ماخوذ و مستنبط ہے۔ ابن حزم اپنے اختیار کردہ

مسک کے تفصیلی احکام کی تائید میں دلائل و براہین پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ دلائل ذکر کرتے وقت بھی ظاہریت کے پابند رہتے ہیں اور معتزلہ کی پیش کردہ آیات و عید اور مزجیہ کی آیات عفو و عفران میں تطبیق دیتے ہیں۔

جن آیات میں حساب و عذاب و ثواب اور عمل و جزا میں مساوات کا ذکر ہے ابن حزم وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلاً یہ آیات :-

(۱) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

(الزلزال - ۸)

برائی کا بدلہ اس کی طرح بُرا ہے۔

(۲) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا. (شوری - ۴۰)

جن لوگوں نے نیک اعمال کئے ان کو اچھا

(۳) لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

بدلہ ملے گا اور اس سے زیادہ بھی ملے گا۔

(ربن - ۲۶)

جو برائی کا ارتکاب کرے گا وہ ویسا ہی

(۴) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا

بدلہ پائے گا۔

مِثْلُهَا. (الانعام - ۱۶۱)

ابن حزم ان آیات پر بھی عمل کرتے ہیں جن میں زیادہ نیکی اور کم گناہ کرنے والوں کو مرثدہ سنایا گیا ہے۔ مثلاً

(۱) «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْرِكُنَّ السَّيِّئَاتِ» (هود - ۱۱۴)

اللہ ذرا بھر ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہوگی تو اسے دگنا

(۲) إِنَّ اللَّهَ لَا يُظِلُّهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ

کرے گا اور اپنی طرف سے اجر عظیم دے گا۔

حَنَةً يُّضَاعِفُهَا وَيُؤْتِي مَنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (النہر - ۴۰)

جو نیکیاں لائے گا اسے دس گنا ثواب ملے گا

(۳) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا

اور جو برائی کرے گا وہ برابر بدلہ پائے گا۔

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا

مِثْلُهَا (الانعام - ۱۶۱)

علیٰ بن ابی القیاس ابن حزم تمام نصوص پر عمل کرتے ہیں اور کسی کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ آخر کار اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ نیکیوں اور برائیوں میں موازنہ کیا جائے گا اور اس طرح آیات عفو و غفران اور آیات وعید اور حجاب و عقاب سبھی پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ پھر مزید آیات قرآنیہ و احادیث بنویہ سے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہم مسئلہ زیر بحث کے ذکر و بیان میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں جو مسئلہ ہذا کی تفصیلات کا مطالعہ کرنا چاہئے وہ ہماری کتاب الفصل کی طرف رجوع کرے گا۔

## مسئلہ خلافت اور ابن حزم

ابن حزم نے مسئلہ خلافت پر  
ابن حزم کا نظریہ خلافت امور اربعہ میں منحصر ہے۔ خوب کھل کر لکھا ہے اور شیعہ و  
 خوارج کی زبردست تردید کی ہے۔ حسب معمول ابن حزم اس مسئلہ میں بھی اطناب کو ایجاز و اختصار  
 پر ترجیح دیتے اور مخالفین کی ایک ایک دلیل کا تار و پود بکھیرتے چلے جاتے ہیں۔ زبان بھی  
 بڑی سخت استعمال کرتے ہیں۔ مسئلہ زیر بحث میں ہم آپ کے انکار کا خلاصہ چار امور میں تحریر  
 کرتے ہیں۔

امور اربعہ میں سے امر اول یہ ہے کہ خلافت و  
وجوب خلافت ابن حزم کی نگاہ میں۔ امامت لازم و ملزوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے  
 کہ خدا کے واجب کردہ احکام مثلاً عام احکام، جنایات خون سے متعلقہ معاملات، نکاح و طلاق  
 ظلم کا انسا و مظلوم کا انصاف اخذ قصاص۔ یہ جملہ امور ایک حکم کے محتاج ہیں اگر لوگوں کو ایک  
 شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے تو نظام عالم قائم نہیں رہ سکتا نہ دینی احکام پر عمل کیا جاسکتا ہے  
 جن شہروں میں کوئی حاکم نہ ہو وہاں فساد کا دور دورہ رہتا ہے۔  
 ابن حزم لکھتے ہیں:-

”جن شہروں میں کوئی حاکم نہ ہو وہاں اس فساد کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔  
 نہ وہاں شرعی احکام پر عمل ہوتا ہے نہ حدیں قائم کی جاتی ہیں اور دین یونہی چلا  
 جاتا ہے۔ کوئی اس پر عمل نہیں کرتا۔ اقامت دین کے امکانات صرف حاکم  
 کی موجودگی ہی میں روشن ہوتے ہیں۔“

ابن حزم کی رائے میں امامت عادلہ فرض ہے کیوں کہ اقامت دین امام عادل ہی کے  
 ذریعہ ممکن ہے۔ ظلم کا ازالہ بھی جیسی ہو سکتا ہے۔ ابن حزم جو خود خلفاء کی کمزوری کے باعث سیاسی  
 اضطرابات سے دوچار رہتے لکھتے ہیں:-

”اور مملکت کی تکمیل اسی صورت میں ممکن ہے جب عنانِ حکومت و سلطنت ایک ایسے مردِ فاضل کے ہاتھوں میں ہو جو بڑا سیاست دان طاقت ور اور با اقتدار ہو۔ ایسے امیر کا وجود، ظلم اور بے کاری کے انسداد کے لئے دو یا دو سے زیادہ خلفاء کی نسبت زیادہ سود مند ہے۔“

چونکہ ابنِ حزم فرسیتِ خلافت کے قائل ہیں اور بیعت کئے بغیر ایک رات گزارنا بھی ان کے خیال میں ناروا ہے اس لئے وہ خوارج کے فرقہ المجدات کی زبردست تردید کرتے ہیں جن کی رائے میں خلافت کا قیام ضروری نہیں بلکہ مصلحت پر موقوف ہے۔ اگرچاہیں تو لوگ اپنے معاملات خود نپٹا لیا کریں اور کسی کو خلیفہ مقرر نہ کریں۔ خلافت کلامِ یہ ہے کہ ابنِ حزم کی رائے میں امتِ اسلامیہ پر ایک امامِ عادل کی اطاعت ضروری ہے جو لوگوں کو خدا کے احکام پر چلائے اور لوگوں کو اسی جاوہِ مستقیم پر گام زن رہنے کی تلقین کرے جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ ابنِ حزم کے نزدیک اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خلیفہ ایک وقت میں صرف ایک ہی ہونا چاہیئے۔ جو لوگ دو خلفاء کے جواز کے قائل ہیں۔ ابنِ حزم ان کی تردید کرتے ہیں کیوں کہ ممکن ہے ان میں تنازع پیدا ہو جائے حالانکہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے۔

”رَلَاتِنَا زَعُوًّا فَتَقَشُّوْا وَاذْهَبْ رَيْحُكُمْ“ (الانفال - ۴۶) آپس میں جھگڑانا کیجئے پس تم پھسل جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے۔

”جب دو خلیفوں کی بیعت کی جائے تو دوسرے خلیفہ کو قتل کر دو“

نیز اس لئے کہ جمہورِ اہلِ اسلام امتِ واحدہ ہیں ان کا امام بھی ایک ہی ہونا چاہئے۔ تاکہ وہ امتِ مسلمہ کے اتحاد کا مظہر ہو۔

دوسری بات جس کا خلیفہ میں ملاحظہ کرنا ضروری ہے اور اس کے (۲) خلیفہ کا قرشی ہونا :- تحقق کے بغیر خلافت کا انعقاد نہیں ہوتا وہ اس کا قریشی ہونا

ہے۔ ہاجرین و انصار کے مابین جب اختلاف رونما ہوا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان پر قریشیت کی بناء پر احتجاج کیا تھا اور وہ مطمئن ہو گئے تھے۔

آپ نے فرمایا تھا۔

لَا تَدِينُ الْعَرَبُ إِلَّا بِهَذَا الْحَيِّ  
مِن قُرَيْشٍ  
عرب قبیلہ قریش کے بغیر کسی کے آگے نہیں  
جھک سکتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واجب الاذعان بھی یہ ہے۔

”الائتمة من قریش“  
(امام قریش میں سے ہوں گے)

ابن حزم اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا ہے کہ خلفاء قریش میں ہوں گے اور خلافت قریش میں ہوگی۔ یہ روایت بتواتر منقول ہے۔ حضرت انس بن مالک عبد اللہ بن عمر اور معاویہ رضی اللہ عنہم اسے روایت کرتے ہیں۔ اس امر سے بھی اس روایت کی صحت کی تائید ہوتی ہے کہ انصار نے سقیفہ کے روز اس حدیث کے سامنے گردن جھکا دی تھی حالانکہ وہ اہل وطن، یا اقتدار اور ہر قسم کی قوت و شوکت رکھتے تھے۔“

واقعات اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ خلیفہ کے قرشی ہونے کی شرط اجماعی نہیں خوارج بھی اس کو ضروری نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں خلیفہ کا عادل ہونا ضروری ہے مگر کسی خاص قبیلہ سے ہونا مشروط نہیں۔ اس سے ایک قدم بڑھ کر خوارج یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ایک قرشی حبشی علم و فضل اور کتاب و سنت پر قائم رہنے میں برابر ہوں تو حبشی کو خلیفہ مقرر کرنا چاہئے تاکہ اُسے آسانی سے معزول کر سکیں۔

قرشیت کے بعد خلیفہ میں شروط خلافت کا پایا جانا ضروری ہے۔  
شروط خلافت۔ ابن حزم نے اس ضمن میں چند شرائط عائد کئے ہیں جن کا خلیفہ میں پایا جانا قرشیت کے بعد ان کی رائے میں ضروری ہے۔

(۱) پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ اور باتمیز ہو کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تین اشخاص مرفوع القلم ہیں پھر انہی میں بچے کو شمار کیا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اور جنون زدہ جب تک ہوش نہ سنبھالے۔

۲۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو۔ کیونکہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا۔

”وہ قوم فلاح سے ہمکنار نہیں ہو سکتی جو اپنے امور کسی عورت کو سونپ دے“

۳۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔

”رَبَّنَّ يُجْعَلِ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا“ (النساء-۱۲۱) کرے گا۔

اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں کی طرف جانے کا راستہ عطا نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ خلافت سے بڑھ کر اور کیا راستہ ہو سکتا ہے؟

۴۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ خلیفہ ایسا شخص ہونا چاہئے جو دعوت کتاب و سنت کے سلسلہ میں پیش آنے والے مصائب و آلام کو بخوشی لبیک کہے سکے اور گھبرائے نہیں۔

۵۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ شخص دینی فرائض کا عالم ہو اور متقی ہو۔ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ اس کی ظاہری حالت اچھی ہو اور وہ دنیا میں فساد کا اعلان کرنے والا نہ ہو کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے۔

”وَتَعَاوَدُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَدُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ“ (المائدہ-۲)

نیکی اور تقویٰ میں تعاون کیجئے اور ظلم و زیادتی میں تعاون نہ کیجئے۔

ابن حزم رقمطراز ہیں :-

”جس نے کسی ایسے شخص کو امام بنا یا جو خدا سے نہیں ڈرتا خواہ کسی بات میں ہو یا علانیہ فساد بپا کرتا ہو یا جو دینی احکام کو نافذ نہ کرتا ہو یا جو دینی شعور سے محروم ہو تو اس نے ظلم و زیادتی میں تعاون کیا نہ کہ برّ و تقویٰ میں آنحضرت کا ارشاد ہے :-

”مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرًا فَهُوَ كَرْدٌ“

جس شخص نے ہمارے طریقہ کے خلاف کوئی کام انجام دیا تو وہ رد کر دینے کے قابل ہے۔

نیز آپ نے فرمایا نہ

”اے ابو ذر! تو ایک کمزور آدمی ہے نہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ

کر نہ یتیم کے مال کا والی بن“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مقروض بے سمجھ یا کمزور ہو تو اس کا ولی معاملہ کی دستاویز

إطاء کر دئے۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب سفیہ و ضعیف کو ولی کی ضرورت ہے تو مکان کیونکر ایک خلیفہ کے محتاج نہیں ہیں۔“

خلیفہ کا سلیم الجسم، تندرست و توانا ہونا شرط نہیں بلکہ ایک معذور آدمی بھی امام بن سکتا ہے کیونکہ امامت کا مقصد دنیا میں عدل و انصاف کا قیام اور احکام خداوندی کی تنفیذ ہے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے  
 ”كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (النساء - ۱۲۵) عدل و انصاف کے قائم کرنے والے بن جائیے۔  
 جس شخص نے عدل و انصاف کو قائم کر دیا اس نے اپنا فرض منصبی ادا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلافت میں اعتماد صرف قیام عدالت پر ہے اسی پر خلافت کا مناظرہ مدار ہے اور اس کے بغیر خلافت کا تحقق نہیں ہوتا۔ اگر عدالت کا تحقق ہو جائے اور اس کی بیعت بھی کر لی جائے تو اس کی خلافت ثابت ہو جائے گی۔

ابن حزم اس اجماعی عقیدہ کی تائید کرتے ہیں

ابن حزم اجماعی عقیدہ کے حق میں :- کہ کوئی شخص وراثت کی بنا پر خلیفہ نہیں بن سکتا بلکہ یہ نیابتِ رسول ہے جس شخص میں خلافت کے شرائط پائے جاتے ہیں گے۔ وہی اس کا اہل ہے، خلیفہ کے بیٹے اس کے وارث اور عام لوگوں میں کوئی فرق نہیں۔

وہ لکھتے ہیں :-

”یہ عقیدہ اجماعی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ خلافت میں تو اُرت نہیں

اس پر بھی اجماع قائم ہو چکا ہے کہ نابالغ کو خلافت تفضیض نہیں کی جاسکتی۔

البتہ رواتق کے یہاں یہ دونوں باتیں جائز ہیں۔ اس میں بھی کسی کا اختلاف

نہیں کہ عورت کو خلیفہ نہیں بنایا جاسکتا۔“

اس اقتباس سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ابن حزم اس عدل و انصاف پر مبنی عقیدہ

کی توثیق کرتے ہیں کہ اسلامی خلافت میں تو اُرت نہیں، نیز یہ کہ بچوں کو خلیفہ بنانا درست نہیں۔

مگر شیعوں امامیہ دونوں امور کے خلاف ہیں۔ وہ خلافت بر بنائے وراثت اور امامت معقدوں کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مگر یہ اجماع کی عکاس درزی ہے۔ صحابہ و تابعین میں کوئی اس کا قائل نہیں

کیونکہ مسلمانوں کے امور شوریٰ سے طے ہوا کرتے تھے اور شوریٰ کا امکان بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ بنائیں اور جبری درانت کے ذریعہ ان پر خلافت ٹھونس نہ جائے جس روز سے اس اہم اسلامی عقیدہ کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں انارکی کا دور دورہ ہے۔ عنان حکومت ان بچوں کے ہاتھ میں ہے جو اپنی دیکھ بھال سے بھی قاصر ہیں چہ جائیکہ وہ امت کے مسائل سے نپٹ سکیں۔ اب قیام اور برہوتقویٰ پر حاکم و محکوم کے باہمی تعاون اور اتم و عدوان پر عدم تعاون کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

یہ ہیں ابن حزم کی رائے میں شرائط خلافت !  
العقادِ خلافت اور ابن حزم۔ اب یہ امر باقی رہا کہ خلافت کا انعقاد کیونکر ہوتا ہے

کیا اس کے لئے انتخاب عام بشرط ہے کہ تمام اہل اسلام مشرق سے لے کر مغرب تک خلیفہ کے انتخاب میں شریک ہوں اور ان میں سے اکثر اس کی بیعت کر لیں یا کسی ایک شہر کے لوگ بھی اسے منتخب کر سکتے ہیں؟ یا جو نسا گروہ چاہے اسے منتخب کرے؟ اور خلیفہ وہی ہو گا جس کی بیعت پہلے کی جائے۔

اس ضمن میں ابن حزم کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ خلافت کا انعقاد تین میں سے ایک امر کی بنا پر ہوتا ہے یہ تینوں امور صحابہ کرام سے ماثور و منقول ہیں۔

امر اول :- اس ضمن میں صحیح تر اور افضل طریق یہ ہے کہ خلیفہ اپنی وفات سے پہلے کسی کو امام نامزد کر دے۔ خواہ وہ صحت کی حالت میں ایسا کرے یا بوقت وفات کیونکہ اس کی ممانعت کے بارے میں کوئی نص یا اجماع موجود نہیں۔

ابن حزم لکھتے ہیں :-

”بنی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کے ساتھ حضرت ابوبکر نے عمر فاروق کے ساتھ اور سلیمان بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز کے ساتھ اسی طرح کیا تھا ہماری رائے میں یہی وجہ مختار ہے اور دوسرے طریقے ناپسندیدہ ہیں۔ کیونکہ اس طریقہ کے مطابق دونوں خلفاء کے مابین کوئی مدت حائل نہیں ہوتی۔ اسلام اور اہل اسلام کا شیرازہ بکھرنے نہیں پاتا۔ بعد میں آنے والے خطرات کا انالہ ہو جاتا ہے اور امت کے شتر یے ہمارا انتشار پیدا ہونے اور حرص و طمع کے ظہور پذیر ہونے کا خطرہ باقی نہیں رہتا۔ مگر اس پر اعتراض وارد کیا جاتا ہے کہ یزید



اور سلیمان بن عبدالملک کو ولی عہد بنانے پر صحابہ و تابعین کرام نے اعتراض کیا تھا اگر یہ طریق صحیح ہوتا تو وہ اس پر معترض نہ ہوتے۔ ابن حزم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اعتراض ولی عہد بنانے پر نہ تھا بلکہ اس پر تھا کہ وہ دین و اخلاق کی بنا پر خلافت کے اہل نہ تھے اور علانیہ فساد پیا کرتے تھے۔

العقائد خلافت کی وجہ ثانی :- کئے بغیر فوت ہو جائے تو جو شخص خلافت کا اہل ہو اور اس کا کوئی حریف مقابل بھی نہ ہو، اسے چاہیے کہ لوگوں کو دعوت بیعت دے۔ ایسے شخص کی بیعت کر لینا اور اس کی امامت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اس ضمن میں ابن حزم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے فعل سے احتجاج کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں :-

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں یونہی کیا گیا تھا۔ جب حضرت زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ اور بعض دیگر شہید ہو گئے تو حضرت خالد نے کسی سے مشورہ کئے بغیر اسلامی جھنڈے کو مقام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے بھی اس کی تائید فرمائی اور تمام مسلمانوں نے بھی اس پر خوشنودی کا اظہار کیا۔

جب خلیفہ کی موت کے بعد اپنی خلافت کی دعوت دینے والے کی امارت صحیح ہے تو جو شخص منکرات و فواحش کے ظہور و شیوع کے وقت خلافت کا مدعی ہو گا اس کی خلافت کو بھی درست تسلیم کیا جائے گا۔

ابن حزم رقمطراز ہیں :-

”جو شخص ظہور منکرات کے زمانہ میں خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو تو بر و تقویٰ پر اس کی اعانت ضروری ہے اور اس سے پیچھے ہٹنا درست نہیں کیونکہ یہ ظلم تعدی کے ساتھ تعاون کرنے کے مترادف ہے۔“

مسئلہ زیر بحث میں افکار ابن حزم کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص خلافت کے شرائط پائے جانے کی بناء پر اس کا اہل ہو اور خلافت کی دعوت لے کر کھڑا ہو تو گویا وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ کیونکہ امت اسلامیہ میں انار کی درست نہیں کہ ان کا کوئی امام ہی نہ ہو۔ لہذا جو شخص بھی امامت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو سکتا ہو اس کی اعانت و اطاعت واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ناحق اس کے بعد خلافت کا مدعی ہو تو وہ امام عادل کے خلاف باغی کہلائے گا۔ اور اگر دوسرا مدعی خلافت کسی عام طور سے شائع و ذرائع امر قبیح کا ازالہ کرنا چاہتا ہے تو بھی ایک ایسا امام ہو گا جو آپ اپنی خلافت کی دعوت دے۔ لہذا اگر وہ شرائط خلافت کا حامل ہے تو اس کی اطاعت بھی لازم ہے اور یہ تعاون علی البتر کی وہ قسم ہے جس کا ذکر آیت کریمہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ ہیں ابن حزم کے نظریات! اس پر ہم اپنی رائے کا اظہار بعد میں کریں گے۔

العقاد کا تیسرا طریقہ :- ہے کہ امام کی موت کے بعد خلیفہ کے انتخاب کا معاملہ ایک شخص یا ایک سے زیادہ اشخاص کو سونپ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروقؓ نے اپنی موت کے وقت یہ نہیں کیا۔

ابن حزم فرماتے ہیں :-

”اس ضمن میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اجماع کو تسلیم کرنے سے چارہ نہیں۔ تین رات سے زیادہ انتخاب خلیفہ میں متردد رہنا درست نہیں۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے بغیر دو رات سے زیادہ بسر کرنے سے منع کیا ہے۔ نیز اس لئے کہ مسلمان اس سے زیادہ عرصہ تک بلا امام کبھی نہیں رہے اور اس میں مزید اضافہ کرنا ناروا ہے۔“

ابن حزم نے اس آخری طریقہ کے سامنے سر تسلیم جھکا دیا کیونکہ وہ اجماع صحابہ پر اعتراض نہیں کر سکتے تھے۔ صحابہ کرام کا اجماع ایک ایسی دینی حجت ہے، جسے اعتراض کی آماجگاہ نہیں بنایا جا سکتا بلکہ اس سے احتجاج ضروری ہے۔

جہاں تک دوسرے دونوں نظریات کا تعلق ہے ابن حزم بہر حال ان سے احتجاج کرتے ہیں۔ پہلے طریقہ پر اس وقت عمل کیا جائے گا جب خلیفہ کسی کو ولی عہد نامزد کر دے۔ ابن حزم کی نگاہ میں یہ طریقہ امت مسلمہ کی وحدت کے تحفظ کے لئے بڑا ہی مناسب ہے۔ دوسرا طریقہ اس وقت قابل عمل ہوگا، جب خلیفہ مرحوم نے کوئی عہد نہ کیا ہو۔ اس وقت امامت کا حق دار وہ ہوگا جو اپنے آپ کو اس منصب کے لئے پیش کرے بشرطیکہ وہ اس کا اہل ہو۔ اس کی خلافت منعقد ہونے کے بعد بیعت کا مطالبہ کرنے والا باغی کہلائے گا جب تک کہ پہلا خلیفہ عدل و انصاف پر قائم ہے۔

یہ ہیں انعقادِ امامت کے بارے میں ابن حزم کے افکار! ان کے بارے میں دو باتیں کہی جاسکتی ہیں۔

### افکار ابن حزم پر تبصرہ :-

امراول :- پہلی بات یہ ہے کہ عقد امامت کے ضمن میں بھی ابن حزم دیگر احکام شریعہ کی طرح ظاہری مسلک کے پابند تھے۔ ابن حزم نے جب تین امور پر صحابہ کے اجماع کو منعقد سمجھتے دیکھا تو وہ ان سے باہر نہ نکل سکے۔ صحابہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کے بارے میں وصیت فرمائی تھی۔ اسی طرح حضرت عمرؓ نے چھ جلیل القدر صحابہ کو خلیفہ انتخاب کرنے کے لئے مامور فرمایا تھا تا کہ خلیفہ ان میں سے ایک ہو پھر چاروں صحابہ نے یہ معاملہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو تفویض کیا۔ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ انتخاب امام کا کام ایک شخص کے سپرد کیا جاسکتا ہے اور زیادہ لوگوں کو بھی۔ پھر حضرت علیؓ دعویٰ خلافت لے کر کھڑے ہوئے اور کوئی صحابی ان پر معترض نہ ہوا بلکہ اکثر نے بیعت کر لی اور انہیں جمہور اہل اسلام کا خلیفہ قرار دیا۔

ابن حزم دیکھ چکے تھے کہ صحابہ نے ان دجوات کی بناء پر عقد امامت پر اجماع قائم کیا تھا لہذا ان کی نگاہ میں یہ تمام طریقے انعقادِ خلافت کے لئے درست ہیں۔ بلاشبہ ابن حزم کا نقطہ نظر قرین حق و صواب ہے مگر اتنی بات ہے کہ عقد امامت میں انہوں نے بیعت کو ملحوظ نہیں رکھا حالانکہ یہ تمام حضرات بیعت کے بعد ہی خلیفہ قرار پائے حضرت ابو بکرؓ نے اگرچہ حضرت عمرؓ کے بارے میں وصیت فرمائی تھی۔ تاہم آپ منصبِ خلافت پر اس وقت فائز ہوئے جب صحابہ نے آپ کی بیعت کی۔ حضرت عثمان کے بارے میں بھی یہی ہوا۔ حضرت عمرؓ نے چھ صحابہ کو مامور فرمایا تھا کہ اپنے میں سے ایک کو خلیفہ بنا لیں مگر حضرت عثمان خلیفہ اس وقت بنے جب صحابہ نے آپ کی بیعت کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس عہد کو ہم عقد امامت سے تعبیر نہیں

کر سکتے بلکہ امامت کا انعقاد بیعت سے ہوتا ہے۔ عہد کا مطلب صرف یہ ہے کہ مرحوم خلیفہ ایک شخص کی نشان دہی کر دیتا ہے یا چھ آدمی نامزد کر دیتا ہے اور وہ اپنے میں سے ایک خلیفہ چن لیتے ہیں اس نشان دہی کے بعد خلافت کا انعقاد بیعت سے ہوتا ہے۔

جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے انہوں نے خود اپنے آپ کو خلافت کے لئے پیش نہیں کیا تھا بلکہ تاریخ اسلام میں مذکور ہے کہ بعض صحابہ نے آپ کو دعوت خلافت دی تھی اور آپ نے اس پر لبیک کہا۔ خلافت کا انعقاد اسی وقت نہیں ہو گیا تھا جب آپ نے دعوت قبول فرمائی بلکہ بیعت کئے جانے کے بعد آپ خلیفہ قرار پائے۔

یہی وجہ ہے کہ ہم ابن حزم کی اس رائے کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ خلیفہ سابق کے انتخاب کرنے ہی سے خلافت و امامت کا انعقاد ہو جاتا ہے۔ سقیقہ بنی ساعدہ کے واقعے سے بخوبی عیاں ہے کہ حضرت ابوبکر اس وقت خلیفہ قرار پائے۔ جب حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر سے کہا کہ ہاتھ آگے بڑھا ئیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ بیعت کی تکمیل ہو جانے پر حضرت ابوبکر امیر المومنین اور نائب رسول کے منصب پر فائز ہوئے۔

ابن حزم پر ہمارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ان کی رائے میں جب منکرات کا دور دورہ ہو تو دوسرا شخص

امرتانی متعلق بہ انعقادِ خلافت :- اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ سابق ظہور منکرات اور اعلان فساد کی بناء پر خلیفہ نہیں رہے گا کیوں کہ اس میں خلافت کے شرائط کا فقدان ہے گویا امامت کا منصب اب خالی ہے اور دوسرے شخص سے اس کی خانہ پری ممکن ہے جو شخص خلیفہ ثانی سے تعاون کرتا ہے وہ بر و تقویٰ کا معین و مددگار ہے اور جو اس کی اعانت سے قاصر رہتا ہے وہ منکرات کا معاون ہے اور جو منکرات کا مددگار ہے وہ اثم و عار وان کا طرندار ہے۔

ابن حزم فرض کرتے ہیں کہ دونوں شخص بیک وقت جب دو شخص مدعی خلافت ہوں :- اپنی اپنی دعوت خلافت دے رہے ہیں۔ اندریں

حالت وہ یہ نہیں کہتے کہ جس کی اطاعت کرنے والے لوگ زیادہ ہوں وہی خلیفہ حق ہوگا بلکہ تقدیم زمانی کو ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شخص ایک لمحہ بھی دوسرے سے قبل دعوت خلافت دے گا وہی حامل خلافت گا اور دوسرا باغی ہوگا۔ اگرچہ دوسرا اس سے افضل یا اس

کی مثل یا اس سے کہتر ہو۔ جو شخص بھی اس سے نزاع پیا کرے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے خواہ وہ کوئی ہو۔

جب دو شخص بہ یک وقت منصب پر فائز ہوں اور اس امر کا پتہ نہ چل سکے، کہ سابق کون ہے تو اس پر اٹے زنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”جب دو یا دو سے زیادہ اشخاص بہ یک وقت خلافت کا دعویٰ لے کر اٹھ کھڑے ہوں اور ان میں سے سابق کا پتہ نہ چل سکے تو جو شخص زیادہ صاحب فضیلت

اور سیاست دان ہے اسے ترجیح دی جائے اور دوسرے کو اس منصب سے الگ کر دیا جائے۔ کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ بر و تقویٰ پر تعاون کیجئے اور اٹھ

عدوان میں کنارہ کش رہئے۔ ظاہر ہے کہ جو زیادہ سیاست دان اور صاحب عزت و شوکت ہے اس کی اطاعت ہمیں شامل ہے۔ اور اس سے قبل

کسی کی بیعت بھی نہیں ہوئی جسے پورا کرنا ضروری ہو۔ اور اس سے جھگڑنے والے کے خلاف نبرد آزما ہونا ناگزیر ہو۔ اگر فضیلت میں دونوں برابر ہوں تو جو

زیادہ صاحب رعب و شوکت ہے اسے مقدم سمجھا جائے۔ اگرچہ فضیلت میں کم درجہ ہو بشرطیکہ وہ فرائض و سنن کو ادا کرتا ہو کبائر سے احتراز کرتا اور صفائے

کو چھپاتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امامت کا مقصد حسن سیاست اور تنفیذ احکام کی قوت ہے۔ اگر فضیلت و سیاست میں مساوی ہوں تو دونوں میں قرعہ اندازی

کی جائے یا دونوں کو چھوڑ کر کسی اور شخص کو انتخاب کیا جائے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو حرج و ضیق میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔

قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:-

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ  
اس نے دین کے بارے میں تمہیں کسی تنگی میں مبتلا نہیں کیا۔

الحج - ۷۸

اور یہ تو بہت بڑی تنگی کی بات ہے۔

تلخیص مطالب :- یہ ہے ابن حزم کا نقطہ نظر ان دو اشخاص کے بارے میں جو بہ یک وقت

خلافت کا دعویٰ لے کر اٹھیں ابن حزم کی رائے میں خلافت کا مدار و مناطِ فضیلت و بیاست پر ہے۔ اولین مقام بیاست کو حاصل ہے۔ اگر بیاست میں برابر ہوں تو صاحبِ فضیلت کو مقدم رکھا جائے کیونکہ وہ دوسرے شخص کے ساتھ بیاست میں مساوی ہے مگر اس کی فضیلت کا پہلو نمایاں تر ہے لہذا فضیلت کی بنا پر اُسے حق تقدیم حاصل ہوگا۔ اگر بیاست میں متفاوت ہوں تو جو زیادہ بیاست دان ہے اس کو ترجیح دی جائے اگرچہ فضیلت میں اس کا مرتبہ کم ہو۔ بلکہ اگر وہ مستور الحال ہو اور اس کے عیوب نمایاں نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فرائض و سنن کی ادائیگی میں تغافل شعاری کا ارتکاب نہ کرتا ہو کباثر سے کنارہ کش رہتا ہو۔ اس کے صفات لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہوں تب بھی وہ قابلِ ترمیح ہے۔ اگر فضیلت و بیاست میں ہم پلہ ہوں تو فیصلہ قرعہ اندازی کی بنا پر کیا جائے۔

سابقہ بیانات سے یہ حقیقت آشکارا

العقائدِ خلافت میں بیعت کی اہمیت ہوتی ہے کہ ابن حزم بیعت کو چنداں

اہمیت نہیں دیتے اور نہ اسے انعقادِ امامت کی اساس قرار دیتے ہیں۔ بلکہ ان کی رائے میں مندرجہ ذیل آیت کی تمہیل کے پیش نظر بیعت رعایا کی اطاعت شعاری کے واجبات میں سے ہے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔

اے ایمان والو! اللہ، رسول اور اصحاب الامر کی اطاعت کیجئے۔ اگر تمہارے درمیان کسی بات میں تنازع پیدا ہو جائے تو اُسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ بشرطیکہ تم اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ  
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ  
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ  
الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ (النساء - ۵۹)

ابن حزم کے نزدیک بیعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں تعاون کرنے کے قبیل

سے ہے۔

خلفاء راشدین کے احوال کی جستجو کرنے والا شخص اس حقیقت سے آشنا ہے کہ اس دور میں بیعت انعقادِ خلافت کی اساس تھی۔ امام اور امت کے مابین یہ ایک معاہدہ تھا جس کی توثیق و استحکام کے لئے صلت اٹھایا جاتا تھا اور جس کی بناء پر دونوں فریق ایک التزام کی لڑی میں پروئے جاتے تھے جس کا نفاذ و قیام فریقین پر لازم ہوتا تھا۔ امام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلانے کی کوشش

کرتا اور امت رنج و راحت میں اس کی اطاعت کا دم بھرتی۔ بشرطیکہ وہ احکام خداوندی کی نافرمانی نہ کرتا۔ اگر وہ معصیت کا مرتکب ہوتا تو نہ اس کی بات کوئی سنتا اور نہ پیروی کرتا۔

چنانچہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا انعقاد بھی بیعت سے ہوا۔ جب انہوں نے حضرت عمر کو ولی عہد بنانا چاہا تو صحابہ کو اس سے آگاہ کیا اور اس وقت تک اس معاملہ کو نظر انداز نہ کیا جب تک اس پر اتفاق عام نہ ہو گیا، پھر بعد میں بیعت ہوئی۔

حضرت عثمانؓ کی خلافت کا انعقاد بھی یونہی ہوا۔ پہلے نامزدگی ہوئی تھی پھر جو عام صحابہ جمع تھے انہوں نے بیعت کر لی۔

امامت علی کا واقعہ اس امر کا روشن گواہ ہے کہ عقد خلافت میں بیعت اساس کا حکم رکھتی ہے۔ انہوں نے اہل مدینہ سے بیعت لی تھی ان کے پیش رو خلفاء بھی انہی سے بیعت لیا کرتے تھے۔ اہل مدینہ ہی نے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کی بیعت کی تھی۔ حضرت علی نے اہل مدینہ کی بیعت کو اس لئے کافی سمجھا کہ مدینہ اس وقت اولین صحابہ کا مرکز و ماویٰ تھا جو فضلاء امت اور اہل اسلام کے ارباب حل و عقد تھے۔ بخلاف ازبں حضرت معاویہؓ اور ان کے ہمنوا تمام مسلمانوں کی بیعت کو ضروری تصور کرتے تھے۔ اس سے انہیں وہ رخصت ہاتھ آگیا جس سے وہ حضرت علیؓ کی خلافت پر طعنہ زن ہوئے اور طرح طرح کے احوال گھرنے لگے۔ اور آخر کار خلیفہ عادل حضرت علیؓ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔

**بیعت میں اکثر فضلاء امت کی شرکت کافی ہے۔** جب یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ بیعت اجماع

صحابہ کرام کے مطابق خلفاء اربعہ کے عہد مبارک میں عقد خلافت کی اساس تھی تو یہ امر بھی نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے کہ فضلاء امت کا انتخاب خلیفہ میں شرکت کرنا بھی انہیں ضروری ہے۔ لہذا ہمیں یہ قول پسند ہے کہ امامت اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک تمام اسلامی بلاد و اعمار کے فضلاء امت خلیفہ کے انتخاب میں حصہ نہ لیں۔ ابن حزم اس قول پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں :-

«ایک فریق اس بات کا قائل ہے کہ خلافت اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک تمام بلاد اسلامی کے فضلاء امت اس پر اجماع نہ کر لیں»

پہیں اس آخری قول سے صرف جزئی سا اختلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں فضلائے امت کے اجماع کی شرط عائد کی گئی ہے حالانکہ اس میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک صرف یہی کافی ہے کہ اکثر فضلائے امت کے شریک بیعت ہونے سے خلافت کا انعقاد ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے وقت بھی یونہی ہوا۔ کیوں کہ آپ کی بیعت میں صرف اکثر فضلائے امت نے شرکت کی تھی۔ مہاجرین و انصار نے آپ کی بیعت کر لی تھی۔ البتہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیعت سے باز رہے تھے۔ حالانکہ ان کا شمار بھی فضلائے امت میں ہوتا ہے اور وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے مہاجرین کو ٹھہرایا اور ان کی امداد کی۔ حضرت عمر کی خلافت بھی حضرت سعد کی بیعت کے بغیر تکمیل پذیر ہو گئی۔ اسی طرح حضرت علی کی بیعت میں بھی اکثر فضلاء صحابہ شامل تھے۔

متذکرۃ الصدر بیان ہے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ بیعت میں تمام فضلائے امت کی شرکت ضروری نہیں بلکہ اکثر کا شامل ہونا کافی ہے۔ بات یہ ہے کہ عہد ابو بکر و عمر و عثمان میں فضلائے امت کی پہچان چنداں دشواری نہ تھی کیونکہ وہ صحابہ رسول تھے اور ہر شخص ان سے آشنا تھا۔ حضرت علی کے عہد میں ان کی معرفت حاصل کرنا خاصا دشوار ہو گیا کیونکہ اکثر صحابہ مفتوحہ علاقوں میں جا کر بس گئے تھے۔ تاہم اکثر صحابہ مدینہ میں سکونت رکھتے تھے اور انہی کی بیعت سے شہسوار اسلام حضرت علی کی خلافت منعقد ہو گئی۔

عصر صحابہ کے بعد فضلائے امت کی پہچان کوئی آسان کام نہیں۔ تابعین اور بعد کے علماء سے بھی کوئی ایسا طریقہ منقول نہیں جس سے فضلائے امت کی معرفت حاصل کرتے میں مدد مل سکتی ہو۔ اس لئے کہ امامت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد مارت سے شاہی میں تبدیل ہو گئی تھی اور اسے خلافت نبوت کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا اگرچہ فقہائے تابعین کے اقوال سے یہ استنباط کیا جا سکتا ہے کہ ان کی نگاہ میں علماء ہی فضلائے امت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر تابعین نے "اولی الامر" کی تفسیر علماء سے کی ہے۔

ان معلومات کی روشنی میں نیز نظم شوریٰ کی بنا پر ہم یہ بات کہنے لہذا حرم کی رائے پر تبصرہ۔  
 میں حق بجانب ہیں کہ فضلائے امت کا تقریباً تمام بلاد اسلامی میں سکونت رکھنے والوں کے انتخاب کا رہن منت ہے۔ ہر ملک کے رہنے والے فضلائے امت کے انتخاب میں آزاد ہیں۔ پھر انہی منتخب فضلاء کے ہاتھوں خلافت کا انعقاد ہوتا ہے اور اس ضمن میں بلا قید



ان کی اکثریت مطلقہ کو کافی تصور کیا جاتا ہے۔

اس سے یہ امر واضح ہوا کہ مسئلہ زیر نظر یعنی فضلائے امت کی بنا پر انعقادِ خلافت پر ابنِ حزم کی یہ تنقید درست معلوم نہیں ہوتی۔ ابنِ حزم اس قول پر تبصرہ کرتے ہیں۔

فضلائے امت کی بنا پر انعقادِ خلافت ایک تکلیف مالا یطاق ہے اور انسان کے بس کا روگ نہیں۔ اس میں بہت ہرج بھی پایا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔

قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:-

”مَا جَعَلُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ“  
(الحج - ۷۸)

تمہیں دین کی بنا پر کسی تنگی میں مبتلا نہیں کیا۔

اس میں تنگی و تکلیف کی کوئی بات نہیں بلکہ بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا کوئی نقصان بھی نہیں۔ نیز اس سے عدل و انصاف قائم ہوتا، مسلمانوں میں کامل تعاون کی تنظیم پیدا ہوتی اور اس شوریٰ کا تحقق ہوتا ہے جس پر اسلامی حکومت کا انحصار ہے۔

قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:-

”أَمْوَهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“ (شوریٰ - ۶۸)

وہ اپنے امور شوریٰ سے طے کرتے ہیں۔

عقدِ امامت کے بارے میں ابنِ حزم کے

اختیار کردہ دونوں نظریات اسلامی معاشرہ

ولی عہد نامزد کرنے کے نقصانات :-

کے لئے بے حد خطرناک ہیں۔ دونوں میں فساد پیدا ہونے اور نا اہل کے منصبِ خلافت پر فائز ہونے کا احتمال پایا جاتا ہے۔

امراول :- امراول یعنی خلیفہ سابق کے کسی کو ولی عہد بنانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت وراثت میں تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ شرق و غرب میں اموی خلافت وراثت پر مبنی تھی۔ ابنِ حزم اسی بات پر زحمت غور و فکر گزارا کرتے تو اس نظریہ کو قبول کرنے میں انہیں تردد ہوتا اور اسے خطرناک تصور کرتے۔ کیونکہ یہ نظریہ صرف وراثت ہی پر منتج نہیں ہوا بلکہ اس سے دو عظیم خطرات نے جنم لیا۔

پہلا خطرہ :- پہلا خطرہ یہ ہے کہ سابق خلیفہ بعض اوقات ایسے شخص کو ولی عہد بناتا جو صغر سنی ضعف قوت یا فسق و فساد کی بنا پر خلافت کا اہل نہیں ہوتا تھا۔ اس دور کے سلاطین و ملوک

شاہانہ اور مسرفانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ قوت، وحشت اور رعب و شوکت کے اعتبار سے کوئی مقام نہ رکھتے تھے بلکہ نسلاً بعد نسل ان کی طاقت کمزور ہوتی چلی جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی سلطنت کا شیرازہ بکھر جاتا اور نوکر چاکر تخت شاہی پر متمکن ہو جاتے۔ عنان سلطنت پر لونڈی غلاموں کا قبضہ ہو جاتا۔ ابن حزم یہ سب کچھ دیکھ کر اسے تاریخ کے اوراق میں قلمبند کر چکے تھے۔ مزید برآں ولی عہد نامزد کرنے کی کوئی دینی بنیاد نہیں۔ نہ عمل صحابہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ بلکہ اس بدعت کی ایجاد کا سہرا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سر ہے۔

دوسرا خطرہ :- ولی عہد نامزد کرنے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس سے استبداد کو شہ ملتی اور اسلامی حکومت کا مغز و جوہر یعنی شوریٰ کا عدم ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن میں وارد ہے "أَمْ لَهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ" میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ابن حزم نے اس آیت کریمہ کو کیونکر نظر انداز کر دیا۔

شوریٰ کے رخصت ہو جانے سے مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا اور وہ تعاون ہی باقی نہ رہا جس کی طرف وہ آیت دعوت دیتی ہے جس کے ساتھ ابن حزم بار بار استشہاد کر دیتے ہیں اور وہ یہ ہے۔

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - (المائدہ - ۲)

ظاہر ہے کہ کسی کے حکم سے مجبور ہو کر جو تعاون کیا جاتا ہے وہ اس رفاقت و اعانت کی طرح نہیں جو کسی مجبوری کے بغیر آزادانہ طور سے کی جائے۔ مثلاً سپاہی اگر میدان جنگ میں اطاعت شعاری کا ثبوت دیتا ہے تو وہ مجبور ہے۔ حکومت کے ساتھ تعاون و راصل یوں ہوتا ہے کہ سیاسی امور مشورہ سے طے کئے جائیں۔ اور باہم تبادلہ افکار کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت کو منجانب اللہ مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے،

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے :-

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا

عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

ان سے پیش آمدہ امور میں مشورہ کیجئے، جب آپ کوئی کام کرنے پر تامل جائیں تو خدا پر بھروسہ کیجئے

(آل عمران - ۱۵۹)

انعتقاد و خلافت سے متعلق ابن حزم کا دوسرا نظریہ :- ابن حزم نے انعتقاد و خلافت کے بارے میں جو دوسرا

پہلو اختیار کیا ہے وہ بھی وجہ اول سے کچھ خطرناک نہیں۔ بلکہ اسے تو انار کی سے تعبیر کرنا موزوں تر ہے۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ جو شخص بھی خلافت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو جائے اور وہ بشرائط خلافت کا حامل ہو تو اس کی خلافت کا انعقاد صرف دعویٰ کی بنا پر ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ تو یہ شخص کا دعویٰ ہو رہا ہے کہ اس میں خلافت کے شرائط پائے جاتے ہیں۔ پھر ابن حزم کا یہ کہنا کیونکر صحیح ہے کہ جو شخص دوسرے سے ایک لمحہ بھی پیشتر خلافت کا دعویٰ دار ہو گا، اس کے دعویٰ کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اگرچہ بعد میں خلافت کا دعویٰ لے کر اٹھنے والا اس سے زیادہ موزوں ہو۔ ابن حزم اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر فضلائے امت بھی دوسرے کے دعویٰ کو تسلیم کر لیں گے تو وہ گتہ گار ہوں گے۔ غالباً اس حدیث پر اعتماد کرتے ہیں۔

مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ  
وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَفْسِدَ قَوْمًا جَمَاعَتَكُمْ  
فَأَقْتُلُوهُ۔

جب تم ایک امیر کے تحت امن و سکون کی زندگی  
بسر کر رہے ہو اور کوئی شخص آ کر تمہارے شیرازہ کو منتشر  
کر دینا چاہے تو اسے قتل کر دو۔

مگر ان کا اعتماد اس باب میں ایک ایسی بات پر ہے جو اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ جب مسلمان ایک امیر کی ماتحتی میں کام کر رہے ہوں اور دوسرا ان میں تفریق پیدا کرنا چاہے تو اسے قتل کر دو۔ مگر سوال یہ ہے کہ صرف دعوت دینے سے وہ کیونکر امیر بن گیا۔ یہ تو بڑی اٹوکی بات ہے۔

ابن حزم کا نقطہ نظر اموی خلفاء اور اپنے عمر و عہد کے حالات پر مبنی تھا۔ وہ یہ بھول گئے کہ ان کا عصر و عہد اسلامی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ آپ کے عہد میں متعدد اموی اشخاص اٹھے جو سب کے سب خلافت کے دعویٰ دار تھے اور بھی اپنے آپ کو امیر المومنین کہتے تھے۔ وہ دوسروں کے خلافت نصاریٰ تک سے مدد لے لیتے تھے۔ اور اس پر طرہ یہ کہ یہ سب کچھ ایک مجدد و عرصہ میں ہوا۔ اسلامی سلطنت تہس نہس ہو گئی اور مسلمانوں میں خاتمہ جنگی کا ظہور ہوا۔ دانشمندیوں کی عبرت پذیری کے لئے یہی کافی ہے۔

## صحابہ میں فرق مراتب

ناصبیت کا اہتمام اور ابن حزم - ابن حزم نے صحابہ کے فرق مراتب پر ایک خاص رسالہ تحریر کیا۔ یہ رسالہ بعینہ کتاب الفصل

میں موجود ہے۔ ہم اس کے مشتملات کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا مقصود صرف یہ ذکر کرنا ہے کہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ - جن کو ابن حزم صحابہ میں شمار کرتے ہیں - کا مقام ابن حزم کی نگاہ میں کیا ہے؟ ابن حزم امویوں کے طرفدار تھے اور مشرق و غرب میں امویوں کی دونوں خلافتوں (خلافت بغداد و خلافت اندلس) کو درست تصور کرتے تھے۔ ابن حزم کا خیال ہے کہ اموی خلفاء حکام اندلس میں سب سے بڑھ کر تھے۔ ان کے دور سلطنت میں اندلس نے بڑی ترقی کی۔ اور خوب پھلا پھولا۔ جب اموی حکومت کا چراغ گل ہو گیا تو مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا اور وہ سیاسی اضطرابات کا شکار ہوئے۔ آخر کار دشمنان اسلام نے جو پہلے ہی ایسے موقع کی تاک میں تھے۔ اسلامی حکومت کو بٹیرپ کر لیا۔ حمایت بنی امیہ کے جرم

غلہ استاد سعید افغانی نے یہ رسالہ شائع کیا اور مقدمہ میں تفصیلاً ابن حزم کے حالات تحریر کئے رسالہ کی تصحیح ضبط نصوص اور اس میں ذکر کردہ رجال و اشخاص کی تاریخ انہوں نے بڑی عرق ریزی سے مرتب کی۔ یہ رسالہ بعینہ کتاب الفصل کی جلد چہارم میں موجود ہے اور صفحہ ۱۱۱ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ توافق و توارد اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ کتاب الفصل دراصل چند رسائل کا مجموعہ ہے۔ ہر رسالہ کا ایک خاص جدا گانہ موضوع ہے۔ بعد میں ابن حزم نے چاہا کہ ان رسائل کو ایک کتاب میں جمع کر دیں۔ چنانچہ ان کی جمع و تالیف کے بعد اسے کتاب الفصل کا نام دیا جو اس کے اصل کی طرف مشیر ہے۔ الفصل کے معنی اس ٹکڑے کے ہیں جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے جسے کھجور کا درخت ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ بوردیا جاتا ہے۔ ان جدا گانہ رسائل کے مجموعہ کو بعد از ترتیب و تہذیب اس نام سے موسوم کیا جس سے اس کی اصلی حالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے

(عصفت)

میں ابن حزم پر یہ بہتان طرازی کی گئی کہ آپ ناصبی ہیں اور حضرت علیؑ اور ان کی اولاد سے عداوت رکھتے ہیں۔ رسالہ مذکور میں ایسی تصریحات موجود ہیں جن سے اصل حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے اور پتا چل جاتا ہے کہ ابن حزم کے فیصلہ کی اساس کیا چیز تھی۔

ابن حزم فرقہ ہائے مختلفہ اور ان کے علماء کے اقوال افضل الامت کون ہے؟ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

بعدا امت میں افضل ترین کون ہے۔

۱۔ بعض حضرت علیؑ کو افضل سمجھتے ہیں۔

۲۔ بعض حضرت عمرؓ بن خطاب کو۔

۳۔ بعض جعفر بن ابی طالب کو۔

۴۔ اور بعض حضرت ابو بکرؓ کو۔

حضرت ابو بکرؓ کی افضلیت اکثر علماء کا مذہب ہے۔ ابن حزم مسئلہ زیر نظر میں واؤدین خلف اصیہانی کا قول نقل کرتے ہیں۔

”انبیاء علیہم السلام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل صحابہ رسول ہیں صحابہ میں

سے افضل تر مہاجرین اولین ہیں۔ پھر اولین انصار کا مرتبہ ہے پھر ان کے

بعد کے لوگ میں کسی مخصوص شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے طبقہ میں

سب سے افضل تھا۔ متقدمین میں سے بعض علماء اسی کے قائل تھے۔ یوسف بن

عبداللہ بن عبدالبر نے متعدد مرتبہ یہ بات کہی کہ ان کا قول اور عقیدہ بھی یہی ہے

اس نظریہ میں اشخاص کی بجائے طبقات کی تفصیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہر طبقہ کا

ایک خاص مقام ہے اور ہر صحابی اپنی جگہ افضلیت و عظمت کا حامل ہے۔ مگر ابن حزم اس نظریہ سے

متفق نہیں حالانکہ اس کی بنا پر تفصیل شخصی کے تنازعات سے نجات ملتی ہے کیونکہ شخصی تفصیل سے

اس صحابی کے طبقہ کے دوسرے لوگوں کی توہین و تحقیر کا پہلو نکلتا ہے۔

ابن حزم کی رائے میں رسول اللہ کے بعد اہل بیت المومنین کا مرتبہ ہے۔ ان کے قریب

قریب خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیقؓ کا مقام ہے پھر حضرت عمرؓ کا اس کے بعد دیکرے

وہ چیدہ و برگزیدہ صحابہ کا نام بنام تذکرہ کرتے ہیں۔

ذکر کردہ صحابہ کی عظمت و فضیلت کا اظہار کرنے کے بعد دیگر  
افضیلت کا معیار :- صحابہ کی فضیلت جانچنے کے لئے وہ ایک معیار مقرر کرتے  
 ہیں تاکہ کسی پر ظلم زیادتی نہ ہو اور ایک ہی ترازو میں سب کو تولایا جائے۔  
 وہ فضیلت کو دو قسموں میں منقسم کرتے ہیں :-

۱۔ خصوصی فضیلت۔

۲۔ فضیلت بنا پر عمل۔

جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے اس میں سبھی انسان شریک ہیں کیونکہ خصوصی فضیلت خدا  
 کا عطیہ ہے اور اس کے بارے میں خدا سے کوئی محاسبہ نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے فلاں کو  
 فضیلت کیوں عطا کی۔ خصوصی فضیلت کی مثال وہ عظمت و جلالت ہے جو خدا نے ملائکہ کو بخشی۔  
 انبیاء کو آغاز آفرینش ہی سے دوسروں سے افضل پیدا کیا۔ مکہ کو دیگر شہروں کے مقابلہ میں فضیلت  
 عطا کی۔ ماہ رمضان دوسرے مہینوں کے مقابلہ میں افضل ہے۔ ناقہ صالح دوسری اونٹنیوں  
 سے بڑھ کر تھی۔ وغیرہ وغیرہ۔

فضیلت کی دوسری قسم جزائے اعمال میں زیادتی پر مبنی ہے۔ اس کے جانچنے کے لئے  
 بروز قیامت اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ جس کے اعمال صالحہ کا پلٹا اوزنی ہوگا وہی دوسروں کے  
 مقابلہ میں افضل قرار پائے گا۔ اسباب ترجیح سات امور ہیں :-

۱۔ ترجیح اعمال پر مبنی ہوگی مثلاً فرائض و نوافل مکمل طور پر ادا کئے گئے ہیں۔

۲۔ اعمال میں خلوص یا عدم خلوص کی بناء پر مثلاً اعمال میں متود و نمائش کی آمیزش ہو۔

۳۔ رتبہ کی بناء پر باری طور کہ کوئی شخص حقوق و واجبات کو ادا کرتا اور مہنیا سے ہار رہتا

ہو۔ واجبات کی ادائیگی میں سب کو یکساں تصور کرتا ہو اور ان میں کسی تقدیم یا تاخیر کا

قائل نہ ہو۔ یا تو اس سے ماضی میں کبیرہ کا صدور نہ ہوا ہو۔ اگر ہوا تو اس سے توبہ کر چکا ہو۔

۴۔ ترجیح زمانہ کے اعتبار سے بھی ہوگی۔ مثلاً ایک شخص کسی مخصوص نماز کے واجبات کو ادا کرتا ہو

جیسے صدر اسلام میں صحابہ کرام نے کفار کی اذیت پر صبر سے کام لیا تھا یا قحط سالی کا زمانہ ہو

اور وہ اس زمانہ کے واجبات دینی ادا کرنے میں قاصر نہ ہو۔ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری

کرتا اور فریاد چاہنے والوں کی قریادرسی کرتا ہو۔

۵۔ ترجیح عمل کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً دو شخص واجبات کے ادا کرنے میں برابر ہوں۔

مگر ایک نقل زیادہ پڑھتا ہو۔

۶۔ تزجیح حکم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایسے مقام پر واجبات ادا کرتا ہو جہاں ان کی ادائیگی دشوار ہے۔ یا اس جگہ میں تقدس و طہارت پائی جاتی ہو۔  
۷۔ اصناف و نسبت کے لحاظ سے بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً نبی کی رفاقت و معیت میں شرعی اعمال بجالانا اور اس کی صحبت سے مستفید ہونا۔

انبیاء کے بعد ازواجِ النبویہ کا مرتبہ و مقام۔ ابنِ حزم فضیلت کے معیار و مدار کی تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انبیاء کے

بعد ازواجِ النبویہ کا مرتبہ ہے۔ کیونکہ ان میں خصوصیت کے دونوں اسباب موجود ہیں۔  
(۱) خدا کی عطا کردہ خصوصیت (۲) کثرت عبادات۔

پہلی فضیلت کی بنیاد یہ ہے کہ خدا و تدکیم نے ان کو ازواجِ النبویہ بنانے کے لئے منتخب کیا اور انھیں قریب و جوار میں رہنے کی سعادت بخشی۔

دوسری فضیلت کی حامل اس لئے ہوئیں کہ وہ عبادت گزار، نیک اور صبر کرنے والیاں تھیں ان کے اعمال بھی سب سے زیادہ تھے۔

خلاصہ کلام فضیلت کے دونوں اسباب جمع ہو گئے اور وہ عمل صالح اور خدا کی عطا کردہ خصوصیت ہے۔

تمام مردوں اور عورتوں پر اہانت المؤمنین کی فضیلت ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ازواجِ النبویہ انھیں کی بیٹیوں سے بھی افضل ہیں۔ انھیں کی ہر بیوی آپ کی طہت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر فضیلت رکھتی ہے۔ انھیں کے ارشاد گرامی کہ "فاطمہ زمانہ بھیر کی عورتوں کی سردار ہیں" تشریح کرتے ہوئے ابنِ حزم لکھتے ہیں۔

"حدیث نبوی کے الفاظ پر غور کرنا چاہئے۔ ظاہری الفاظ کا تقاضا ہے کہ اس میں حضرت فاطمہ کی سیادت کا ذکر ہے نہ کہ فضیلت کا۔ اختلاف ازیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق جو حدیث وارد ہوئی ہے اس میں صراحتاً فضیلت کا ذکر ہے"

ارشاد نبوی ہے :-

” وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ  
كَفَضْلِ الشَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ ”

حضرت عائشہ عورتوں پر یوں فضیلت رکھتی  
ہیں جیسے شوربامیں بھگوئی ہوئی روٹی باقی  
کھانوں سے افضل ہے۔

بیادت اور فضل و والگ چیزیں ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ حضرت فاطمہ آنحضرت  
کے گھر میں جنم لینے کی بناء پر سب عورتوں کی سردار ہیں۔ گویا بیادت شرف و مجد کے  
قبیل سے ہے نہ کہ فضیلت کے باب سے۔ لہذا دونوں حدیثوں میں سرے  
سے کوئی تعارض ہی پایا نہیں جاتا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

یہ ہیں ابن حزم کے انکار  
تفضیل ازواج البنی میں ابن حزم سے اختلاف :-

آراء ابن حزم نے بیادت  
فضل کے درمیان جو فرق بیان کیا ہے میں اسے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
نے توحب و نسب پر فخر کرنے سے منع فرمایا تھا اور واشکافات الفاظ میں اپنی بیٹی سے کہہ دیا  
تھا کہ میں عذاب خداوندی کو تجھ سے باز نہ رکھ سکوں گا۔ لہذا یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ آپ بیادت  
سے دینی شرف و مجد کے علاوہ کچھ اور مراد لیتے ہوں اور آپ کی نگاہ میں اس کا مفہوم تقویٰ کی  
بناء پر فضیلت حاصل کرنے کے علاوہ کوئی چیز ہو۔ یہ امر محتاج بیان نہیں کہ حضرت فاطمہ نے عہد  
نبوت میں تربیت پائی تھی اور آپ کی گود میں پلیں، بڑھیں۔ لہذا یہ بے حد ضروری ہے کہ  
آپ کامل ترین دینی اخلاق کی حامل ہوں گی تاکہ باقی عورتوں کے لئے آپ کی ذات نمونہ  
بننے کے قابل ہو۔ آپ کو جو فضیلت دیگر خواتین پر حاصل ہے۔ اس کی وجہ عمل کے سوا اور کچھ  
نہیں۔ جس حدیث میں حضرت عائشہ کی فضیلت کا ذکر ہے اس میں یہ مذکور نہیں کہ آپ تمام  
خواتین یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کے مقابلہ میں بھی افضل ہیں جن کے بارے میں حضرت عائشہ  
نے فرمایا تھا کہ وہ دوسری عورتوں کی طرح گالیاں بھی نکالتی ہیں۔

میں اس ضمن میں ابن حزم کا ہمتا نہیں ہوں اور ان کے اس قول کو حمایت بنوامیہ اور مخالفت  
شیعہ پر محمول کرتا ہوں۔ کیونکہ شیعہ حضرت علی و فاطمہ کی فضیلت کے قائل ہیں۔ ابن حزم نے یہ ثابت



کرنا چاہا کہ یہ دونوں اولین فضیلت کے حامل نہ تھے بلکہ اس دور میں ابن سے افضل لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت فاطمہ کی فضیلت پر شیوہ کو بڑا فخر ہے ابن حزم کہتے ہیں کہ جلد ازواج البنیٰ ان پر فضیلت رکھتی تھیں۔

ابن حزم حضرت فاطمہ کی فضیلت میں متردد ہیں۔ مگر ایک عجیب بات جو عمر کی جانب منسوب ہے بڑی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں حالانکہ اس بات کی حضرت عمر کے اقوال و اعمال سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ حضرت عمر کی جانب یہ قول منسوب ہے۔

« حضرت ابوبکر، حضرت معاویہ سے بہتر اور افضل تھے مگر معاویہ شرف و سیادت میں ان پر فوقیت رکھتے تھے۔

بلاشبہ حضرت عمر کے منہ سے یہ الفاظ صادر نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ حضرت عمر سیادت کو نسب پر مبنی قرار نہ دیتے تھے۔ بلکہ ان کی نگاہ میں سیادت و شرف کا معیار عمل ہے۔ اولاً حضرت عمر وہ شخصیت تھے کہ جب ابوسفیان، بلال اور عمار رضی اللہ عنہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بلال اور عمار کو اجازت دے دیتے ہیں مگر ابوسفیان کو شرف باریابی نہ بخشا۔ بھلا آپ یہ کیونکر کہہ سکتے تھے کہ معاویہ سیادت میں ابوبکر پر فوقیت رکھتے ہیں۔ حضرت عمر دین و اخلاق کے اس سے زیادہ خرمیں تھے کہ وہ ایک ایسی بات کہتے جس سے کسی شخص کو یہ وہم گذرتا کہ جو لوگ دورِ جاہلیت میں رئیس سمجھے جاتے تھے وہ اسلام میں بھی رئیس ہیں یہاں تک کہ وہ فضل و سیادت میں حضرت ابوبکر سے بھی متصادم ہوتے ہیں۔ بے شک سردار حضرت ابوبکر ہی تھے مگر ابن حزم حمایت بنی امیہ کی دھن میں بڑی آسانی سے ایک ایسی روایت کو بھی قبول کر لیتے ہیں جو منسوب الیہ یعنی حضرت عمر ایسے صاحب بصیرت و فراست کے اخلاق کے بھی منافی تھی۔

**حضرت ابوبکر افضل الامت تھے۔** ابن حزم ازواج البنیٰ کے بعد ابوبکر کو افضل الامت قرار دیتے اور ان کو حضرت علی پر بھی

فوقیت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے حضرت علی کی نسبت جہاد میں زیادہ حصہ لیا تھا۔ بکی اور مدنی زندگی میں حضرت ابوبکر و عمر نے زبان و عمل کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ بخلاف انہیں حضرت علی نے مدینہ میں صرف تلوار سے جہاد کیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جہاد لسانِ حجت و یر بان قتال سیف و دنان سے کم درجہ نہیں ہے۔ ابن حزم یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت علی سے زیادہ علم رکھتے تھے پھر اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن حزم یہ بھی کہتے ہیں کہ آنحضرت

کے بعد حضرت ابو بکرؓ صرف اڑھائی سال زندہ رہے اور حضرت علیؓ تیس برس۔ اڑھائی سال کا مقابلہ جب تیس سال سے کیا جائے تو حضرت ابو بکر کے فتاویٰ و روایات کا تناسب حضرت علی سے بڑھ جاتا ہے۔ ابن حزم پھر اس کے درپے اثبات ہوتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی سے بڑے قاری اور متقی تھے۔ آپ نے اپنے اقارب میں سے کسی کو عامل نہ بنایا، جب کہ حضرت علیؓ نے اپنے چچا حضرت عباسؓ کی اولاد کو والی بنایا تھا۔ یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ حضرت علیؓ کی نسبت صدقہ دینے میں بڑھ کر تھے۔ نیز حضرت ابو بکر سابق الاسلام بھی تھے۔

**حضرت ابو بکر و علیؓ کے عہد و عہد کا موازنہ**۔ پھر ابن حزم ثابت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ حضرت علیؓ کے

مقابلہ میں بڑے سیاست دان تھے۔ بلاشبہ یہ درست ہے مگر اس سے بڑھ کر ابن حزم حضرت معاویہ کی غلطیوں کا ذمہ دار حضرت علیؓ کو ٹھیراتے ہیں حالانکہ حضرت معاویہ نے مسلمانوں میں تفریق پیدا کی تھی اور ان کا شیرازہ منتشر کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر کے بائے میں اپنا خیال حامل صدق مقال بیان فرماتے ہیں۔

”حضرت ابو بکر نے فارس و روم کی گزینیں جھکا دیں۔ ان کی سرحدیں سکڑ کر رہ گئیں۔ جھنڈے سرنگوں ہو گئے۔ اطرافِ ارضی میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ کفر اور اہل کفر سوا ہو گئے۔ مسلمانوں کا فقر و فاقہ رخصت ہو گیا، جو ذلیل تھے معزز ہو گئے، فقیر غنی ہو گئے۔ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن پڑھنے لگے اور دین اسلام کا فہم و شعور حاصل کیا۔“

حضرت علیؓ کے عہدِ خلافت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”حضرت علیؓ کا دورِ خلافت صدیقی خلافت کے عین برعکس تھا۔ مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا، باہم ایک دوسرے کو قتل کرنے اور ان کے سینوں کو نیزوں سے چیرنے چھاڑنے لگے۔ ہزاروں مسلمان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دور میں کافروں کی ایک بستی بھی فتح نہ کی جاسکی بلکہ انہوں

نے مسلمانوں کے مفتوحہ علاقے واپس لے لئے۔ اہل اسلام ہیں وہ انتشار پھیلا

کہ وہ آج تک ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہ ہو سکے۔

بے شک ابن حزم کی یہ بات درست ہے مگر اس کی ذمہ داری حضرت معاویہ اور ان کے اعوان و انصار پر عائد ہوتی ہے۔ اس میں حضرت علی کی سیاست دانی کا کوئی قصور نہیں۔ بلکہ ان کا عہد صدیقی دور کے مقابلہ میں شرف و شہب سے لبریز تھا۔ اگر حضرت ابوبکر امیر معاویہ کے زمانہ تک زندہ رہتے اور مرتدین کے ساتھ اسی طرح شدت کا برتاؤ کرتے جیسے انہوں نے کیا تھا تو حضرت معاویہ اور ان کے والد آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے۔ مگر اصلیت یہ ہے کہ صدیقی عہد خلافت عمر و ابو عبیدہ خالد، سعد بن ابی وقاص اور ان انصار کرام کا دور تھا جنہوں نے دین اسلام کی نفرت و تائید کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا تھا اور فتح مکہ کے دن اسلام لانے والوں یا ان کی اولاد میں سے کوئی ان کا مخالف نہ تھا۔

اس شرانگیزی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے صاحب حق (حضرت علی) کے خلاف بغاوت نہیں کی بلکہ مخالفت حق کا ارتکاب کیا تھا۔ چونکہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی کے عہد و عہد کے مابین بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ لہذا ان کا موازنہ بے سود ہے۔ اس مخالفت کی ذمہ داری حضرت معاویہ اور ان کے رفقاء کے کندھوں پر ہے جنہوں نے باطل پر آپ کی حمایت کی۔

باہمی موازنہ سے ابن حزم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ

**صحابہ کرام کی افضلیت کی ترتیب :-** حضرت ابوبکر افضل الامت تھے۔ اسی طرح

وہ حضرت عمر فاروق کی افضلیت ثابت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ابن حزم کے ہمنا ہیں اگرچہ حضرت علی کے خلاف بعض عباراتوں سے ہمیں اختلاف ہے۔ ابن حزم شیخین (حضرت ابوبکر و عمر) کی افضلیت کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ کرتے ہیں جس سے ہمیں بھی اختلاف نہیں۔ پھر حضرت عثمان و علی کے مابین موازنہ کرتے اور اس میں توقف سے کام لیتے ہیں۔

فرماتے ہیں :-

”ہمارے جی میں یہ بات آتی ہے اگرچہ ہم اسے حتمی اور قطعی نہیں کہہ سکتے اور اس

کی خلاف ورزی کرنے والے کو خطا کار قرار نہیں دیتے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان

حضرت علی سے افضل تھے۔ واللہ اعلم۔ اس تردد کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں اکابر کے فضائل باہم قریب قریب ہیں۔

یہ اقتباس اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ ابن حزم حضرت علی کے مقابلہ میں حضرت عثمان کی افضلیت کا صحتی فیصلہ صادر نہیں کرتے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق کے بعد مہاجرین میں سے کسی کی افضلیت دوسروں کے مقابلہ میں بیان نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں:-

”حضرت عمر فاروق کے بعد ہم مہاجرین اولین کی فضیلت مطلقہ کے قائل ہیں مگر ایک کو دوسرے کے مقابلہ میں افضل نہیں کہتے۔ مثلاً حضرت عثمان بن عفان و عثمان بن مظعون و علی و جعفر و حمزہ و طلحہ و زبیر و مصعب بن عمیر و عبد الرحمن بن عوف و غیر ہم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر ان کے بعد بیعت عقبہ والوں کا مرتبہ ہے۔ پھر اہل بدر پھر مختلف غزوات میں شرکت کرنے والے۔ جو غزوات پہلے وقوع پذیر ہوئے ان میں شرکت کرنے والے بعد کے مجاہدین سے افضل ہیں صلح حدیبیہ تک یہی ترتیب ہوگی۔ ذکر کردہ تمام مہاجرین و انصار کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ یہ سب مومن صالح تھے یہ ایمان و ہدایت پر فوت ہوئے یہ سب جنتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔“

ابن حزم ناصبی نہ تھے:- اس اقتباس سے دو باتوں کا پتا چلتا ہے

اول یہ کہ ابن حزم ازواج البنیٰ اور شیخین کی افضلیت ثابت کرنے کے بعد صحابہ کی افضلیت میں کوئی ترتیب قائم نہیں کرتے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوتی کہ غزوات البنیٰ جس ترتیب کے مطابق وقوع پذیر ہوئے ان میں شرکت کرنے والوں میں بھی فضیلت کی وہی ترتیب ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ بدری صحابہ اُحد والوں سے افضل ہیں اور یوں تو فضیلت سب میں پائی جاتی ہے اور بیعت الرضوان میں شمولیت کرنے والے صحابہ تک سب قطعی جنتی ہیں۔ بعد میں آنے

والوں کا مرتبہ اس سے کم ہے اور ان کے متعلق کوئی قطعی نص موجود نہیں کہ وہ جنتی ہیں اور دوزخ میں نہیں جائیں گے۔

ان بیانات سے روز روشن کی طرح یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابن حزم حضرت علی سے عداوت نہیں رکھتے تھے اور نہ وہ ناصبی تھے۔ جو حضرت علی اور ان کی آل کے دشمن ہوتے ہیں۔ البتہ شیعہ کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا مستعدانہ تھا۔

---

## فقہ ابن حزم

ابن حزم کے امتیازی افکار۔ فقہ ابن حزم کا ایک جداگانہ انداز ہے۔ ابن حزم کے بعض فقہی افکار فقہ ہائے اربعہ میں ملتے ہیں نہ کسی دوسری فقہ میں اکثر حالات میں ان کے امتیازی افکار منقولات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں ہم ایسے افکار کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔

۱۔ ایک شخص جو مرض الموت میں مبتلا ہے اس کو تصرفات کا حق اسی طرح حاصل ہے جیسے تندرست آدمی کو دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

۲۔ عورت اپنے خاوند کے مال سے صدقہ کر سکتی ہے۔

۳۔ جب وصیت میں کسی کا نقصان ہوتا ہو یا گناہ کی موجب ہو تو قاضی اسے کالعدم قرار دے سکتا ہے۔

۴۔ قاضی فوت شدہ شخص کی وصیت کسی غیر وارث قریبی کے حق میں ایک خاص حد تک نافذ کر سکتا ہے۔

وصیت واجبہ کے ضمن میں ابن حزم کا اعتماد اسی قانون پر ہے۔ ہم آگے چل کر اس کی تشریح کریں گے کیونکہ یہ ہمارے قانون کی اس جزو کے لئے اصل و بنیاد کا حکم رکھتا ہے۔

ابن حزم طہارت کے ایک اہم مسئلہ میں جمہور فقہاء کے خلاف ہیں۔ وہ جنبی، حیض دار اور نفاس والی عورت کے لئے قرآن کا چھونا اور پڑھنا جائز قرار دیتے ہیں۔ بے وضو کے لئے تلاوت قرآن تو بالادنی جائز ہوگی۔ فقہاء اس کی حرمت میں جتنے دلائل پیش کرتے ہیں ابن حزم ان کا بطلان ثابت کرتے ہیں۔ غرضیکہ ایسے مسائل بہت سے ہیں ہم آگے چل کر ان کے بعض منفرد نظریات بیان کریں گے۔

بنابرین فقہ ابن حزم کا مطالعہ

ابن حزم کا طریق استنباط ائمہ اربعہ سے مختلف ہے۔ اس نقطہ نگاہ کے پیش نظر

ہے کہ وہ کن ایسے مسائل میں منفر د تھے جو فقہ ہائے اربعہ کے خلاف ہیں۔ بلکہ بعض ایسے مسائل سے بھی اختلاف رکھتے تھے جو تقریباً اجماعی ہیں۔

ابن حزم کا نقطہ نظر ائمہ اربعہ سے صرف فقہی فروعات ہی میں مختلف نہیں بلکہ استنباط کے طرز و مہاج میں بھی ان کی راہ الگ ہیں۔ ائمہ اربعہ کا اعتماد استنباط مسائل میں کتاب و سنت اجماع اور قیاس پر ہے البتہ قیاس کے بارے میں مختلف اخیال ہیں۔ بعض کا زاویہ نگاہ تنگ ہے بعض وسعت پیدا کرتے ہیں۔ امام شافعی قیاس سے آگے نہیں بڑھتے امام ابو حنیفہ قیاس کے ساتھ ساتھ عرت و استحسان کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں۔ امام مالک مصالح مرسلہ اور سد الذرائع کے قائل ہیں اور اس طرح فقہ کا ایک کبھی خشک نہ ہونے والا چشمہ کھول دیتے ہیں۔ ابن حنبل کا طرز و انداز امام مدینہ امام مالک کے لگ بھگ ہے۔ مگر امام احمد ابن حنبل ایک ایسے دور میں منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ جب احادیث رسول اور اقوال صحابہ و تابعین کتابوں میں مدون ہو چکے تھے۔ منقول و ماثور فقہ کے یہ مجموعے قیاس و رائے سے بے نیاز کر دینے والے تھے۔ تاہم امام احمد نے اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا اور اسے بند نہ کیا۔ ان کے اجتہاد میں رائے و قیاس کا بڑا دخل تھا اور ان کی رائے کا دامن بڑا وسیع تھا۔ یہ ہیں ائمہ اربعہ کے مناجع و مسائل! بخلاف ازیں ابن حزم کا اعتماد کتاب و سنت اور اجماع پر ہے۔ وہ صراحتاً یہ بات کہتے ہیں کہ کسی شخص کی تقلید کرنا نہ مانہیں خواہ وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ ہم آگے چل کر اس پر تبصرہ کریں گے۔ اس کے برعکس چاروں ائمہ اقوال صحابہ سے احتجاج کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور مالک نے بھی یوں ہی فرمایا۔ امام شافعی نے اپنی کتاب کتاب الرسالہ میں اس کی تائید کی۔ امام احمد بھی اقوال صحابہ سے احتجاج کرتے ہیں اور انہی پر ان کی فقہ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔

ان بیانات سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ابن حزم کا طرز استنباط ائمہ اربعہ کے مناجع سے مختلف تھا۔ آپ کی فقہ کو فقہ ظاہری سے موسوم کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ ظواہر کتاب و سنت پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے علل تلاش نہیں کرتے تاکہ دیگر مسائل کو ان پر قیاس کیا جائے جیسا کہ ائمہ اربعہ کی فقہ کا اندازہ ہے اور انہی اصولوں پر ان کی فقہ مبنی ہے۔ اس کے برعکس فقہائے اربعہ نصوص کو پڑھتے اور ان سے احکام اخذ کرتے ہیں۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ

ظواہر نصوص سے احتجاج :- ہے کہ ابن حزم کا طرز استنباط ائمہ اربعہ کے مناجع سے مختلف تھا۔ آپ کی فقہ کو فقہ ظاہری سے موسوم کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ ظواہر کتاب و سنت پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے علل تلاش نہیں کرتے تاکہ دیگر مسائل کو ان پر قیاس کیا جائے جیسا کہ ائمہ اربعہ کی فقہ کا اندازہ ہے اور انہی اصولوں پر ان کی فقہ مبنی ہے۔ اس کے برعکس فقہائے اربعہ نصوص کو پڑھتے اور ان سے احکام اخذ کرتے ہیں۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ

نصوص سے علت کا استخراج کرتے ہیں اور جہاں وہ علت پائی جاتی ہے وہاں وہی حکم جاری کر دیتے ہیں۔ اس طرح علت میں عموم پیدا ہو جاتا ہے اور جہاں نص نہیں ہوتی وہاں بھی اس کا حکم جاری کر دیا جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اس فقہی قیاس کی ہو جاتی ہے جس پر فقہا اربعہ کا تعامل ہے اور ان کے نزدیک وہ بدیہیات میں سے ہے۔ کیونکہ اس کی بنا پر ایک ساری اور مماثل کا حکم دوسرے مشابہ و مماثل کے لئے ثابت کیا جاتا ہے۔

اس کے برخلاف ابن حزم براہ راست نصوص سے احکام اخذ کرتے ہیں اور ان میں علت تلاش نہیں کرتے۔ اسی لئے ان کے طرز استنباط کو منہاج ظاہری یا فقہ ظاہری سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب ہم فقہ ظاہری کی مختصر تاریخ قلمبند کرتے ہیں۔



## فقہ ظاہری کا ظہور

اور

## سز زین ائڈلسن کی طرف انتقال

فقہ ظاہری میں ابو سلیمان داؤد بن علی بن خلف جو بغداد میں سکونت  
داؤد بن علی - پذیر تھے اور نسیاً اصہبانی تھے ابن حزم کے پیش رو تھے۔ آپ کی ولادت  
 سن ۲۰۰ یا ۲۰۱ میں ہوئی۔ آپ تلامذہ امام شافعی اور آپ کے اکثر اصحاب سے مل  
 چکے تھے۔ امام شافعی سے آپ کو بڑی عقیدت تھی۔ ان کے فضائل پر آپ نے ایک کتاب  
 بھی تصنیف کی۔ اپنے زمانہ کے محدثین سے استفادہ کیا۔ بغدادی محدثین کے سامنے  
 زانوئے ادب تہ کیا۔ اور طلب علم میں دوسرے شہروں کی سیاحت کی۔ نیشاپور کے محدثین  
 سے بھی استفادہ کیا۔ آپ بڑے فصیح اللسان قوی الحجّت اور حاضر جواب تھے۔ اپنے معتقدات  
 کے اعلان میں کسی سے مرعوب نہ ہوتے۔ خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں :-  
 "ہمیں محمد بن عبد الحافظ نے بتایا کہ انہوں نے ابو عمرو متعلیٰ کی یہ تحریر پڑھی  
 کہ میں نے داؤد بن علی اصہبانی کو سنا وہ اسحاق بن راہویہ کی تردید کر رہے  
 تھے۔ حالانکہ میں نے اس سے قبل اور بعد کسی شخص کو نہ دیکھا کہ ان کے رعب  
 کی بناء پر ان کی تردید کر سکتا ہو۔"

حاضر جواب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بڑے دانشمند اور صاحب فہم و شعور بھی تھے  
 ایک معاصر نے ان کی شان میں کہا تھا۔

"كَانَ عَقْلُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَلَيْهِ" ۱۷  
 (ان کی عقل ان کے علم سے زیادہ تھی۔)

چونکہ اپنے معتقدات پر کامل یقین تھا لہذا وہ دانشمند ہونے کے باوجود یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن حادث اور مخلوق ہے۔ نیشاپور میں آپ علانیہ اس عقیدہ کا اظہار کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کو جب اس بات کا پتا چلا آپ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے واؤد ابھی نوجوان تھے۔ امام احمد نے اسے سخت ناپسند کیا کیونکہ یہ وہی بات تھی جس کی مخالفت میں آپ قید و بند کی صعوبتیں جھیل چکے تھے۔ واؤد آپ کے سامنے زانوئے ادب نہ کرنا چاہتے تھے۔ لہذا جب بغداد آئے تو اس رائے کا اظہار نہ کیا تاکہ امام احمد سے مل کر استفادہ کر سکیں۔ واؤد امام احمد کی ملاقات کے حیلے بہانے تلاش کرتے رہے۔ امام احمد اس سے گریزاں رہے۔ واؤد نے امام موصوف کے بیٹے صالح کے توسط سے آپ سے ملنا چاہا۔ صالح نے اپنے والد سے بات کی اور ان کے لئے اجازت طلب کی۔ آپ نے دریافت فرمایا اس شخص کا نام کیا ہے؟ صالح نے کہا اس کا نام واؤد ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اصبہانی ہے؟ صالح طحال دینا چاہتے تھے مبادا آپ ملنے سے انکار کر دیں۔ مگر امام احمد ایسے شخص سے بالکل ملاقات کے خواہاں نہ تھے۔ آپ بار بار پوچھتے اور کہہ دیتے رہے یہاں تک کہ پتا چل گیا کہ وہ واؤد بن خلف ہے۔ فرمایا محمد بن یحییٰ نے میری طرف تحریر کیا ہے کہ وہ قرآن کو مخلوق کہتا ہے لہذا میرے پاس نہ آئے۔ صالح بولے وہ اس سے انکار کرتے ہیں مگر احمد کو انکار کی وجہ معلوم تھی کہ وہ اخفائے حقیقت ہے۔ آخر کار آپ نے فرمایا محمد بن یحییٰ کی بات زیادہ سچی ہے اسے آنے کی اجازت نہ دیجئے یہ

ان کی قوت گویائی اور جرأت کی بناء پر ابوزرعہ فرماتے ہیں :-

« اگر وہ اہل علم کی طرح ایک خاص دائرہ تک محدود رہتے تو اپنی قوت گویائی کے بل بوتے پر اہل بدعت کا خاتمہ کر دیتے مگر وہ حد سے آگے بڑھ گئے۔ »

واؤد بن علی بڑے عابد و زاهد اور متقی تھے

واؤد بن علی کے اخلاق و عادات :- اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے قانع تھے

اور تھوڑے مال پر سب اوقات کرتے تھے۔ وہ بدیہ جات واپس کر دیا کرتے تھے اور فرط زہد کی بنا پر انہیں قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اراکین سلطنت میں سے کسی نے ان

خدمت میں ایک ہزار درہم بھیجے تاکہ اس سے اپنی حالت درست کر لیں۔ آپ نے ان کو غلام کے ہاتھ واپس کر دیا اور اسے کہلا بھیجا کہ جس شخص نے تجھے یہ درہم دئے تھے اسے کئے گا کہ آپ نے مجھے کس نگاہ سے دیکھا آپ کو میرے فقر و فاقہ کا کیا پتا تھا کہ یہ درہم بھیجنے کی زحمت گوارا کی۔

داؤد بن علی تواضع و انکسار کا پیکر تھے۔ علم و عبادت کی بنا پر دوسروں پر فخر کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عابد اپنی کثرت عبادت کو فخر و غرور کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض عبادت گزار کبر و غرور میں دنیا اور لوگوں پر بھی بازی لے جاتے ہیں اور ان کی عبادت کے پس پردہ کبر و غرور کے جذبات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ مگر داؤد ایسے مغرور لوگوں میں سے نہ تھے ایک معاصر ان کے بارے میں رائے زنی کرتا ہوا کہتا ہے۔

”میں نے داؤد بن علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ان کی شان تواضع و انکسار کسی مسلمان میں نظر نہ آئی۔“

داؤد نے شافعی فقہ کا مطالعہ کیا۔

**فقہ شافعی سے نصوص شرعیہ کی طرف رجوع ہے۔** امام شافعی کی کتابیں پڑھیں

ان کے اصحاب و تلامذہ اور محدثین اجاب سے استفادہ کیا۔ تھوڑا عرصہ فقہ شافعی کے وابستہ فرما کر رہنے کے بعد بصد تحریم و تکلیف اسے خیر باد کہا اور یہ خیال ظاہر کیا کہ صرف نصوص ہی شریعت کا ماخذ و مصدر ہیں۔ دین اسلام میں علم کا حصول صرف نصوص سے ہوتا ہے اور پس! قیاس کو باطل قرار دیا اور اسے ناقابل احتجاج قرار دیا۔ جب ان سے کہا گیا کہ امام شافعی قیاس کو حجت تصور کرتے ہیں پھر آپ نے قیاس کو کیوں ترک کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ابطال استحسان کے بارے میں امام شافعی کے دلائل دیکھے غور کرنے سے معلوم ہوا کہ ان سے قیاس کا بطلان بھی ثابت ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح وہ قیاس کا ابطال کرتے ہیں جس طرح امام شافعی استحسان کو باطل قرار دیتے۔ اس سے آپ کو سنت کی راہ دکھائی دی۔ علم حدیث وہ بحرِ خار ہے جس میں نقیہ کو ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ پھر آپ زیادہ تر احادیث سے احتجاج کرنے لگے ان کی تصنیفات احادیث نبویہ سے برتر ہیں اور ان میں فقہ بھی ہے۔ خلیف بغدادی ان کی تصانیف کے بارے میں کہتے ہیں۔

”آپ کی تصانیف میں حدیث نبوی کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے اگرچہ آپ سے روایت بہت کم کی گئی ہے“

اس امر پر علماء کا اجماع ہے کہ ظواہر نصوص سے احتجاج کرنے والے داؤد بن علی تھے۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں۔

داؤد پہلے شخص تھے جنہوں نے ظواہر نصوص سے احتجاج کیا۔ قولاً قیاس کی نفی کی اور فعلاً اسے اپنانے پر مجبور ہوئے۔ اس کا نام انہوں نے دلیل رکھا ہے۔

ہم اس موقع پر یہ نہیں بیان کرنا چاہتے کہ داؤد بن علی نے قیاس پر مبنی فقہ سے کس حد تک احتجاج کیا تاہم ہم لوگ سے و توفیق سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نصوص میں علت تلاش کر کے ان کے حکم میں عموم پیدا نہیں کرتے تھے کہ جہاں وہ علت پائی جائے گی حکم بھی پایا جائیگا۔ بلاشبہ بعض مسائل میں آپ نے مجبوراً قیاس پر عمل کیا تھا مگر وہ علت پر مبنی نہ تھا بلکہ اس ضمن میں اپنے ایک مسلک اختیار کیا تھا جو نصوص ہی کے لگ بھگ تھا ہم آگے چلکے اپنے موقع پر یہ بیان

داؤد بن علی کی تصانیف احادیث

داؤد بن علی سے عدم روایت کے اسباب بنویہ سے برنیر تھیں کیونکہ آپ

کی فقہ عام شکل و صورت کے اعتبار سے ایک ایسی فقہ تھی جس کا خمیر نصوص سے اٹھایا گیا تھا اور وہ اپنی مخصوص ہیئت و صورت کے لحاظ سے فقہ الحدیث تھی۔ مگر ان کے عابد شب زندہ دار اور ثقہ ہونے کے باوجود علماء نے ان سے بہت کم روایت کی ہے۔ عدم روایت کے دو اسباب ہیں۔

عدم روایت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ آپ قیاس کو بالکل تسلیم نہیں کرتے اور اس طرح جمہور فقہاء بلکہ ائمہ حدیث مثلاً احمد بن حنبل اسحاق بن راہویہ دیگر ائمہ حدیث و فقہ کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ان سے عدم روایت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو حادث قرار دیتے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے کہ جنبی اور حائضہ قرآن کو چھو سکتے بلکہ اس کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ جمہور فقہاء اس کے خلاف ہیں اور اس پر طرہ یہ کہ داؤد بن علی نے اس عقیدہ کا اظہار اس عرصہ و عہد میں کیا جب علماء قرآن کو مخلوق کہنے والے

کو بدعتی قرار دینے میں یک زبان تھے۔ درج ذیل بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بغداد میں بھی اس عقیدہ کا اظہار کیا تھا۔ اگرچہ امام احمد سے استفادہ کرنے کی خاطر ان سے یہ عقیدہ چھپانا چاہا۔  
تاریخ بغداد میں مرقوم ہے:-

”مجھے ابو عبید اللہ الوراق نے بتایا کہ میں ایک روز چند بیرونی اشخاص کے ساتھ تھے داؤد بن علی کے صحن میں بیٹھا تھا۔ آپ سے قرآن کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ بولے جس قرآن کے بارے میں وارد ہے۔ ”لَا يَشْئُرُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ“۔ وہ تو مخلوق نہیں۔ البتہ جو قرآن ہمارے یہاں دنیا میں موجود ہے وہ مخلوق ہے اور حائضہ اور جنبی اسے چھو سکتے ہیں۔“

ابن حزم کی تصانیف کے مطالعہ سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ان کی رائے میں حائضہ و جنبی قرآن کو مس کر سکتے ہیں مگر وہ قرآن کو مخلوق نہیں کہتے۔ بلکہ تطعی اور حتمی طور پر اسے غیر حق قرار دیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابن حزم کا تعلق داؤد بن علی سے وہ نہ تھا جو گروہ استاد اور تابع و متبوع کا ہوتا ہے۔ بخلاف ازیں وہ حریت فکر و نظر سے پہرہ ور تھے۔ داؤد ہمتا بھی ہوتے اور ان کی مخالفت بھی کرتے۔ باوجودیکہ دونوں کے مسلک منہاج میں کوئی نہیں اور دونوں ایک ہی سرشتیہ علمی پروار دہوتے اور اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔

ابن علی اور شیخ ابو سعید البرزعی :- داؤد بن علی کی مساعی جلیلہ سے ظاہری فقہ عالم

وجود میں آئی۔ ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی کرتے تھے اور اقوال جمہور کے دائرہ میں محدود عقیدہ نہیں رہتے تھے۔ آپ مجالس میں منعقد کرتے اور ان میں خالص کتاب و سنت کی دعوت دیتے تھے۔ اجماع کو شرعی ہاکی اساس قرار دیتے تھے۔ نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن کرخی کے استاذ محترم ابو البرزعی تشریف لائے اور داؤد سے پوچھا کہ امہات الاولاد کو فروخت کرنے (جو لونڈیاں چکی ہوں) کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ داؤد کہنے لگے روا ہے۔ کیونکہ استقرار

حمل سے قبل ان کی بیع کے جواز پر اجماع قائم ہو چکا ہے لہذا یہ اجماع تبھی ٹوٹ سکتا ہے جب اس کے خلاف بھی کوئی ایسا ہی اجماع ہو۔

ابریزی نے فرمایا استقرارِ حمل کے بعد اور وضع حمل سے قبل ان کی فروختگی کی ممانعت پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ لہذا اس اجماع سے تمسک واجب ہے اور اسے کسی دوسرے اجماع ہی کی بنا پر پھوٹا جاسکتا ہے۔

ابریزی نے داؤد پر یہ اعتراض بھی کیا تھا کہ آپ تقلید کو مطلقاً ممنوع قرار دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر عربی دان کو عام اجازت دیتے ہیں کہ وہ ظواہر کتاب و سنت سے استدلال کرے یہاں تک کہ عوام کا لانا عام کو بھی براہِ راست کتاب و سنت سے اخذ و احتجاج کرنے کی جرأت یہ ہوتی ہے۔

اس جرأت آموزی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص فقیہ بن بیٹھا اور بہت سے لوگ اپنے عقائد فاسد کی تائید میں ظواہرِ نصوص سے احتجاج کرنے لگے۔ خوارج ہی کو دیکھئے یہ بھی زحمت غور و فکر گوارا کئے بغیر ظواہرِ الفاظ سے استدلال کرنے لگے ہیں۔

داؤد بن علی کے  
کیا اجماع کے خلاف داؤد بن علی کا قول معتبر ہے یا نہیں؟ ان نظریات کا نتیجہ

یہ ہوا کہ علماء ان کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد ان کے مسلک کے خلاف ڈٹ گئے اکثر علماء ان کے خلاف جمہور کے افکار کو خاطر میں نہ لاتے تھے یہاں تک کہ ان کی رائے میں اگر داؤد کا مسلک کسی مسئلہ میں دیگر علماء سے مختلف ہو تو اس سے اجماع کے منعقد ہونے میں کوئی فرق پڑتا۔ ابن سبکی ذکر کرتے ہیں کہ اس میں تین اقوال ہیں۔

پہلا قول: پہلا قول تو یہ ہے کہ داؤد اور ان کے اتباع کی مخالفت معتبر ہے خواہ ان کا تو مبنی برنص ہو یا ان کی مخالفت اس مخالفت۔ اس نص کی عدم موجودگی کی بنا پر ہرجس سے وہ استنباط کرتے ہیں۔

دوسرا قول: دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی مخالفت بے کار ہے اور اس پر اعتماد نہیں کیا جائے۔ امام الحرمین اسی کے قائل ہیں۔

تیسرا قول ہے ابن الصباح کہتے ہیں کہ داؤد بن علی کے اتباع کی مخالفت معتبر ہے اور اس کی موجودگی میں اجماع منعقد نہیں ہوتا۔ بشرطیکہ ان کی مخالفت قیاس میں نہ ہو۔ جب ان کا قول قیاس جلی کے معارض ہو تو اس کی پروا نہ کی جائے گی۔

مسک داؤد کے متعلق علماء کی رائے کچھ بھی ہو۔ اس میں داؤد بن علی کی تصانیف۔

شہ نہیں کہ یہ مذہب شرق و غرب میں زندہ و تابندہ رہا۔ داؤد نے بہت سی کتابیں تصنیف کی تھیں جو ان کے نوید و مانع و براہین پر مشتمل تھیں اور ان میں فقہی مسائل کے فروع کے متعلق ان کے اذکار و آراء بھی مندرج تھے۔ ان آراء کی اساس انہوں نے اپنے وضع کردہ اصولوں پر رکھی تھی۔ ظاہر ہے کہ کتابیں بذات خود ایک نہ مٹنے والے آثار ہیں۔ کسی مسک کے اتباع و اعوان رخصت ہو جاتے ہیں مگر کتابیں باقی رہتی ہیں یہ فکری اعمال کا ایک دائمی ریکارڈ ہے اور علماء کی ایک زندہ و جاوید یادگار ہے جو دنیا میں باقی رہتی ہے۔

مشہد اعتراضات کے تیز و تند طوفان میں داؤد کے مذہب کو صرف ان کی تصانیف ہی نے زندہ نہ رکھا بلکہ ان کے لائق فرزند ابو بکر محمد بن داؤد ان کی جانشینی کے فرائض ادا کرتے اور مسک ظاہری کی طرف دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے فقہ ظاہری کے اس ترکہ کو جو حدیث نبویہ کا ایک ایسے دور میں اکرام و احترام تھا جب کہ ہر طرف آراء فقہیہ اور تفریعات مذہبیہ کی گرم بازاری تھی۔ مزید برآں وہ اس دور میں بھی حریت فکر و نظر کے علم بردار تھے جب کہ اہل مذاہب تقلید کی چار دیواری میں گھر کر رہ گئے تھے اور کسی ایک مذہب سے وابستہ ہونے بغیر کتاب و سنت کے دائرہ میں نہ آتے تھے۔

بنابریں تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں ظاہری مسک نے بلاد شرق میں بڑا فروغ پایا۔ یہاں تک کہ لسن التقایم کے مصنف کو کہنا پڑا۔

”چوتھی صدی ہجری میں فقہ ظاہری بلاد شرق میں چوتھے فقہی مکتب خیال کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ تین فقہی مذاہب شافعی، حنفی اور مالکی تھے۔ گویا شرق میں حنفی مسک کی نسبت ظاہری فقہ کا زیادہ چرچا تھا۔“

پانچویں صدی ہجری میں قاضی ابن ابی یعلیٰ المتوفی ۴۵۸ھ آئے تو حنبلی مسلک کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ چنانچہ ظاہری فقہ نے رخت سفر باندھا اور حنبلی فقہ نے اس کی جگہ لے لی۔ جن دنوں ظاہری مسلک سرزمین مشرق میں بڑا نمایاں تھا اس دور میں بڑے بڑے جید علماء پیدا ہوئے جو افکارِ اسلامی میں بیش بہا اضافہ کا موجب ہوئے اور انہوں نے ایسے آراء کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جو کتاب و سنت کے چشمہ صافی سے ماخوذ تھے۔

جب مشرق میں ظاہری فقہ کا چراغ گل ہو گیا اور اس کی جگہ ظاہری فقہ اندلس میں حنبلی مسلک نے لے لی تو اندلس میں اسے بڑا عروج حاصل

ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اندلس میں اس کو فروغ دینے والے ابن حزم تھے جن کے قلم و زبان میں بڑی طاقت تھی۔ جب مشرق میں ظاہری فقہ نے قاضی ابن ابی یعلیٰ کے ہاتھ شکست کھائی تو ابن حزم مغرب میں بڑے زوردار طریقہ سے اس کی ترویج و اشاعت میں حصہ لینے لگے۔ ابن ابی یعلیٰ اور ابن حزم دونوں زبردست فقیہ تھے اور ایک ہی دور کی یادگار تھے۔ ابن ابی یعلیٰ ۴۵۸ھ میں فوت ہوئے جب کہ ابن حزم ۴۵۶ھ میں اپنے رب سے جا ملے۔ یہ دونوں اصحاب ایک ہی زمانہ میں جیا کئے۔ جب ظاہری فقہ کا ستارہ مشرق میں غروب ہوا تو عین اسی وقت مغرب میں اپنی تابانی و درخشانی کے جوہر دکھانے لگا۔ ابن حزم اس کے محافظ تھے جو اس کی حمایت و حفاظت کا فریضہ بڑی مستعدی سے انجام دیتے تھے۔

اب سوال یہ ہے کہ ظاہری فقہ کیوں کر نقل مکانی ظاہری فقہ کیونکر اندلس پہنچی کر کے مشرق سے مغرب میں پہنچ گئی؟

اگرچہ مغرب میں ظاہری فقہ کی چنداں گرم بازاری نہ تھی تاہم سرزمین اندلس میں اس کی تخم ریزی ہو چکی تھی۔ بلکہ داؤد کی زندگی ہی میں ان کا مسلک منہاج اندلس کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تیسری صدی ہجری میں قرطبہ کے ممتاز علماء کی ایک جماعت علمی استفادہ کے پیش نظر حازم مشرق ہوئی۔ ان میں سے بعض علماء امام احمد اور ان کے معاصر واؤد بن خلعت سے ملتے تھے۔

ان میں سے تین علماء وہ تھے جو ظاہری فقہ تھے تاہم ان کے افکار و آراء بڑی حد تک اہل ظاہر سے ملتے جلتے تھے۔ مثلاً وہ اپنے افکار کو احادیث نبویہ اور اقوال و آثار سے استنباط کرتے تھے۔ انہوں نے ظاہری فقہ سے یہ بات اخذ کی تھی کہ کسی فقہی مذہب کے پابند نہ تھے



اور براہِ راست کتاب و سنت سے استفادہ کرتے تھے۔ ان تین علماء کے اسماء گرامی

یہ ہیں :-

۱۔ یحییٰ بن مخلص

۲۔ ابن واصلح

۳۔ اور قاسم بن اصبح تھے۔

دونوں اول الذکر علماء نے مشرق کی طرف اس وقت رخت سفر باندھا جب کہ داؤد ابھی بقیہ حیات تھے۔ تیسرے عالم یعنی قاسم بن اصبح ان کے شاگرد تھے اور انہی کی ہمدار کردہ راہ پر گامزن ہوئے، ہم ان کا مختصر حال بیان کرتے ہیں۔

یحییٰ بن مخلص۔ ابن حزم یحییٰ بن مخلص اور ان کی تھانیفت کی مدح دستائش میں رطب اللسان رہا کرتے تھے۔ وہ یہاں تک کہتے تھے کہ اسلام میں ایسی کوئی کتاب کبھی

تالیف نہیں ہوئی۔ وہ ان کی تفسیر کو ابن جریر کی تفسیر پر ترجیح دیتے تھے۔ یحییٰ سرزمین مشرق میں وارد ہوئے اور امام احمد سے ملے تھے۔ امام موصوف آپ کے بڑے مداح تھے ان کا علم اندس کی طرف منتقل ہوا۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ یحییٰ داؤد سے بھی ملے ہوں گے۔ کیونکہ جب امام احمد سے ان کی ملاقات ثابت ہے تو داؤد سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اکابر سن و سال میں ایک دوسرے کے برابر یا لگ بھگ تھے۔ امام احمد کی ولادت سن ۲۰ھ میں ہوئی ایک روایت کے مطابق داؤد بھی اسی سال پیدا ہوئے۔ لہذا یحییٰ فقہ ظاہری سے آشنائی پیدا کی ہوگی اگرچہ اس کے پابند ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔

جب یحییٰ مراجعت فرما کر اندس آئے تو وہاں پہنچ کر فقہ کی ایک جدید قسم کا بڑا اٹھاپلا اندس میں فقہی معلومات کا دائرہ مالکی فقہ تک محدود تھا۔ بلکہ اندسی لوگ مالکی فقہ کے علاوہ دیگر مکتبہ ہائے فقہ سے آشنا بھی نہ تھے۔ جب یحییٰ مشرق کی سیاست سے لوٹے تو اپنے ساتھ مشرق و مغرب کا نورِ علم اور حدیث نبوی کا عظیم ذخیرہ ہمراہ لائے۔ ان کی تشریف آوری سے اندس مالکی فقہ کے دائرہ سے باہر نکل کر دارالحدیث بن گیا۔ پھر وہاں فقہ شافعی نے رواج پایا۔

یحییٰ نے بڑا دشوار گزار راستہ اختیار کیا تھا۔ اس کے نتیجہ میں ان کو بعض معاصر علماء کے ہاتھوں بڑی تکلیف کا سامنا ہوا۔ اندس میں اختلافی مسائل اور انوکھی غیر مانوس احادیث پر مشتمل جو کتب وہ

لائے تھے۔ ان کا وجود بعض اندلسی علماء پر پڑانا گوارا گذرا۔ انہوں نے سلطان وقت کو بھی ان کے خلاف آمادہ کیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ان کو بچا لیا۔ ان کی مساعی جلیلہ رنگ لائیں۔ اندلس میں حدیث کا علم پھیل گیا۔ بقی نے وہ روایات لوگوں کو سنائیں اور فقہاء کے اختلافی مسائل سے ان کو آشنا کیا۔

کثرت احادیث و اسباب سے وہ مواد تیار ہوا جس سے فقہ ظاہری کا خمیر اٹھا اور اس سرسبز و شاداب خطہ ارضی میں اس مسلک کی تخم ریزی ہوئی۔

بقی مجتہد تھے انہوں نے بہت سے مسائل میں اجتہاد سے کام لیا۔ وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ ابن حزم نے اپنے رسالہ میں جو علماء اندلس کے ذکر و بیان مشتمل ہے اس کی تشریح کی ہے ہم نے اس رسالے کا کچھ حصہ نقل کر دیا ہے۔ خصوصاً وہ حصہ جس میں بقی کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ہم نے اس جگہ تفصیلاً نقل کی ہے جہاں ہم نے ابن حزم کے شیوخ و اساتذہ اور اندلس کے علمی ماحول پر روشنی ڈالی ہے۔ بقی نے ۳۷۶ھ میں وفات پائی۔

یہ امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن وضاح بن بزیغ تھے۔ ان کا دادا عبد الرحمن ابن وضاح - الداحل کا مولیٰ تھا۔ ابن وضاح بقی بن مخلد کے معاصر تھے۔ انہوں نے بھی بقی کی طرح مشرق کی بیاحت کی اور علم حدیث مشرق سے مغرب کو لائے۔ یہ دونوں قرطبہ میں سکونت پذیر تھے۔ ان دونوں کے تعلقات باہم بڑے ناخوشگوار تھے۔ دونوں کے تلامذہ بڑی کثرت سے تھے۔ ابن وضاح کے مشہور تلامذہ بقی کی مجلس میں حاضر نہیں ہوا کرتے تھے۔ بہت کم فقیہ ایسے تھے جو دونوں اکابر کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہوں۔ ابن وضاح حدیث نبوی کا بڑا اہتمام کرتے تھے یہاں تک کہ انہیں قرطبہ کا محدث شمار کیا جاتا تھا۔ البتہ ان میں بقی ایسی جامعیت اور وسعت علمی نہیں پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بقی پر شک کیا کرتے تھے۔ ابن حزم نے بقی کی طرح ان کی مدح و ستائش نہیں کی۔

بہر حال حدیث نبوی کی نشر و اشاعت کی بنا پر ابن وضاح نے اندلس میں فقہ ظاہری کی بنیاد رکھ دی تھی کیونکہ اس فقہ کا اعتماد کلیتہً نصوص شرعیہ پر ہے۔ ابن وضاح ۳۸۶ھ میں

نوے سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

**قاسم بن اصبغ**۔ کا نام قاسم بن اصبغ بن محمد بن یوسف ہے۔ قاسم کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے علم حدیث و آثار کے لئے سرزمین اندلس میں جگہ ہموار کی۔ اور اس طرح فقہ ظاہری کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے علم حدیث یقینی بن محمد اور ابن وضاح سے حاصل کیا تھا انہوں نے مشرق کی بیاحت بھی کی تھی۔ عراق میں داخل ہو کر علماء سے ملے۔ انہی علماء میں ابن قتیبہ اور الکامل کے مصنف المبرد بھی تھے۔ محدثین سے علم حدیث کا بھی استفادہ کیا۔ نقل کیا گیا ہے کہ یہ جب ۲۸۶ھ میں عراق آئے تو چند روز قبل امام ابو داؤد صاحب السنن نے وفات پائی تھی۔ انہوں نے ابو داؤد کی طرز پر حدیث کی ایک کتاب تالیف کی۔ اور اپنے اساتذہ سے حدیث کی تخریج کی پھر اس کا اختصار کیا اور اس کا نام **المجتبیٰ** رکھا۔ یہ کتاب سات جلدوں میں ہے اس میں ۱۶۹۰ احادیث درج ہیں۔

ابن اصبغ نے بھی احادیث احکام کے ساتھ بڑا عناء کیا تھا اور اس طرح فقہ ظاہری کی بنیاد رکھی۔ آپ نے ۳۲۷ھ میں وفات پائی۔

**اندلس میں ظاہری فقہ کی تخم ریزی**۔ رفقاء نے سرزمین اندلس میں احادیث رسول فقہاء اربعہ کی فقہ اپنے مشرقی اسفار وہاں کے علماء اور ان کے مذاہب کی نشر و اشاعت اور تشہیر کی بنا پر فقہ ظاہری کا سنگ بنیاد رکھا۔ بعد میں ایسے علماء متصوّر شہود پر جلوہ گر ہوئے جو علانیہ ظاہری فقہ کو اپنانے لگے۔ ان میں اندلس کے ایک عظیم ترین قاضی اور وہاں کی ایک ممتاز ترین اور قوی الاثر شخصیت قاضی منذر بن سعید البلوطی تھے اب ہم قاضی موصوف کا کچھ حال بیان کرتے ہیں۔

**منذر بن سعید اندلس کے بڑے خطیب تھے۔** زنجہ کاوند جب خلیفہ ناصر کے دربار میں حاضر ہوا تو منذر نے وہاں تقریر کی۔ ان کے بعد ابو علی تقالی الامالی کا مصنف کھڑا ہوا اور بڑی گونج دار آواز میں تقریر کی۔ قاضی منذر کھڑے ہوئے اور فی البدیہہ اور فصیح و بلیغ تقریر کی کہ بڑے بڑے انشا پرداز بھی ایسی تقریر نہیں کر سکتے۔ سرزمین اندلس کے عظیم خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ منذر قرطبہ کے قاضی بھی تھے۔ اپنی فصاحت لسان اور

قوت جنان کے پہلو پہ پہلو آپ فیصلہ دینے میں بھی بڑے بیباک تھے۔ سچا فیصلہ کرتے اور کسی سے نہ ڈرتے خلیفہ کے حق میں بھی ایک عام شخص کے حق میں بھی ایک عام شخص کی طرح فیصلہ صادر کرتے۔ احکام فدادندی میں ان کے نزدیک امیر و فقیر کی کوئی تمیز نہ ہوتی تھی بلکہ آپ محدث بھی تھے اور فقیہ بھی۔ آپ نے احکام القرآن اور کتاب النسخ و المنسوخ نامی دو

۱۔ بیان کیا گیا ہے کہ خلیفہ ناصر کو اپنی ایک محبوب بیوی کے لئے ایک مکان کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اسے یتیم لڑکوں کا ایک مکان پسند آیا جن کو قاضی نے تصرفات سے منع کیا ہوا تھا۔ خلیفہ نے بیوی کی قوم کی طرف سے کچھ رقم لے کر چند ادیسوں کو یتیم لڑکوں کے وصی سے مکان خریدنے کے لئے بھیجا۔ وصی نے کہا اس میں قاضی کی اجازت ضروری ہے۔ خلیفہ نے قاضی منذر بن سعید کو مکان فروخت کرنے کے سلسلہ میں کہلا بھیجا۔ قاضی نے قاصد سے کہا یتیم لڑکوں کی طرف سے مکان کی فروختگی چند ایک وجوہات کی بناء پر ہو سکتی ہے:-

(۱) اگر یتیموں کو قیمت کی ضرورت ہو۔

(۲) مکان گرنے والا ہو۔

(۳) رشک کی بناء پر۔

۴

جہاں تک پہلی وجہ کا تعلق ہے۔ یتیموں کو قیمت کی ضرورت نہیں۔ دوسری وجہ بھی موجود نہیں کیوں کہ مکان صحیح و سالم ہے۔ البتہ یہاں تیسری وجہ کا امکان ہے۔

اگر امیر المؤمنین ان کو اپنی رقم لے دیں جس کی بناء پر وہ فروخت کرنے پر راضی ہو جائیں تو میں وصی کو مکان فروخت کرنے کا حکم دے دوں گا۔ ان کا یہ جواب خلیفہ تک پہنچا دیا گیا۔ خلیفہ نے کہا ہم مکان نہیں خریدنا چاہتے۔ قاضی نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں خلیفہ جبراً مکان پر قابض نہ ہو جائے۔ اس نے مکان گرا کر بلبہ فروخت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خلیفہ کی پیش کردہ رقم سے زیادہ قیمت وصول ہوئی۔ خلیفہ نے پوچھا آپ نے مکان کیوں گرا دیا۔ قاضی نے کہا اس آیت پر عمل کرتے ہوئے:-

وہ کشتی سمندر میں کام کرنے والے چند مسکین ادیسوں

کی ملکیت تھی۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کروں۔

ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو جبراً تمام کشتیاں

لے لیا کرتا تھا

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ

يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْوَتْ أُنَّ

أَعْيُنَهَا وَإِذَا كَانَ مِنْهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ

كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

کتابیں تحریر کیں۔ انہوں نے ظاہری فقہ کی تائید اور فقہ ہائے اربعہ کی تردید میں ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ علامہ مقرئ نفع الطیب میں لکھتے ہیں:

”منذ بن سعید متعدد علوم میں ماہر تھے۔ آپ پر داؤد بن علی کی مرتب کردہ فقہ الموسوم بفقہ الظاہری کا غلبہ تھا۔ مندراس فقہ کو ترجیح دیتے اس کی کتابیں جمع کرتے اور اس کی تائید کے لئے احتجاج کیا کرتے تھے۔ جب منصب قضا پر بیٹھے تو مالکی فقہ کے مطابق فیصلہ کرتے کیونکہ اندلس میں یہی فقہ رائج تھی اور سلطان لوگوں کو اسی پر مجبور کرتا تھا۔“

یہ اقتباس اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ ایک فقیہ کی حیثیت سے آپ بڑے دانشمند تھے اور منصب قضا پر فائز ہونے کی بنا پر عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے۔ آپ کی فقہی دراسات کی اساس ظاہری فقہ پر رکھی گئی تھی مگر فیصلہ جات میں مالکی فقہ پر عمل کرتے تھے۔ کیونکہ خلیفہ کسی اور فقہ کے مطابق فیصلہ کرنے کی اجازت نہ دیتا تھا اس طرح آپ اپنے فرائض منصبی کامل عدل و انصاف کی روشنی میں ادا کرتے تھے مندر کی وفات ۳۵۲ھ میں ہوئی۔ ابن حزم ان سے بخوبی آگاہ تھے اور ان کے بیٹے سعید بن منذر سے مل چکے تھے جو پیرائہ سال کی عمر میں ۳۰۳ھ میں فوت ہوئے۔

اندلس میں فقہ ظاہری کے اعوان و انصار۔ خلاصہ کلام جو چوتھی صدی ہجری میں سرزمین اندلس کے اندر فقہ ظاہری کی نصرت و

حمایت کرنے والوں کی کمی نہ تھی۔ شاید اس اعتبار سے یہ فقہ حنفی و شافعی کے مقابلہ میں زیادہ خوش نصیب تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تصنیف شدہ کتب کے علاوہ ابن حزم کو ایسے اساتذہ مل گئے تھے جن سے انہوں نے فقہ ظاہری کا درس لیا۔

ہم قبل ازیں ذکر کر چکے ہیں کہ آپ نے مسعود بن سلیمان ابوالخیر ملتونی ۳۶۶ھ سے فقہ ظاہری کا درس لیا تھا۔ مسعود بن سلیمان ابوالخیر جن کا ذکر ابن حزم اپنے استاد کی حیثیت سے کرتے ہیں، ابن حزم کے بڑے محبوب و مطلوب تھے۔ یہ حریت فکر و نظر سے بہرہ ور تھے اور کسی کے مقلد نہ تھے۔ یہ داؤد ظاہری سے متاثر اور ان کی فقہ پر عمل پیرا تھے۔ یہ بڑے منکسر مزاج بھی تھے اور ان کا خیال تھا کہ علم مہد سے لڑتک حاصل کرتے رہنا چاہیے۔

گویان کا عمل اس قول پر تھا۔

لَا يَزَالُ الرَّجُلُ عَالِمًا مَا دَامَ  
يَطْلُبُ الْعِلْمَ فَإِنَّ ظَنَّهُ أَنَّهُ عِلْمٌ  
فَقَدْ جَهَلَ.

جب تک کوئی شخص تحصیل علم کرتا رہتا ہے  
اس وقت تک عالم رہتا ہے اور جب اپنے  
آپ کو عالم تصور کرنے لگتا ہے۔ اس وقت  
جاہل بن جاتا ہے۔

یہ بیانات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے  
ہیں کہ ظاہری فقہ کا رابطہ۔

ظاہری فقہ اور حدیث نبوی کا رابطہ۔  
کہ تی چلی گئی۔ ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری فقہ سنت نبوی کے جلو میں تدریجاً  
سرزمینِ اندلس میں داخل ہوتی چلی گئی۔ ظاہری فقہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ سنت نبوی کے  
سایہ میں چلتی اور بڑھتی رہی۔ کیونکہ اس کا بھی اعتماد حدیث پر ہے اور اس کے عناصر اسی  
سے ماخوذ ہیں۔ ظاہر ہے کہ حدیث ایک اسرہ چشمہ ہے جو فقہ ظاہری کی نصرت و تائید میں کبھی خشک  
نہیں ہونے پاتا۔ آخر کتاب اللہ تھا کیوں کہ احکام فقہیہ کے فروعاً کی قبیل ہو سکتی تھی بلکہ اسے  
ایک شارح اور مبلغ کی ضرورت تھی اور وہ حدیث نبوی ہے۔

ابن حزم نے اندلس میں ظاہری فقہ کا درس لیا۔ آپ کے شیوخ و اساتذہ اس کی حمایت و مدافعت  
کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ یہ اساتذہ اس دور کی حکومت میں بھی بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے اور داؤد  
بن علی کے مذہب کی مدافعت میں بھی انہوں نے بڑا اہم پارٹ ادا کیا۔ ان میں سے نمایاں ترین  
شخصیت منذر بن سعید تھے۔ آپ علانیہ ظاہری فقہ کی حمایت کرتے تھے۔ آپ ایک علی شخصیت  
تھے اور قضاء و فقہ اور علم و خطابت میں ممتاز تھے۔ خلیفہ ناصر اور اندلس کے عوام ان کو بڑی قدر و منزلت  
کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

منذر کے بعد ایسے شیوخ منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئے جو فقہ ظاہری میں خصوصی ہمارت  
رکھتے تھے۔ انہی ممتاز فقہاء میں سے سعود بن سلیمان تھے جن سے ابن حزم نے استفادہ کیا۔ سعود  
کے بعد فقہ ظاہری کا یہ ورثہ اس نیر دست امام ابن حزم کی طرف منتقل ہو گیا۔  
ظاہری فقہ کی حمایت و مدافعت کا فریضہ ایسے دور میں ابن حزم کو تفویض ہوا۔ جب  
ان جیسی بگائے روزگار شخصیت کی ضرورت تھی۔ قاضی ابن ابی یعلیٰ نے مشرق میں اپنی  
شخصی قوت سے فقہ ظاہری کو مٹا کر وہاں جنبی فقہ کو رواج دیا تھا اور اس طرح ظاہری فقہ کا

بلاغ مشرق میں گل ہو گیا۔ مشیتِ ایزدی اس امر کی مقتضی ہوئی کہ فقہ ظاہری کی حمایت کے لئے ابنِ حزم ایسے زبردست شخص کو کھڑا کیا جائے جو ایسے نازک دور میں اس کی مدافعت کر سکیں۔

یہاں پہنچ کر ہمارے لئے اصول ابنِ حزم کی تشریح و ترویج ضروری ہو جاتی ہے۔ تاکہ ہم صحیح طور پر آپ کی فقہ اور آپ کا فقہی طرزِ فکر و نظر معلوم کر سکیں۔

## ابن حزم کے فقہی اصول

اجتناد و تقلید۔ ابن حزم نے ظاہری مذہب کو اس لئے اختیار کیا تھا کہ اہل کتاب و سنت اور اجماع صحابہ کا مذہب ہے۔ اس میں کوئی کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ بلاشبہ ابن حزم ایسا حریت پسند شخص جو دائرہ کتاب و سنت کے علاوہ دوسرے کسی فکری دائرہ میں محدود و مقید ہونا پسند نہیں کرتا۔ اسی قسم کے مذہب سے مطمئن ہو سکتا تھا۔ پھر آپ نے اجماع صحابہ کو حجت قرار دیا کیوں کہ صحابہ کا اجماع کسی ایسے امر پر منعقد نہیں ہو سکتا جس کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست آنحضرتؐ کی زبان فیض ترجمان سے شرعی احکام کا علم حاصل کیا تھا۔ چونکہ یہی طرز و مہناج دین اسلام سے معلوم ہوا ہے۔ لہذا ابن حزم اسی کی پیروی کرتے ہیں اور اس میں کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ ان کی رائے میں یہ بات اسلامی بدیہیات میں سے ہے کیوں کہ کتاب و سنت کے ساتھ احتجاج کرنے سے وہی شخص انکار کرے گا جو مذہب کا جو اگر دن سے اتار دے گا۔ اگرچہ اسلامی ادوار میں منکرین سنت کے وجود کا پتا چلتا ہے اور ان میں سے بعض نے امام شافعی سے مناظرہ بھی کیا تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ دین سے منحرف ہو چکے تھے۔ لہذا ان کی مخالفت تاویل التفات ہے کیونکہ انہوں نے ایک ایسے مسلمہ قاعدہ سے انکار کیا ہے جس کا دین میں سے ہونا فروری طور پر معلوم ہے۔

حرمت تقلید کے دلائل۔ ابن حزم نے ظاہری فقہ کو اس لئے گلے سے لگا یا کہ آپ حرمت تقلید کے قائل ہیں۔ وہ دین

کے کسی گوشہ میں بھی تقلید کی اجازت نہیں دیتے بلکہ بڑے مدلل طریقہ سے منع تقلید کی دعوت دیتے اور تقلید کو ایک روکنے جانے کے قابل بدعت قرار دیتے ہیں۔



ابن حزم فرماتے ہیں :-

التَّقْلِيدُ حَرَامٌ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ  
أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِهِ  
بِدَهَانٍ لَهُ

تقلید حرام ہے۔ کسی شخص کے لئے روا نہیں کہ  
وہ کسی دوسرے شخص کی بات بلا دلیل تسلیم  
کرے۔

ابن حزم تقلید کی حرمت پر دلائل پیش کرتے ہیں خواہ تقلید کا تعلق عقائد سے ہو یا اعمال سے۔  
ان کے پیش کردہ دلائل آیات قرآنیہ اجماع اور اہل علم کے آثار و اقوال پر مشتمل ہیں۔  
قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

(۱) اِتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ  
وَلَا تَتَّبِعُوا مِمَّنْ دُونِهِمْ آدِیَاءَ قَلِيلًا  
مَّا تَدَّ كَرُونَهُ

جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے  
اتارا گیا ہے اس کی پیروی کیجئے اور اس کے  
سوا دوسرے اجباب کی پیروی نہ کیجئے تم بہت  
کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔

(الاعراف - ۳)

(۲) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفُقَيْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا  
وَمَا كُنَّا بِمُحْسِنِينَ

جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے اتارا  
ہے اس کی پیروی کیجئے تو وہ کہنے لگتے ہیں ہم  
تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے  
آباء کو پایا۔

(البقرہ - ۱۷۰)

تقلید نہ کرنے والوں کی مدح میں فرمایا۔  
(۳) فَيَسِّرْ لَهَا عِبَادَتِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ  
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ  
وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

میرے ان بندوں کو بشارت سنا دیں جو  
کسی بات کو سنا کر اچھی بات کی پیروی کرتے  
ہیں یہی لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت سے  
بہرہ ور کیا ہے اور یہی لوگ دانشمند ہیں۔

(الزمر - ۱۸)

(۴) فَإِنْ تَنَادَرْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

اگر تمہارے میں کسی بات میں جھگڑا پیدا ہو  
جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ  
بشرطیکہ تم اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔

(النساء - ۵۹)

ان آیات میں ہمیں مامور کیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کی روشنی میں فیصلہ صادر کریں اور اولیاء کی پیروی نہ کریں جو شخص تقلید کرتا ہے وہ اولیاء کی پیروی کا مرتکب ہوتا ہے۔ مشرکوں کی اس بنیاد پر مذمت کی کہ وہ حق کی پیروی نہیں کرتے کیوں کہ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آباء کی پیروی کرتے ہیں۔

تیسری آیت میں ان لوگوں کی مدح فرمائی جو اقوال کو جانچتے پرکھتے کسی کی تقلید نہیں کرتے بلکہ موازنہ و مقایسہ کے بعد اچھے اقوال پسند کر لیتے ہیں۔ چوتھی آیت میں حکم دیا کہ ہم اختلافی اقوال کو کتاب اللہ اور سنت رسول علیہ السلام پر پیش کریں اور جو ان سے زیادہ قریب ہو اس پر عمل کریں۔

**حُرْمَتِ تَقْلِيدِ رِجَالِ عَصَابِهِ** :- **بِجْمَعِ صَحَابِهِ اِزْاَوَّلِ تَا اٰخِرِ اَوْ رِجْمَعِ تَابِعِيْنَ اِزْاَوَّلِ تَا اٰخِرِ** کا اس امر پر اجماع قائم ہو چکا ہے کہ ان میں سے کسی کے لئے یہ ردا نہیں کہ وہ اپنے میں سے کسی شخص کے تمام اقوال کو تسلیم کر لیں اور کسی قول کو بھی ترک نہ کریں۔

ابن حزم کی مراد یہ ہے کہ صحابہ و تابعین اس امر کے اظہار و بیان میں یک زبان ہیں کہ کسی شخص کے لئے ردا نہیں کہ وہ کسی عالم کی خدمت میں حاضر ہو اور بلا تمیز و تفریق اس کے تمام اقوال کی تقلید کرنے لگ جائے مطلقاً ان کی جانچ پڑتال نہ کرے اس کے مذہب کو اپنالے اور تمام امور میں اس کی پیروی کرے۔ وہ پیروان مذہب کی ان الفاظ میں تردید کرتے ہیں۔

”جو آدمی امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی یا ابن حنبل کے تمام اقوال سے احتجاج کرتا ہو حالانکہ وہ قوت و فکر سے بھی بہرہ ور ہو تو اسے جان لینا چاہئے کہ وہ تمام امت کے اجماع کا مخالف ہے اور مومنین کی راہ کو چھوڑ کر ایک اور راہ پر گامزن ہے۔ ہم ایسے مرتبہ سے خدا کی پناہ طلب کرتے ہیں۔“

ابن حزم اس قول میں اس امر کی وضاحت کرتے ہیں کہ جن لوگوں میں اجتہاد کی صلاحیت موجود ہو اور وہ صاحب نظر و ادراک ہوں تو ان کے لئے ایک دلیل کو دوسری پر ترجیح دئے بغیر کسی امام کے تمام اقوال کی پیروی کرنا ردا نہیں۔ یہ ایک حق بات ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی مجال نہیں۔ ابن حزم کا نظریہ یہ ہے کہ ایسی پیروی کرنے والا ائمہ اربعہ کے اقوال کا مخالف ہے۔ کیوں کہ

باروں ائمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دلائل معلوم کئے بغیر ان کے اقوال سے احتجاج نہ کیا جائے  
 ہر اس لئے کہ چاروں ائمہ نے اپنی اور اربار کی تقلید سے متع کیا تھا۔ لہذا ان کی تقلید کرنے والا  
 ان کے اقوال کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

ائمہ اربعہ کی نسبت صحابہ کبار تقلید کے زیادہ مستحق تھے۔ ابن حزم اس پر حیرت  
 و استعجاب کا اظہار کرتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کو تقلید کے لئے مختص کر لیا جائے جس طرح شیعوں نے اپنے ائمہ کو تقلید  
 کے لئے مختص کر لیا۔ وہ لکھتے ہیں :-

”صحابہ کبار مثلاً ابو بکر و عمر و علی و ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین کو  
 چھوڑ کر ائمہ اربعہ کی تقلید اختیار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ کیونکہ یہ صحابہ بھی فقہاء تھے  
 اور بہت سے فروعات کے بارے میں ان کے فتاویٰ منقول ہیں۔ جب  
 ائمہ اربعہ یا دیگر اکابر کی تقلید ناگزیر ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق،  
 حضرت علی ابن عباس یا حضرت عائشہ کی تقلید کی جائے۔ اگر دین اسلام میں تقلید  
 جائز ہوتی تو صحابہ کبار ائمہ اربعہ کی تقلید کی نسبت اتباع کے لئے اولیٰ و افضل  
 تھے۔ جو لوگ ائمہ اربعہ کی طرف منسوب ہیں ان میں سے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ  
 تقلید نہیں کرتا تو وہ دروغ گو ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اقوال بھی امام کی طرف  
 منسوب ہیں وہ ان کی تائید کرتا ہے۔ خواہ وہ قول اسے ابھی معلوم ہوا ہو اور  
 وہ پہلے اس سے آشنا نہ ہو۔ اسی کا نام تقلید ہے۔“

جس شخص میں اجتہاد کے شرائط پائے جاتے  
 ہوں یا وہ تہذیب و ثقافت کی بنا پر دلائل  
 کا موازنہ کرنے پر قادر ہو اور کوئی بات بلا دلیل تسلیم نہ کرتا ہو اس کے بارے میں ابن حزم کا  
 نقطہ نظر درست ہے کہ اُسے کسی کی تقلید نہیں کرنا چاہئے۔ مگر ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ ایک عامی  
 شخص کے لئے بھی کسی کی تقلید روا نہیں۔  
 وہ فرماتے ہیں :-

”عامی کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی معین امام کی پیروی کرے۔ بلکہ جب وہ کسی پیش آمدہ حادثہ میں شرعی حکم معلوم کرنا چاہتا ہو تو اُسے چاہئے کہ کسی ایک عالم کی تخصیص کئے بغیر علماء سے اس کا حکم دریافت کرے۔ جب تک اس عالم کی دلیل اسے معلوم نہ ہو تب تک اس کا اتباع نہ کرے۔ تاکہ وہ دلیل کی پیروی کرے نہ کہ کسی شخص کی۔“

مندرجہ بالا نظریہ کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو دلائل انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کے لئے دیئے ہیں کہ حق کا اتباع ذاتِ حق کے لئے ضروری ہے اور حق براہِ راست خدا کے نازل کردہ کلام سے اخذ کرنا چاہئے نہ کہ اولیاء کے توسط سے۔ یہ سب دلائل نصوصِ عامہ ہیں۔ ان میں علماء اور عوام سب شامل ہیں۔ عالم اور عامی کے مابین فرق یہ ہے کہ عالم براہِ راست نصوص سے احکام معلوم کرتا ہے بشرطیکہ وہ اس صلاحیت سے بہرہ ور ہو ورنہ دیگر علماء سے دریافت کرے گا۔ اس کے برعکس عامی ہمیشہ اہل علم کا محتاج ہوگا۔

جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عامی کو ہمیشہ تقلید ہی کرنا چاہئے۔ ان کی تردید میں فرماتے ہیں ”جو شخص عامی کو تقلید کی اجازت دیتا ہے ہم اس سے دریافت کریں گے کہ وہ کس کی تقلید کرے؟ اگر وہ جواباً کہے کہ اپنے شہر کے عالم کی تقلید کرے۔ تو ہم دریافت کریں گے اگر اس کے شہر میں دو مختلف اقبالیہ عالم ہوں تو پھر کیا کرے؟ آیا دونوں میں جس کی چاہئے تقلید کرے؟ یہ تو ایک نیا دین ہوا۔ آخر ایک ہی دین میں اور ایک مسئلہ میں دو مختلف حکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک حرام اور ایک حلال اور لطف یہ کہ دونوں خدا کی طرف سے ہوں گے۔“

پھر یہ امر موجب حیرت ہے کہ اندلس کے عوام پر امام مالک کی تقلید فرض ہو مین میں امام شافعی کی تقلید اور خراسان میں امام ابوحنیفہ کی۔ حالانکہ ان کے فتاویٰ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کیا یہ خدا کا دین ہے؟ بخدا اس نے یہ حکم ہرگز نہیں دیا بلکہ دین ایک ہے۔ خدا کا حکم بھی ایک ہے۔ قرآن

لہ مقصود یہ ہے کہ جب دونوں عالموں میں اختلاف پایا جاتا ہو۔ ایک ہی چیز کو ایک حلال اور دوسرا حرام کہتا ہو۔ اب عامی شخص دونوں میں جسے چاہے گا بلا دلیل تسلیم کرے گا اور اسے درست سمجھے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی مسئلہ میں یہ یک وقت حرام و حلال دونوں کا فیصلہ کیا گیا۔ کیونکہ ایک عالم اسے حلال سمجھتا اور دوسرا حرام تصور کرتا ہے (غلام احمد حیرری مترجم)

ن ارشاد ہوتا ہے۔

دَلَّكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا  
بِهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء - ۸۳) وہ بڑا اختلاف پاتے۔  
مگر وہ عامی اور سیاہ نام غلام جسے غانہ سے لایا گیا ہو اور اس کا نظیر و مثیل کوئی شخص  
ب مشرت باسلام ہو جائے وہ بخوبی جان لے گا کہ وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے اور  
اس نے اس ذات کا اقرار کر لیا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم  
را کے رسول ہیں۔ وہ شخص بلاشبہ اس دین اسلام میں داخل ہو گیا ہے آنحضرت صلی اللہ  
علیہ وسلم لائے تھے یہ

ابن حزم اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ عامی کے  
ن حرم کے نظریہ پر تنقید :- لئے تقلید روا نہیں۔ یہ بات محتاج غور و فکر ہے اور  
شہ علماء نے اس پر تنقید کی۔ ہمارے مرحوم دوست امام کوثری فرماتے ہیں :-

”اہل ظاہر نے تقلید کے بارے میں جو خیال ظاہر کیا ہے اس سے دنیوی مصالح  
معطل ہو کر رہ جاتے ہیں اور امت کو وہ بات برداشت کرنی پڑتی ہے جو ناقابل  
تحمل ہے۔ منصوص اور متواتر امر یہ ہے کہ عالم اپنے علم پر عمل کرے اور جو  
عالم نہ ہو وہ علماء سے دریافت کرے۔“

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے :-

فَاسْتَشُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل - ۶۳)

یہ اقتباس اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ اہل ظاہر جو اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے  
تقلید سے منع کرتے ہیں امام کوثری اس پر تنقید نہیں کرتے، اگر عامی کے لئے بھی اجتہاد  
نا واجب قرار دیا جائے تو دنیوی مصالح معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر اسے درست تصور کیا  
جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عامی شخص دینی احکام کی طلب و تحقیق میں مشغول و منہمک ہو کر  
ہ جائے گا جس سے عمرانی مصلحتیں معطل ہو جائیں گی مگر ابن حزم اس سے اتفاق نہیں کرتے  
کہہ کتے ہیں کہ عامی کو دو باتیں منع ہیں :

اول: یہ کہ عامی کے لئے کسی معین امام کی تقلید کرنا ممنوع ہے۔ اس کی تقلید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مذہب کی پیروی کرے اور کہے کہ وہ شریعت خداوندی ہے حالانکہ خدا کی شریعت وہ احکام ہیں جن پر کتاب و سنت مشتمل ہے۔

دوم: یہ عامی کے لئے دوسری بات یہ منع ہے کہ کتاب و سنت کی سند معلوم کئے بغیر کسی کے فتویٰ کو قبول کرے۔ اس کے مفتی کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ کتاب و سنت کا حکم ہے یا خدا نے ایسا فرمایا ہے۔ اگر مفتی کہے کہ یہ فلاں شخص کا قول ہے تو سائل کو ایسے مفتی سے فتویٰ لینا چاہیے جو کہے کہ یہ خدا کا حکم ہے نہ کہ امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، داؤد یا امام جعفر صادق کا فتویٰ۔ بنا بریں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابن حزم عامی کو اس بات کی تکلیف نہیں دیتے جس کو رد انجام دینے سے قاصر ہے۔ تکلیف مالا یطاق اس بات میں ہے کہ وہ کتاب اللہ سے احکام معلوم کرے اور اپنے کام کاج کو چھوڑ کر کتاب و سنت سے احکام تلاش کرنے میں لگ جائے اور اس سے دنیا کا نظام مختل ہو جائے ابن حزم کہتے ہیں:-

«عامی پر فرض ہے کہ مفتی جب فتویٰ دے تو اس سے پوچھے کہ آیا اللہ و رسول کا حکم یونہی ہے؟ اگر مفتی کہے کہ ہاں! تو عامی کے لئے اس حکم کا قبول کرنا ضروری ہوگا۔ اگر مفتی کہے کہ نہیں یا خاموش رہے یا ڈانٹ دے یا بتی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا قول ذکر کرے تو وہ کسی اور سے دریافت کرے کیونکہ جس کا فہم زیادہ ہوگا اس کا اجتہاد بھی بڑھ کر ہوگا۔ عامی اس سے دریافت کرے کہ آیا آنحضرت سے یہ صحت کے ساتھ منقول ہے یا نہیں؟ پھر اس سے سند کے بارے میں پوچھے اور دریافت کرے کہ کیا یہ حدیث مرسل ہے؟ اور اس کا راوی ثقہ ہے یا نہیں؟ پھر اس سے اقوال کے متعلق دریافت اور ہر قائل کی دلیل پوچھے اور اس طرح تدریجی طور پر علم میں ترقی کرے۔»

ابن حزم کی رائے میں عامی کے کئی مراتب ہیں:- ادنیٰ ترین عامی شخص کے مراتب:- مرتبہ یہ ہے کہ مفتی فتویٰ دیتے وقت صراحتہ یہ بات کہے کہ

خدا کا حکم یونہی ہے۔ جب اس کے علم میں کچھ اضافہ ہو جائے تو حدیث کی نص دریافت کرے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر سند کے بائیں پورچھے پھر طبقہ اساتید کے متعلق سوال کرے جب یہ بھی معلوم ہو جائے تو علماء کے اقوال دریافت کرے۔

کم درجہ عوام جن کی تعداد زیادہ ہے۔ اسی بات پر اکتفاء کرتے ہیں کہ مفتی کہہ دے یہ خدا کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن حزم عجمی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے بلکہ عامی سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں جو اس کی طاقت میں ہے اور جس سے مصالح معطل نہیں ہوتے۔ ابن حزم کا مقصد صرف یہ ہے کہ عامی اور اس کے دین کے درمیان اقوال امام کے وسائل حاصل نہ ہو جائیں۔ اور اس کے اقوال کو دین نہ تصور کرنے لگے۔ عامی علماء سے اس بات کا فہم و شعور حاصل کرے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور کسی امام کا حکم نہیں۔ ابن حزم کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے دو فریق ہیں :-

(۱) ایک فریق وہ ہے جو علوم اسلامیہ کی تحصیل کے لئے اپنی مساعی کو وقف کر دیتا ہے ان کے اسباب اس امر کے متقاضی ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے توسط سے بغیر کتاب و سنت سے احکام دریافت کریں۔ یہ ائمہ مرشدین کا گروہ ہے۔

(۲) دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو علوم اسلامیہ پر اتنی توجہ نہیں دے سکتے تاہم بقدر ضرورت وہ پیش آمدہ مسائل و حوادث کے متعلق شرعی احکام دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ شرعی احکام ان لوگوں سے دریافت کریں۔ جنہوں نے علوم دینی کی تحصیل کے لئے اپنی عمریں کھپا دیں اور ہمہ تن ان کی تحصیل میں مشغول رہے ہوں۔ وہ علماء سے اپنی علمی وسعت کے مطابق دریافت کرتے ہیں۔ سوال کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ خدا کا حکم دریافت کریں نہ کہ کسی فقہی مسلک کے بارے میں؟ نیز سوال کے لئے اس شخص کو منتخب کرنا چاہیے جو شہر میں سب سے بڑا عالم ہو۔ یا علماء کے مرکز میں اس سے بڑا عالم اور کوئی نہ ہو۔

بنا بریں ابن حزم اور ان علماء کے مابین کوئی جوہری فرق نہیں پایا جاتا جو تقلید کو جائز بلکہ عوام کے لئے واجب قرار دیتے ہیں۔ اس لئے کہ ابن حزم اس امر میں ان کے ہمتوا ہیں کہ عامی اگر کتاب و سنت سے احکام دریافت کرنے کے مکلف ہوں، تو لوگوں کے کام کاج معطل ہو کر رہ جائیں اور نظام عالم مختل ہو جائے۔ بلکہ تقسیم کار کے اصول کا تقاضا ہے

کہ ہر کام کے لئے ایک گروہ مخصوص ہونا چاہیے۔ عوام کی تخلیق اس لئے ہوئی ہے کہ یہ کائناتِ ارضی آباد رہے۔ ابن حزم بھی یہی کہتے ہیں۔ امامانِ دین یہ کہتے ہیں کہ عامی کا مذہب اس کے مفتی کا مذہب ہے۔ مفتی اسے بتادے کہ یہ فلاں امام کا مذہب ہے لہذا اس پر عمل کیجئے۔ ابن حزم اس کے برخلاف یہ کہتے ہیں۔

”مفتی کے لئے یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے اس پر عمل کیجئے نہ یہ کہ یہ قول امام ہے“

گویا ابن حزم یہ شرط لگاتے ہیں کہ مفتی کا مجتہد ہونا ضروری ہے اور سائل کے لئے خدا کا حکم دریافت کرنا ضروری ہے نہ کہ کسی فقہی مسلک کا جب عامی علم دین سے قدرے واقفیت رکھتا ہو تو وہ حدیثِ نبوی کے متعلق سوال کرے۔ اگر زیادہ علم رکھتا ہو تو اس کی سند کے متعلق دریافت کرے۔

ابن حزم نے ظاہری مسلک و منہاج کو اس لئے فقہ ظاہری کی خصوصیات اختیار کیا تھا کہ اس سے اجتہاد کا دروازہ چوپٹ کھل جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ظاہری فقہ کی تاریخ میں بیان کیا ہے۔ یہ وہی مسلک ہے جو براہِ راست کتاب و سنت سے اپنی قوت اخذ کرتا ہے۔ نہ اس میں تکلیف سے کام لینا پڑتا ہے اور نہ تاویل سے۔ بلکہ الفاظ کا لغوی مفہوم لیا جاتا ہے۔ احکام کو معطل کرنے سے استخراجِ علل اور ان کی تمیم کی ضرورت بھی لاحق نہیں ہوتی۔ لفظ میں حکم کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ لے لیا جاتا ہے اور اس کے ظاہر سے آگے تجاوز نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ظواہر کا رجحان د میلان خصوصی طور پر دین کے مصادر یعنی کتاب و سنت کی طرف ہوتا ہے اور ان کا یہ طرز و انداز دیگر علماء مجتہدین سے جداگانہ نوعیت کا ہے۔

میاں پہنچ کر یہ بتانا ہمارے لئے از بس ضروری ہو جاتا ہے کہ قرآن و سنت سے استخراجِ احکام میں ابن حزم کا طریقہ کیا تھا۔ فہم اجماع میں ابن حزم کا اپنا ایک خاص انداز ہے جو امام احمد کے طریقہ سے ہم آہنگ ہے۔ اور امام شافعی کے مسلک کے بہت قریب ہے۔

لہذا اب ہم ان تینوں چشمہ ہائے علی کے متعلق بات چیت کریں گے۔ پھر تیسرے تعلق احکام اور اجتہاد بالراہی کی عام شکل و صورت کے متعلق ابن حزم کا موقف بیان کریں گے



نیز بتائیں گے کہ وہ دلیل کسے کہتے ہیں اور دلیل اور قیاس میں کیا فرق ہے؟  
 اس کی تفصیلات بیان کرنے سے قبل ہم یہ بتادینا چاہتے ہیں کہ ابن حزم مجتہد مطلق  
 تھے۔ کسی مذہب کی جانب منسوب نہ تھے تاکہ انہیں مجتہد منتسب یا مجتہد فی المذہب  
 کہا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ظاہر اپنے آپ کو اصحاب مذہب نہیں کہتے تاکہ کوئی  
 شخص ان کی طرف منسوب ہو سکے۔ بخلاف انہیں جو مسلک ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے  
 وہ صرف یہ ہے کہ وہ نصوص سے استدلال کرتے اور فقہ کو اس کے چشمہ ہائے سہ گانہ سے اخذ  
 کرتے ہیں۔ وہ تین چشمے (۱) کتاب (۲) سنت (۳) اور احکام کی عدم تعلیل پر ان کا اتفاق و اتحاد  
 ہے۔ ان میں نہ کوئی تابع ہے اور نہ متبوع۔ ان میں کوئی کسی کی پیروی نہیں کرتا بلکہ سبھی انوار  
 محمدی سے مستنیر و مستفیض ہوتے ہیں۔ داؤد اور ابن حزم کے مابین کوئی فرق و امتیاز  
 نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ابن حزم داؤد کے تابع تھے تاکہ یہ کہا جاسکے کہ ابن حزم  
 ان کی طرف منسوب تھے اور مجتہد مطلق نہ تھے۔

اب ہم یہ بتائیں گے کہ کتاب و سنت کے فہم و ادراک ان سے استدلال کرنے اور ان  
 کے نسخ و منسوخ کے بارے میں ابن حزم کا موقف کیا تھا۔ مزید برآں ان کے متعلقات بھی  
 زیر بحث لائیں گے۔

# قرآن کریم

فقہ اسلامی کے مصادر ابن حزم کی رائے میں :- ابن حزم لکھتے ہیں :-

”چار اصول ایسے ہیں کہ ان کے بغیر کوئی شرعی حکم معلوم نہیں کیا جاسکتا۔

وہ یہ ہیں :-

۱۔ قرآن کریم

۲۔ حدیث رسول علیہ السلام جو دراصل خدا کی جانب سے ہوتی ہے۔ بشرطیکہ اس کے راوی قابل اعتماد ہوں یا حدیث متواتر ہو۔

۳۔ علماء امت کا اجماع۔

۴۔ ان میں سے کوئی دلیل جس میں صحت ایک ہی احتمال پایا جاتا ہو۔“

یہ ہیں ابن حزم کی رائے میں اسلامی فقہ کے مصادر و ماخذ۔ ان میں قرآن کریم اصل الاصول اور مصدر المصاادر کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہی معجزہ کبریٰ ہے، جس سے رسالت محمدی ثابت ہوئی۔ رسالت کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن خدا کی طرف سے ہے اس کی تمام مشتملات و مندرجات بھی منجانب اللہ ہیں۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ حدیث نبوی حجت ہے اور اس کا اخذ و اتباع واجب ہے۔ اسی سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہوا۔ ان تینوں دلائل سے جس کا حجت ہونا معلوم ہو گا ہم اسے بھی شرعی دلیل کی حیثیت دیں گے اسی بنا پر ابن حزم کہتے ہیں کہ قرآن شریعت اسلامیہ کی اصل ہے۔ باقی اصول اسی کی روشنی میں معلوم کئے جاتے ہیں :-

ابن حزم لکھتے ہیں :-

قرآن کریم میں احکام خداوندی کی اطاعت ہمارے لئے ضروری قرار دی گئی

لہذا احکام ج اص ۷۱

ہے۔ آنحضرتؐ کے اوامر کی اطاعت بھی لازم ہے بشرطیکہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہوں۔ اسی طرح علماء اسلام کا جو اجماع بطریق تواتر ثابت ہو وہ بھی لازم الطاعت ہے۔ خداوند کریم نے ان امور سے گانہ یعنی کتاب و سنت اور اجماع کی اطاعت لازمی قرار دی ہے۔ جب ہم نے ان تینوں دلائل میں غور و فکر کیا تو ان میں وہ امور بھی پائے کہ جب وہ جمع ہو جائیں گے تو ان سے ایک حکم منصوص کی بنا پڑے گی۔ یہ گویا چوتھی دلیل ہے مگر یہ سابقاً ذکر کردہ امور ثلاثہ سے خارج نہیں۔ مثلاً آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک۔


كُلُّ مَسْكِيٍّ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ ۝ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور خمر حرام ہے۔  
اس سے نتیجہ نکلا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہ الفاظ اپنے معنی میں بالکل واضح ہیں اور ان میں کوئی ابہام و اجمال نہیں پایا جاتا۔

اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں (۱) یہ کہ قرآن کریم فقہی مصادر کی تشریح و توضیح :-  
مصدر المصادر کی حیثیت رکھتا ہے باقی تمام اصول اس سے مشتق و ماخوذ ہیں۔ یہ دین اسلام میں اصل الاصول ہے کیونکہ ہر اصل کا حجت ہونا قرآن ہی سے ثابت ہوتا ہے۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ کتاب و سنت اور اجماع کی حجیت صریح قرآنی آیات سے ثابت ہے۔ قبل ازیں آپ کی رسالت قرآنی معجزہ اور اس کی صداقت و حقانیت سے ثابت ہو چکی تھی۔ یہ اصول ثلاثہ بعض اوقات کسی حکم اور اس کی اساس کو بیان کرتے ہیں جس پر وہ مبنی ہے۔ چنانچہ اصول ثلاثہ سے اخذ کردہ معنی کی بناء پر ایک حکم کا استخراج کیا جاتا ہے۔ یہ اصل چہارم ہے اسے دلیل کہتے ہیں۔

در حقیقت ان اصول چہارگانہ کا مرکز و مرجع صرف نص ہے یا نص کے وہ معنی جس پر سب کا اتفاق ہو۔  
ابن حزم فرماتے ہیں :-

”شرعی احکام صرف ان اصول اربعہ ہی سے اخذ کئے جاتے ہیں۔ ان سب کا مرجع صرف



۱۔ وہ آیات قرآنیہ جو محتاج تشریح نہیں۔ قرآن کریم کا وہ حصہ جو محتاج توضیح و تشریح نہیں بہت سا ہے۔ مثلاً وہ قرآنی قصص و

حکایات جو خود بخود اپنے مفہوم میں واضح ہیں۔ بلکہ بعض واقعات کامل وضاحت و صراحت کی بنا پر حدیث نبوی کی بھی شرح و توضیح کرتے ہیں۔ مثلاً آنحضرت کا یہ ارشاد گرامی۔

”اے لوگو! میں تو صرف ایک انسان ہوں۔ وہ زمانہ کچھ دور نہیں کہ خدا تعالیٰ کا قاصد مجھے بلانے آجائے اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں۔ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں۔ پہلی خدا کی کتاب ہے جو پیکر ہدایت و نور ہے۔ خدا کی کتاب کو محکم لو اور اس پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان سے اچھا سلوک کرنا۔ اکثر لوگ اہل بیت سے بنی ہاشم مراد لیتے ہیں ابن حزم فرماتے ہیں۔“

”تقلید باطل ہے۔ لہذا کتاب و سنت کی روشنی میں یہ معلوم کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی کہ آنحضرت کے اہل بیت کون ہیں؟ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے ہم یہ آیت کریمہ پاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔“

”اے ازواج النبی! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم خدا سے ڈرتی ہو تو ناز و انداز سے بات نہ کیجئے۔ کیونکہ اس سے وہ شخص جس کے دل میں کھوٹ ہے طمع کرنے لگ جائے گا۔ بات حسب دستور کیجئے۔ نیز اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کیجئے۔ نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے اور اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے رہئے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں۔“ کہ لے گھر والو۔ وہ تم سے پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ تمہارے گھر میں خدا کی جو آیات اور حکمت کی جو باتیں تملادت کی جاتی ہیں وہ پڑھتے رہئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والے اور خبردار ہیں۔“ (سورہ احزاب)

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج النبی ہیں۔ ابن حزم رقمطراز ہیں۔

”نصوص کتاب و سنت سے آشکار ہوتا ہے کہ بنی ہاشم آل محمد اور آپ کے اقارب تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن حزم کی نگاہ میں آل اور اہل بیت میں فرق ہے۔ اہل بیت آپ کی ازواج مطہرات ہیں اور آل محمد سے مراد آپ کے اقارب ہیں۔ سنت نے بیان کر دیا ہے کہ وہ بنو ہاشم ہیں۔“

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تشریح ہمیشہ حدیث نبوی سے ہوتی ہے اور قرآن فہمی کا یہی ایک طریقہ ہے۔ ابن حزم اس نظریہ

پر تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

”اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن کی تشریح صرف حدیث نبوی ہی سے ہوتی ہے۔ کیوں کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔“

”وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ  
مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۗ (النحل - ۱۰۴)“

ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم اتارا تاکہ آپ اسے واضح کر دیں۔ تو ہم اسے کہیں گے کہ آپ نے جو آیت ہمارے سامنے تلاوت کی ہے اس میں کہیں یہ بات مذکور نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وحی غیر منقولہ سے قرآن کے معانی واضح کرتے تھے۔ اس آیت میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن آپ پر اس لئے اتارا گیا ہے کہ آپ اسے لوگوں کے سامنے واضح فرمادیں۔ ظاہر ہے کہ وضاحت کلام ہی سے ہوتی ہے جب آپ نے اسے تلاوت کیا تو خود بخود اس کا مطلب روشن ہو گیا۔ جب قرآن اظہار مطالب و معانی میں مجمل ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب بیان کرتے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔

”فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ  
عَلَيْكَ يَاسَاةُ“

جب ہم ایک مرتبہ پڑھا دیں تو آپ مگر اس کی تلاوت کریں۔ پھر اس کی وضاحت کرنا

ہمارے ذمہ ہے (القیامہ - ۱۸-۱۹)

اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ قرآن کی توضیح و تشریح خداوند کریم نے اپنے ذمہ لی ہے۔ پھر ابن حزم اس امر کے دلچسپ اثبات بہوتے ہیں کہ قرآن بذات خود جلی و روشن ہے۔ اس کے ثبوت میں وہ ایسی آیات پیش کرتے ہیں جن سے قرآن کا مطلب واضح ہوتا ہے۔ مثلاً۔

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الَّتِي تَقْرَأُونَ

اللہ تعالیٰ تمہارے لئے واضح احکام بھیجتے ہیں

مبادا تم گمراہ ہو جاؤ۔

(النساء - ۱۰۷)

قرآن کریم ہر چیز کو واضح کرتا ہے۔

بَيْنَانَا لِكُلِّ شَيْءٍ ۝

(النحل - ۱۸۹)

قرآن کریم کا قاری یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی اکثر آیات بیانات محتاج تشریح نہیں ہیں۔ مثلاً میراث اولاد، میراث زوجین، حدِ قذف، آیتِ لعان و دیگر واضح آیات کریمہ جن کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری قسم کی وہ آیات قرآنیہ ہیں جو محتاج تشریح ہیں اور ان کی آیات قرآنیہ کی دوسری قسم۔ توضیح قرآن ہی میں موجود ہوتی ہے۔ ایک جگہ ایک مسئلہ مجملاً مذکور

ہوتا ہے اور دوسرے موقع پر تفصیلاً۔ ابنِ حزم اس کی مثال ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ  
مَالَكُمْ مَسْرُورَةً أَوْ تَفَرُّصًا أَوْ لَهْفًا فَرِيضَةً

سورہ الطلاق میں اسی مسئلہ کو تفصیلاً ذکر کیا۔ چنانچہ طلاق کا وقت بتایا۔ سورہ بقرہ میں اس پر مزید روشنی ڈالی اور اس کے واقع ہونے کا طریقہ ذکر کیا۔

حق یہ ہے کہ قرآن کا اولین شارح و ترجمان خود قرآن ہے۔ لہذا مجملات قرآن کی توضیح پہلے قرآن ہی سے تلاش کرنا چاہئے۔ اگر معرفت کا امکان نہ ہو تو طالبِ راغب حدیثِ نبوی کا رخ کرے جو قرآن کی مفسر ہے۔ پس ابنِ حزم کا نظریہ اس ضمن میں صدق و صواب کا حامل ہے۔

آیات قرآنیہ کی تیسری قسم وہ ہے جو مجمل ہوں اور حدیث سے ان کی آیات قرآنیہ کی تیسری قسم:- تفسیر ہوتی ہو۔ ایسی آیات بہت سی ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ کا حکم قرآن

میں مجملاً وارد ہوا۔ آنحضرت نے زکوٰۃ کی حقیقت و ماہیت بتائی۔ اسی طرح آپ نے صفات نکاح اور حج پر روشنی ڈالی بلکہ نماز کا حکم بھی مجمل تھا۔ سنت نبوی نے اس کی تشریح کی مثلاً فرمایا:

« صَلُّوا كَمَا تَأْتِيكُمْ دِينِي أَحَبِّي »

جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ قرآن میں ایسے مجمل احکام بہت سے ہیں جن کی تفسیر حدیث سے معلوم ہوئی۔ یا مطلق آیات، کو حدیث سے مفید کر دیا اور عام کی تخصیص کر دی خلاصہ کلام حدیثِ نبوی قرآن کی شارح اور اس کے مجملات کی ترجمان ہے۔

قرآن کریم کی صراحت و وضاحت کے درجات :- ابن حزم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن ہے یا حدیث نبوی اور اجازع یعنی پر حدیث سے اس کے معانی نکل کر سامنے آ جاتے ہیں بجز بات یہ ہے کہ سب لوگ قرآن کے فہم و ادراک میں یکساں نہیں اور ان میں بڑا فرق مرتب پایا جاتا ہے۔ قرآن کا کچھ حصہ سب لوگوں کے لئے واضح ہے اس کے فہم و شعور اور فہم قرآن کی توفیق ربانی سے مطالب بعض کی سمجھ میں آتے ہیں اور بعض اس کے ادراک پر قادر نہیں ہوتے ابن حزم لکھتے ہیں :-

"بیان قرآن وضاحت و صراحت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اس کا کچھ حصہ روشن ہے اور کچھ پوشیدہ۔ قرآن کے فہم و ادراک میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں۔ بعض سمجھ لیتے ہیں اور بعض سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان بھی یہی ہے اللہ کہ خداوند کریم کسی کو خصوصی فہم و ادراک سے نوازے۔ حضرت عمر ایسے عالم جلیل الشان آیت کلام کو نہ سمجھ سکے۔ فوت ہوتے وقت آپ نے اعتراض فرمایا تھا کہ وہ اس آیت کے ادراک سے قاصر ہیں حالانکہ دیگر صحابہ نے اسے سمجھ لیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کو عتاب فرمایا تھا کہ یہ آیت اپنے مطلب میں واضح ہے۔ اسی طرح حضرت عدی بن حاتم اس وہم میں مبتلا ہو گئے تھے کہ قرآن میں سیاہ اور سفید دھاگہ سے مراد معروف دھاگہ ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں اس کی وضاحت نازل ہوئی کہ فجر کا دھاگہ مراد ہے۔ حضرت عدی کے سوا دوسرے لوگ خود بخود سمجھ گئے تھے کہ اس سے فجر مراد ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن امّ مکتوم رضی اللہ عنہ اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ جہاد میں شرکت نہ کرنے کی بنا پر وہ قابل ملامت ہیں۔ خداوند کریم نے "فَيُرَادِلِي الْقَيْسُ" کے الفاظ نازل کر کے ان کے وہم کا ازالہ فرمایا۔ ان کے علاوہ دیگر صحابہ رفع حرج پر مشتمل دوسری آیات سے خود بخود سمجھ گئے تھے کہ مریض اور اندھا شخص اس حکم سے مستثنیٰ ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا۔" یہ بیان اس حقیقت کی غمانہی کرتا ہے کہ قرآن کریم بڑی روشن اور اپنے مطالب و معانی میں بڑی



کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اگرچہ انسانی اذہان و قلوب اس کے فہم و ادراک میں مساوی نہیں۔ فہم انسانی کے مختلف درجات ہیں اور ان کے میلانات بھی جداگانہ نوعیت کے ہیں۔ بعض اوقات ایک بڑا ذہین و فطین آدمی ایک بات سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ اور دوسرے لوگ باسانی اسے سمجھ جاتے ہیں۔

**بیان کے انواع و اقسام** - ابن حزم بیان کے تین انواع کو معتبر سمجھتے ہیں (۱) استثناء (۲) تخصیص (۳) تاکید۔ ہم بیانات ثلاثہ کی مختصر تشریح کرتے ہیں:-

ابن حزم استثناء کو بھی بیان کی ایک قسم تصور کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ آیت کریمہ ہے۔

إِنَّمَا هَلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ  
أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا  
قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّاهُ  
وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ  
الْغَابِرِينَ۔ (العنكبوت - ۳۲)

ہم اس بستی والوں کو ہلاک کر دینا چاہتے ہیں  
کیونکہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ کہا اس بستی  
میں لوط بھی ہیں وہ کہنے لگے ہمیں معلوم ہے کہ اس  
میں کون رہتا ہے ہم ان کو اور ان کے گھر والوں  
کو نجات دیں گے مگر انکی بیوی سچھے رہنے والوں میں ہوگی۔

اس آیت کریمہ میں بیان استثناء اور بیان تخصیص دونوں پائے جاتے ہیں۔ صدر آیت سب  
ال لوط کو شامل تھا۔ آیت کے آخری ٹکڑے نے ان کو نکال دیا اور عورت کو مستثنیٰ قرار دیا پس یہ استثناء ہوا۔  
اسی طرح یہ آیت بھی بیان استثناء کی مثال ہے

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَقْدَابِهِمْ حَافِظُونَ  
إِلَّا عَلَىٰ آثِمٍ وَإِجْرِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
(المؤمنون - ۶۱۵)

مومن وہ ہیں جو اپنی شرکگاہوں کی حفاظت  
کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں  
کے۔

جو شرکگاہیں ممنوع تھیں ان میں سے بیویوں اور لونڈیوں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے  
ہم دیکھتے ہیں کہ ابن حزم استثناء کو بیان بھی سمجھتے ہیں اور تخصیص بھی۔ استثناء کو بیان سے تعبیر  
کرنا اگرچہ درست ہے تاہم اس میں کچھ تسامح پایا جاتا ہے۔ کیونکہ استثناء کلام کا ایک جزو ہے  
اور اس میں بیان بھی پایا جاتا ہے۔ مگر اسے تخصیص قرار دینا خلاف احناف ہے۔ حنفیہ کا نقطہ  
نظر لغت عرب سے میل کھاتا ہے۔ کیونکہ استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرف استثناء کے بعد جو

کلام واقع ہوا ہے اصل کلام وہی ہے۔ استثناء میں ہمیشہ نفی و اثبات دونوں ہوتے ہیں۔ اس میں حرف استثناء کے مابعد کی نفی اور ماقبل کا اثبات ہوتا ہے۔ بشرطیکہ حرف استثناء کا ماقبل مثبت ہو اور منفی نہ ہو۔ اگر اس کا ماقبل منفی ہو تو پھر اس کے برعکس ہوگا۔

مثلاً یہ آیت کریمہ :-

لَنْ نَجِيَّتَهُ اَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَةٌ  
 (العنکبوت - ۲۲)

اہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے  
 سوا اس کی بیوی کے

اس آیت میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کے لئے نجات کا اثبات ان کی بیوی سے نجات کی نفی ہے۔ چونکہ علماء لغت کے بیان کے مطابق استثناء کا حرف وہی حصہ کلام ہوا کرتا ہے جو حرف استثناء کے مابعد ہو لہذا اسے حذیفہ کی رائے میں تخصیص نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ تخصیص سے مراد یہ ہے کہ ایک لفظ بذات خود عام ہو پھر کسی مستقل دلیل سے اس کی تخصیص ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ استثناء کے ہوتے ہوئے کلام میں عموم نہیں ہوتا۔ کیونکہ کلام مقصود اس کے اجزاء کے میل جول سے سمجھ میں آتا ہے۔ لہذا ایک قول کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے کہ ایک مبہم ہو اور دوسرا واضح۔ اس لئے کہ دونوں اجزاء ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔

ابن حزم تخصیص کو بھی بیان قرار دیتے ہیں تخصیص  
 نسخ و تخصیص کے مابین فرق و امتیاز :- کا مطلب علماء اصول کی نگاہ میں یہ ہے کہ

عام کے لفظی معنی مراد نہیں بلکہ آغاز کار ہی میں اس سے خاص مفہوم مراد ہے امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں اس کی تصریح کی ہے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ تخصیص کے یہ معنی نہیں کہ عموم کے تقاضا کی بنا پر اس کے سب افراد پہلے میں داخل ہو گئے تھے اور پھر تخصیص کئے جانے پر خارج ہو گئے بلکہ شروع ہی سے لفظ عام خاص معنی میں استعمال کیا گیا ہے تخصیص اور نسخ کے مابین یہی فرق پایا جاتا ہے۔ نسخ کے معنی ہیں حکم کے پائے جانے کے بعد اس کو اٹھا دینا۔ بنا بریں ابن حزم کے نزدیک تخصیص استثناء کی مانند ہے کیونکہ عام سے بعض افراد مراد ہوتے ہیں۔ ابن حزم اس کی مثال ذکر کرتے ہیں کہ پہلے سب مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کی مخالفت ناز ہوئی پھر اہل کتاب سے نکاح جائز قرار دیا گیا۔ گویا عورتوں سے ان کو خاص کر لیا گیا۔ اس کی مثال یہ بھی ہے کہ حدیث میں تازہ کھجوروں کی خرید و فروخت خشک کھجوروں سے

گئی ہے پھر اس سے العرایا کو مستثنیٰ کر کے ان کی رخصت دے دی بشرطیکہ یہ خرید و فروخت پانچ وسق (ایک عربی پیمانہ) سے کم مقدار میں کی جائے۔

ابن حزم نسخ تخصیص اور استثناء کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”نسخ کے معنی ہیں حکم یا اس کے کچھ حصہ کا اٹھ جانا۔ نسخ و تخصیص میں فرق یہ ہے کہ جہاں

بھی ان دونوں میں سے کوئی پایا جاتا ہے۔ خداوند کریم نے کسی دور میں بھی بنا برہ عموم

اسے ہمارے لئے لازمی قرار نہیں دیا۔ مثلاً مشرکات سے نکاح کی حرمت اس میں اہل

کتاب کی عورتیں شروع ہی سے داخل نہ تھیں۔ اسی طرح عرایا کے بارے میں کہا جاسکتا

ہے۔ اس کے برخلاف نسخ میں ہم اس کے عموم پر اس وقت تک عمل پیرا رہتے ہیں۔ جب

تک اس کے کچھ حصہ کا بطلان نازل نہیں ہوتا، جیسا کہ آگے چل کر ہم باب النسخ میں بیان کریں گے۔

یہ ہے تخصیص اور اس کے ابواب بیان میں سے ایک

خاص باب ہونے کے وجوہ و اسباب!

**انواع بیان کی تیسری قسم تاکید:-**

انواع بیان کی تیسری قسم تاکید ہے۔ تاکید کی بنا پر تخصیص کے تمام احتمالات ختم ہو جاتے

ہیں۔ کیونکہ عام مؤکد میں سب افراد داخل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حزم تاکید کو بیان کی

قسم قرار دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں:-

تاکید انواع بیان میں سے ایک نوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

”تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ“ (البقرہ-۱۹۶) یہ پورے دس ہیں۔

لہ العرایا سے مراد یہ ہے کہ کھجور کے درختوں پر جو تازہ کھجوریں ہوں ان کی خرید و فروخت خشک

کھجوروں سے کی جائے۔ بعض ضابطہ، شافعی اور مالکی اسے جائز سمجھتے ہیں، کیوں کہ جس شخص کے پاس

تازہ کھجوریں نہ ہوں بلکہ خشک ہوں اسے فائدہ پہنچتا ہے اور وہ تم کھجوریں لے لیتا ہے۔ اخوات کے

نزدیک یہ ناروا ہے کیوں کہ اس میں ربا ہے۔ اہل ظاہر پانچ وسق سے کم مقدار میں اس بیع کو جائز

سمجھتے ہیں۔ (مصنف)

شافعیین حدیث نے ”العرایا“ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ باغ کا مالک کسی غریب کنیہ کو اپنے باغ کے چند پھلدار

درخت پھل کھانے کے لئے بلا قیمت دیدے بعد ازاں محسوس کرے کہ ان کے بار بار باغ میں آنا اس کے لئے زحمت کا موجب

ہے چنانچہ وہ کہے کہ ان تازہ کھجوروں کے عوض مجھ سے اتنی خشک کھجوریں لے لیں اور پھلدار درخت مجھے دے دیں۔ چونکہ اس میں باغ کے

مالک کی ایک تکلیف رفع ہوتی ہے اس لئے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ (غلام احمد حریری ۱۴ جولائی ۱۹۸۴)

۱۸۱ ج ۱ ص ۱۸۱

بیز فرمایا :-

ثُمَّ مِثْقَاتِ سَمِيَّةٍ اَسْمَاءِ بَعِيْنٍ  
 اِذَا كَانَتْ مِثْقَاتِ كَامِلٍ چالیس راتوں تک  
 كَيْلًا ۛ (الاعراف - ۱۳۲) پوری ہو گئی ۔

اس سے قبل تینوں اور میں (چالیس) راتیں فرمایا تھا پھر اس کی یوں تاکید فرمائی :-  
 اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بیان کا کسی زائد چیز پر مشتمل ہونا جو قبل ازیں نص میں موجود نہ ہو  
 ضروری نہیں ہے۔ نہ یہ ضروری ہے کہ یہاں آیت کا موضح اور اس کا شایع موجود ہو بلکہ ہو سکتا ہے  
 کہ اس میں ایسی تاکید پائی جاتی ہو جس سے جملہ احتمالات ختم ہو جاتے ہوں۔ اگرچہ وہ الفاظ میں  
 ظاہر نہ ہو۔ ابن حزم دونوں مثالیں ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں پر سخت تنقید کرتے ہیں جو کہتے ہیں  
 کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں حساب سکھانے کے لئے تین اور میں علیحدہ علیحدہ ذکر کئے اور دوسری جگہ ان کو  
 یکجا کر کے چالیس فرمایا۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ ایسے لوگ افتراء پرداز ہیں۔ یعنی نوع انسان حساب اس  
 وقت بھی جانتے تھے جب قرآن دنیا میں نازل نہیں ہوا تھا۔

بعض انواع بیان کا مذکور نہ ہونا :- یہ ہیں بیان کے اقسام ابن حزم کی نگاہ میں ! ابن  
 حزم نے تقیید مطلق اور تفصیل مجمل کا ذکر نہیں کیا۔ اگرچہ

وہ بھی انواع بیان میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہاں کے صرف تین اقسام کا ذکر کیا ہے  
 اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اقسام ثلاثہ محتاج تنبیہ ہیں۔ ابن حزم یہاں صرف انہی اقسام سے تعرض  
 کرتے ہیں جو تنبیہ و شرح کے محتاج ہیں۔ جو ایسے نہ ہوں وہ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ  
 وہ خود ظاہر ہیں اور ان کے بیان کی حاجت نہیں۔

تاخیر بیان میں علماء کا اختلاف :- بیان کے یہ دونوں اقسام یعنی استثناء اور تاکید کلام میں  
 ساتھ ہی مذکور ہوتے ہیں۔ لہذا یہ کہنے کی ضرورت نہیں

کہ آیا انہیں میں سے پیچھے لاسکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ان کی تاخیر کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ  
 ابن حزم کا نقطہ نظر استثناء کے بارے میں اس سے مختلف ہے۔

وہ بیان جو تخصیص مستقل پر مشتمل ہو۔ محتاج نظر و تامل ہے۔ حنفیہ کی رائے میں پیچھے لانا درست  
 نہیں بلکہ اسے اس عام کے ساتھ مقرون و متصل ہونا چاہیے جس کی وہ تخصیص کرتا ہے کیونکہ وہ

بیان ہے اور بیان مبین سے جدا نہیں ہو سکتا۔

اگر بیان تخصیص کو مؤخر کر دیا جائے تو وہ نسخ بن جائے گا۔ کیونکہ عام جب بلا تخصیص نازل ہوا تو وہ تمام افراد کو محیط ہوگا۔ محض کے آنے سے یہ عموم باقی نہیں رہے گا۔ لہذا یہ نسخ کہلائے گا نہ کہ تخصیص۔ البتہ ابن حزم عام قابل تخصیص کو مجمل کے قبیل سے شمار کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ مفصل کی تاخیر مجمل سے درست ہے۔ یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ بیان عمل کے وقت سے متاخر نہیں ہو سکتا۔ ابن حزم مسئلہ زینحمت میں مختلف علما کے اقوال نقل کرتے ہوئے رقمطراز ہیں :-

انواع بیان کی ایک نوع میں علماء کا اختلاف ہے۔

(۱) ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ پہلے مجمل وارد ہوتا ہے پھر مفسر۔

(۲) دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ دونوں اکٹھے وارد ہوتے ہیں۔

(۳) تیسرے گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ مجمل و مفسر ایک دوسرے کے آگے بھی آ سکتے ہیں اور پیچھے بھی۔ دونوں یکجا بھی وارد ہو سکتے ہیں۔

ہم تیسرے گروہ کے ہمنوا ہیں۔ البتہ اتنی بات ہے کہ وقت عمل سے بیان کا پیچھے رہنا درست نہیں

یہ درست نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے وارد ہونے کے بعد ایک لمحہ کیلئے بھی اسے متاخر کریں۔ ہم اس کے قائل نہیں کیونکہ یہ عقل کے منافی ہے۔ وجوب عمل کے وقت سے بیان کا متاخر ہونا اس لئے درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

”لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“ (البقرة - ۲۸۶)

خدا تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا)

یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ جس بات سے ہم آشنا نہ ہوں اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ آنحضرت کو خیر بیان کی اجازت اس لئے نہ تھی کہ فرمان باری تعالیٰ ہے :-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ  
لَيْتَ مِنْكُمْ مَنْ يَسْمَعُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
فَمَا تَلَّخْتُمْ بِرِسَالَتِهِ

اے رسول (علیہ السلام) جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے اسے خوب پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے سے قاصر ہے۔

(المائدہ - ۸۷)

اگر نبی کریم بیان کے وارد ہوتے وقت ذرا بھی تاخیر کرتے تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ آپ نے وہ

حکم پہنچایا نہیں۔ اگر آپ حکم نہ پہنچاتے تو عاصی ٹھہرتے اور آپ کو عاصی ایک جاہل ہی کہہ سکتا ہے۔ جو ترک تبلیغ کی بنا پر آپ کی معصیت کا قائل ہے وہ اجماع کی بنا پر کافر ہے۔

ابن حزم بیان کی تقدیم و تاخیر دونوں کو درست تصور کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

تقدیم و تاخیر بیان کے جواز کے دلائل :- کسی چیز کے پابند نہیں ہیں اور نہ وہ کسی کے سامنے مسئول اور جواب دہ ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے :-

لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝ خد تعالیٰ کو اس کے افعال کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا۔ البتہ لوگوں سے باز پرس کی جاسکتی ہے۔

(الانبیاء - ۲۳)

جو شخص یہ کہتا ہے کہ مفسر اور مفسر کا باہم مقرون و متصل ہونا ضروری ہے وہ خدا پر اس چیز کو لازم ٹھہراتا ہے حالانکہ کسی کے الزام سے اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہو جاتی۔

ثانیاً ابن حزم کا اعتقاد اس امر پر ہے کہ نمازیں بالتفصیل مکہ مکرمہ میں مشروع ہو چکی تھیں پھر مدینہ اگر متعدد آیات میں مجملاً نمازوں کا ذکر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے :-

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَالْوَالِدَاتُ كَوَا۟رِمًا كَرِيمًا ۝ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔

(البقرة - ۲۳)

انبیاء کرام مثلاً موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کے احوال و قصص بعض آیات میں تفصیلاً اور بعض میں اجمالاً بیان کئے اور یہ متنائے اتردی کے مطابق ہے۔ نہ کہ کسی کے لازم کرنے سے۔

ابن حزم معتزضین کے اعتراضات پیش کر کے ان کی تردید کرتے ہیں۔ آیت کریمہ وَالشَّارِقِ وَالشَّارِقِ سے متعلق معتزضین کا مفروضہ سوال پیش کرتے ہیں کہ حد سرقہ کا اجراء اس صورت میں ممکن ہے جب اس نصاب کا علم ہو جس میں چور کا ہاتھ کاٹا جاسکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص آیت قرآنی

"اَلْزَّانِيَةُ وَالزَّانِي" سنتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا نفاذ تب ممکن ہے جب یہ بیان کر دیا جائے کہ یہ غیر شادی شدہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ نیز جو شخص حرمت رضاعت والی آیت

سنتا ہے تو اس حرمت کا اجراء بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو کہ حرمت کا اثبات دودھ پینے

کی ایک خاص مقدار سے ہوتا ہے

ابن حزم ان مفروضہ اعتراضات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں پایا کہ بیان وجوب عمل کے وقت سے مؤخر ہوا ہو۔ وجوب عمل سے قبل صرف اقرار کیا جاتا ہے اور صرف

یہ کہا جاتا ہے کہ مَمَعْنَا وَاطْعَنَا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے  
 وَأَتُوا زَكَاةً اب اس آیت کا صرف اقرار کیا جائے گا کیونکہ نصاب مذکور نہ ہونے کی بناء  
 پر اس پر عمل کرنے کا امکان نہیں ہے) اگر نص بذات خود واضح ہو اور اس کا مطلب صاف سمجھا  
 جا رہا ہو تو اس پر عمل کرنا واجب ہے الا یہ کہ اس کا منسوخ یا مخصص ہونا ثابت ہو جائے  
 ابن حزم مخصوصہ کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں :-

**نصوص مخصوصہ کے اقسام :-**  
 اول: قسم اول ان نصوص پر مشتمل ہے جو اپنے مطلوب و مقصود

میں واضح نہیں ہیں اور ان پر بھی عمل ہو سکتا ہے کہ ان کی وضاحت کر دی جائے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ  
 ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ البتہ ان پر عمل کرنے کے لئے وضاحت شرط ہے۔  
 دوم: قسم ثانی ان نصوص پر مشتمل ہے جن میں کوئی ابہام و اجمال نہیں ہوتا۔ ان کے عموم  
 پر بلا تخصیص عمل واجب ہوتا ہے۔

جب ناسخ یا مخصص آجاتا ہے تو اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ یہاں ابن حزم بعد میں  
 آنے والے حکم کو مخصص سے موسوم کرتے ہیں حالانکہ اس پر تخصیص کی تعریف صادق نہیں آتی  
 بلکہ ناسخ کی تعریف صادق آتی ہے۔ ابن حزم کا یہ قول کہ نسخ تمام افراد یا بعض افراد کے حکم کو اٹھا  
 دیتا ہے اس امر کا مقتضی ہے کہ جو نص ایک واضح نص پر عمل کرنے کے بعد آتی ہے اس عام کی  
 طرح جس پر عموم افراد کے بارے میں عمل کر لیا جاتا ہو۔ جو نص اسے بعض افراد میں محدود کر دیتی  
 ہے اسے ناسخ کہتے ہیں مخصص نہیں کہتے۔ کیونکہ تخصیص ابن حزم کی نگاہ میں بیان کی ایک  
 قسم ہے اور اس سے حکم اٹھ نہیں جایا کرتا۔

ابن حزم کی تصریحات کے مطابق ہم نے ان کا نقطہ نگاہ واضح کر دیا۔ ابن حزم یہ بھی کہتے ہیں کہ  
 چونکہ استثناء و بیان کی ایک قسم ہے لہذا اسے مؤخر لانا بھی درست ہے۔ اس کی مثال میں وہ یہ  
 آیت قرآنی پیش کرتے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

إِنَّا مَهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ  
 نَ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ه قَالَ إِن  
 فِيهَا لَوْ طَائِفًا لَّخِئْتِ أَعْلَمُ لِمَنْ فِيهَا  
 لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ  
 كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ه

ہم اس بستی کو ہلاک کر دینے والے ہیں کیوں کہ اس کے  
 رہنے والے ظالم ہیں۔ کہا اس میں تو لوط بھی ہیں۔  
 انہوں نے کہا ہم بخوبی آگاہ ہیں کہ اس میں کون ہے  
 ہم حضرت اور اس کے اہل کو نجات دے دیں گے مگر اس  
 کی بیوی کو نہیں کیونکہ وہ چھپے رہنے والوں میں سے ہے

یہ الفاظ ایک ہی سیاق کلام میں واقع ہوئے ہیں اسے تاخیر بیان نہیں کہا جاسکتا بلکہ یہ عین اقران و اتصال ہے۔ اس سے زیادہ اقران تو ممکن بھی نہیں، ایک جملے کا دوسرے جملے کے پیچھے آنا تاخیر نہیں کہلاتا کیوں کہ سائے الفاظ بہ یک وقت کیونکہ منہ سے نکالے جاسکتے ہیں تاکہ ایک لفظ اگر دوسرے کے پیچھے آئے تو اسے تاخیر بیان پر محمول کیا جائے۔ مزید برآں آیت میں تخصیص بالاستثناء بھی نہیں بلکہ قول ثانی کے ساتھ تخصیص ہے۔ کیونکہ استثناء نفس نفیس سے نکال دینے کو کہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی پہلے عموم میں داخل تھی اور پہلا عموم یہ ہے کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔

**قرآن میں اجمال و تفصیل کے مواقع** جب ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ تخصیص اور نسخ دو جدا گانہ امور ہیں۔ نسخ اس حکم کے اٹھا دینے کو کہتے ہیں جو ثابت

ہو چکا ہو اس کے برعکس تخصیص بیان کی قسم ہے۔ لہذا یہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ تخصیص ان عام الفاظ میں ہوتی ہے جو مبین ہوں اور عمل سے قبل ایک دوسرے کے قریب اور متصل ہوں۔ یہ کسی صورت میں جائز نہیں کہ بیان سے قبل عمل کرنا واجب ہو کیوں کہ عمل اور بیان باہم مربوط و متصل ہوتے ہیں۔

جب صورت ایسی ہو کہ اس پر عمل واجب نہ ہو بلکہ صرف اس کی تصدیق ضروری ہو مثلاً وہ واقعات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم، نوح اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے وہ واقعات جو ان کی قوموں کے ساتھ پیش آئے۔ تصدیق کسی آیت کی تفصیل بیان کرنے سے قبل ہی واجب ہوتی ہے اور بعد بھی۔ استقراء سے معلوم ہوتا ہے کہ جن آیات قرآنیہ کا تعلق قصص سے ہے وہ ہمیشہ واضح ہوتی ہیں۔ البتہ واقعات کے بعض گوشے قدرے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں اور بعض مقابلتہ مجمل ہوتے ہیں۔ چنانچہ دوسری نص اگر پہلی کی تفصیل بیان کر دیتی ہے اور مفصل کو اجمالاً ذکر کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قصص قرآنیہ کا مقصد عبرت پذیری اور نپہ و مغرطت ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف مقام نصیحت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لہذا ایک موقع پر واقعہ کا وہ حصہ تفصیلاً ذکر دیا جاتا ہے جو اس کے مناسب حال ہوتا ہے۔ واقعہ کا دوسرا حصہ ایک جدا گانہ مقام پر ذکر دیا جاتا ہے جو اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ لہذا مناسب موقع جزو کو مقابلتہ زیادہ تفصیل سے بیان کر دیا جاتا ہے حالانکہ دوسرے مواقع پر وہ اجمالاً بیان ہوا تھا۔

**ظاہر قرآن سے احتجاج** ابن حزم ظاہری ظواہر قرآن سے احتجاج کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجاز سے استدلال نہیں کرتے۔ اس لئے کہ



مجازیج مشہور ہو یا کوئی قرینہ پایا جاتا ہو تو وہ ظاہر ہی میں داخل ہے۔ قبل ازیں اعتقادی مسائل کے بیان اور علماء کے یہاں متنازعہ آیات کے ضمن میں ہم یہ ذکر کر چکے ہیں۔ مثلاً یہ آیات کریمہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْسَدُوا دِينَكُمْ وَيَسْتَبْطِئُوا عَلَيْكُمْ وَأُتُوا بِهِمْ بِتَوَاتُؤُنَ كَثِيرَةٍ مِّن قَبْلِهِمْ لِيُحْذِرُوا أَقْسَامَهُمْ وَيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴿۱۰۰﴾

اور اس قسم کی دوسری آیات ابن حزم ان سے ذات خداوندی مراد لیتے ہیں۔ بلا شبہ تفسیر و بیان کا یہ طریقہ مجازی ہے، مگر یہ ایک واضح مجاز ہے اور ظاہر کے منافی نہیں بلکہ اسی کا مقتضایہ ہے ابن حزم چونکہ ظاہر آیات سے احتجاج کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی توجیہ ظاہر ہی کی طرف رہتی ہے لہذا وہ قرآن کے ہر لفظ کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں۔

(۱) مثلاً امر درجوب کے لئے ہے الا یہ کہ کسی دوسری نص سے کچھ اور مفہوم ثابت ہو۔  
(۲) یا یہ کہ نصوص سے احکام فی الفور بلا تاخیر ثابت ہوتے ہیں تا وقتیکہ کسی نص سے تاخیر کا علم حاصل ہو اور وہ پہلی نص کی وضاحت کرے۔

(۳) اسی طرح لفظ عام اپنے عموم پر رہے گا کیونکہ اس کا عام ہونا ظاہر ہے بجز اس کے کہ کسی دوسری نص سے پتہ چل جائے کہ عموم مراد نہیں۔  
ابن حزم کی تصریحات اس ضمن میں یہ ہیں۔ فرماتے ہیں۔

”جب براہین و معجزات سے یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ قرآن خدا تعالیٰ کا وہ عہد ہے جس کا اقرار کرنا اور اس پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے۔ یہ قرآن بتواتر ہم تک نقل ہو کر پہنچا ہے اور اس میں ذرا بھر شبہ نہیں کہ وہی قرآن آج کل مصاحف میں مکتوب ہے اور تمام اطراف و اکناف میں مشہور ہے۔ لہذا اس کے احکام کی اطاعت واجب ہے کیوں کہ یہی اصل مرکز و مرجع ہے جس کی طرف رجوع کرنا لازم ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔“

”مَا خَطَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۖ“ کتاب میں ہم نے کوئی کمی باقی نہیں  
رالدنعام — ۳۸

پس قرآن کے تمام اوامر و نواہی واجب العمل ہیں ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ خاص و عام احکام پر عمل کیسے ہو گا اور احادیث کی بنا آیات پر کیونکر رکھی جائے گی؟ باب الامر والنواہی میں ہم بیان کریں گے کہ قرآن کے اوامر و نواہی کو ظاہر پر کیسے محمول کیا جائے گا۔ عموم و خصوص کے باب میں ہم ذکر کریں گے کہ آیات سے عموم ہی مراد لینا چاہئے۔

**قرآن و حدیث کا باہمی ربط و تعلق :-** ابن حزم کے کلام سے مستفاد ہوتا ہے کہ قرآن کریم دین اسلام کا اصل الاصول ہے۔ وہ سنت کو بھی

ان نصوص میں شمار کرتے ہیں جن پر شریعت کی بنیاد گھڑی ہے۔ اگرچہ اس کی حجیت قرآن ہی سے ثابت ہوتی ہے۔ بے شک حدیث نبوی قرآن کریم کے ساتھ دین اسلام کی توضیح و تشریح کی کفیل ہے۔ احادیث میں مجمل آیات کی تفصیل قابل تشریح احکام کی وضاحت اور عام آیات کی تخصیص پائی جاتی ہے۔ جب نصوص آیات و احادیث بیان شریعت میں ایک دوسرے کی معاون ہیں تو ان سے ایک دوسرے کی توضیح تکمیل بھی ہوتی ہوگی۔ خصوصاً حدیث نبوی کتاب اللہ کی شارح و ترجمان ہے۔

قرآن کریم میں ہے :-

لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۝

تاکہ آپ لوگوں کے لئے اس قرآن کی وضاحت

کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔

(النحل - ۴۴)

بنا بریں ہمارے لئے از بس ناگزیر ہے کہ اہل ظاہر کے احتجاج بالظواہر کی بتیہن و توضیح سے

قبل یہ بتائیں کہ شریعت اسلامیہ میں حدیث نبوی کو کیا اہمیت و مقام حاصل ہے۔ اہل ظاہر کی رائے میں حدیث کے طرق روایت کیا ہیں؟ وہ کن احادیث کو قبول کرتے ہیں اور کن کو نہیں؟ پھر ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ اہل ظاہر نصوص سے احکام کا استنباط کس طرح کرتے ہیں۔ فقہاء میں اہل ظاہر کی دو خصوصیات ہیں :-

(۱) ظواہر نصوص سے احتجاج۔

(۲) تعلیل و قیاس کی نقی۔

لہذا حدیث نبوی سے متعلقہ مباحث میں ہم ان دو امور سے خصوصی اعتناء کریں گے کیونکہ

انہی دو امور پر روشنی ڈالنے سے ظاہری فقہ کی خصوصیات منظر عام پر آئیں گی۔ یا بالفاظ موزوں تو یوں کہیں گے کہ فقہ ابن حزم کے خصوصی غدو خال نمایاں ہوں گے۔

## حدیث نبوی کی حجیت و اہمیت

دین اسلام میں حدیث نبوی کا مقام بہ قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی تفسیر و تشریح میں حدیث نبوی قرآن کریم کی تکمیل کرتی ہے۔ سب علماء و کا اس پر اجماع ہے۔ البتہ ایک جماعت حجیت حدیث کا انکار کرتی ہے تاریخ اسلام نے اس کا نام و نشان مٹا دیا ہے اور اس کے صفحات پر یہ ان کا ذکر باقی نہیں۔

ابن حزم فرماتے ہیں :-  
جب اہم بیان کر چکے کہ قرآن کریم دین کا اصل مرجع ہے تو غور کرنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کریم کے ارشاد و احکام واجب الطاعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنحضرتؐ کی تعریف و توصیف میں فرماتے ہیں :-

رَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَدَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا  
اَنْحُورُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي نُوَاہِشُ  
سے نہیں بولتے آپ کا ہر ارشاد وحی کا  
ترجمان ہوتا ہے۔

(النجم - ۴)  
اس سے ثابت ہوا کہ خدا کی نازل کردہ وحی و قسموں میں منقسم ہے :-  
(۱) وحی کی ایک قسم وحی منقولہ ہے جس کی ترکیب و تالیف موجب اعجاز ہے۔  
(۲) دوسری قسم کی وحی مردی و منقول ہے نہ وہ مرکب ہے نہ معجز النظام اور نہ منقولہ ہے۔ البتہ وہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ حدیث نبوی ہے جو خدا کی مراد کو واضح کرتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے :-

لَتَبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا تَوَلَّوْا الْبَہِدُوْہ  
تاکہ آپ لوگوں کے لئے اس چیز کی وضاحت  
کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہے

(الخل - ۴۴)  
خداوند کریم نے وحی غیر منقولہ کی اطاعت بھی ضروری قرار دی ہے۔ وجوب اطاعت میں یہ وحی کی قسم اول یعنی قرآن کریم کے برابر ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ابن حزم کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل آیت میں شریعت اسلامیہ کے مصادر و ماخذ بیان کر دئے ہیں :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ  
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا  
الَّذِينَ أُمِرُوا بِهِمْ ۚ وَأَطِيعُوا  
الْوَالِدِينَ الَّذِينَ فِي اللَّهِ  
دِينٌ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(النساء - ۵۹)

وہ شرعی اصول جو اس آیت میں مذکور ہیں (۱) کتاب اللہ (۲) حدیث نبوی (۳) اجماع۔  
شریعت کا چوتھا اصول دلیل ہے جو ان مصادر ثلاثہ سے ماخوذ و مستنبط ہے۔ خدا تعالیٰ کی  
اطاعت قرآن کی طرف رجوع کرنے سے کی جاتی ہے۔ رسول کریم کی اطاعت حدیث پر عمل کرنے  
سے اور اصحاب الامر کی اطاعت اجماع پر حاصل ہونے سے ہوتی ہے کیوں کہ وہ ان کی  
نظر میں اصحاب امر ہیں۔

ابن حزم امام شافعی کے ہمتوا ہیں

**قرآن و حدیث وجوب اطاعت میں مساوی ہیں** جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کتاب و

سنت دین کے درمستقل ماخذ ہیں اور ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ وہ ان دونوں  
کو نصوص کہتے ہیں۔ کیونکہ جب حدیث کا حجت ہونا قرآن کی روشنی میں معلوم ہو گیا تو وہ شرعی  
ماخذ کی ایک الگ قسم قرار پائی جو قرآن کی تکمیل کرتی ہے۔ ان دونوں پر نصوص کا اطلاق کیا جائے گا  
کیونکہ دونوں وحی کی قسمیں ہیں اور شرعی احکام کے اثبات میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے  
ابن حزم فرماتے ہیں :-

«قرآن و حدیث صحیح دونوں ایک دوسرے کی طرف منسوب ہیں۔»

منجانب اللہ ہونے کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہی نور کا پرتو ہیں۔ وجوب

اطاعت کے اعتبار سے بھی دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ  
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا  
الَّذِينَ أُمِرُوا بِهِمْ ۚ وَأَطِيعُوا  
الْوَالِدِينَ الَّذِينَ فِي اللَّهِ  
دِينٌ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی اطاعت  
کیجئے اور جب تم سنتے ہو تو اس سے انحراف  
نہ کیجئے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں  
نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے  
نہیں۔

(الانفال - ۲۱، ۲۰) لہ

اس اقتباس سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ ابن حزم کی رائے میں علم شریعت میں کتاب و

سنت کا ایک ہی مقام ہے کیونکہ وحی ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ گویا ایک ہی مصدر و مأخذ کے دو شعبے ہیں۔ اثبات احکام میں بھی دونوں ایک دوسرے کے مماثل و مشابہ ہیں، مصدر اول یعنی قرآن کریم سے مصدر ثانی یعنی حدیث کا اثبات ہوتا ہے۔

حدیث کا حجت ہونا جب قرآن سے معلوم ہو جاتا ہے تو شرعی احکام کے اثبات میں اسے قرآن کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ علم شرعی کے مصادر ابن حزم کی نگاہ میں تین ہیں۔

(۱) نصوص کتاب و سنت۔

(۲) اجماع

(۳) جو امر نصوص و اجماع پر مبنی ہو اسے وہ دلیل کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

ابن حزم بعض فقہاء کی طرح اس بحث میں نہیں پڑتے کہ آیا قرآن سنت پر حاکم ہے؟۔ کیوں کہ حدیث پر عمل کرنے کے لئے اسے قرآن کے معیار پر پڑھا جاتا ہے۔ یا حدیث اس اعتبار سے حاکم علی الکتاب ہے کہ حدیث سے قرآن کی معرفت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ بعض شوافع اور صابلیہ کا خیال ہے۔ وہ ان دونوں نظریات کے برعکس کتاب و سنت کو وحی محمدی کی دو قسمیں قرار دیتے ہیں جو ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اور باہم متحد ہیں، منفصل نہیں۔

حدیث نبوی کے اقسام۔  
حدیث نبوی اپنی ذات کے اعتبار سے تین قسموں میں منقسم ہے۔

(۱) انْخُصِرَ کے اقوال (۲) آپ کے افعال (۳) تقریر۔

قول (۱) انْخُصِرَ کے اقوال وہ احادیث ہیں جو آپ سے منقول ہیں۔ ایسی حدیثیں بہت سی ہیں۔ مثلاً وہ حدیث جس میں زکوٰۃ کے احکام مذکور ہیں۔ صحیح ستہ کی اکثر احادیث آپ کے اقوال ہیں۔

فعل (۲) حدیث کی دوسری قسم انْخُصِرَ کے افعال ہیں۔ مثلاً نماز، اعتکات اور دیگر افعال یہ سب سنت ہیں اور جمہور کے نزدیک دین میں حجت ہیں۔ کیونکہ یہ خدا کی ارسال کردہ وحی سے ثابت ہیں اور ان کا اتباع واجب ہے۔ اسی لئے آپ نے فرمایا۔

مَلُّوا كَمَا دَأَيْتُمُونِي فِي أَمَلِي ۖ  
جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھا کرو۔

تقریر :- (۳) تقریر سے مراد یہ ہے کہ کوئی صحابی آنحضرتؐ کی موجودگی میں کوئی کام کرے اور آپ سے منع نہ فرمائیں۔ مثلاً عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جنہی ہو گئے تو انہوں نے تیم فرمایا کیوں کہ پانی ٹھنڈا تھا اور آپ سے استعمال کرنے پر قادر نہ تھے۔ اسے گرم کرنے کے لئے آگ بھی نہ تھی یہ ہیں حدیث کے اقسام اس کی حقیقت اور اجزاء کے اعتبار سے حدیث کی یہ تمام قسمیں حجت ہیں مگر ان میں فرق مراتب پایا جاتا ہے اگر حدیث وجوب پر دلالت کرتی ہو تو فعل واجب ہوگا۔ اگر نذیب پر روشنی ڈالتی ہو تو وہ حکم مندوب ٹھہرے گا اور اگر دال علی الاباحت ہو تو مباح ہے۔

**حدیث کے مختلف اقسام کا شرعی حکم :-** ابن حزم نے حدیث کی اس تقسیم کا ذکر کیا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ وجوب کا علم صرف آپ کے اقوال سے ہوتا ہے۔ آپ کے افعال رہنمائی ضرور کرتے ہیں مگر واجب نہیں ہوتے۔ تقریرات اباحت کا فائدہ دیتی ہیں۔

فرماتے ہیں :-

«احادیث کی تین قسمیں ہیں (۱) آپ کے اقوال (۲) آپ کے افعال (۳) تقریرات۔ اقوال کا حکم :- آنحضرتؐ کے افعال، فرض اور واجب ہیں جیسا کہ ہم آگے چل کر اس کتاب کے باب الاوامر میں ذکر کریں گے۔ بجز اس سب سے کسی دوسری دلیل سے ان کا مندوب یا مباح ہونا ثابت ہو جائے۔»

**اقوال کا حکم :-** آپ کے افعال کا حکم یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جائے مگر ان پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ آپ نے کوئی حکم عملاً نافذ فرمایا ہو یا کسی امر کو فعل سے بیان کیا ہو جیسا کہ آپ کے افعال کا ذکر کرتے ہوئے ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔

**تقریر کا حکم :-** کسی کام کو دیکھ کر خاموش رہنے اور اس پر اعتراض نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام مباح ہے نہ واجب اور نہ مندوب۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر احکام کا پہنچانا فرض قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ فرمایا تھا کہ دوران تبلیغ آپ کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے۔ لہذا آپ پر قرآن کی تشریح و توضیح واجب کر دی گئی تھی۔

اس کلام سے مستفاد ہوتا ہے کہ ابن حزم صرف اقوال ہی کو حجت دامنہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی رائے میں صورتِ انہی سے شرائع و احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ابن حزم اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ پر مامور تھے اور تبلیغ قول سے ہوتی ہے آپ کے افعال ہمارے لئے نمونہ ہیں۔ نمونہ مستحسن ہوتا ہے اور واجب نہیں ہوتا۔ ابن حزم اس آیت سے استشہاد کرتے ہیں :-

” لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۗ ” (الاحزاب - ۲۱) میں عمدہ نمونہ موجد ہے۔

ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر نمونہ پر عمل کرنا واجب ہوتا تو آیت کے الفاظ یوں ہوتے۔ لَقَدْ كَانَ عَلَيْكُمْ ۗ (البتہ ہے تم پر) ان الفاظ سے نمونہ پر عمل پیرا ہونا ممنوع پر واجب ہو جاتا اور یہ نہ کہا جاتا کہ آپ ان کے لئے نمونہ ہیں۔

ابن حزم کی رائے میں رسول کریم کے افعال اس صورت میں واجب ہوتے ہیں۔ جب آپ عملاً کتاب و سنت کے کسی حکم کو نافذ فرماتے ہوں یا اس فعل کے ساتھ امر بھی مقرر و متصل ہو۔ مثلاً فرمایا ”یسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو“ نیز فرمایا۔

” خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَ ۗ ” مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو

یا آپ کا ان لرگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کرنا جو نماز جماعت کے لئے مسجد میں نہیں آتے اور شراب نوشی کا ارتکاب کرنے والے کو چابک مارنا۔ اسی طرح بعض افعال قرینہ کی بناء پر واجب قرار پاتے ہیں۔ مثلاً حضرت ابن عباس کو نماز پڑھتے دیکھتے اپنی بایں جانب سے دائیں طرف موڑنا۔ یہ فعل اس قرینہ کی بناء پر قول کے قائم مقام ہے۔

یہ بیانات اس حقیقت کو

**وجوب کا اثبات صرف اقوالِ النبی سے ہوتا ہے۔** آشکار کرتے ہیں کہ ابن حزم کی

رائے میں صورتِ آنحضرت کے اقوال ہی دین میں حجت ہیں۔ افعال اس صورت میں حجت لازمہ ہوں گے جب قول سے مقرر و متصل ہوں یا ایسا قرینہ پایا جاتا ہو جو قول کے قائم مقام ہو یا آپ نے کسی امر کو عملاً نافذ فرمایا ہو۔ سب اہل ظاہر کا قول یہ ہے اور یہ ان کے ظاہری ہونے

کا تقاضا بھی ہے کہ وہ وجوب احکام صرف آپ کے اقوال ہی سے سمجھتے ہیں۔ کیونکہ فریضہ تبلیغ کی انجام دہی قول ہی سے ہوتی ہے۔ لہذا اقوال کے ماسوا کسی دوسری دلیل سے اس وقت تک شرعی احکام ثابت نہ ہوں گے جب تک ان کے ساتھ آپ کا قول نہ ہو یا ایسا قرینہ نہ پایا جاتا ہو جو قول کے قائم مقام ہو۔

شواہخ کا ایک طائفہ بھی ان خصوصیات کے افعال کو شرعی دلیل تصور نہیں کرتا۔ بعض شواہخ مالکیہ اور احناف اس ضمن میں ایک اور رائے رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ افعال النبی کے بارے میں اس وقت تک توقف کریں گے جب تک ان کا وجوب، ندب یا اباحث ثابت نہ ہو جائے بعض دیگر حنفی اور مالکی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے افعال وجوب پر دلالت کرتے بلکہ قولی ادھر سے بھی ان میں زیادہ تاکید پائی جاتی ہے۔

میری ذاتی رائے یہ ہے کہ متوسط قول سب سے بہتر ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے افعال کا حکم قرآن سے اخذ کرنا چاہیے۔ اگر قرینہ وجوب پر دلالت ہو تو فعل وجوب کے لئے ہوگا۔ اور اگر وجوب کے علاوہ قرینہ کسی اور بات کا متقاضی ہو تو فعل اسی پر دلالت کرے گا۔ میرے خیال میں یہ نظریہ ابن حزم کی رائے سے ہم آہنگ ہے۔ کیونکہ افعال سے اس وقت تک احکام کا اثبات نہیں ہوتا جب تک اس کو محیط ہونے والے قرآن ان پر دلالت نہ کرتے ہوں۔

روایت کے اعتبار سے اقسام حدیث :- یہ ہیں حدیث کے اقسام اس کی ذات

اول ماہیت کے اعتبار سے ابن حزم

حدیث کو اس کی روایت کے اعتبار سے بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے حدیث کی دو قسمیں ہیں :-

(۱) احادیث متواترہ۔

(۲) اخبار احاد۔

ابن حزم فرماتے ہیں کہ سب علماء احادیث متواترہ کو دین میں حجت مانتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث بنوی قرآن کریم کی شارح ہے اور اس کے مجملات کی توضیح کرتی ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں :-

"درود و نص کے بعد دو مسلمان اس بات میں کبھی اختلاف نہیں کرتے کہ صحیح



حدیث کا اتباع فرض ہے اور یہ کہ حدیث نبوی مراد خداوندی کی تفسیر پیش کرتی  
اور اس کے مجملات کو تفصیلاً بیان کرتی ہے۔ اس قطعی اجماع کے بعد مسلمانوں کے  
یہاں اس امر میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ صحیح حدیث معلوم کرنے کا طریقہ  
بتائیے؟ ہر مسلمان اس امر ربانی کا اطاعت شعار ہے۔ قرآن میں فرمایا۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا الرَّسُولَ ۗ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَمْرٌ رَّبَّانِيٌّ كَيْفِيٌّ

غور کرنے پر معلوم ہوا کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں (۱) متواترہ یہ ان حدیث کو کہتے ہیں جن  
کو ایک جگہ غیر دوسری جماعت کثیرہ سے روایت کرتا ہو یہاں تک کہ ان کا سلسلہ آنحضرت  
تک پہنچ جائے۔ ایسی احادیث سب کے نزدیک قابل احتجاج ہیں اور قطعی طور پر  
حق و صدق ہیں کیونکہ اخبار متواترہ ہی سے ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن وہ کتاب ہے جسے  
محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ انہی سے آپ کی رسالت کا اثبات ہوا۔ انہی سے نمازوں کے  
رکوع۔ نمازوں کی تعداد اور بہت سے احکام زکوٰۃ معلوم ہوئے۔ اور اس قسم کے بہت سے  
احکام معلوم ہوئے جو تفصیلاً قرآن میں مذکور نہیں۔

ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ اخبار متواترہ یقینی  
اخبار متواترہ علم یقینی کی موجب ہیں۔ اور طبعی علم کی موجب ہیں۔ صرف شریعت

ہی اخبار متواترہ کے پائے جانے کے وقت یقین و اطمینان کو واجب نہیں کرتی بلکہ بدہمت  
اور انسانی فطرت بھی ان کے ساتھ وجوب علم کی مقتضی ہے اور ان کے ساتھ حصول علم  
ضروریات میں سے ہے۔ ورنہ بہت سے مسلمہ معلومات کو روک کر ناپڑے گا۔ مثلاً بلاد و امصار  
ملوک و سلاطین اور علماء و فلاسفہ کا علم تواترہ سے حاصل ہوا۔

ابن حزم رقمطراز ہیں:-

”ضرورت و طبیعت تواترہ کے قبول کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیوں کہ ہم نے  
مختلف بلاد و امصار، سابقہ انبیاء، علماء، ملوک و سلاطین، واقعات و حوادث  
اور تصانیف و توالیف کو صرف تواترہ کی بنا پر پہچانا ہے۔ جو تواترہ کا انکار کرتا ہے  
وہ گویا جو اس اول کے مدرکات کا منکر ہے لہذا اسے اس بات کا بھی انکار کرے

دینا چاہیے کہ اس سے قبل بھی زمانہ گذر چکا ہے۔ بلکہ اس سے ایک قدم بڑھ کر وہ اپنے والدین کا بھی انکار کرے اور اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ اس نے کسی عورت کے بطن سے جنم لیا۔

اس سے واضح ہوا کہ ابن حزم کی رائے میں تو اتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بعینہ اس علم کی مانند ہے جو ہمیں جو اس کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے۔ گویا اخبار متواترہ اور امور محسوسہ کا اذعان و ایقان برابر ہے جس طرح بدیہیات میں اختلاف رونما نہیں ہوتا۔ یہی حال متواترہ کا ہے۔ انسان کے اکثر معلومات تو اتر پر مبنی ہیں۔ مثلاً انسان کے والدین کا علم گزشتہ زمانہ اور ان اشیاء کا علم جو اس میں تھیں۔ مثلاً اشخاص، اشیاء، اعمال اور علاوہ ازیں۔ ان کا علم صرف تو اتر سے حاصل ہوتا ہے۔ جو متواترہ کا انکار کرتا ہے اس نے گویا معلومات اولیہ کے ایک عظیم ذریعہ کو ساکت کر دیا اور ایسے معاشرہ کے معلومات کو کالعدم قرار دیا جس میں قدیم و جدید زندگی کا سانس لیتے ہیں۔

ابن حزم اخبار متواترہ کے مفید ایقان اور اذعان ہونے کے بعد تو اتر کی تالیف

میں علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں پھر بڑی تیز و تند زبان میں ان پر تنقید کرتے ہیں۔ اب ہم پہلے ان کے ذکر کردہ اقوال علماء بیان کریں گے پھر تو اتر کے بارے میں ان کی رائے ذکر کریں گے۔

ابن حزم فرماتے ہیں :-

«اخبار متواترہ کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ ان کے راویوں کی تعداد کتنی ہو۔ اس میں مندرجہ ذیل خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔

(۱) یہ روایت تب معتبر ہوگی جب مشرق و مغرب کے رہنے والے سب روایت کریں۔

(۲) ایک گروہ کی رائے میں اخبار متواترہ اس صورت میں قابل اعتماد ہیں جب لا تعداد لوگ ان کی روایت کریں۔

(۳) ایک فریق کی رائے میں متواترہ کے راویوں کی تعداد بدری صحابہ کی طرح تین صد سے متجاوز ہونی چاہیے۔

- (۴) ایک فریق ستر رواۃ کی شرط عائد کرتا ہے۔
- (۵) ایک گروہ کے نزدیک جیسے تمام میں سچا س گواہ مطلوب ہوتے ہیں متواتر کے راوی بھی اس سے کم نہ ہوں۔
- (۶) ایک جماعت کے نزدیک چالیس راوی ضروری ہیں۔ کیونکہ آغاز اسلام میں جب مسلمانوں کی تعداد چالیس ہو گئی تھی تو اسلام کا اظہار کر دیا گیا تھا۔
- (۷) ایک فریق بیس کی قید لگاتا ہے۔
- (۸) ایک گروہ کے نزدیک رواۃ متواتر کی تعداد کم از کم پانچ ہونی چاہیے۔
- (۹) علماء کی ایک جماعت چار کی قید لگاتی ہے۔
- (۱۰) ایک فریق کے نزدیک تین راوی شرط ہیں۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب سائل کی قوم کے تین آدمی یہ بات کہیں کہ یہ آفت زدہ ہے تب اس کی امداد کرنا چاہیے۔
- (۱۱) ایک فریق کی رائے میں متواتر کے راوی کم از کم دو ہونے چاہئیں بلکہ
- اس طرح ابن حزم تواتر کی تعریف میں تمام اقوال ذکر کرتے ہیں۔ اس کی کم از کم تعداد دو بتائی گئی اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ مشرق و مغرب کے رہنے والے تمام لوگ اس روایت کو نقل کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن حزم مسئلہ زینحہ میں کس قدر وسیع معلومات رکھتے تھے۔ نیز یہ کہ جب وہ دوسروں سے اختلاف کرتے ہیں تو ان کا یہ اختلاف بصیرت و آگہی پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ تمام اقوال ذکر کرنے کے بعد آخر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ سب اقوال بلا دلیل ہیں لہذا باطل ہیں پھر فرداً فرداً ان کا بطلان ثابت کرتے ہیں۔

ہمیں ان اقوال کے بطلان سے چنداں  
خبر متواتر کی تعریف ابن حزم کی نگاہ میں واسطہ نہیں البتہ آپ کی رائے کا معلوم کرنا

اس ضمن میں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ ابن حزم کی رائے یہ ہے کہ دو سے کم راویوں میں تواتر کا تصور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس میں تعدد کا وجود ضروری ہے۔ ابن حزم جہاں یہ کہتے ہیں کہ تواتر کی بناء پر جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ بدیہی اور ضروری ہے شرعی نہیں وہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ بدیہی معلومات جو ہر نفس انسانی میں مرکوز ہیں اور جن کی بناء پر انسان باقی حیوانات سے

ممتاز ہو جاتا ہے ان میں اس چیز کا علم بھی شامل ہے کہ دو آدمی جو زندگی میں کبھی نہ ملے ہوں اگر ایک روایت کے بیان کرنے میں یک زبان ہوں تو اس روایت کی صداقت کا علم بداہتہ حاصل ہو جائے گا اور کوئی شخص اس کی تکذیب نہیں کر سکے گا۔

وہ متواتر سے حاصل شدہ علم کو انہی بدیہیات میں شمار کرتے ہیں، وہ گنتی کو نہیں دیکھتے کیونکہ دس یا بیس آدمی ایک جگہ جمع بھی ہو سکتے ہیں اور روزانہ ان کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے اور اس کا امکان باقی رہتا ہے کہ وہ دانستہ دروغ گوئی سے کام لیں اور ایک طے شدہ جھوٹ پر متحد ہو جائیں۔ ان کی باتوں میں اس طرح شک و شبہ رونما ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف دو آدمی جو باہم کبھی نہ ملے ہوں۔ دونوں میں سے ہر ایک بڑھی بڑھی خبر بیان کرتا ہو۔ دوسرا شخص بھی من و عن کہ وہ خبر اسی طرح ذکر کرتا ہو۔ ایسی خبر پر یقین کرنا ایک بدیہی امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حزم تواتر کے معنی کو دیکھتے ہیں اس کی تعداد کو نہیں کہ آیا خبر دہندگان دروغ گوئی پر متفق ہوتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ اس پر متفق ہو سکتے ہوں تو وہ خبر متواتر نہ ہوگی راویوں کی تعداد خواہ کتنی بھی ہو۔ اور اگر دروغ بانی پر جمع ہونا ممکن نہ ہو تو قلتِ عدد کے باوجود وہ خبر متواتر ہوگی۔ البتہ دو سے کم راویوں میں تواتر کا امکان نہیں ہوتا۔

اب ہم ابن حزم کے اپنے الفاظ میں ابن حزم کا نظریہ ان کے اپنے الفاظ میں :- ان کے نظریہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔

قبل ازیں جو کچھ مذکور ہوا اس کی حیثیت ایک تمہید کی تھی۔ ابن حزم سابقہ اقوال کا ابطال کرنے کے بعد فرماتے ہیں :-

اگر کوئی شخص ہم سے دریافت کرے کہ جو خبر علم بدیہی و ضروری کی موجب ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ تو بتوفیق ربانی ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ انبیاء علیہم السلام جو دلائل کی بنا پر معصوم ہیں ان کے علاوہ دوسرے لوگوں سے دروغ گوئی کا صدور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات محسوسات اور بدیہیات کے قبیل سے ہے۔ ایک جماعت کثیرہ بھی خوف یا امید کی بنا پر دروغ گوئی کی جمع کی جا سکتی ہے مگر یہ امر پوشیدہ نہیں رہتا بلکہ جب وہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو دروغ باقی کار از طشت از باطم ہو جاتا ہے۔ بخلاف ازیں جب دو یا دو سے زیادہ اشخاص ایسے ہوں جو باہم کبھی نہ ملے ہوں اور خبر کے بیان کرنے میں رغبت یا رہبت و خوف ان کی محرک نہ ہو،

وہ ایک دوسرے سے آشنا بھی نہ ہوں اور وہ دونوں جداگانہ طور پر ایک  
طویل خبر سنائیں تو اس بات کا احتمال بھی ہے کہ دونوں نے مل کر اس جھوٹ  
کو تصنیف کیا۔ بلکہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے مشاہدہ کی بنا پر یہ خبر دی ہو یا  
کسی دیکھنے یا سننے والی جماعت سے سنا کر یہ بتایا ہو یا اپنے جیسے دو آدمیوں سے  
سنا ہو، تو ایسی خبر لامحالہ صادق ہوگی اور اسے ہر حال میں تسلیم کرنے سے چارہ نہ ہوگا۔  
جو شخص بھی ذرہ غور و فکر گوارا کرتا ہے تو روزانہ پیش آنے والے واقعات کو اسی  
بنا پر تسلیم کر لیتا ہے۔ مثلاً کسی کی موت کی خبر یا ولادت، نکاح، ولایت اور  
دیگر امور کی خبر ہمارا یہ نظریہ قلت تدبیر کی بنا پر دوسرے لوگوں پر مخفی رہا اگر آپ  
کسی آدمی کو ایک طویل بات اختراع کرنے پر مجبور کریں تو وہ بہ کام باسانی انجام  
دے سکے گا۔ یہ امر مشاہدہ سے معلوم ہو چکا ہے اور اگر دو آدمیوں کو درالگ  
الگ گھروں میں ٹھیرادیں اور ہر ایک سے کہیں کہ وہ الگ الگ ایک بھوٹی بات  
تصنیف کرے تو ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ وہ از اول تا آخر ایک ہی بات پر یک زبان  
ہوں۔

ابن حزم کا یہ اقتباس اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ خبر متواتر میں احتیاط یہ ہونی چاہئے  
کہ دروغ بانی پر اتفاق نہ ہو جائے۔ اگر سامع کو جھوٹ پر جمع نہ ہونے کا یقین ہو جائے تو  
تسلط اثر سے ضروری اور بدیہی علم حاصل ہوگا اور ایسا درادریوں کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے جب کہ  
باہم ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ بعض اوقات کثرت تعداد کے باوجود بھی کذب کا احتمال  
باقی رہتا ہے جب وہ مل جل کر کسی رغبت کی بنا پر یا کسی کے ڈر سے جھوٹی بات گھڑ لیں۔  
ابن حزم کا اعتقاد اس نقطہ نظر میں دو امور پر ہے۔

(۱) امرا دل بداہت جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ فطرت انسانی ہے کہ جب دو آدمی کسی  
خبر کا انکشاف کریں اور وہ باہم ملنے جھنجھکی ہوں اور اس کے باوجود بھی ان کی خبر ایک  
دوسرے سے ملتی جلتی ہو تو بنا پر بداہت ان کی خبر صحیح ہوگی۔ اور کوئی شخص اسے جھٹلا  
نہیں سکتا۔

(۲) مردم جس پر ابن حزم اعتماد کرتے ہیں وہ مستقراء و تتبع ہے۔ مثلاً کسی کی پیدائش معزولی، ولی عہدی اور نکاح وغیرہ سے متعلق جو خبریں ملتی ہیں ان کی تصدیق تو اتر سے کی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے درآرمیوں کی خبر سے بھی اس کے تراثر کا علم ہو جاتا ہے جن کی ملاقات باہم کبھی نہ ہوئی ہو۔ اس سے یقین بھی حاصل ہو جاتا ہے جب کہ خبر ہر لحاظ سے متفق علیہ ہو۔

یہیے تو اتر کے منی کے بارے میں ابن حزم کا  
**ابن حزم کے نقطہ نگاہ کی تلخیص**۔ نقطہ خیال! ان کا یہ نظریہ ان کے منہج و مسلک

کے ساتھ کامل طور پر ہم آہنگ ہے۔ نظریہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان پیدائش پر اعتماد کرتے ہیں جسے وہ علم النفس کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ لوگوں کے حالات کے استقراء و تتبع پر اس نظریہ کو مبنی قرار دیتے ہیں۔

تو اتر کا ذکر و بیان ختم کرنے سے قبل ہم دو باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں:

امر اول :- پہلی بات یہ ہے کہ تو اتر کی تشریح واضح ہو جانی چاہئے اور وہ یہ ہے کہ ہر طبقہ میں کذب پر توافق و تطابق محال ہو جائے اور اسی حالت میں حدیث کی سند نبی کریم تک پہنچ جائے۔ اگر سند میں کسی جگہ بھی توافق علی الکذب کا احتمال پایا جائے گا تو تو اتر باقی نہیں رہے گا اور وہ حدیث خبر را حد کہلے گی۔

امر ثانی :- دوسری بات یہ ہے کہ متواتر کی غرض و غایت جو کہ علم ضروری کا حصول ہے آیا ایک را دی سے بھی پوری ہو سکتی ہے؟

ابن حزم اس کا مثبت جواب دیتے ہیں البتہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اکثر نہیں ہوتا بلکہ تو اتر سے جو علم بدیہی حاصل ہوتا ہے اس کے لئے تعدد ضروری ہے۔ ابن حزم لکھتے ہیں :-

"بعض اوقات ایک شخص کے خبر دینے سے بھی صحیح علم حاصل ہو جاتا ہے مگر

عموماً ایسا نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی یہ امر وقوع پذیر ہوتا ہے۔"

قبل ازیں ہم نے متواتر کا ذکر کیا تھا جس سے یقینی اور قطعی علم حاصل ہوتا

**اخیراً حادہ** ہے ہم ابن حزم اور دیگر علماء کے نظریات اس ضمن میں مسلم کرچکے ہیں۔

بھی بیان چکے ہیں کہ ابن حزم کی رائے میں متواتر سے علم ضروری اور بدیہی حاصل ہوتا ہے۔

یہ قسم اول تھی۔ اب ہم دوسری قسم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور وہ احادیث احاد ہیں۔ ہم قبل انہیں بیان کر چکے ہیں کہ شیخہ کے ساتھ تمام اسلامی فرقے اخباراً ظاہراً کو احکام شرعیہ میں حجت تسلیم کرتے ہیں۔ بصرہ کے کچھ لوگ بھی شیعہ کے ہمنوا تھے۔ امام شافعی نے اپنی کتاب تصنیف کتاب الامم میں ان پر سخت تنقید کی ہے۔ ابن حزم کا نقطہ نظر ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے وجوب عمل اور ایقان و اذعان دونوں کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ اخباراً احاداً متواترہ کی طرح علم بدیہی کی موجب نہیں ہیں۔

ابن حزم خبر واحد کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی دوسرے ایک شخص سے روایت کرے اور بروایت عدل و ثقات اس حدیث کا سلسلہ آنحضرت سے جا ملے خبر واحد کے راوی کبھی ایک سے زائد بھی ہوتے ہیں مگر وہ متواتر کے شرط کی حامل نہیں ہوتی اور وہ یہ ہے کہ اس میں کذب کا احتمال نہ ہو۔

ابن حزم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ خبر واحد اخباراً احاد کے ضمن میں ابن حزم کے دلائل: کی صداقت پر ایمان لانا اور اس پر عمل پیرا ہونا دونوں امور ضروری ہیں۔ گویا خبر واحد عمل و اعتقاد دونوں کی موجب ہے۔ وہ اپنے نظریہ کے اثبات میں یہ دلائل دیتے ہیں:-  
۱۔ پہلی دلیل یہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے:-

«فَلَوْلَا نَفْعٌ مِنْكُمْ لَشَاءَ مَا نَدَبُوا عَلَى الْغَيْبِ»  
«لَا يَنْفَعُ الْغَيْبُ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ»  
«لِيُنذِرَ مِمَّا قَدْ مَلَاحَظُوا إِذَا جَعُوا إِلَيْكُمْ»  
«لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»  
(التوبة - ۱۲۲)

ابن حزم کی رائے میں طائفہ کا اطلاق واحد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے اور یہ لغوی اطلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ جب یہ طائفہ واپس آ کر کوئی چیز بتائے تو سامعین کے لئے اس کا تسلیم کر لینا ضروری ہے یعنی ان کے علم کی صداقت کو ماننا اور اس پر عمل پیرا ہونا واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ راوی جب عادل ہو تو اس کی روایت قابل احتجاج ہے۔ طائفہ کو واحد کے معنی میں استعمال کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں:-

”عربی زبان میں طائفہ کا اطلاق ایک یا ایک سے زائد پر ہوتا ہے۔  
عربی میں جب ”طَائِفَةٌ مِنَ الشَّيْءِ“ بولتے ہیں تو اس سے مراد چیز کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔“  
ہم یہ لغوی بیان تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طائفہ واحد اور جمع دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

مگر یہاں جمع کا قرینہ موجود ہے اور وہ جمع کی ضمیر ہے، کیونکہ لِيَتَّفَقُوا فِي التَّائِينَ كَلِمًا  
بِأَقْوَمَتِهِمْ إِذَا جَعَلُوا إِلَيْهِمْ۔ سب جمع کے الفاظ ہیں۔ لہذا اس آیت سے استدلال کرنے میں ہم ابن حزم سے اتفاق نہیں کرتے۔

۲۔ دوسری دلیل :- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے ان سلاطین کی طرف جو بلاد عرب کے قریبی علاقوں میں برسرِ اقتدار تھے ایک ایک قاصد بھیجا تھا۔ قاصدوں کے بھیننے کا واقعہ مشہور ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ اس ایک قاصد کی زبانی بیان کردہ شرعی احکام ان کے لئے واجب الطاعت ہیں۔ لہذا آپ کا ایک قاصد کو بھیجنا خبر واحد کے قبول کرنے کی دلیل ہے۔ اس کا نام امام شافعی نیز ائمہ رکھتے ہیں۔ ابن حزم کی بیان کردہ یہ دلیل درست ہے اس پر کسی تنقید کا امکان نہیں۔

۳۔ تیسری دلیل :- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف حضرت ابو موسیٰ کو کسی اور طرف اور حضرت ابو بکرؓ کو امیر حج بنا کر ابو عبیدہؓ کو خیران کی جانب اور حضرت علیؓ کو یمن کی طرف بھیجا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس علاقہ کے لوگ مشرف باسلام ہو چکے تھے ان کی طرف آپ نے ایک ایک صحابی کو امیر بنا کر بھیج دیا خواہ وہ علاقہ قریب ہو یا دور تاکہ ان کو شرعی احکام سکھائیں، قرآن پڑھائیں اور ان کے معاملات طے کریں وہ سب آنحضرتؐ کی جانب سے مامور تھے۔ اگر ایک شخص کی خبر علم و عمل کی موجب نہ ہوتی تو آپ ایک ایک شخص کو نہ بھیجتے بلکہ ہر جگہ ایک جماعت بھیجتے تاکہ وہ ایک دوسرے کے حق میں شہادت دے کر اس کی تصدیق کر سکتے۔

۴۔ چوتھی دلیل :- صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی نیا واقعہ پیش آتا تو باہم پوچھتے کہ آیا کسی کو اس کے متعلق حدیث کا علم ہے؟ جب کوئی شخص بتا دیتا تو وہ حدیث کو



قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ بعض صحابہ مثلاً حضرت ابراہیمؑ شہادت بھی طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت اعلیٰ زیادہ تاکید کے لئے حلف دیتے تھے، ویسے بلا حلف بھی حدیث کو قبول کر لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خبر واحد علم و عمل دونوں کے لئے کافی ہے یہ اور اس سے پہلے والی دونوں دلیلیں امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں بیان کی ہیں۔

جن دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خبر واحد جب عادل و سادہ  
مخالفین کے اقوال کی تردید :- کی روایت کردہ ہو اور اس کی سند بھی متصل ہو تو وہ

قابل احتجاج ہے۔ ان کی تفصیلات کا ذکر کرنے کے بعد ابن حزم ان علماء کے اقوال کی تردید کرتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ جن دینی امور کا جاننا سب کے لئے فروری ہے مثلاً اذان اور اقامت وغیرہ ان کے بارے میں ایک شخص کی روایت معتبر نہیں ہے۔ پھر احداث کی تردید کرتے ہیں جو خبر واحد کی قبولیت کے لئے شہرت کی قید لگاتے ہیں۔ پھر معتزلہ کی تردید پر قلم اٹھاتے ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ اخباراً حاد سے عقائد کا اثبات نہیں ہوتا۔ ابن حزم اس نظریہ کی بھی تردید کرتے ہیں کہ خبر واحد ظنی علم کا فائدہ دیتی ہے اور یقینی کا نہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔

”یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی خبر پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری قرار دیا ہے۔ بشرطیکہ وہ ثقہ ہو اور اپنے جیسے ثقہ سے روایت کرتا ہو اور اسی طرح وہ سنداً نخصور تک پہنچ جائے۔ ہمارا یوں کہنا بھی قرین صحت ہے کہ رسول اللہ نے اس بات کا حکم دیا آپ نے یوں فرمایا یا آپ نے اس طرح کیا۔ خداوند تعالیٰ نے دین اسلام میں ظن کی بنا پر کوئی بات کہنے سے منع فرمایا ہے بلکہ اس کا پورا یقین ہونا چاہیے، اگر خبر مذکور میں کذب یا وہم کا احتمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بات کہنے کا حکم دیا جو ہم جانتے نہیں اور اس طرح اس نے دین میں ظن کی بنا پر حکم صادر کرنا ہم پر واجب قرار دیا۔ حالانکہ ہمیں اس کا علم نہیں اور وہ ایسا باطل ہے جو کسی فائدہ کا موجب نہیں ہے۔“

ابن حزم کی تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظن پر عمل کرنے سے منع فرمایا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے۔

« اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا » ظن حق کی جگہ کام نہیں دیتا۔

(النجم - ۲۸)

اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں علم کے بغیر ہم کوئی بات کہیں۔ اگر احادیث سے ظنی علم حاصل ہوتا اور یقینی اور قطعی علم حاصل نہ ہوتا تو اخبار آحاد سے احتجاج کرنا منع ہوتا۔ حالانکہ ہمیں ان سے احتجاج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا ان سے احتجاج کرنا اخذ بالظن کے قبیل سے نہ ہوگا، بلکہ مفید یقین و اذعان ہوگا۔

ابن حزم ایک بحث کا آغاز کرتے ہیں جس  
شہادت و روایت میں فرق و امتیاز :- میں شہادت اور روایت کا باہمی فرق بیان

کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ روایت آحاد سے بھی قبول کی جاتی ہے اور اس میں تعدد شرط نہیں۔ دونوں میں اس لحاظ سے بھی فرق ہے کہ جب گواہ ایک ہو تو صاحب حق کو قسم دی جاتی ہے۔ امام مالک، شافعی اور احمد اسی کے قائل ہیں۔ فقہاء عراق اس کے خلاف ہیں۔ شہادت و روایت میں جواز کذب کے اعتبار سے بھی فرق پایا جاتا ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ فرق اظہر من الشمس ہے۔ یہ فرق کئی اعتبار سے ہے۔

۱- پہلا فرق یہ ہے کہ تحفظ دین اور اس کی تکمیل کا کفیل خداوند تعالیٰ ہے۔ مال و جان اور ناموس و آبرو کی حفاظت اس نے لوگوں پر ڈال دی ہے کہ وہ دین میں احکام شریعہ کے مطابق عمل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریمؐ جو احکام امر خداوندی کے مطابق لوگوں کو سناتے تھے ان میں آپ سے غلطی صادر نہیں ہوتی تھی۔ جب لوگوں کے مقدمات فیصل کرتے تو ان میں خطا کے سرزد ہونے کا خدشہ ہوتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے۔  
« آپ مقدمات فیصل کرنے کے لئے میرے پاس لاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے مقصد کو زیادہ واضح الفاظ میں پیش کر سکتا ہو۔ اور میں اس سے سن کر اس کے حق میں فیصلہ صادر کروں۔ یہ یاد رکھئے کہ جس شخص کو میں اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دے دوں تو اسے لینا نہیں چاہئے۔ کیوں کہ میں نے تو اس کے لئے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا ہے۔»  
آپ نے دونوں نعان کرنے والوں کے حق میں فرمایا۔

« خدا جانتا ہے کہ تم میں سے ایک کاذب ہے۔ کیا تم میں سے کوئی توبہ کرنے کے

لئے تیار ہے۔“

جب اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور ہمیں ایک ہی معتبر شخص کی روایت قبول کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اس میں دروغ گوئی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ حقوق العباد میں دوسرا یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت ضروری ہے۔ کیونکہ ایک میں کذب کا احتمال ہے۔

۲۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عادل کی شہادت کی بنا پر جو فیصلہ کیا جائے گا وہ مبنی بریقین ہوگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کیوں کہ جو قاضی عادل شاہدوں کی بنا پر فیصلہ کرتا ہو اسے فاسق قرار دے دیا جاتا ہے۔

۳۔ تیسرا فرق ابن حزم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:-

”اللہ تعالیٰ نے تمام شرعی مسائل میں ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نبی کریم نے یوں فرمایا خدا تعالیٰ نے ایسا حکم دیا کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔“

”وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ“ اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کیجئے

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ يَدْعُ إِلَى تَقْوَاهُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَكْفُرُ بِهِ“ جو رسول کریم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے

”هَذَا كَلِمَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَإِنَّهَا ذَا“ (سورة المشورہ) منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔

گویا خدا نے ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ اور رسول نے ہمیں فلاں چیز کا حکم دیا اور فلاں چیز سے منع کیا۔ یہ کہنے کا حکم نہیں دیا کہ اس نے سچی شہادت دی اور فلاں شخص نے سچی قسم کھائی اور نہ یہ کہ جو فیصلہ ہم نے اس کے حق میں کیا ہے وہ حق ہے اور یقینی ہے۔

یہ ہے شہادت اور روایت کے مابین فرق و امتیاز کے بارے میں ابن حزم کے نظریات کا خلاصہ!

وجہ اول میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ خداوند کریم دین اسلام کی حفاظت کا کھیل ہے اور اپنے اپنے کاموں کے ذمہ دار لوگ خود ہیں۔

دوسرے فرق میں یہ بیان کیا کہ شہادت و روایت دونوں قابل احتجاج ہیں۔ تیسرے میں بتایا کہ روایت شریعت کی ترجمانی کرتی ہے۔ جب کہ شہادت میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ یہ تینوں قسم کا فرق واضح ہے اور محتاج دلیل نہیں۔ اس میں صرف ظاہری الفاظ سے کام لیا گیا ہے اور اگر ہم اس فرق کے مغز اور خلاصہ کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ تینوں پر ایک ہی سوال وارد ہوتا ہے اور وہ

یہ کہ ایک شخص کی روایت پر حلف دئے بغیر کیونکر اکتفا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ شہادت میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر ان کو مسادی سمجھتے تھے اور شہادت و روایت میں فرق نہیں کرتے تھے۔ آپ حدیث کو اسی وقت قبول کرتے تھے جب دو شخص اسے روایت کریں حضرت علی راوی حدیث کو حلف دیا کرتے تھے۔

**ابن حزم کی رائے میں راوی کے شرائط** بالصدق ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ بھی شرط عائد کرتے

ہیں کہ راوی کا حافظہ اچھا ہو جو بات سُننے سے یاد کرے۔ ثقاہت کا اعلیٰ ترین مرتبہ یہ ہے کہ راوی فقیہ ہو۔ جب راوی عادل حافظ ہو اور لکھ کر ضبط کر لیتا ہو تو اس کی روایت کا قبول کرنا واجب ہے، جس راوی کا حال ہمیں معلوم نہ ہو کہ آیا وہ فاسق ہے یا عادل وہ غافل ہے یا حافظ و ضابط تو اس کی روایت قبول کرنے سے توقف کرنا چاہئے یہاں تک کہ اس کی ثقاہت اور ضبط و عدالت واضح ہو جائے۔ ابن حزم کی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ مرتبہ کے لئے فقیہ ہونا شرط ہے ابن حزم کہتے ہیں

حضرت ابو موسیٰ اشعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال ایک بارش ایسی ہے جو زمین پر گرے۔ زمین کے بعض حصے زرخیز ہوں جو پانی کو قبول کر لیں اور ان پر سبزہ نمودار ہو جائے۔ زمین میں کچھ حصے سنگلاخ بھی ہوں جو پانی کو روکے رکھیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے وہ پانی پییں، مویشیوں کو پلائیں اور ان کو وہاں چرائیں۔ زمین میں کچھ ایسے چٹیل میدان ہوں جو نہ پانی کو روکتے ہوں اور نہ ان میں سبزہ اگتا ہو۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین کا فہم و شعور رکھتا ہو اور میری بعثت سے مستفید ہوا ہو۔ اس نے خود سیکھا، لوگوں کو سکھایا۔ یہ اس شخص کی بھی مثال ہے جس نے دین سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اور نہ اس ہدایت کو قبول کیا جس سے مجھے بہرہ ور کیا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اہل علم کے سب مراتب جمع کر دئے۔ کوئی مرتبہ باقی نہ رہا۔ مثلاً زرخیز اور پاکیزہ زمین اس فقیہ کی طرح ہے جو اپنی حفظ کردہ روایات کو ضبط کر لیتا ہو۔ اور ان کے معانی و مفاہیم سے بخوبی آگاہ ہو۔ وہ لوگوں کے اختلافات کو نصوص کتاب و سنت کی طرف لوٹا بھی سکتا ہو۔ سنگلاخ زمین جو پانی کو روکے رکھتی ہو اس گروہ کی مانند ہے جو سن کر حفظ کر لیتا ہو یا

لکھ کر ضبط کر لینے کا عادی ہو۔ اور پھر بلا کم و کاست دوسروں تک پہنچا دے۔ البتہ یہ جماعت اپنی مرویات کے مفہوم سے بے گانہ ہوتی ہے اور اختلافی مسائل کو کتاب و سنت کے معیار پر رکھ کر جانچ نہیں سکتی۔ البتہ ان سے تبلیغ کا فائدہ پہنچا۔ انہوں نے ایسے لوگوں کی طرف یہ روایات پہنچائیں جو ان سے زیادہ فہیم تھے۔ انہوں نے اسی سے ڈراتے ہوئے فرمایا تھا۔

بہت سے لوگ جن کو کوئی بات پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھتے ہیں

”شَرِّ مَبْلَغٍ آذَعَى مِثْلَ سَامِعٍ“

(صحیح بخاری)

نیز آپ نے فرمایا۔

قَوْبٌ حَامِلٌ فِقْهٍ كَيْسٌ بِفَقِيهِ  
بہت سے فقہ کے حامل فقیہ نہیں ہوا کرتے جس شخص نے سن کر نہ یاد رکھا اور نہ اُسے لکھا تو وہ نہ زرخیز زمین کی طرح ہے اور نہ سنگلاخ کی مانند بلکہ وہ محروم و معذور ہے یا وہ مور و عقرب الہی ہے۔ جیسے چٹیل میدان جو نہ گھاس اُگاتے ہیں اور نہ پانی کو روکتے ہیں۔

بلاشبہ یہ اقتباس اس امر کی طرف مشیر ہے کہ راوی کی فقہیت شرط کمال ہے نہ کہ شرط قبول نیز یہ کہ روایت کی بنیاد ضبط و عدالت پر ہے۔ اگر دونوں پائے جائیں تو شرط قبولیت کا تحقق ہو جائے گا۔ اس کے دوش بدوش اگر راوی فقیہ بھی ہو تو وہ نہایت بلند مرتبہ پر فائز ہوگا اور اس زمین کی طرح ہوگا جو زرخیز اور صاف ہو۔ اگر فقیہ نہ ہو مگر عادل و ضابط ہو تو آنحضرت کے دونوں ذکر کردہ ارشاد کا مصداق ہوگا۔

ابن حزم حدیث قبول کرنے میں ہمیشہ اتصال سند حدیث مرسل سے عدم احتجاج :- کی شرط لگاتے ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ایک

عادل دوسرے عادل سے روایت کرے یہاں تک کہ سند کا سلسلہ نبی کریم تک پہنچ جائے بنا بریں ابن حزم مرسل روایت کو قبول نہیں کرتے۔ مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جس میں آنحضرت سے روایت کرنے والے صحابی کا نام مذکور نہ ہو۔ اسی طرح جس حدیث کا سلسلہ سند کسی جگہ منقطع ہو گیا ہو وہ اسے بھی قبول نہیں کرتے۔ ابن حزم متصل احادیث کی تائید میں مرسل احادیث لانے

کے بارے میں رقمطراز ہیں۔

”مرسل احادیث بذات خود بھی قابل احتجاج نہیں پھر اس سے دیگر احادیث کی تائید کیونکر ہو سکتی ہے۔“

ابن حزم مرسل احادیث سے اس وقت احتجاج کرتے ہیں جب ان کی قبولیت پر اجماع منعقد ہو چکا ہو۔ مرسل حدیث کی مثال یہ حدیث ہے

”لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثَاتٍ“

وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں  
علمائے بالعموم اس حدیث سے احتجاج کیا ہے لہذا اس سے اس کی قبولیت کی تائید ہوتی ہے۔ ابن حزم فرماتے ہیں۔

”بعض اوقات ایک مرسل حدیث ہوتی ہے مگر نسلاً بعد نسل اس پر اجماع منعقد ہوتا

رہتا ہے۔ اندریں صورت ہم اسے قرآن کی طرح اجمالاً نقل شدہ تسلیم کریں گے۔

اس صورت میں اس کی تائید مزید بھی مطلوب نہیں بلکہ اس کی قبولیت کے پیش نظر

اس کا مرسل ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ مثلاً حدیث ”لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثَاتٍ“۔ آنحضرت

کے بہت سے معجزات اگرچہ باسائید صحیح بہت سے لوگوں نے روایت کئے ہیں

تاہم وہ سب لوگوں سے نقل ہوتے چلے آئے ہیں۔ مثلاً معجزہ شق القمر جو قرآن میں بھی

مذکور ہے اور تھوڑا سا کھانا بہت سے لوگوں کو کھلا دینا اور پیالے کا مقوڑا سا پانی

پوسے لشکر کو پلانا اور وٹنو کا پانی کنوئیں میں ڈالنا اور اس کی بنا پر مقام تبوک میں ایک

بڑے چشمہ کا پھوٹ پڑنا۔ اور اہل حنین کی آنکھوں میں مٹی پھینکنا اور اس کا سب تک

پہنچ جانا۔ مگر وہ مرسل جس پر اجماع منعقد نہ ہوا ہو وہ رد کئے جانے کے قابل ہے کیونکہ

اس کے قبول کرنے کی کوئی دلیل نہیں اور وہ ان اقوال میں داخل ہے کہ جہاں پر

اجماع ہو جاتا ہے تو وہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ اور اختلاف کی صورت میں ساقط عن الاحتجاج

ہوتے ہیں۔ جیسے ہر قول جس کے اثبات میں کوئی دلیل نہ ہو ساقط ہو جاتا ہے۔

اور جو بلا دلیل اس کا قائل ہوتا ہے، وہ گنہگار ٹھہرتا ہے۔ ارشاد خداوندی

ہے۔

مَا قُلْنَا إِنَّمَا هَدَيْنَاكُمْ سَبِيلَ الْغَايَةِ مَا  
 كَلَّمَكُم مِّنْهَا وَمَا كَلَّمَكُم بِغَيْرِ الْحَقِّ  
 بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَكُمْ  
 يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطٰنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ  
 مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

(الاعراف - ۳۳)

آپ کہیں کہ میرے رب نے ظاہری اور  
 باطنی فواحش کو حرام کر دیا ہے  
 اور گناہ کو ناحق سرکشی  
 کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ ان  
 کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل  
 نازل نہیں کی۔ اور یہ کہ خدا کے بارے میں  
 تم وہ بات کہو جو تم جانتے ہی نہیں۔

**احتجاج بالمراسل کے شرائط**۔ امام شافعی کے ہمنوا ہیں۔ امام شافعی مراسل سے اس  
 وقت احتجاج کرتے ہیں جب کوئی مجوز موجود ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ مرسل کا راوی کبار تابعین میں  
 سے ہو یا مرسل حدیث کی تقویت کسی متصل حدیث سے ہو رہی ہو جو اس کے ہم معنی ہو۔ یہ  
 ارسال کا اولیٰ مرتبہ ہے۔ یا حدیث مرسل کی تائید کسی اور مرسل سے ہو رہی ہو۔ یا اس کی  
 تائید میں قول صحابی وارد ہو یا علماء بالعموم مرسل سے احتجاج کریں۔  
 ہم دیکھتے ہیں کہ ابن حزم امام شافعی کی طرح یہ فرماتے ہیں کہ علماء جس حدیث مرسل سے  
 بالعموم احتجاج کرتے ہوں وہ مقبول ہے۔ کیوں کہ یہ ایک طرح کا اجماع ہے۔ لہذا اس کا حجت  
 ہوتا اعتقاد اجماع کی بنا پر ہے نہ صرف مرسل ہونے کے اعتبار سے۔ اسی طرح جب ایک مرسل  
 کی تائید کسی ایسی مرسل حدیث سے ہو رہی ہو جو عند العلماء مقبول ہے۔ تو حجت اس کی مقبولیت  
 میں ہے نہ کہ دونوں مرسل حدیثوں میں۔ اسی طرح ابن حزم اس مرسل کو بھی قبول کرتے ہیں جس  
 کی تائید حدیث مند سے ہو رہی ہو۔ کیوں کہ حجت صرف حدیث مند ہے۔ اس امر میں ہم ابن حزم  
 کو امام شافعی کا ہمنوا پاتے ہیں۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ وہ بھی اسی حدیث سے دلیل لاتے ہیں جسے  
 امام شافعی اس ضمن میں پیش کر چکے تھے۔ اور وہ یہ حدیث ہے :-

وَدَلٌّ وَصِيَّةٌ لِتَوَاصِيَةٍ

ابن حزم اور امام شافعی میں نقطہ اختلاف یہ ہے کہ جب ایک مرسل کی تائید دوسری مرسل

سے ہو رہی ہو، تو امام شافعی دونوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ بشرطیکہ مرسل حدیث کا راوی کبار تابعین میں سے ہو مثلاً سعید بن مسیب مجاہد وغیرہما۔ کیونکہ ان کے متعلق یہ معلوم ہے کہ یہ حدیث کو مرسل اس لئے ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے جن صحابہ سے روایت اخذ کی۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی لہذا انہوں نے کسی کا نام بھی ذکر نہ کیا۔

ابن حزم کسی قول کو اس

**ابن حزم قول صحابی السنۃ کذا کو حدیث نہیں سمجھتے**۔ وقت نبی کریم کی طرف منسوب مانتے ہیں جب صحابی صراحتہ یوں کہے کہ آپ نے فرمایا اس قسم کے الفاظ کہے صحابی جب کتاب ہے "السنۃ کذا یا آتونا بکذا" وہیں یوں حکم دیا گیا ہے، تو ابن حزم اسے حدیث قرار نہیں دیتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس ضمن میں آنحضرت سے کچھ سنا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابی کا اپنا اجتہاد ہو۔ جب اس میں احتمال پیدا ہو گیا تو اسے آپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ صحابی کا اجتہاد ابن حزم کے نظریہ کے مطابق دین میں حجت نہیں۔ کیونکہ نہ صحابی کی تقلید کی جاتی ہے اور نہ کسی اور کی۔ ابن حزم لکھتے ہیں:-

"جب صحابی کہے کہ سنت یوں ہے یا ہمیں اس طرح حکم دیا گیا ہے تو اسے آنحضرت کی طرف منسوب قرار نہیں دے سکتے اور اس کے متعلق یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کا فرمان ہے۔ کسی کی طرف وہ قول منسوب نہیں کیا جاسکتا جو اس سے مروی و منقول نہ ہو۔ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ یہ آپ نے فرمایا ہے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عہد نبوی میں امہات الاولاد (وہ لونڈیاں جو بچوں کی ماں بن چکی ہوں) کو فروخت کیا کرتے تھے۔ جب فاروقی خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے ہمیں اس سے روک دیا اور ہم اس سے باز رہے بعض لوگوں کا قول ہے "السنۃ کذا" کے معنی یہ ہیں کہ ان کے حسب اجتہاد سنت یہ ہے۔"

یہ بیانات اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں کہ ابن حزم ظاہری الفقہ تھے اور ظاہری الروایتہ ہوتے۔ وہ صرف





# قرآن و حدیث کا باہمی ربط و تعلق

وَجُوبِ اطَاعَتِ كَيْ اَعْتَبَارِ سِ قُرْآنِ وَ حَدِيثِ كِي مَسَاوَاتِ - ثبوت تک پہنچ گئی کہ شرعی

احکام کے ذکر و بیان میں حدیث نبوی حجّت ہے تو استدلال کے نقطہ خیال سے کتاب و سنت دونوں برابر ہوئے اور ان میں کوئی تفاوت نہیں۔ نہ ایک کی موجودگی کی بنا پر دوسرے کو رد کیا جاسکتا ہے بلکہ دونوں شریعت کی تفصیلات بیان کرنے میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ ابن حزم استدلال میں بھی ان کو برابر سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں شرعی نص ہیں اور اجماع کا مرتبہ ان کے بعد ہے۔ قرآن کو جو سبقت و تقدّم حدیث پر حاصل ہے وہ صرف اعتباری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے حدیث نبوی کا حجّت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کی تقدیم حدیث کے مقابل میں اسی قسم کی ہے جیسے معرفت کو معرفت پر تقدیم حاصل ہوتی ہے۔ شرعی احکام بیان کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔

ان حزم فرماتے ہیں۔

مسلمانوں کے یہاں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اَقِمُوا الصَّلَاةَ اور نبی کریم کے اس فرمان میں کہ مقيم ظهر کی چار رکعتیں پڑھے اور مسافر دو رکعتیں پڑھے، وجوب اطاعت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ یہ امر بھی مسلم ہے کہ قرآن میں جو احکام مذکور ہیں وہ احادیث صحیحہ میں ذکر کردہ احکام کی نسبت کچھ زیادہ واجب نہیں ہیں بلکہ وجوب کے لحاظ سے مادی ہیں۔ اگرچہ صحیح نقل کے اعتبار سے قرآن و حدیث میں فرق پایا جاتا ہے بلکہ ابن حزم حدیث نبوی کو مثل قرآن قرار دیتے ہیں اور وجوب اطاعت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ وہ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں :-

”مَنْ طِيعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ“ جو رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا اس  
(النساء) نے گویا خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔

کتاب و سنت وحی ہونے کے لحاظ سے بھی برابر ہیں۔ قرآن میں فرمایا۔  
”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَدَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا  
وَحْيٌ يُوحَىٰ“ (النجم) وحی ہے جو بھیجی ہے۔

جب قرآن و حدیث وحی ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں تو استدلال میں بھی ان کا مرتبہ ایک  
ہی ہے۔ ان دونوں کو نصوص کا مرتبہ حاصل ہے اور اس میں دوسری کوئی دلیل ان کی  
مزامن نہیں ہو سکتی۔ اجماع و دلیل کا مرتبہ یقیناً ان کے بعد ہے۔ اجماع و دلیل کے مقابلہ میں مقدم ہے۔  
ابن حزم جہاں استدلال کے اعتبار سے کتاب و سنت کو مساوی  
حدیث سے تخصیص قرآن۔ قرار دیتے اور دوسرے دلائل سے ان کو مقدم سمجھتے ہیں  
وہاں اور دو ضابطے بھی مقرر کرتے ہیں۔

پہلا ضابطہ۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ حدیث نبوی سے قرآن کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ جب  
قرآن میں کوئی لفظ عام وارد ہو اور حدیث میں وہی لفظ خاص ہو تو حدیث سے عموم قرآن  
کی تخصیص ہو جائے گی۔ مثلاً قرآن کریم میں مطلقاً فرمایا کہ چوری کرنے والے مرد و عورت  
کے ہاتھ کاٹ دو۔ دوسری جانب حدیث میں آیا ہے کہ ایک چومقائی دینار سے  
کم میں قطع پد نہیں۔ لہذا حدیث سے آیت کی تخصیص ہو جائے گی۔  
اسی طرح قرآن کی یہ آیت عام ہے۔

وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِيْنَ أَرْضَعْنَكُمُ

جو مائیں تمہیں دودھ پلائیں وہ حرام ہیں۔

وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ (النساء: ۲۳)

اسی طرح رضاعی بہنیں بھی حرام ہیں۔

حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہ ہوگی۔ اس حدیث  
سے آیت کی تخصیص ہو جائے گی۔  
قرآن میں فرمایا۔

جو شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی

ہی زیادتی کر لو۔

”فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا

عَلَيْهِ بِحَدِّهِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ“

حدیث نے اس کی تخصیص کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے یا شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے یا شراب خوردگی کے جرم میں تین مرتبہ حد لگ جانے کے بعد شراب پیئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔

سنت قطعی الدلالت ہے۔ کتاب و سنت کے عام دلائل و دفتوں قطعی ہیں۔ ان کی مانند خاص بھی قطعی ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث استدلال کے اعتبار سے مساوی الدرجہ ہیں۔ مزید براں ابن حزم تخصیص کو بیان قرار دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے حدیث قرآن کی مبین اور شارح ہوگی۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے

لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ  
(النحل — ۲۳)

تاکہ آپ نازل کردہ کتاب کی وضاحت  
کریں۔

امام شافعی اور احمد بن حنبل  
وہ حالات جن میں حدیث امام ابو حنیفہ کے نزدیک مخصوص قرآن ہو سکتی ہے۔

کالقط نظر بھی یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حدیث سے قرآن کی تخصیص جائز نہیں البتہ تین حالات میں جائز ہے اور بس!

۱۔ جب قرآن کے حکم عام کی تخصیص قرآن سے یا اس قطعی دلیل سے جو سند کے اعتبار سے قرآن کے مساوی ہو مثلاً حدیث متواتر سے ہو جائے تو اس تخصیص کے بعد عام ظنی الدلالت ہو جاتا ہے جب کہ پہلے قطعی تھا۔ ظنی ہو جانے کے بعد عام قرآن کی تخصیص اخباراً حاد سے بھی ہو سکتی ہے۔

۲۔ حدیث متواتر سے بھی قرآن کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ کیونکہ متواتر احادیث قطعی السند ہوتی ہیں ان سے عام قرآن کی تخصیص ہو جائے گی کیوں کہ وہ بھی قطعی ہے۔

۳۔ احادیث مشہورہ سے بھی قرآن کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ مشہور حدیث وہ ہے جو تیسری صدی ہجری میں شہرت پذیر ہوئی ہو۔ یعنی تبع تابعین کے زمانہ کے بعد شہرت حاصل کرنے کا حنفیہ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس دور میں تو سب احادیث مشہور ہو گئی تھیں۔

امام شافعی خلافت احناف احادیث متواترہ کی طرح اخباراً احاد سے بھی عام کی تخصیص جائز سمجھتے ہیں کیونکہ عام کی دلالت ظنی ہے اور احادیث احاد بھی ظنی ہیں۔ لہذا عام کی تخصیص ان سے ہو سکتی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حدیث کتاب اللہ کی شارح و ترجمان ہے۔ ابن حزم اس امر میں امام شافعی کے ہمتوا ہیں کہ اخباراً احاد سے کتاب اللہ کی تخصیص درست ہے البتہ دوسری بات میں ان سے اتفاق نہیں کیونکہ شوافع کہتے ہیں کہ اخباراً احاد ظنی ہیں اور عام قرآن بھی ظنی ہے۔ اس لئے کہ کوئی عام ایسا نہیں جس کی تخصیص نہ ہو چکی ہو۔ اس کے برخلاف ابن حزم کہتے ہیں کہ عام قطعی الدلالت ہے احادیث احاد بھی قطعی ہیں اور مفید علم و عمل ہیں۔ اور ایک قطعی۔ جب دوسرے قطعی کا شارح ہو تو اس سے اس کی تخصیص جائز ہے۔

# قرآن و حدیث میں عدم تعارض

کتاب و سنت میں عدم تعارض :- امر ثانی جو نصوص کتاب و سنت کے باہمی تعاون

و اشتراک اور استنباط احکام میں ان کے مساوی درجہ ہونے پر مرتب ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نصوص کے مابین کبھی تعارض پیدا نہیں ہوتا۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ نصوص کتاب و سنت میں کبھی ایسا تصادم نہیں ہوتا جس سے کچھ نصوص بے کار ہو کر رہ جائیں۔ اسی طرح نہ آیات قرآنیہ باہم متصادم ہوتی ہیں اور نہ احادیث ہی میں کبھی تعارض و تناقض رونما ہوتا ہے۔ تجللات ازیں شریعت اسلامیہ کے مسائل و احکام کی تفسیح میں سب نصوص باہم ملتی جلتی اور ایک دوسری کی تائید کرتی ہیں اس لئے کہ جب نصوص کا مہر و ماخذ وحی الہی ہے تو ان میں تعارض کیونکر رونما ہو سکتا ہے؟

یہ بات ابن حزم کی منطق کے ساتھ میل بھاتی ہے۔ اس لئے کہ قرآن کے وحی الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی طرح احادیثِ آحاد و جیب عادل راوی کی روایت کردہ اور سند متصل سے آنحضرت تک پہنچتی ہوں تو وہ آپ کی جانب حتمی اور قطعی طور پر منسوب ہوں گی لہذا ان کے وحی الہی ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ جیب اس طرح نصوص کتاب و سنت کا وحی ہونا ثابت ہو گیا تو ان کے درمیان تعارض مطلقاً رونما نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جیب کتاب و سنت کا ماخذ ایک ہے تو اس پاکیزہ اور معصوم ماخذ کے ہوتے ہوئے تعارض کیونکر پیدا ہو سکتا ہے۔

قرآن میں فرمایا :-

”وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ

لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا“

(النساء - ۸۲)

اگر قرآن خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف پاتے۔

علماء نے تعارض نصوص کے

بارے میں اختلاف کیا اور بعض

تعارض نصوص کے ضمن میں علماء کے اقوال اور ابن حزم

کو بعض پر ترجیح دی ہے۔ بنا بریں بعض نصوص کو رد کر دیا اور راجح کو قبول کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ علماء کے ان اقوال میں ابن حزم کا موقف کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ابن حزم ان کے خلاف ہیں اور تمام نصوص پر عمل کرتے ہیں۔ اس ضمن میں فرماتے ہیں:-

”جب دو حدیثیں یا دو آیات یا آیت و حدیث کسی جاہل شخص کی نگاہ میں باہم متعارض ہوں تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ سب دلائل پر عمل کرے۔ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی قابل ترجیح نہیں ہے۔ نہ ایک حدیث کے مقابلہ میں واجب تمہ ہے اور نہ ایک آیت کی اطاعت دوسری سے زیادہ ضروری ہے۔ سب خدا کی طرف سے ہیں اور وجوب اطاعت کے اعتبار سے بھی مساوی ہیں۔“

ابن حزم نصوص کے تعارض کی نفی اور ان کے واجب الاطاعت ہونے پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ان میں سرے سے کوئی تعارض موجود ہی نہیں بلکہ ان میں کامل یگانگت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اثبات موافقت کی ضرورت اس لئے پیدا ہوتی کہ تعارض کے ہوتے ہوئے ان پر عمل کیونکر واجب ہو سکتا ہے۔ لہذا اپنے قول کی صداقت ثابت کرنے کے لئے وجوب اطاعت کے علاوہ ان کی ہم آہنگی ثابت کرنا ضروری تھا۔ لہذا ان نصوص میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔ آپ ان کی تطبیق و توفیق کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔

طرق جمع و تطبیق ابن حزم کی نگاہ میں۔ بظاہر متعارض نصوص میں جمع و تطبیق چار طریقے سے ممکن ہے۔ ان کے علاوہ پانچواں طریقہ

کوئی نہیں جن نصوص پر ظاہر نہ نگاہ ڈالنے سے تعارض محسوس ہوتا ہو تو ان چاروں میں سے کسی ایک طریقہ کے مطابق ان میں تطبیق پیدا کی جاسکتی ہے۔ اگر سارے طریقے استعمال نہ ہو سکیں تو ایک نہ ایک طریقہ ضرور پایا جائے گا۔

درجہ اول: پہلی وجہ تخصیص ہے جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا کہ ایک نص میں کم منیٰ ہوتے ہیں، اور دوسری میں زیادہ۔ ایک حرام کرتی ہو اور دوسری مباح یا ایک مثبت ہو اور دوسری نافی۔ اندر میں حالت اقل کو اکثر سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا۔ یا بالفاوا و بقر اقل سے

اکثر کی تخصیص کر دی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اقل کو نکال دینے کے بعد برباقی رہتا ہے اس میں اکثر کا حکم موجود ہوتا ہے۔ ابن حزم ایسی تطبیق کی متعدد مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی مثال: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حاجی آخری طواف کے بغیر اپنے شہر کو لوٹ کر نہ جائے۔ اس کے باوجود حائضہ عورت کو آخری طواف کے بغیر واپس لوٹ جانے کی اجازت دے دی۔ لہذا حائضہ عورت حکم سے مستثنیٰ ہوئی۔

دوسری مثال: آنحضرت نے فرمایا کہ تمہارا خون، مال اور ناموس و آبرو حرام ہے۔ اس کے باوجود حرم میں فساد بپا کرنے والے کو قتل کرنے کی اجازت دی۔

تیسری مثال: آیت قرآنیہ "وَأَمْشَاكُمْ هَاتِي آسَ مَحْنَكُمُ" سے حدیث نبوی کی بنا پر ایک دو گھونٹ پلاتے کو مستثنیٰ قرار دیا۔

چوتھی مثال: قرآن کریم میں مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا اس کے پہلو پہ پہلو پاک دامن اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ خاص و عام کے مابین اختلاف کے مظاہر ہیں۔ پھر اقل کے ساتھ اکثر کی تخصیص کر دی جاتی ہے۔ ابن حزم فرماتے ہیں :-

”ہم دیکھتے ہیں کہ ان مسائل میں اقل کو اکثر سے مستثنیٰ کر لیا گیا ہے۔ ان میں بعض دلائل بعض دلائل سے اباحت کا اثبات ہوتا ہے اور بعض سے حرمت کا۔ کہیں حدیث کا مقابلہ آیت سے ہو رہا ہے اور کہیں آیت کا حدیث سے بعض اوقات ایک آیت دوسری آیت اور ایک حدیث دوسری حدیث کے معارض دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں اس سلسلہ میں اس بات کی مطلقاً پروا نہیں کہ دونوں میں سے کونسی نص پہلے وارد ہوئی اور کونسی پیچھے یا اکثریت کے مفہوم والی پہلے وارد ہوئی یا پیچھے۔ اس میں تقدیم و تاخیر دونوں مساوی ہیں اور ایک کی بنا پر دوسری کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ بلکہ دونوں پر عمل کیا جائے گا۔“

یہ نصوص میں عدم تعارض کی پہلی وجہ تھی۔ یا بالفانی

جمع و توفیق کی دوسری وجہ :- موزوں تریوں کے لئے کہ نصوص میں جمع و توفیق کی پہلی



وجہ جب کہ سرسری نگاہ سے تعارض معلوم ہوتا ہو۔

منظہر تعارض کی دوسری وجہ یہ ہے اگرچہ حقیقی تعارض پایا نہیں جاتا، کہ ایک نص ایک امر کو بحیثیت عمومی واجب کرتی ہو اور دوسری نص خصوصی طور پر یا ایک نص عام طور سے منع کرتی ہو اور دوسری خاص طور سے۔ امر اول کی مثال یہ آیت کریمہ ہے۔

” اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ  
وَاِيتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى ”

اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا اور  
اقارب پر خرچ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔

(النحل - ۹۰)

دوسری آیت میں فرمایا۔

(اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے)

” يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ”

(الاسراء - ۲۳)

دوسری آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور یہ پہلی آیت کے  
عموم میں داخل ہے کیونکہ والدین اقارب میں داخل ہیں۔  
ایک آیت میں فرمایا۔

اگر تم عورتوں کو چھوڑنے اور ان کا مہر مقرر  
کرنے سے قبل طلاق دے دو تو تم پر کوئی  
گناہ نہیں اور ان کو کچھ فائدہ دے دو خوشحال آدمی  
اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی  
رسوالت کے مطابق۔

” وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَقْتُمْ  
النِّسَاءَ مَا كُنْتُمْ مَسْوُوْحَةً اَوْ تَفْرِضُوْا  
لَهُنَّ فِىۤ اَيْۡمٰنِكُمْ مَّا كُنْتُمْ مَسْوُوْحَةً عَلَيْهِ الْمُوْذِعِ  
قَدْرًا ۗ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرٌ مِّمَّا

(البقرہ - ۲۳۷)

دوسری آیت میں فرمایا۔

اور حسب دستور مطلقہ عورتوں کو فائدہ  
پہنچانا متقی لوگوں کے لئے ضروری ہے۔

” وَ لِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِمَا تَمَتَّعُوْا  
بِهٖۤ اَوْ لِحٰۤیٰتِهِنَّ ۗ وَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۗ (البقرہ - ۲۴۱)

پہلی آیت دوسری آیت کا ایک جزو ہے اور اس میں داخل ہے۔

عام قرار دینے والی آیت کی مثال یہ آیت ہے۔

(بہایا گیا خون یا خنزیر کا گوشت حرام ہے)

” اٰذٰى مَا مَشٰوْحًا اَوْ لَحْمَ خِزْزِيْلٍ ”

دوسری آیت میں فرمایا۔

«حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمُتَيْتَةَ كَالَّذِي» اتم پر مرد اور خون حرام کر دیا گیا

المائد - ۲۳

ذکر کردہ آیت میں سے بعض میں ایجاب کا حکم عموماً دیا گیا ہے اور بعض میں خصوصی اعتبار سے یا منع کا عام حکم صادر کر کے ممنوع کے بعض افراد کو تخصیص کر دی گئی ہے۔ پہلی آیت میں دم مسفوح کا ذکر کیا اور دوسری میں عام خون کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عام کا ذکر کیا گیا ہو جو خاص کے قریب ہو تو وہ اس کے خلاف نہیں ہو گا۔ لہذا اسے مخصوص قرار نہیں دیا جاسکتا۔ تخصیص تب ہوگی جب خاص کا حکم عام کے مخالف ہو۔ جب خاص عام کے موافق ہو تو اسی کا حکم جاری رہے گا۔ اور خاص کا ذکر صرف اس لئے ہو گا کہ اس میں ایجاب یا منع کا مزید استہام کیا گیا ہے۔ مثلاً حسن سلوک ہر حال میں مطلوب ہے مگر والدین کے ساتھ ایک عام صورت میں مطلوب ہے۔ اسی طرح زنا کاری بحیثیت عمومی ممنوع ہے اور پردوسی کی بیوی سے خاص طور پر ہر مطلقہ عورت کو کپڑے وغیرہ دینا واجب ہے مگر جس عورت کا ہر مقررہ کیا گیا اور اسے چھوا بھی نہ گیا ہو تو اسے خاص طور پر متنعہ دینا ضروری ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان آیات میں کوئی تعارض نہیں پایا جاتا۔ معارضت وہ شخص فرض کرتا ہے جو مفہوم مخالف کا قائل ہے۔ مثلاً وہ یوں کہتا ہے کہ آیت کریمہ **وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا** میں والدین سے حسن سلوک کو واجب کیا گیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسروں سے بدسلوکی کی اجازت ہے۔ گویا حسن سلوک صرف والدین کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے وہ الفاظ سے ایسے معنی مراد لیتا ہے جن کے وہ متحمل نہیں ہیں پھر نصوص میں تعارض فرض کرتا ہے۔ حالانکہ ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

**جمع و توفیق کی تیسری وجہ :-** جمع و توفیق کی تیسری وجہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک نص

زمانہ میں یا معین اشخاص پر واجب قرار دیتی ہو یا کسی معین مقام پر یا معین عدد کے ساتھ یا ان میں کسی قید کے ساتھ واجب کرتی ہو۔ دوسری نص میں ایک ایسے عمل سے منع کیا گیا ہو جس کا پہلی نص سے تعلق ہو یا اس کی جنس یا نوع سے ہو اور نہ ہی حال زمانہ یا مکان یا مخصوص اشخاص کے ساتھ مختص ہو۔ اس کی مثال یہ آیت کریمہ ہے :-

وَدَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ . اللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے  
اَلْبَيْتِ سَبِيْلًا . (ال عمران - ۹۷) جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔

اس آیت میں استطاعت رکھنے والے کو حج کا حکم دیا گیا ہے۔  
نبی کریم نے حدیث میں فرمایا کہ جو عورت اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لئے سفر  
کرنہ حلال نہیں بلکہ اس صورت کے کہ اس کا خاوند یا محرم رفق سفر ہو۔ نیز قرآن کریم میں فرمایا۔

وَإِذَا حَضَيْتُمْ بِمَحَلَّةِ الْحَيْدِ  
يَا حَسَنَ مِنْهَا آذُرُوهُنَّهَا (النساء - ۸۶) جب تمہیں کوئی محفہ دیا جائے تو اس سے بہتر  
محفہ دو دیا ایسے محفہ واپس کر دو۔

دوسری طرف آپ نے جمعہ کے روز خاموش رہنے کا حکم بھی دیا۔  
غرضیکہ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن میں ایک نص خاص حال زمان یا مکان میں ایک  
حکم کو ثابت کرتی ہے۔ دوسری نص جنس یا نوع میں اس کے خلاف ہوتی ہے۔ ابن حزم دونوں پر  
عمل کو واجب قرار دیتے ہیں بائیں طور کہ ایک نص دوسری کی مخصوص ہوگی۔ البتہ تخصیص میں اس امر کا  
ملاحظہ رکھنا ضروری ہے کہ اس امر کے لئے کوئی وجہ ترجیح ہونا چاہیے کہ ہم ایک کو مخصوص کیوں قرار  
دیتے ہیں اور دوسری کو مخصوص کس لئے؟

پہلی مثال میں حج اور عورت کے سفر کا ذکر کیا گیا ہے۔ کلام میں دونوں احتمال موجود ہیں۔ یا تو حدیث  
کو آیت کا مخصوص قرار دیا جائے گا اور آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ یوں تو حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو  
وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ البتہ جس عورت کا خاوند یا محرم رفق سفر نہ ہو وہ مستثنیٰ ہے۔ اکثر  
فقہاء اسی کے تائل ہیں۔ بیا یہ کہا جائے گا کہ حج کا سفر نہیں سے خارج ہے اس صورت میں آیت حدیث  
کی مخصوص ہوگی۔

ابن حزم کا مسلک مختار یہی ہے۔ آنحضرت کی یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے جس میں آپ  
نے فرمایا کہ خدا کی بندوں کو مساجد میں جانے سے مت روکو، گو یا حج کی طرف جانا مسجد کی جانب کوچ  
کرنے سے عظیم ترین ہے لہذا سفر حج اس نہیں سے خارج ہوگا۔ لہذا عورت محرم کی مصاحبت کے بغیر حج کو جا  
سکتی ہے بنا بریں آیت اپنے عموم پر قائم رہے گی اور اداء واجبات و مندرجات کے لئے جو سفر  
ہوتا ہے وہ حرمتِ سفر سے مستثنیٰ ہوگا۔

مثال ثانی میں جو آیت کریمہ ہے اس میں سلام کا حکم دیا گیا۔ دوسری آیت میں اس کے برعکس  
ارشاد ہوا کہ بروز جمعہ خطیب جب خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت خاموش رہنا چاہیے اور کلام سے بات

رہنا چاہیے۔ سلام کا جواب دینا بھی لازم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطبہ کے وقت دو متعارض حکم دئے گئے ہیں۔ ایک میں سلام کا جواب دینے کا حکم ہے اور دوسرے میں خاموش رہنے اور خطبہ سننے کا۔ کسی ایک نص کو دوسری کے مقابلہ میں ترجیح بھی حاصل نہیں۔ اندریں صورت وجہ اول پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ اقل کو اکثر سے مستثنیٰ کر دیا جائے۔ ابن حزم کی رائے یہ ہے کہ مسئلہ زیر نظر میں اقل تو بوقت نماز سلام کا جواب دینا ہے۔ لہذا خاموشی کا حکم اگرچہ صادر کیا گیا ہے، تاہم سلام کا جواب دینا ہمیشہ خطبہ کے سماع میں داخل پیدا نہ ہوگا۔

اس سے واضح ہو گا کہ پیش آمدہ تعارض کا حل مسئلہ زیر نظر میں بڑا آسان ہے۔ یہاں دو دلیلیں وارد ہوئی ہوں۔ وہاں ابن حزم ایک نص کو دوسری کی تخصیص مانتے ہیں۔ نیز اس لئے کہ نص میں ایک لحاظ سے عموم پایا جاتا ہے اور دونوں ایک خاص جگہ جمع بھی ہو جاتی ہیں اور ایک دوسری سے الگ بھی ہوتی ہیں۔ لہذا دوسرے دلائل کی مدد سے تخصیص کو راجح قرار دیا جائے گا۔ مثلاً عورت کے حج کے مسئلہ میں عورت کو سفر سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے عموم میں سفر حج اور عام سفر بھی داخل ہے جس میں عبادت کا قصد نہ کیا گیا ہو۔ آیت حج مرد و عورت دونوں کو شامل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں دلیلیں اس عورت کے بارے میں جمع ہو جاتی ہیں جس نے حج کا ارادہ کیا ہو۔ حج والی نص مرد کے بارے میں منقوہ ہے۔ نہی والی دلیل عورت کے سفر حج کے بارے میں منقوہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں دلیلوں میں جو قدر مشترک ہے اس میں کونسی دلیل تخصیص ٹھہرے گی؟ اکثر فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ سفر حج اس نہیں سے مستثنیٰ ہے لہذا عورت تنہا حج کے لئے جا سکتی ہے۔ ابن حزم ان فقہاء کے ہم خیال ہیں جو کہتے ہیں کہ سفر سے عبادت والی حدیث واجبات و مندرجات کے علاوہ دیگر سفروں کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں کہ حدیث میں آیا ہے خدا کی بنیادوں کو مسابہ میں جانے سے متروک۔

جب کوئی وجہ ترجیح موجود نہ ہو تو دونوں دلیلوں کے قدر مشترک میں جس پر دو دلیلیں وارد ہوئیں ایک امر کے بارے میں اور دوسری نہیں کے سلسلہ میں ابن حزم ایک ضابطہ جاری کرتے ہیں جو وجہ اول میں بیان کر دیا گیا۔ لہذا اور وہ یہ ہے کہ تلیل منافی والی دلیل کو اکثر معانی دان سے مستثنیٰ کر دیا جائے۔

یہ نصوص متعارضہ میں جمع و تطبیق کی تیسری وجہ تھی۔ ان وجوہ  
جمع و تطبیق کی وجہ چہارم :- ثلاثہ پر غور کرنے سے دونوں دلیلوں پر عمل کرنے سے دونوں

دلیلوں کا طریقہ واضح ہو جاتا ہے۔ درجہ اول میں مکمل طور پر نفس خاص پر عمل کیا جاتا ہے۔ نفس عام پر  
 متنبیات کو لگانے کے بعد عمل کیا جاتا ہے تیسری وجہ میں ایک کو کسی دلیل کی بنا پر مخصوص تسلیم کیا جاتا  
 ہے یا تطبیق دی جاتی ہے۔ درجہ ثانی میں بلا جمع و تطبیق دونوں دلیلوں پر عمل کیا جاتا ہے اور کوئی  
 قدر مشترک نہیں نکالی جاتی۔ الا یہ کہ تعارض مفہوم مخالفت کی قسم سے تعلق رکھتا ہو۔ ظاہر ہے کہ مفہوم  
 مخالفت الفاظ کا مقتضاء نہیں ہے حالانکہ ظاہری علماء ہمیشہ ظاہر الفاظ پر اعتماد کرتے ہیں۔

وجہ رابع وہ ہے کہ جس میں بڑا شدہ تعارض پایا جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں ایک نص  
 منسوخ بھی ہو جاتی ہے یہ تب ہوتا ہے جب ایک نص حکم کے اعتبار سے دوسری کی دندہ ہو  
 یا دونوں میں کامل منایرت پائی جاتی ہو۔ مثلاً ایک نص حرام کرتی ہو اور دوسری مباح، ایک  
 واجب کرتی ہو اور دوسری ساقط۔ ابن حزم اس ضمن میں کہتے ہیں کہ جب ایک نص کا دوسری سے  
 متاخر ہونا ثابت ہو جائے اور اس کے ناسخ ہونے پر دلیل بھی قائم ہو جائے تو نص منسوخ پر عمل کرنا  
 جائز نہ ہوگا بلکہ سرت ناسخ پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن نسخ کے لئے کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔  
 بلا دلیل نسخ کا فتویٰ صادر نہیں کیا جاسکتا۔ کسی نص کو اسی وقت ناسخ کہیں گے جب دوسری نص سے  
 اس کا منسوخ ہونا ثابت ہو جائے گا۔

یہ حکم اس صورت میں صادر کیا جائے گا جب ایک نص کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ  
 وہ دوسری کی ناسخ ہے جب ناسخ ہونا ثابت نہ ہو تو ابن حزم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو  
 ایسی جدید نص وارد ہو جو دونوں دلیلوں سے قبل موجود نہ ہو تو نص جدید بھی معمول بہ قرار پائے گی۔  
 ان دونوں دلیلوں کے وارد ہونے سے قبل جو نص موافق تھی وہ معمول بہ نہیں ہوگی۔  
 ابن حزم فرماتے ہیں :-

”اس امر میں غور و فکر کرنا ہمارے لئے از بس ناگزیر ہے کہ اگر ان دونوں دلیلوں میں  
 سے کوئی بھی وارد نہ ہوتی تو جو نص ان کے وارد ہونے سے قبل ہمارے طریقہ کے  
 موافق ہوگی اسی پر عمل کیا جائے گا اور دوسری کو ترک کر دیں گے۔ اس کے خلاف  
 جائز نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم قبل ازیں حدیث موافق پر عامل تھے۔ پھر بلاشبہ  
 ہم نے نئی وارد شدہ دلیل پر عمل کرنا شروع کر دیا لہذا یہ بات صحت کے ساتھ ثابت

ہو گئی کہ ہم نے سابقہ معمول کو ترک کر دیا۔ پھر اس امر زائد کا منسوخ ہونا ہمیں کسی دلیل سے ثابت نہ ہوا لہذا ہم ایک یقینی بات کو بنا بر شک ترک نہیں کر سکتے اور حقیقت کی خلاف ورزی ظن کی بناء پر درست نہیں تصور کرتے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔

وہ تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں اور ظن حق کی جگہ کام نہیں دے سکتا۔

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَذَاتِ  
الظَّنِّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۗ

(النجم - ۲۹)

ہم دیکھتے ہیں کہ اندریں صورت ابن حزم ایک نص کو متروک قرار دیتے ہیں۔ متروک وہ نص ہوگی جو دونوں دلیلوں کے

وارد ہونے سے قبل سابقہ معمول کے موافق ہو۔ باقی صرف وہی حکم رہے گا جو بعد میں نازل ہوا ہو اور پہلے معروف نہ ہو کیونکہ نئی نص پر عمل واجب ہے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ شریعت کے نئے وارد شدہ احکام پر عمل واجب ہوتا ہے۔ جب یہ ایک یقینی امر ہے تو شک کی بناء پر ذاتل نہ ہو سکے گا۔ پھر ابن حزم اس کی مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں کھڑے ہو کر پانی پینا مباح قرار دیا گیا۔ دوسری حدیث میں اس سے منع فرمایا آپ کا کھڑے ہو کر پانی پینا بھی ثابت ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر بھی پانی پیتا ہے اور بیٹھ کر بھی۔ لہذا جدید وارد شدہ حدیث جس میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا گیا ہے قابلِ اخذ و احتجاج ہوگی۔

اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ نص متروک ساقط العمل ہے، اسے ازالہ تعارض نہیں کہا جاسکتا البتہ اس کے پیش نظر جو نص طریق موجود و مقرر کے موافق ہوتی ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ابن حزم فرماتے ہیں:-

"بلاشبہ یہ نسخ کی ایک قسم ہے کیونکہ جدید نص جدید حکم کو ثابت کرتی ہے۔ جو نص معمول کے مطابق ہوتی ہے وہ جدید نص کی بناء پر منسوخ قرار پاتی ہے۔"

ابن حزم مزید فرماتے ہیں:-

"نص جدید کی بناء پر یقینی طور پر وہ نص جو طریق موجود کی موید ہوتی ہے منسوخ ہو جاتی

ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے امر جدید کو قائم رکھا اور اس کے حجت ہونے پر دلیل قائم کی۔ اس کی مخالفت کا دعویٰ کرنے والا قطعی دروغ گو ہے۔ کیونکہ ظن کے بغیر اس کا دامن دلیل سے خالی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے:-  
 قُلْ هَاتُوا بُدْهَانَ كُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(البقرہ - ۱۱)

اس سے یہ بات روشن ہوئی کہ جس کے قول کی صحت ثابت نہ ہو وہ ہرگز سچا نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ کلام مسئلہ زیر نظر میں ابن حزم اپنا  
**بنابر تعارض نصوص ساقط العمل نہیں ہوتیں**۔ ظاہری نقطہ نگاہ واضح کرتے ہیں اور

کسی نص کو ساقط عن الاحتجاج قرار نہیں دیتے۔ نصوص کو ساقط العمل قرار دینے والا شخص ان اعمال کو بقوہ قرار دیتا ہے حالانکہ سنت رسول ہونے کی صورت میں ان کی نسبت رسول کریم کی طرف کی گئی ہے۔ نص قرآنی پر عمل درآمد نسخ کے بغیر قرار نہیں پایا۔ لہذا نصوص میں تعارض نہیں اور نہ ہی باہم تعارض کی بناء پر کوئی نص ساقط الاحتجاج ہو جاتی ہے۔ بلکہ نسخ کی بناء پر یا جو نسخ کے حکم میں ہو اس کا حکم مرفوع ہو جاتا ہے اور باقی نہیں رہتا۔ نسخ کی بناء پر رفع حکم اور حکم کے اسقاط و الغاء میں فرق ہے۔ الغاء و اسقاط کی بناء پر نص تمام حالات میں بے کار ہو جاتی ہے وہ حجت نہیں رہتی۔ ثبوت حکم کے بعد اس کے اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نص پر عمل کیا جاتا ہے اور اسے بقوہ قرار نہیں دیا جاتا۔ اس سے حجت شرعیہ کا اسقاط لازم نہیں آتا۔ رفع حکم میں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نص پر عمل کرنے کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور جو حکم یقینی طور پر پہلے ثابت تھا اب باقی نہیں رہا۔

اس سے واضح ہوا کہ تعارض کی بناء پر کسی نص کو مہمل اور ساقط العمل قرار نہیں دیا جاتا۔ ابن حزم بڑے خلوص و وثوق سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بنابر تعارض نصوص ثابتہ کو ساقط نہیں کر سکتے خواہ نص کا اثبات بطریق احادیث ہو تا ہو۔ ابن حزم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ظاہر التعارض نصوص کو ذکر کر کے واضح کریں گے کہ حقیقتاً ان میں کوئی تعارض پایا نہیں جاتا۔ فرماتے ہیں:-

» اگر خدا نے ہماری عمر و راز کی اور توفیق سے پہرہ در کیا تو ہم بعونہ تعالیٰ ان نصوص کو یکجا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن میں بظاہر تعارض محسوس ہوتا ہے۔ قوت و توفیق صرف وہی عطا کرتا ہے۔»

امام شافعی اور ابن حزم کا تطابق و توافق :- ابن حزم کا یہ مسلک مبنی بر ظاہر ہے۔ اس کی اساس احترام نصوص پر رکھی گئی

ہے۔ وہ قیاسی وجوہات کی بنا پر نہ ایک نص کو دوسری پر ترجیح دیتے ہیں۔ نہ اسے ساقط العمل قرار دیتے ہیں۔ یہ امر بھی ان کے مسلک کی اساس ہے کہ راوی کی مرویات میں شک و شبہ کا دخل نہیں ہے بلکہ وہ یقینی اور مفید علم و عمل ہیں۔

یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ابن حزم کا مسلک مبنی بر ظاہر ہے ہم آپ کے انکار و آراء کا امام شافعی کے نظریات کے ساتھ تقابل کرنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کا طرز و فکر نظر ظاہری مسلک کے ساتھ اس اعتبار سے قریبی مماثلت رکھتا ہے کہ وہ بھی صرف نصوص پر اعتماد کرتے اور اپنے قیاس کو نص پر محمول کرتے تھے۔ ابن حزم جب اصول فقہ کے موضوع پر کتابیں تصنیف کرتے تھے تو امام شافعی کے مباحث و دراسات ان کے پیش نظر تھے۔ ابن حزم ایسے شخص کے متعلق یہ مفروضہ صحیح ہے کہ امام شافعی کی کتابیں ان کی نظر سے گزری ہوں گی۔

امام شافعی تعارض نصوص کے وقت نسخ کا فیصلہ کرتے ہیں بشرطیکہ نسخ کی کوئی دلیل موجود ہو۔ نسخ کی صورت میں تعارض باقی نہیں رہے گا کیونکہ جس آیت کا حکم اٹھا دیا گیا ہو اس میں اور جس کا حکم باقی ہو دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ اگر نسخ کا ثبوت نہ ملتا ہو تو جمع و تطبیق کی کوشش کی جائے گی۔ وجوہ تطبیق وہ ہیں جو ذکر کئے چلچکے ہیں امام شافعی نے بھی ان میں سے بعض وجوہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیگر وجوہات اپنی کتاب الرسائل میں بیان کئے۔ جب تطبیق کا امکان نہ ہو تو متاخر نص پر عمل کرتے ہیں۔ اور اگر تاریخ معلوم ہو تو متقدم کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔

اگر تطبیق و نسخ دونوں کا امکان نہ ہو اور تاریخ بھی معلوم نہ ہو تو امام شافعی جمع کے اعتبار سے ان میں موازنہ کرتے ہیں۔ جب ثبوت کے پیش نظر دونوں حدیثیں برابر نہ ہوں بلکہ



ایک روایت دوسری سے اقوی ہو تو اس نص پر عمل کیا جائے گا جو دونوں میں اشد ہے اور اقوی ہو۔ چنانچہ اس سے احتجاج کیا جاتا ہے اور دوسری کو چھوڑ دیا جاتا ہے اگر سند میں مساوی ہوں اور کوئی وجہ ترجیح موجود نہ ہو البتہ ایک حدیث کی تائید کتاب و سنت کی کسی دلیل سے ہو رہی ہو یا اس کے نظائر و شواہد پائے جاتے ہوں تو اس کے معنی کی تائید کی جائے گی اور اس پر عمل کیا جائے گا۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ دو حدیثوں کے مابین ہمیں کبھی ایسا اختلاف معلوم نہیں ہوا جس میں جمع و تطبیق کا امکان نہ ہو۔ نہ ہی نسخ و منسوخ کو پہچانا جاتا ہو نہ قوت ثبوت اور شواہد کتاب و سنت کی بناء پر اس میں ترجیح کا امکان ہو۔ آپ اپنے اس فیصلہ کو مستقر اور عملی پر مبنی قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”ہم نے کبھی ایسی دو حدیثیں نہیں پائیں مگر ان میں جمع و تطبیق کا امکان ہوتا ہے یا ایک کی تائید میں کتاب اللہ کی کوئی آیت یا کوئی دلیل موجود ہوتی ہے۔“

یہ ہے امام شافعی کا قول! آپ تعارض کا اقرار کر کے بعض نصوص کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں اور آخری فیصلہ یہ صادر کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی دو متعارض حدیثیں نہیں پائیں جن میں ترجیح کا امکان نہ ہو۔ بعد میں اہل ظاہر آئے تو انہوں نے ابن حزم کی زبانی یہ کہا کہ انہوں نے کبھی دو ایسی شرعی دلیلیں نہیں پائیں جو متعارض ہوں اور ان میں نہ نسخ کا ثبوت ملتا ہو نہ تطبیق کا کوئی ذریعہ ہو اور نہ ترجیح کی صورت ممکن ہو۔

بنابریں اہل ظاہر اور امام شافعی کے افکار و آراء کے مابین فرق یہ ہے کہ امام شافعی تعارض کا اقرار کر کے طریق ترجیح کو استعمال کرتے ہیں، اس کے برخلاف اہل ظاہر کہتے ہیں کہ نصوص میں تعارض صرف ظاہری ہوتا ہے اسلی اور حقیقی نہیں ہوتا۔ جب نسخ کا ذکر حل پڑے تو ہمارے لئے یہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ نسخ کے متعلق ابن حزم کا زاویہ نگاہ کیا تھا؟ چنانچہ اب ہم نسخ پر روشنی ڈالتے ہیں۔

## ناسخ و منسوخ اور ابن حزم

معرفت ناسخ و منسوخ کی اہمیت :- ابن حزم کا قول ہے کہ ناسخ و منسوخ کی معرفت حاصل کرنا ارکان اجتہاد میں سے ایک عظیم

رکن ہے، ایک تابعی نے فتویٰ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا آیا آپ نے ناسخ و منسوخ کا علم حاصل کر لیا ہے؟ انہوں نے جواباً کہا نہیں، حضرت علی نے فرمایا آپ ہلاک ہو گئے بلکہ

ناسخ و منسوخ کی پہچان حاصل کرنا اصول اجتہاد کے فن کا ایک خالص جزو ہے، امام شافعی اور ابن شہینہ نے ناسخ و منسوخ کے بارے میں لکھا اور فقہ اسلامی میں نسخ کے اصول و ضوابط مقرر کئے، اسی لئے اسحق بن راہویہ فرماتے ہیں، امام شافعی سے ملے بغیر ہمیں ناسخ و منسوخ سے آگاہی حاصل نہ تھی۔

ابن حزم امام شافعی کی طرح نسخ کو بیان احکام قرار دیتے ہیں، نہ اس سے نصوص کا ازالہ ہوتا ہے نہ ان کا انفاء لازم آتا ہے۔ نسخ کے ذریعہ صرف یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حکم کی مدت ختم ہو گئی۔ اور وجہ سے کہ ابن حزم نسخ کی ایسی تعریف کرتے ہیں جو امام شافعی کی بیان کردہ حقیقت سے ہم آہنگ ہے۔

ابن حزم لکھتے ہیں :-

”نسخ کی تعریف یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ حکم کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ مثلاً نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ”قروں کی زیارت نہ کیجئے“ پھر فرمایا میں تمہیں قروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا اب ان کی زیارت کر لیا کرو“

۱۔ کتاب النسخ و المنسوخ برہا شیعہ تفسیر جلالین

۲۔ الاحکام ج ۴ ص ۵۹ -

دوسری نص کی بنا پر نہ پہلی نص لغو قرار پاتی ہے۔ نہ اس کا ساقط ہونا لازم آتا ہے بلکہ اس کے حکم کی مدت کا ختم ہو جانا معلوم ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن کے نسخ کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ قرآن کریم میں بدستور موجود ہیں اور ان کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ کیونکہ نہ وہ ساقط ہیں نہ لغو بلکہ ان پر عمل پیرا ہونے کی مدت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ دوسرے حکم نے لے لی، جو تا قیامت باقی رہے گا۔

جب نسخ کے معنی حکم معین سے کسی حکم کی مدت کے اضمحام کا معلوم ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے نسخ بیان متاخر کی ایک نوع ہے۔ ابن حزم کے نظریہ کے مطابق بیان متاخر کی دو قسمیں ہیں :-

(۱) ایک بیان وہ ہے جس میں مجمل کی تفصیل یا عام کی تخصیص کی گئی ہو۔ کیوں کہ ابن حزم کے نزدیک تخصیص، تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ مگر عمل کا آغاز بیان کے بعد ہو گا۔ ان کے نزدیک اگرچہ مجمل کو تاخیر بھی اضحیح کیا جاسکتا ہے مگر وقت عمل سے اس کی تاخیر جائز نہیں۔

(۲) بیان متاخر کی دوسری قسم کو نسخ کہتے ہیں۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم معمول بہ ہو۔ اس کے بعد دوسری نص آئے اور بیان کر دے کہ پہلی نص پر عمل کرنے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ دوسری نص میں ہوگی پہلی نص کو زائل کرنے والی نہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نسخ ایک ایسا بیان ہے جس کے متعلق جس شخص نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک استثنائہ زمانی ہے اور متاخر ہے یعنی ایک ایسی تخصیص ہے جو زمانی اعتبار سے متاخر ہے تو ابن حزم نے اس کی توثیق کی اور اسے صحیح قرار دیا۔

چنانچہ ابن حزم فرماتے ہیں :-

”اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ نسخ کا مطلب ہے فعل کو ابدی طور پر لازم قرار دینے سے دوسری نص کے زمانہ کو مستثنیٰ قرار دینا، تو ہم بتوفیق ربانی اسے کہیں گے کہ یہ استثناء مطلق کی قسم میں داخل نہیں۔ مگر مخالفت کی مراد یہ ہے کہ نسخ ہی استثناء کی ایک قسم ہے۔ کیونکہ نسخ سے مدت کا استثناء ہو جاتا ہے اور باقی زمانوں کی نسبت وہ زمانہ عمل کے لئے مخصوص ہو جاتا ہے تو ہم اس کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ اس وقت درست بات یہ ہوگی کہ ہر نسخ استثناء ہے مگر ہر استثناء نسخ نہیں اور یہ صحیح ہے۔“

نسخ کن نصوص میں جاری ہوتا ہے؟۔ چونکہ نسخ کے ذریعہ کسی حکم کی مدت کی اختتام کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لہذا نسخ

انہیں نصوص میں جاری ہو سکتا ہے جو احکام تکلیفی مثلاً ادا مروا ہی پر مشتمل ہوں اخبار میں نسخ تبھی آئے گا جب وہ کسی امر وہی پر مشتمل ہوں۔ کیوں کہ قصہ کمافی کی ذات میں نسخ نہ ہوگا بلکہ اس کے منضمات اور مشتملات میں۔

مگر سوال یہ ہے کہ وہ ادا مروا جن سے عقائد کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور جو نقل کے علاوہ عقل سے بھی ثابت ہوتے ہیں آیا نسخ ان میں بھی جاری ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ابن حزم اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اہل ظاہر کے یہاں یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ وہ کہتے ہیں:-

”ہمارے اصحاب بعض ادا مروا کے بارے میں مختلف الجیال ہیں کہ آیا ان میں نسخ جاری ہو سکتا ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقیدات میں نسخ جاری نہیں ہو سکتا مثلاً توحید وغیرہ۔ مگر ابن حزم ان اصحاب ظواہر سے اصل نظریہ میں نہیں بلکہ اس کی تعبیر و توجیہ میں اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جو احکام ثابت ہو چکے ہیں ان کے ثبوت و استقراء کے بعد ان میں سے کوئی حکم منسوخ نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً خدا و رسول کے مباحث کو حرام قرار دینا اثبات توحید احوال قیامت پر ایمان لانا جہاد فی سبیل اللہ ان میں سے کوئی حکم بھی منسوخ نہیں کیا جاسکتا۔ مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں یا اس کے لئے یہ جائز نہیں۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اعمال خداوندی میں دخیل ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں:-

”اگر تم یہ کہو کہ خدا تعالیٰ توحید کے منسوخ کرنے پر قادر نہیں یا اس کی نسخ پر قادر ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم خطا کار ہو اس لئے کہ تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ تم امور خداوندی کی تدبیر کر رہے ہو اور ذات باری کو اپنے عقلی قوانین کے تابع کر رہے ہو کہ اگر وہ ان کی مخالفت کرے گا تو فعل عبث اور ظلم کا ارتکاب کرے گا۔“

اس سے راضع ہوا کہ ابن حزم کی رائے میں نسخ ایسے عقلی احکام میں جاری نہیں ہو سکتا جن میں تغیر و تبدل کا امکان نہ ہو مگر وہ اپنی زبان اور قلم کو یہ بات کہنے سے پاک رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے۔ اس کے برخلاف وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اسے لڑی مقرر کر رکھا ہے لہذا ان میں تبدیلی کی گنجائش نہیں لہذا ان میں نسخ جاری نہ ہو سکے گا۔

**نسخ کہاں جاری نہیں ہوتا؟** ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کر کے عقل کو فریب دینے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ بعض امور کو اس لئے منسوخ نہیں کیا جا سکتا کہ عقل انہیں پسند کرتی ہے مثلاً محسن کا شکر یہ ادا کرنا جیسے اہل ظاہر کہتے ہیں۔ وہ اہل ظاہر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں۔

”ہمارے اصحاب نے جو عجیب بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ محسن کا شکر ادا کرنے کا حکم قطعی طور پر منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کفر منعم کو مباح نہیں کر سکتے۔“

ابن حزم اہل ظاہر کو ہمارے اصحاب کہہ کر پکارتے اور ان کی تردید کرتے ہوئے ان کے دل کا فساد و بطلان بیان کرتے ہیں۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ نوبہ حق اس مسئلہ میں اصحاب ظاہر سے رخصت ہو گیا اور ان کے شامل حال نہیں ہے۔ وہ اس کے بطلان پر یہ دلیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر اس کے والدین احکام شریعت کے مخالف ہوں تو ان سے قطع تعلق کرے حالانکہ والدین سے بڑا محسن اور کوئی نہیں۔

ابن حزم رقمطراز ہیں :-

”اہل ظاہر سے اس مسئلہ میں نوبہ حق کے رخصت ہو جانے پر بڑی حیرانی ہے حالانکہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ان کی نظر سے گذر چکا ہے۔“

قرآن کریم میں فرمایا :-

”آپ ایسا کبھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان لانے والے اللہ و رسول سے دشمنی کرنے والوں سے محبت کرتے ہوں۔ اگرچہ وہ ان کے باپ بیٹے، بھائی یا کنبہ کے لوگ ہیوں نہ ہوں۔ ان کے دلوں میں اس نے ایمان کو بگڑن کر دیا ہے اور روح القدس سے ان کو موثر فرمایا ان کو وہ ایسے باغیوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ خدا سے راضی ہو گئے۔ یہ خدا کا کردہ ہے

اور خدا کا گروہ ہی غالب ہو کر رہتا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:-

اے ایمان والو! انصاف پر قائم ہو جاؤ اور خدا کے گواہ بن جاؤ۔ اگرچہ شہادت اپنے آپ کے خلاف دینا پڑے۔ یا والدین اور اقارب کے خلاف۔

اس آیت میں حق بیانی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کے نتیجہ میں اقارب کو تکتہ دار پر لٹکنا پڑے، قتل ہونا پڑے، ہاتھ پاؤں اور جسمانی اعضاء کاٹ دئے جائیں، چابک لگانے پڑیں، سنگساری گوارا کرنی پڑے، پردہ وری کی نوبت آئے، بچے اور بیویاں قید ہو جائیں جاؤ اور لونڈی غلام فروخت کر دئے جائیں۔ اگرچہ وہ ہمارے شفیق اکابر ہوں مگر کفر اختیار کرنے کی بنا پر ان پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ پھر شکرِ محسن کیا ہوا؟ اور والدین سے حسن سلوک کا حکم کہاں رخصت ہوا؟ یہ سب محالات کے قبیل سے ہیں۔ اس کے برخلاف اطاعت ان والدین کی ضروری ہے جن کی اطاعت کا حکم خدا نے دیا اور صرف اسی نعم کا شکر ضروری ہے جس کا شکر ادا کرنے کے لئے خدا نے مامور فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ والدین سے حسن سلوک کا حکم دیتے تو نہ ان سے حسن سلوک واجب ہوتا اور نہ ان کی نافرمانی ممنوع ہوتی اور اگر خداوند تعالیٰ شکرِ نعم سے مامور نہ کرتے تو نہ اس کا شکر لازم ہوتا نہ کفر سے اجتناب لازم ہوتا۔ جس طرح حربی والدین یا حربی نعم سے حسن سلوک ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رحم کا حکم نہ دیتے تو وہ بھی واجب نہ ہوتا۔

یہ ابن حزم کا اقتباس تھا جسے ہم نے مختصر پیش کیا ہے۔ وہ

ابن حزم کے نظریہ پر تنقید:- ان اہل ظاہر کی تردید کرتے ہیں جن کا قول ہے کہ شکرِ نعم کو ممنوع

نہیں کیا جاسکتا اور نہ ان کے حق کو روکا جاسکتا ہے۔ ابن حزم خود ظاہری ہیں اور اہل ظاہر کو ترکیب کی جواب دیتے ہیں۔ وہ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ مسئلہ ہذا میں تو حق ان سے رخصت ہو چکا ہے۔ ان کے قول کو فاسد قرار دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن حزم حق کے حامی ہیں اور حق کے مخالف کے ساتھ ہرگز رعایت نہیں کرتے بلکہ مخالف کے ساتھ تشدد و کاروبار اختیار کرتے ہیں خواہ وہ فکری و نظری اعتبار سے آپ کے قریب ہو یا دور۔

اس کے باوصف ابن حزم کا کلام غور و فکر کا محتاج ہے اور مسئلہ زیر بحث میں وہ جاوہر حق پر گامزن نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے والدین سے لڑتا بھگڑتا اور ظالم ہونے کی صورت میں ان کے خلاف فیصلہ صادر کرتا ہے وہ کفرانِ نعمت کا مرتکب نہیں ہوتا، اور نہ ہی شکرِ منعم کے قانون سے خارج ہوتا ہے۔ بلکہ وہ اس قانون کو بڑی دیدہ ریزی اور استحکام کے ساتھ نافذ کرتا ہے۔ کیونکہ اس پر دو منعموں کا شکر واجب ہے۔ اول ذاتِ حقیقی جو ہر منعم پر احسان کرتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خدا کے دشمنوں سے دوستی نہ لگائے۔ دوسرے منعم والد اور والدہ ہیں۔ جب یہ دونوں خدا کے ساتھ جنگ آزما ہوں تو انسان اس صورت میں دو شکروں کے درمیان متردد ہوگا۔ پہلا خدا کا شکر جو منعمِ اعظم ہے اس کا شکر واجب تر ہے۔ عقل انسانی بھی یہی کہتی ہے۔ دوسرا والدین کا شکر یہ ادا کرنا۔ اس کا وجوب پہلے کی نیت کم ہے۔ جب وہ خدا کی دعوت پر لبیک کہے گا اور صرف اسی سے محبت کرے گا تو شکر واجب کی ذمہ داری سے عمدہ برآ ہوگا۔ اور کفرانِ نعمت کا مرتکب نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ مسلمہ امر ہے کہ جب درواجب متعارض ہوں تو واجب تر اور لازم تر کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ لہذا جب دو شکر متعارض ہوں تو اسے چاہئے کہ شکرِ اعظم کو بجالائے اور وہ شکر خداوندی ہے۔

ابن حزم کے طرز فکر و نظر کے

حدیث سے نسخِ قرآن اور قرآن سے نسخِ حدیث۔ مطابق نسخِ بیان کی ایک قسم

ہے۔ یہ امر بھی ان کے اصولِ مسلمہ میں داخل ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے معادن ہیں اور دونوں دین میں بحت ہیں۔ قرآن حدیث کی توینج کرتا ہے اور حدیث قرآن کی شایح و ترجمان ہے۔ گویا ابن حزم کے نزدیک قرآن و حدیث دونوں ایک دوسرے کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں وحی ہیں۔ ابن حزم کا زاویہ نگاہ بیان کرنے سے قبل ہم اس ضمن میں دوسرے علماء کے نظریات بیان کرتے ہیں:-

پہلا نظریہ:- بعض فقہاء کا قول ہے کہ قرآن میں کوئی حکم منسوخ نہیں کیوں کہ قرآن شریعتِ اسلامیہ کی دستاویز ہے جو تادور قیامت زندہ رہا پائیدہ ہے گا۔ علاوہ ازیں جن آیات کو منسوخ کہا جاتا ہے اگر تھوڑی سی زحمت غور و فکر گوارا کی جائے تو نسخِ آیات کے ساتھ ان کی جمع و تطبیق کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے۔ نسخ کی طرف اسی وقت رجوع کیا جاتا ہے جب تطبیق کا امکان نہ ہو، واللہ اعلم بالصواب کا نظریہ بھی یہی ہے امام فخر الدین رازی نے

تفسیر کبیر میں ان کا قول نقل کیا اور ان کی تطبیق کا ذکر کیا، جو منسوخ آیات کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں۔

یہ پہلی رائے ہے۔ عقل انسانی بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اگرچہ جمہور علماء کا مسلک اس کے خلاف ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ جب تک تطبیق کا امکان ہو نسخ کی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ نسخ کوئی آسان کام نہیں۔ کیونکہ نسخ کسی شرعی حکم کی مدت عمل کے ختم ہو جانے کو کہتے ہیں۔ جب ابن حزم نسخ کو بیان قرار دیتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب فقہ اس امر میں متردد ہو کہ آیا دو دلیلوں میں تطبیق پیدا کر کے دونوں پر عمل کیا جائے یا ایک کو منسوخ مانا جائے تو جمع و تطبیق اولیٰ و آخریٰ بالقبول ہوگی۔

دوسرا نظریہ :- دوسری رائے امام شافعی کی ہے جسے وہ اپنی کتاب الرسالۃ میں فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سنت سنت کی ناسخ ہوتی ہے اور قرآن قرآن کو منسوخ کرتا ہے۔ قرآن حدیث کو صرف اس صورت میں منسوخ کرتا ہے، جب حدیث ہی سے حدیث کا منسوخ ہونا ثابت ہوتا ہو۔ لہذا اس کی ناسخ حدیث ہی ہوگی۔ قرآن قرآن کو جمعی منسوخ کرتا ہے کہ سنت سے اس کی وضاحت ہوتی ہو۔ اسی بنا پر امام شافعی ایک اصل کو دوسری اصل کا ناسخ قرار نہیں دیتے۔ البتہ قرآن کی ایک آیت کے دوسری آیت کا ناسخ ہونے کا پتا نہیں سے چلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نسخ بیان کی ایک نوع ہے اور یہ ظاہر ہے کہ حدیث قرآن کی شارح و تبیین ہے۔ نیز اس لئے کہ حدیث سے آیات کی تاریخ معلوم ہوتی ہے اور پتا چل جاتا ہے کہ متقدم کون ہے اور متاخر کون۔ اور یہ ظاہر ہے کہ نسخ کی بنیاد تقدیم و تاخیر پر ہی رکھی جاتی ہے۔

تیسرا نظریہ :- تیسرا نظریہ وہ ہے جسے ابن حزم اختیار کرتے ہیں۔ اس نظریہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ موجود ہیں۔ جمہور بھی اسی کے قائل ہے۔ امام شافعی بھی ان میں شامل ہیں۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ سنت قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے۔ ابن حزم اس نظریہ کی تائید میں فرماتے ہیں :-

”اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب و سنت و جوب اطاعت کے اعتبار سے مساوی ہیں ان دونوں کا معنی و ماخذ وحی الہی ہے۔ کیونکہ قرآن میں وارد ہے :-



”مَا يُنْفِقُ عَنِ الْكُدْهِی“ (النجم) وہ ہمارا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا  
جب آپ کا کلام بھی وحی ہوا اور قرآن بھی وحی ہے تو وحی کا وحی سے منسوخ ہونا  
جائز ہے یہ

ابن حزم نے وہ دلیل بیان کی ہے جو ان کی منطوق کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ وہ آغاز  
کار ہی میں یہ فیصلہ صادر کرتے ہیں کہ حدیث قطعی ہوتی ہے اور علم و عمل دونوں کی موجب ہوتی  
ہے۔ اخبار متواتر اور احادیث دونوں اس میں برابر ہیں۔ کیوں کہ یہ سب علم قطعی کو واجب کرتی  
ہیں۔ لہذا احادیث متواترہ اور اخبار احاد دونوں سے قرآن منسوخ ہو جائے گا اور قرآن دونوں  
قسم کی احادیث کو منسوخ قرار دے سکے گا۔

ابن حزم کی یہ رائے صرف ایک مسئلہ میں احناف کے نقطہ نظر سے مختلف ہے۔ احناف  
بھی قرآن کا نسخ حدیث سے اور حدیث کا نسخ قرآن سے جائز تصور کرتے ہیں۔ مگر ان کے  
نزدیک اخبار احاد سے قرآن کو منسوخ نہیں کیا جاسکتا۔ ابن حزم اور حنفیہ کے مابین نقطہ اختلاف  
یہ ہے کہ اخبار احاد سے اخذ و احتجاج کس حد تک درست ہے۔ ابن حزم کے نزدیک اخبار احاد  
قرآن کو منسوخ کر سکتی ہیں۔ کیوں کہ وہ انہیں قطعی تصور کرتے ہیں۔ احناف اس لئے جائز نہیں  
سمجھتے کہ وہ اخبار احاد کو ظنی قرار دیتے ہیں۔

**نسخ کے بارے میں امام شافعی اور ابن حزم کا اختلاف :-** ابن حزم اور حنفیہ کے  
مابین صرف جزئی سا اختلاف

پایا جاتا ہے جب کہ امام شافعی کے ساتھ آپ کا اختلاف اساسی اور بنیادی ہے۔ امام شافعی  
فرماتے ہیں ایک حدیث دوسری حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے مگر قرآن حدیث کو منسوخ نہیں کر  
سکتا قرآن سے حدیث اس وقت منسوخ ہو سکے گی جب حدیث کے اندر ہی نسخ کی دلیل پائی  
جاتی ہو۔ اور وہ یوں کہ اٹھنورہ کے عمل سے کسی حدیث کا منسوخ ہونا معلوم ہوتا ہو یا کوئی دوسری  
نسخ پر ولالت کرتی ہو۔ ابن حزم اس قول کی بنا پر امام شافعی کو مورد طعن بناتے  
ہوئے فرماتے ہیں :-

”امام شافعی فرماتے ہیں حسب اللہ تعالیٰ اخصور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سابقہ

سنت کے اٹھا دینے پر مامور فرمائیں تو آپ سے ایک نئی سنت معرضِ ظہور میں آئے گی جو پہلی سنت کی ناسخ ہوگی۔ آپ کے تلامذہ اس پر معترض ہوئے کہ اگر کہا جائے کہ جدید وحی نازل ہو کر سابقہ سنت کی ناسخ ثابت ہوئی۔ تو یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ آپ کے عمل سے سابقہ سنت منسوخ ہو گئی۔ پھر لوگوں نے بھی جدید سنت پر عمل کیا لہذا ان کے عمل سے بھی پہلی سنت کا نسخ لازم آیا حالانکہ یہ غلط ہے۔

ابن حزم کو یہ اعتراض بڑا پسند ہے۔ اعتراض کا مدار و انحصار اس امر پر ہے کہ حدیث کو قرآن سے منسوخ کرتے وقت آنحضورؐ کا جدید سنت پر عمل کرنا ضروری ہے جو پہلی سنت کی ناسخ ہے۔ اسی طرح لوگوں کا نئی سنت پر عمل ہونا بھی سابقہ سنت کا ناسخ کہلائے گا۔ ابن حزم اس اعتراض کو بنظر استہسان دیکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ اعتراض امام شافعی پر وارد ہوتا ہے۔

ابن حزم کہتے ہیں :-

"یہ اعتراض بجا ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم خداوند تعالیٰ کے تابع فرمان تھے۔ لہذا ناسخ دراصل خدا تعالیٰ کا حکم ہے جو آپ پر وارد ہوتا ہے نہ کہ عمل۔ آپ کا عمل تو صرف حکم خداوندی کی اراءات کا مظہر ہے۔"

ابن حزم امام شافعی کے خلاف شرعی دلائل کے ہتھیاروں امام شافعی کے نظریہ کی تشریح :- سے مسلح ہو کر جنگ آزما ہوتے ہیں۔ امام شافعی کے ساتھ انصاف کرنے کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے الفاظ میں ان کی رائے نقل کریں۔ چنانچہ آپ اپنی کتاب الرسالہ میں لکھتے ہیں۔

"آنحضورؐ کی سنت کو صرف آپ کی سنت ہی منسوخ کر سکتی ہے۔ اگر خداوند کریم آپ کو کسی جدید سنت کا حکم دیں جو پہلی سنت کی ناسخ ہو تو جدید حکم ہی سنت قرار پائے گا۔ اور آپ لوگوں کو بتادیں گے کہ نئی سنت کی بنا پر سابقہ سنت کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔"

امام شافعی کے اس ارشاد کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ کے عصر و عہد میں چند سر پھیرے لوگ حدیث نبوی کے خلاف تھے۔ اگر امام شافعی یہ کہتے کہ قرآن حدیث کو منسوخ کر سکتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ بدراہ اور ان کے ہمراہ حدیث کو مہمل کر کے رکھ دیتے اور کچھ فہم لوگوں کو موقع مل جاتا کہ وہ احادیث نبویہ کو صرف اس لئے ترک کر دیتے کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں یا ان سے اطلاق قرآن کی تفسیر ہوتی ہے لہذا یہ منسوخ ہیں۔ حدیث نبوی کی حمایت اور احادیث کے استقراء و تتبع کی بناء پر آپ نے فرمایا کہ حدیث حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اگر قرآن حدیث کا ناسخ ہو تو ایسی نص کا ہونا ضروری ہے جس سے نسخ کی وضاحت ہوتی ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو نام سنت کے لقب سے ملقب تھے۔ اپنی کتاب الرسالۃ میں لکھتے ہیں :-

”اگر کوئی شخص دریا منت کرے کہ آیا قرآن و حدیث کو منسوخ کر سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اگر قرآن حدیث کو منسوخ کرتا ہو تو آپ کی ایسی سنت کا ہونا ضروری ہے جس سے پتا چل سکے کہ دوسری سنت پہلی سنت کی ناسخ ہے۔ تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو سکے کہ ایک دلیل اپنے جیسی دلیل کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اگر یہ بات جائز ہوتی کہ آپ نے جو سنت مقرر کی ہو قرآن اکر اسے منسوخ کر دیا اور آپ سے کوئی سنت ناسخ منقول نہ ہوتی تو یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ کی تمام حرام کردہ بیوع اس وقت کی حرام کردہ ہیں جب کہ آیت

”وَأَخْلَ الْبَيْعَ وَحَدَّ الْبَوَاءَ“ (۲۰۵-۲۱) نازل نہ ہوئی تھی اسی طرح جن زانیوں کو سنگسار کیا گیا تھا ہو سکتا ہے کہ جرم کا حکم آیت ”الذَّانِيۃُ وَالذَّانِيۃُ“ سے منسوخ ہو چکا ہو یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ جو چور غیر محفوظ مال چرائے یا ربیع دینا سے کم کی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ کیونکہ آیت قرآنی :-

”السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَانُطَعِدَا“ چور مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دو

أَبْدِ يَمَٰمًا“ (المائدہ - ۳۸)

میں سرقہ کا لفظ ہے جس کا اطلاق قلیل و کثیر سب پر آتا ہے اور مال محفوظ یا غیر محفوظ سب کو سرقہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر حدیث نبوی کو یہ کہہ کر دکر دیا جاتا کہ آپ سے یوں نہیں فرمایا کیونکہ قرآن میں یہ کہیں مذکور نہیں۔ ان دو وجوہات کی بناء پر احادیث کا رد کرنا جائز ہو جاتا۔ اور تمام احادیث متردک قرار پائیں اگرچہ وہ قرآن سے ہم آہنگ ہوں اور یوں بھی احادیث

قرآن کے موافق ہی ہوا کرتی ہیں۔

امام شافعی کا یہ بیان اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ آپ نے یہ نظریہ حدیث نبوی کی حمایت و نصرت کی بناء پر اختیار کیا تھا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ احادیث کو منسوخ قرار دے کے ہمل و متروک نہ کر دیا جائے۔ امام شافعی نے جو نظریہ تائید حدیث کے نقطہ خیال سے اختیار کیا تھا، ابن حزم کو اس کی مخالفت کرنا بجا نہ تھا۔ علاوہ ازیں یہ مخالفت بے محل بھی ہے اس لئے کہ جن احادیث کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن نے ان کو منسوخ کر دیا ہے ان کے پہلو بہ پہلو ایسی احادیث پائی جاتی ہیں جو نسخ پر روشنی ڈالتی ہیں۔ امام شافعی کے مخالفت ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے جسے قرآن نے منسوخ کیا ہو۔ اور سنت نبوی سے اس کے نسخ کا اظہار نہ ہوتا ہو۔ علامہ آمدی نے اپنی کتاب الاحکام میں امام شافعی کے خلاف دلائل مدئے ہیں۔ ہم نے آمدی کی غلطی واضح کی ہے اور بتایا ہے کہ ہر سنت جو قرآن سے منسوخ کی گئی ہے، اس کے ساتھ ایسی حدیث بھی موجود ہے۔ جس سے اس کے نسخ کا اظہار ہوتا ہے۔ لہذا ان کے ذکر کردہ دلائل سے امام شافعی کی تردید نہیں ہوتی۔

ابن حزم کے اعتراض کی ناموزونیت :- جس اعتراض کو ابن حزم نے بعض اصحاب شافعی کی جانب منسوب کیا ہے وہ بے محل ہے اور امام شافعی پر وارد نہیں ہوتا مگر ابن حزم اسے صحیح قرار دیتے اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ اعتراض کا مبنی یہ ہے کہ اگر آنحضرت کے عمل سے حدیث کا منسوخ ہونا لازم آتا اور قرآن اس کا ناسخ نہ ہوتا تو لوگوں کا عمل بھی سابقہ سنت کا ناسخ ہوتا۔ یہ اعتراض دو وجوہات کی بناء پر غلط ہے۔

امر اول :- پہلی وجہ یہ ہے کہ امام شافعی یہ نہیں کہتے کہ حدیث اکیلی ناسخ ہوتی ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث نسخ کو واضح کرتی ہے یہ قید انہوں نے بنا بر اکتیاط لگائی ہے وہ صریح الفاظ میں فرماتے ہیں۔

« اگر قرآن حدیث کو منسوخ کرتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کی ایک ایسی سنت بھی ہوگی جس سے پتا چلے گا کہ دوسری سنت پہلی کی ناسخ ہے »

اس سے اعتراض کا بے محل ہونا واضح ہو جاتا ہے کیوں کہ اعتراض کا امکان جب ہے کہ امام شافعی قرآن سے نسخ کے وصف کو خارج کر دیتے ہوں۔ حالانکہ آپ ایسا نہیں کرتے ابن حزم کی پسندیدہ تشبیہ ان کے اپنے بیان کے مطابق باطل ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کے عمل کو بھی سنت کا نسخ قرار دینا پڑے گا۔ یہ کلام اس صورت میں درست ہو سکتا ہے۔ جب لوگوں کے اقوال و افعال آنحضرت کے اقوال و اعمال کی مانند ہوں۔ ابن حزم ہر جگہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت خدا کے فرستادہ تھے اور آپ کا کلام وحی کی ترجمانی کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے تمام افعال اور خداوندی کی تنفیذ کے لئے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ لوگوں کے اقوال و اعمال آنحضرت کے مساوی کیونکہ ہو سکتے تھے۔ خداوند تعالیٰ ابن حزم کی غلطی معاف کرے۔

**نسخ صرف عہد نبوت میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔** نسخ جہاں بھی ہو صرف عہد نبوی میں وقوع پذیر ہو سکتا ہے کیونکہ

نسخ بیان ہے اور شریعت کو بیان کرنے والی صرف وحی ہے۔ لہذا وحی کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد نسخ کا امکان نہیں رہتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جاملے تھے۔ جب پوری طرح شریعت کو بیان کر دیا۔

قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ  
اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ  
الْإِسْلَامَ دِينًا فَرِيقًا الْمَائِدَةَ - ۳) ایک دین کے اعتبار سے پسند کر لیا۔

البتہ عہد نبوی میں بعض لوگوں کو نسخ و منسوخ کا پتا نہ چل سکا اور آپ کی وفات کے بعد وہ اس سے آگاہ ہوئے۔ تو اس کے یہ معنی نہیں کہ نسخ آپ کی وفات کے بعد وقوع پذیر ہوا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس کا وقوع عہد نبوی میں ہو چکا تھا۔ مگر اس کا علم بعض لوگوں کو آپ کی وفات کے بعد حاصل ہوا۔ مثلاً ایک شخص اس وقت موجود نہ ہو جب نسخ پر مشتمل وحی نازل ہوئی۔ یہ تا علمی کسی شخص کے لئے بھی نہ ہو جب ملامت ہے نہ سبب و عیدہ قابل ملامت وہ شخص ہے جو عہد رسالت کے بعد نسخ کا دعویٰ کرتا ہے۔ کوئی مسلمان آج تک یہ جرات نہ کر سکا۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔

البتہ اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے جس کو ناسخ کی اطلاع موصول نہ ہو اور وہ منسوخ پر عمل کرے آیا وہ ایسا خطا کار ہوگا جو اپنے افعال میں ناقابل ملامت ہے یا وہ اطلاع موصول ہوئے بغیر منسوخ پر عامل ہونے کی بنا پر ملامت کا مستحق نہیں۔ بالفاظ موزوں تہ جب کوئی شخص ناسخ سے آگاہ ہوئے سے قبل منسوخ پر عمل کرتا ترک کر دے۔ مثلاً آپ نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا کوئی شخص ان کی زیارت کرے اور اسے اس بات کا علم نہ ہو کہ آپ نے بعد میں قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی تھی آیا اسے گتہ کار سمجھا جائے گا یا نہیں؟ پہلے قول کی بنا پر وہ مجرم ہوگا مگر بنا برہم اسے مندر تصور کیا جائے گا۔ اگر بلا علم کوئی شخص ناسخ پر عمل کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کیوں کہ نسخ کی بنا پر وہ گنہگار نہ ہوگا۔ یہ پہلا نظریہ ہے اور قول اول سے ہم آہنگ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ناسخ پر اسی صورت میں عمل کیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اس سے آگاہ ہوگا جب کوئی شخص آپ کی اجازت سے باخبر ہونے سے قبل قبروں کی زیارت کرے گا۔ تو وہ گنہگار نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے رویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بد نیت ہے اور ترک فرائض کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ ناسخ کو جاننے سے قبل اس سے منسوخ پر عمل پیرا ہونے کا مطالبہ کیا جائے گا اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔

یہ بحث و نظر ابن حزم کی جدت طبع اور نزاکت خیال کی آئینہ دار ہے۔ آپ دوسرے نظریہ کے قائل ہیں۔

ابن حزم رقمطراز ہیں :-

”ہم کہتے ہیں کہ نسخ پر عمل کرنا اس وقت لازم آتا ہے جب اس سے آگاہی حاصل ہو جائے۔ قرآن حکیم میں ہے :-

”لَا تَذَكَّرُكَ مَا كُنْتَ تَكْتُمُ“ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور ان کو جو اس سے آگاہ ہوں۔ (الانعام - ۱۱۹)

اس آیت کریمہ میں حکم کو بعد از بلوغ واجب قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کو نبی کریم سے دور ہونے کی بنا پر منسوخ کا پتہ تو چل جائے مگر ناسخ سے آگاہ نہ ہو اور نہ ناسخ سے آگاہ ہوئے بغیر منسوخ کو ترک کر دے اور ناسخ پر عمل پیرا ہو تو وہ اس لئے گنہگار ہوگا کہ اس نے فرائض کو چھوڑنے میں سہل انگاری سے کام لیا۔ البتہ اسے فرائض کا تارک تصور نہیں کریں گے۔ جس

شخص کو حکم کے منسوخ ہونے کا پتہ چل گیا ہو اسے تارکِ فرائض قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیوں کہ دونوں میں سے ہر شخص اسی بات پر عمل کرنے کا ذمہ دار ہے جو اسے پہنچ چکا ہو۔  
ابن حزم قرار دیتے ہیں کہ اسے نیت کی بناء پر گنہگار ٹھہرایا جائے گا ترکِ فرائض کی بناء پر نہیں۔  
ناسخ سے آگاہ ہوئے بغیر جو شخص کسی منسوخ حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اس کے تین درجات ہیں۔

(۱) پہلا نظریہ یہ ہے کہ  
منسوخ پر عمل کرنے کے بارے میں تین نظریات :-

بنا پر وہ شخص مخطیٰ فی الاجتہاد ہوگا۔ ناسخ پر عمل کرنے کی بناء پر وہ گنہگار نہ ہوگا اگرچہ یہ بلا اجتہاد ہو۔  
(۲) دوسرا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ وہ منسوخ پر عمل پیرا ہونے کی بناء پر حاملِ صدق و صواب ہے اور اگر وہ بلا علم منسوخ کو ترک کر کے ناسخ پر عمل کرے گا تو دین میں سہل انگاری کا مرتکب ہوگا۔ البتہ اسے تارکِ فرائض شمار نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں کہ نسخ کے بعد فرضیت باقی نہیں رہتی یہ دوسری بات ہے کہ اسے نسخ کا علم نہیں۔

(۳) تیسری رائے یہ ہے کہ وہ اپنے زعم و اعتقاد کی بناء پر تارکِ فرائض ہوگا کیوں کہ ہر شخص فرائض کا تارک نہیں البتہ ان میں لاپرواہی اور سہل انگاری کا ارتکاب کرتا ہے۔ ابن حزم اس کی مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کسی عورت سے ملا اور اسے اجنبی سمجھا۔ اس عورت نے بدکاری کی خواہش کا اظہار کیا اور اس نے زنا کاری کا ارتکاب کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ ابن حزم اس ضمن میں فرماتے ہیں :-  
"وہ زنا کا برہم نہ ہوگا اور جو شخص اس پر زنا کی تہمت لگائے گا۔ اس پر حد قذف لگائی جائے گی۔ البتہ وہ زنا کا ارادہ کرنے کا مجرم ضرور قرار پائے گا۔"  
بدکاری کی نیت بھی اپنا اثر رکھتی ہے اور عبادات کو غارت کر دیتی ہے۔ ابن حزم اس کی مثال ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

"اگر کسی شخص کو بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا علم ہو اس کے منسوخ ہونے سے آگاہ نہ ہو۔ اور وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو لاپرواہی کی بناء پر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لئے نہیں کہ اس نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی۔"

اسے اس وقت تک عبادت تصور نہیں کیا جائے گا۔ جب تک وہ نیت و قصد سے اُسے ادا نہ کرے اور اسے لازم تصور نہ کرے ورنہ عیب ہے۔ ایسے شخص کو ہرگز عبادت گزار نہیں کہہ سکتے۔ وہ اس تغافل شکاری کامرکب ہے۔ کہ اس نے غیر قبلہ کی جانب نماز ادا کی۔ اس کی مثال دو درحاضر میں یہ ہے کہ ایک شخص صحرائیں ہو اس نے بنا بر اجتناد نماز کے لئے ایک رُخ کو متعین کیا پھر دانستہ اس کی خلاف ورزی کی۔ اتفاقاً قبلہ اسی طرف نکلا جس طرف اس نے نماز ادا کی تھی تو ایسا شخص نمازیں کوتاہی کرنے والا اور فاسق ہو گا لیکن غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والا نہیں ہو گا۔

**انقطاع وحی کے بعد نسخ کا امکان نہیں**۔ ابن حزم کے یہ خیالات ان کی دقت نظر اور عمقِ تامل و تفکر کی دلیل ہیں اور ہم

ان سے متفق ہیں۔ ان میں بڑی جدت طرائفی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے دور بین نگاہ اور توفیقِ محکم سے دینی حقائق کو بڑی دیدہ ریزی سے جمع کر دیا ہے۔

ابن حزم کا یہ نقطہ نگاہ کہ نسخ صرف عمد بنوی میں وقوع پذیر ہوتا ہے جب وحی جاری تھی اور بعد میں واقع نہیں ہو سکتا۔ بالکل درست ہے اور فقہاء اسلام اس ضمن میں ان کے ہمنوا ہیں کسی کا اختلاف نہیں۔ اسی نظریہ کی بناء پر آپ یہ کہتے ہیں کہ اجماع صرف اس صورت میں قرآن سنّت کو منسوخ کر سکتا ہے۔ جب نبی کریم سے منقول ہو۔ ان کی مراد اجماع صحابہ ہے جو آنحضرتؐ سے منقول ہوتا ہے کیوں کہ اسی اجماع سے آنحضرتؐ کا تعامل معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا کوئی اجماع اس خصوصیت کا حامل نہیں۔ ابن حزم فرماتے ہیں:-

«جو اجماع آنحضرتؐ سے منقول ہو اس سے نسخ جائز ہے۔ کیوں کہ بنا بر اجماع آنحضرتؐ کے قول و فعل سے آگاہی ہوتی ہے۔ یا نص قرآنی، نص حدیث یا اس دلیل سے آگاہی ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے مجموعہ سے مستنبط ہو۔ جب اجماع ایسا ہوتا ہے نسخ قرار دیا جاسکتا ہے۔»

ابن حزم کا یہ نظریہ محتاجِ نظر و تامل ہے۔ کیوں کہ صرف اجماع کو نسخ قرار نہیں دے سکتے۔ اس



کے برخلاف ناسخ و اصل اجماع کی وہ دلیل ہے جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہو۔ ابن حزم کے  
افکار و آراء کا خلاصہ یہ ہے جو بیان ہوا۔

ہم و اشکاف الفاظ میں یہ بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ ناسخ و اصل نص ہوتی ہے نہ کہ  
بذات خود اجماع۔ ورنہ لوگوں کے عمل کو ناسخ تسلیم کرنا پڑے گا۔ حالانکہ عقل انسانی اس سے ابا  
کرتی ہے۔ ابن حزم بھی ہمارے ہم خیال ہیں وہ ان اہل ظاہر کی تردید کرتے ہیں جو اجماع کی بنیاد  
حدیث کو رد کرتے ہیں۔ ابن حزم اسے خطائے فاحش قرار دیتے ہیں۔<sup>۱</sup>

## عام و خاص نصوص

ظاہری فقہ کی خصوصیات :- ظاہری فقہ کی دو خصوصیات ہیں :-

(۱) ثنی قیاس، بعنقہ دیگر علماء اور شیوخ بھی اہل ظاہر کی طرح قیاس کی نفی کرتے ہیں وہ قیاس اور حمل علی النصوص کو جائزہ قرار نہیں دیتے۔

(۲) دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف ظواہر نصوص پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی فقہ بھی مبنی بر ظاہر ہے۔ یہ ان کی عظیم خصوصیت ہے۔ روایت ادر نسخ کے بارے میں ہم نے اہل ظاہر کا مسلک بیان کر دیا ہے۔ ابن حزم نے عام و خاص نصوص اور اوامر و نواہی کے بارے میں جو گفتگو کی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نہم نصوص ادر استنباط احکام کے بارے میں ان کا طرزِ نظر کیا ہے۔ ہم عام و خاص اور اوامر و نواہی پر مختصر تبصرہ کر کے اس ضمن میں ابن حزم کا مسلک و منہج ذکر کریں گے۔

ابن حزم عام و خاص کو تقسیم کرنے اور پھر خاص کی جداگانہ تقسیم میں اسی اقسام کلام راہ پر گامزن ہیں جس پر امام شافعی اپنی کتاب المرسلات میں چلے۔ وہ کلام کو تین قسموں میں منقسم کرتے ہیں:

پہلی قسم۔ خاص وہ ہے جس سے خصوص مراد ہوتا ہے۔ خاص کو ہر اس معنی پر محمول کیا جاتا ہے جس پر لفظ دلالت کرتا ہو۔

دوسری قسم۔ کلام کی دوسری قسم عام ہے جو اسم جنس ہوتی ہے۔ مثلاً یہ آیت قرآنی  
 "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حَيًّا" ہم نے پانی سے ہر چیز زندہ کی۔

(الانبیاء - ۳۰)

اس آیت میں حی کا لفظ اسم جنس ہے اور بہت سے انواع پر مشتمل ہے۔ عموم کے الفاظ میں سے جنس الفاظ ایک خاص نوع پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مثلاً قرآن میں ارشاد فرمایا۔

وَالْحَيْثُ وَالْبِقَالُ وَالْحَمِيمَةُ وَالنَّحْلُ - ۸) گھوڑے، خچریں اور گدھے۔

عام کے بعض الفاظ کا اطلاق کسی خاص موصوت پر ہوتا ہے۔ مثلاً فرمایا:

”قَلِيدِي الْقُرْبِي“ (قرابت داروں کے لئے)

نیز فرمایا:

”رَأَيْتُمَا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ“ (صدقات تو صرف فقراء اور مساکین کے

لئے ہیں)

(التوبة - ۶۰)

گزشتہ مثالوں میں عام الفاظ کا اطلاق عموم کلی پر ہوتا ہے بجز اس کے کہ اس کی تخصیص ہو جائے۔ انحصوراً ارشاد اسی قبیل سے فرمایا: ”الْأَيْمَةُ مِنَ حَوْشِي“ ابن حزم کہتے ہیں اس میں برقریشی داخل ہے بجز اس کے کہ کسی اخص یا اجماع سے اس کی تخصیص ہو جائے۔ مثلاً عورتوں اور بچوں کے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔

یسری قسم ہوتی ہے۔ عام نص سے جس سے کتاب و سنت کی کسی دلیل کی بنا پر تناسل مراد لیا جائے۔ ہم قبل ان کا ذکر کر رہے تھے۔ مثلاً بیان کر چکے ہیں ابنا دوبارہ بیان نہیں کریں گے۔

امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالۃ میں ان اقسام ثلاثہ کا ذکر کیا ہے۔ ابن حزم نے ان کے بیان کرتے ہیں امام شافعی کی پیروی کی ہے۔ ابن حزم امام شافعی کے نزدیک کہتے ہیں کہ لفظ شریک عام کے قبیل سے ہوتا ہے اور اس پر دریا تین معانی شریک ہوتے ہیں۔ اولاً عین کا لفظ لونه طی اور آٹھ اور کسی چیز کے جسم پر لایا جاتا ہے۔ لفظ قرء کا اطلاق بیسن اور اس طرح علی سبیل البدل ہوتا ہے جو درخص کے درمیان ہو۔ مقدمہ یہ ہے کہ قرء اطلاق بیسن یا بھر یہ بوزنیت اور دونوں کو یکا، رات جمع نہیں آیا جاتا۔

ابن حزم کہتے ہیں:

”عموم کا ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایک لفظ میں بہت سے معانی ساری طور پر شریک ہوں بلکہ ہر ایک کے معنی یہ ہیں کہ لفظ کا ہر مفہوم تشریحی کلمات ہے نہ کہ مجازی۔ جب صورت حال

یوں ہوئی تو ہر معنی پر اس کا حمل واجب ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی معنی کے ساتھ اسے خاص کر دیا جائے۔ جو اصحاب ظواہر میں سے اس کے خلاف ہے اس کی رائے میں تناقض پایا جاتا ہے اس میں کوئی فرق

نہیں کہ ایک لفظ کا اطلاق ایسے تین معانی پر ہو جو متفقہ الحدود ہوں یا مختلفہ الحدود۔ جب کہ اس کا اطلاق سب پر مادی طور سے ہو رہا ہو اور معانی میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ مختص نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ لفظ مشترک کو مختلف معانی کے لئے علی سبیل الابدل استعمال کیا جائے گا۔ مثلاً لفظ نکاح عقد نکاح کے لئے استعمال ہوتا ہے اور مجامعت کے معنی میں بھی۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں متبادل معنی ہیں۔ ابن حزم اس کے برخلاف یہ کہتے ہیں کہ لفظ مشترک دونوں معانی پر بیک وقت بھی بولا جاتا ہے اور عام بھی ہوتا ہے۔ یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔

### لفظ مشترک کی مثالیں :- مثلاً یہ آیت :-

وَالَّذَانِيَّةُ لَا يَنْكِحُهُمَا إِلَّا ذَايِن (النسوة - ۲)  
 (زانی عورت کو زانی مرد یا مشترک ہی اپنے نکاح میں لا سکتا ہے)

(الف) یہ آیت اگر میری زانی عورت سے نکاح کرنے کی حرمت کو بھی شامل ہے اور زانیہ لونڈی سے جماع کرنے کو بھی۔ کیوں کہ نکاح کی حکمت، دونوں معانی کو شامل ہے۔ یہ حرمت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے۔ بنا بریں کسی پاک دامن مرد کو بید کار عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں۔ اسی طرح مسلمان عقیقت عورت، کا کسی زانی اور مشترک سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر نکاح کر دیا جائے تو نسخ ہو جائے گا۔ زانی پاکباز کتابیہ سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ حرمت مومن عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔

(ب) محسنہ کا لفظ پاکباز اور آزاد عورت دونوں کے لئے علی سبیل الابدل استعمال ہوتا ہے۔ لہذا یہ مشترک ہے۔ ابن حزم مندرجہ ذیل آیت میں اسے عام قرار دیتے ہیں :-

وَالَّذَانِيَّةُ يَسْرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ  
 مَثَرًا لَّهُنَّ يَأْتُوا بِأَسْرَعَةٍ ثُمَّ يَأْتُونَ  
 فَأَجْلِدُوهُمْ كَمَا يَنْبَغِي جَلْدًا ۖ

(النسوة - ۲)

محسنہ کے لفظ سے یہاں ہر دو معنی مراد لیا جاسکتا ہے جس کے لئے وہ استعمال ہوتا ہے یعنی پاکباز عورت وہ مسلمہ ہو یا غیر مسلمہ نیز آزاد عورت نیز شادی شدہ۔

ابن حزم لکھتے ہیں:-

"جو شخص بھی کسی محصنہ پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے اس پر حد قذف واجب ہے۔ خواہ محصنہ کا اطلاق اس پر کسی معنی کے اعتبار سے ہو۔ عفت یا پاکدامنی کی بنا پر مسلمان ہونے کی وجہ سے یا شادی شدہ ہونے کے باعث۔ لہذا جو شخص کافر یا صغیر السن لوطی پر زنا کی تہمت لگائے گا ہم اس پر حد کو واجب کر دیں گے۔"

(ج) لفظ "دون" کا اطلاق اقل یا غیر کے معنی پر ہوتا ہے۔ دوسرے معنی کی مثال یہ آیت ہے۔

وَالْآخِرِينَ مِنْ جَدِّهِمْ لَا تَعْلَمُونَ (الانفال - ۶۰)

اس آیت میں مِنْ دُونِهِمْ سے مراد "من غیرِہم" ہے

مندرجہ ذیل حدیث میں ابن حزم لفظ "دون" کو دونوں معنی پر محمول کرتے ہیں۔

كَيْسَى فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَدْسِيقٍ      پانچ دستق سے کم غلہ یا کھجور میں زکوٰۃ  
مِنْ حَبِّ أَدْسٍ مَدَقَةٍ      نہیں ہے۔

ابن حزم اس حدیث کی بنا پر زرعی پیداوار کی زکوٰۃ صرف گندم، جوادر کھجوریں ضروری قرار دیتے ہیں باقی غلہ جات میں نہیں فرماتے ہیں:-

"ہم گندم، جوادر کھجور میں زکوٰۃ کو ضروری قرار دیتے ہیں باقی غلہ جات میں نہیں!"

**کلام کی چوتھی قسم** - ابن حزم اس امر میں دیگر فقہاء کے ہمنوا ہیں کہ ایک عام اپنے عموم میں ظاہر ہوتا ہے اور ایک عام مخصوص بھی ہوتا ہے بخصوص کا پتلا نصوص سے چلتا ہے۔ اس کے برعکس خاص بھی کلام کی ایک جداگانہ نوع ہے اور وہ عام نہیں ہوتی۔ قبل ازیں یہ واضح ہو چکا ہے۔ بعض فقہاء کلام کی ایک چوتھی قسم بھی بیان کرتے ہیں اور وہ ایسا خاص ہے جس سے عموم کا ارادہ کیا جائے۔ اس کی بنیاد اس امر پر رکھی گئی ہے کہ بعض اوقات خطاب صرف پیغمبر سے ہوتا ہے یا امت کے ایک فرد سے مگر اس پر عمل کرنا سب کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ خاص ہے مگر اس سے عام کا ارادہ کیا گیا ہے۔ مگر ابن حزم یہ محمول جاتے ہیں اور صاف کہتے ہیں کہ یہ آغاز کار ہی سے عام ہے لہذا کہ مخاطب کی تخصیص کسی دلیل سے معلوم ہو جائے۔

فرماتے ہیں:-

”بعض لوگوں نے کلام کی ایک چوتھی قسم بھی بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ خاص سے عام مراد لیا جائے۔ یہ غلط اور خلافتِ لغت ہے۔ اگر وہ ایسی احادیث پیش کریں جو متعین اشخاص کے بارے میں وارد ہوئیں مگر ان کا حکم سب لوگوں کے لئے واجب العمل ہے تو یہ اس قبیل میں سے نہیں۔ بات یہ ہے کہ ان احادیث میں جن اعمال کی بنا پر کوئی حکم صادر کیا گیا ہے جب ویسے حالات کسی اور جگہ پیدا ہو جائیں گے تو وہاں وہی حکم جاری کر دیا جائے گا۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ آنحضرتؐ کو صرف اپنے زمانہ ہی کے لئے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ ان تمام لوگوں اور ان تمام اجسام و اعراض کے لئے آپ رسول تھے جو اختتامِ دنیا تک منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن نہ تھا کہ ان میں پیدا ہونے والے انسانوں سے ملنے کے لئے زندہ رہتے۔ لہذا آپ نے کسی انسان کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا یا جب آئندہ زمانہ میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا تو اسی حکم پر عمل کیا جائے گا۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث میں آپ نے فرمایا: ”یہ جبریل ہیں اور اس لئے آئے ہیں کہ تمہیں نبی امور سکھائیں“۔

اس حدیث نے واضح الفاظ میں یہ حقیقت اجاگر کر دی کہ آپ جس شخص کو مخاطب کر کے کوئی فتویٰ دیں گے وہ تار و زقیا مت ساری امت سے خطاب تک نہ کیا جائے گا اور اختتامِ دنیا تک وہ سب لوگوں کے لئے تعلیم و تلقین کا کام دے گا۔

ان بیانات سے یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ ابن حزم آیات قرآنیہ سے مجاز کی مثالیں عام و خاص کے فہم و ادراک میں ظاہری مسلک پر گامزن رہے اور ظواہر الفاظ پر اعتماد کرتے رہے۔ اس کے پہلو بہ پہلو آپ رسالتِ محمدیہ کے عموم و اصل سے بھی استفادہ کرتے رہے۔

اس کے باوجود آپ اس مجاز کو قبول کرنے سے روکتے، جس کا قرینہ موجود ہو۔ مجاز کے معنی یہ ہیں کہ کسی لفظ کو موضوع کہ معنی سے نقل کر کے کسی ایسے معنی کے لئے استعمال کیا جائے جس کے ساتھ موضوع کہ معنی کا کچھ رابطہ ہو۔ ابن حزم مجاز کو بھی ظواہر الفاظ میں شمار کرتے ہیں

اور اسے تاویل نہیں تصور کرتے۔ وہ مندرجہ ذیل آیت کریمہ کو مجاز تصور کرتے ہیں :-

الَّذِينَ قَاتَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ

كَذَّابُونَ (آل عمران - ۱۰۳) لئے جمع ہوئے ہیں

اس آیت میں "الناس" سے مراد بعض لوگ ہیں۔ کیونکہ عقل انسانی اسے باور نہیں کر سکتی کہ سب لوگ خبر دینے کے لئے ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ اس کے برعکس عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ خبر دینے والے لوگ وہ تھے جو جمع نہ ہوئے تھے۔ مخاطب اور لوگ تھے۔ لہذا ظاہری الفاظ اور قرینہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ "الناس" کے عام لفظ سے بعض لوگ مراد ہیں۔ آیت کریمہ "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ" بھی اسی قبیل سے ہے۔ لفظ "اب" والد کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے اور وہ آیات واجد ہیں :-

اسی طرح یہ آیت :-

وَعَلَائِلُ أَبْنَاءِكُمُ الَّذِينَ مَاتُوا

تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلب سے ہوں حرام ہیں

مَوْلَاكُمْ (النساء - ۲۲)

یہاں ابن کا لفظی مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس میں بیٹوں کے بیٹے اور پوتے وغیرہ سب شامل ہیں۔ یہ سب مجازی استعمالات ہیں۔

یہ آیت بھی اسی قبیل سے ہے :-

وَأَسْئَلُ الْقَرِيبَةَ الَّتِي كُنَّا نِيْمًا

جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لے۔

(یوسف - ۸۲)

قریب سے مراد اہل قریبہ ہیں۔ یہ بھی مجازی استعمال ہے۔

یہ آیت بھی مجاز کی مثال ہے۔

كَفَّارَةٌ أَيْمَانِكُمْ (المائدہ - ۸۹) (تمہاری قسموں کا کفارہ)

کفارہ کو قسم کی طرف منسوب کیا گیا حالانکہ کفارہ قسم میں حانت ہونے کو دور کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حلفت حانت ہونے کا سبب ہے۔

ان مثالوں میں الفاظ کو ان کے اصل معانی سے نکال کر دوسرے مطالب کے لئے

استعمال کیا گیا ہے۔ اور حقیقت سے مجاز کی طرف یہ انتقال اس قدر واضح ہے کہ ظاہری الفاظ سے معانی صاف سمجھ میں آجاتے ہیں۔ یہ اس انتقال کی دلیل یا تو عقلی ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ حقیقی معنی سے منتقل ہو کر مجازی مقصد کے لئے استعمال ہوا ہے یا کوئی شرعی دلیل ہوتی ہے۔ مثلاً قرآن کی آیت یا حدیث یا اجماع۔

جو الفاظ عام معنی پر دلالت کرتے ہیں وہ اپنے عموم پر رہتے ہیں۔

تا وقتیکہ ان کے خصوص پر دلیل قائم نہ ہو جائے۔ دلیل یا تو عقلی ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام لفظ کو خاص معنی کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ مثلاً یہ آیت تَالِ كُمْ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ اِنَّ النَّاسَ یا شرعی ہوتی ہے اور وہ مخصوص ہوتی ہے۔ مخصوص تاخیر بھی وارد ہو سکتی ہے، عام سے پہلے بھی ہوتی ہے اور اس کے مقارن بھی۔

پس عام لفظ اس وقت تک اپنے عموم پر رہے گا جب تک کسی دلیل سے اس کا خاص ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ کیوں کہ عموم ایک ظاہری امر ہے اور اہل ظاہر ہمیشہ ظاہر پر عمل کرتے ہیں۔ ابن حزم فرماتے ہیں:-

«واجب یہی ہے کہ ہر لفظ کو اس کے عموم پر محمول کیا جائے اور اس سے بلا توقف ہی مفہوم مراد لیا جائے جو اس کے نام کا تقاضا ہے۔ اگر کسی دلیل سے ثابت ہو جائے کہ یہ لفظ اپنے عموم پر باقی نہیں ہے تو ہم اسے تسلیم کریں گے۔ تمام اصحاب ظاہر مالکیہ، شافعیہ اور بعض احناف اسی کے قائل ہیں۔ ہمارا مسلک بھی یہی ہے۔ اور اس کی مخالفت ناجائز ہے۔»

ابن حزم عام کے بارے میں علماء کے اقوال نقل کرتے ہیں کہ آیا مخصوص کی پہچان سے قبل وہ عموم پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جب تک اس کے خصوص یا غیر خصوص ہونے کا پتا نہ چلے اس میں توقف کیا جائے۔ دوسرے علماء کا خیال ہے کہ اسے خصوص پر محمول کیا جائے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک مخصوص کا پتا نہ چلے تو اسے عام ہی تصور کریں گے۔ ابن حزم ان علماء کی مخالفت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کا عام ہونا واضح نہیں بلکہ اس میں بنا برتن غیر کا بھی احتمال ہے، اگرچہ قطعی نہیں۔ اکثر شوافع اسی کے قائل ہیں۔ ابن حزم ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ٹھیکے



خدا شہ ہے کہیں یہ لوگ زنا وقتہ میں سے نہ ہوں۔

پھر ابن حزم اپنے مخصوص تند و تیز لہجہ میں فرماتے ہیں :-

”اس ملت، بیضاد کو گونا گوں دیو قلموں طریقوں سے مبتلائے فریب کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اس کو پھنسانے کے لئے وام ہم رنگ زمین بچھائے گئے۔ بڑے لطیف و دقیق جیلوں سے کام لیا گیا۔ شدید ترین جیلدان لوگوں نے استعمال کیا جو مسلمانوں کی شکل میں متشکل ہو گئے اور مسلمانوں جیسے نام رکھ لئے۔ انہوں نے شہداء اور آب زلال میں ملا کر ان کو زہر پلاتا چاہا اور بڑے لطیف طریقہ سے ان کو مخالفت کتاب و سنت پر آمادہ کرنے کی ٹھانی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود ہی ذلیل و خوار ہوا۔ ہم باز گاہ ایزدی میں آلام و حوارث سے پناہ ڈھونڈتے اور اسی کے وامین عافیت میں بچاؤ تلاش کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے نبی آدم! جو شخص تمہیں یہ کہتا ہے کہ خدا و رسول کے کلام کا ظاہری مفہوم نہ لیٹھے اور اس بات کو بڑے خوش آئند طریقہ سے بیان کرتا ہے بغیر اس کے کہ انہوں نے ایسا فرمایا ہو یا اجماع سے ثابت ہوا ہو۔ وہ خدا و رسول کی اطاعت سے گریز و فرار کی راہ کو مزین کرتا اور ترک اطاعت کو آسان بنا تا ہے۔ تمہاری طبیعت میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ تم ان کے کلام میں دخل اندازی کرنے لگو اور ان کے بعض احکام کو مانو اور بعض کو نہ مانو۔ تو ایسے شخص کے متعلق نیک گمان نہیں رکھنا چاہئے بلکہ اسے بدگمانی کی نگاہ سے دیکھنا چاہئے۔ اسی کا نام تخصیص ہے جس کا وہ دعویٰ بلا دلیل کرتے ہیں۔“

## اوامر و نواہی

اوامر و نواہی کا مسئلہ ظاہری مسلک کا روشن باب ہے  
اوامر و نواہی کا ظاہری مفہوم جس کے ساتھ اخذ و احتجاج کرنے میں ابن حزم نے  
 بڑے تشدد سے کام لیا اور خلافت درزی کرنے والوں کی خوب خبر لی۔ وہ اصحاب ظواہر ہی  
 کیوں نہ ہوں۔ اور موافقت کرنے والوں کی داد دی۔ اگرچہ وہ ظاہری نہ ہوں۔ ابن حزم  
 بلا شک و شبہ اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ جو اوامر و نواہی کتاب و سنت میں وارد  
 ہوئے ہیں، انہیں ظاہر پر محمول کرنا چاہئے۔ وہ ظاہری ہے کہ اوامر قطعی طور پر واجب التعمیل  
 ہیں اور نواہی قابل احتراز و اجتناب و حوب کا تقاضا ہے کہ ظاہری الفاظ پر فی الفور بلا تاخیر  
 تاویل عمل کیا جائے بجز اس صورت کے کہ کوئی نص اسے وجوب یا فی الفور عمل کرنے سے مستثنیٰ  
 کر دے مگر بلا دلیل و حوب کو مذہب پر محمول کرنا یا فی الفور عمل کرنے کو ترک کر دینا باطل ہے۔  
 ابن حزم رقمطراز ہیں:-

”تمام اہل ظاہر اس امر کے قائل ہیں کہ قرآن و حدیث کے جمیع اوامر و نواہی  
 واجب ہیں بجز اس کے کہ کسی دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ مذہب کراہت  
 یا اباحت کے لئے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو ہم اس دلیل پر عمل کریں گے۔“

بعض حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ اس طرز فکر و نظر میں اہل ظاہر کے ہم خیال ہیں۔ مگر اس  
 کے باوصف ظاہری مسلک اپنا ایک خاص طرز انداز رکھتا ہے۔ اہل ظاہر کے یہاں ان دلائل  
 کا دائرہ بہت تنگ ہے جن کی بنا پر اوامر و نواہی اپنے موجبات سے نکل جاتے ہیں۔ جب کہ  
 دوسرے فقہاء کے یہاں اس کا دائرہ خاصاً وسیع ہے۔ اس کا ثمرہ فروعات میں ظاہر ہوتا  
 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ظواہر اوامر و نواہی سے اخذ و احتجاج کرنے کی غایات و حدود کا ظہور فروعات  
 میں ہوتا ہے اصل قاعدہ میں نہیں۔

جہاں امر و حوب کے معنی سے نکل کر اباحت کا مفہوم اختیار کر لیتا ہے اس کی مثال یہ

آیت ہے : **وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا** جب اترام ختم ہو جائے تو شکار کر لیا کرو۔

(المائدہ - ۳)

تیسری آیت :

**وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ كَدِابْتَغُوا مِنِّي فَضْلَ اللَّهِ** جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کا فضل تلاش کرو۔

(الجمعة - ۱۰)

ابن حزم کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں امر اباحت کے لئے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ احرام سے حلال ہوئے اور آپ نے شکار نہ کیا اگر امر وجوب کے لئے ہوتا تو آپ ضرور شکار کرتے۔ دوسری آیت میں بھی امر اباحت کے لئے ہے اس کی دلیل حضرت ابوہریرہ کی یہ روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا جب تک کوئی شخص اپنی نماز گاہ میں بیٹھا ہے اور با وضو ہو تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے اس پر رحم فرما۔ اس لئے نماز کے بعد بیٹھا رہنا موجب اجر و ثواب ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد ادھر ادھر چلے جانا مباح ہے نہ کہ واجب۔

ابن حزم مخالفین کے دلائل ذکر کرتے اور پھر بڑے تیز دستہ الفاظ میں **ابن حزم کے دلائل** ان کا بطلان ثابت کرتے ہیں۔ بعد ازاں اپنے دعویٰ کا اثبات کرتے ہیں کہ ہرام و نہی وجوب کے لئے ہوتا ہے جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے کہ وہ اپنے معنی پر باقی نہیں ہے۔ ابن حزم یہ دلائل پیش کرتے ہیں :-

پہلی دلیل : مروی ہے کہ آنحضرت نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے خدا کے رسول ہر سال؟ آپ خاموش رہے اس نے تین مرتبہ اپنا قول دہرایا۔ آنحضرت نے فرمایا اگر میں اس کے جواب میں "ہاں" کہہ دیتا تو حج ہر سال واجب ہو جاتا اور تم اس سے عمدہ برکت ہو سکتے۔ جب تک میں کوئی چیز بیان نہ کیا کروں تم کہہ نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے لوگ اسی لئے ہلاکت سے دوچار ہوئے کہ وہ کثرت سے سوال کرتے اور انبیاء پر اختلاف کیا کرتے تھے۔ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو تم جس قدر عمل کر سکو کرو۔ اور جب منع کروں تو اس سے احتراز کیجئے۔ ابن حزم اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں کوئی اشکال نہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے

جس بابت کا حکم دیا وہ واجب ہے اگرچہ کوئی شخص اس پر تادیر بھی نہ ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
لَأَعْتَدْنَا لَهُ كَمَا مَفْهُومٌ بھی یہی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے تنگی و تکلیف کو دور کر دیا اور ہم پر رحم  
فرمایا۔ لہذا اپنے نبی کی زبانی فرمایا کہ ان کے اوامر واجب ہیں جب تک کہ  
استطاعت باقی ہو وہ اوامر بھی ساقط ہوں گے جب استطاعت باقی نہ رہے  
جس چیز سے آپ منع فرمائیں اس سے اجتناب ضروری ہے۔

دوسری دلیل :- ابن حزم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت سے احتجاج کرتے ہیں کہ  
انہوں نے فرمایا ہم آنحضرت کی رفات میں غزوہ تبوک والے سال نکلے آپ نے فرمایا تم کل  
برفت چاشت تبوک کے چشمہ پر پہنچ جاؤ گے۔ وہاں پہنچ کر اس کے پانی کو استعمال نہ  
کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دو شخص ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے۔ آپ نے ان سے  
دریافت کیا کیا تم نے پانی کو چھوا تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں؟ آپ نے انہیں عتاب فرمایا۔  
اس سے واضح ہوا کہ ان کے معتوب ہونے کی وجہ آپ کی نافرمانی تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ  
کے اوامر و نواہی جو ب کا درجہ رکھتے ہیں بجز اس صورت کے جب کسی دلیل سے انکی تخصیص ہو جائے۔  
تیسری دلیل :- جب عبداللہ بن ابی بن سکول نے وفات پائی تو آپ جنازہ پڑھنے کے لئے  
کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر نے عرض کیا حضور! آپ جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ  
نے آپ کو اس سے روکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا خدانے مجھے اختیار دیا ہے کہ بخشش مانگیں  
یا نہ مانگیں ان کے لئے برابر ہیں میں شتر سے زیادہ مرتبہ مغفرت طلب کروں گا۔ تب یہ  
آیت کریمہ نازل ہوئی :-

وَلَا تَقْصِرْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّا تَدَّ  
أَبَدًا وَلَا تَقْصِرْ عَلَىٰ قَبْوَةٍ

آپ ہرگز ان کا جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ان  
کی قبر پر کھڑے ہوں۔

(التوبہ - ۸۴)

ابن حزم اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-  
"اس حدیث میں اس امر پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ ہر بات کو ظاہر پر محمول کیا جاتا  
ہے۔ چنانچہ آپ نے بھی استفقار کے حکم کو اختیار پر محمول فرمایا تھا۔ جب مخالفت

کامات حکم نازل ہوا تو اسے وجوب قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادا مردنواہی کے الفاظ تخییر و مذیب سے جداگانہ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ آنحضرتؐ عربی زبان کے اسالیب سے بخوبی آگاہ تھے جس میں خدا نے آپ سے خطاب فرمایا: ”

ہم ابن حزم کے نقطہ نظر کی توضیح میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے آیت

”اَسْتَغْفِرُكُمْ اَدَلًا تَسْتَغْفِرُكُمْ“ سے یہ سمجھا تھا کہ استغفار ممنوع ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میت پر نماز جنازہ پڑھنا بھی ایک دعا ہوتی ہے لہذا منافق کے جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریمؐ نے جو بڑے رفیق و امین تھے قرآن کے طلحہ کہتے تھے اس کے الفاظ کو ظاہر پر محمول کریں اور اس کی تاویل نہ کریں لہذا ظاہری الفاظ سے صروت تخییر کا مفہوم سمجھا جائے گا۔ یہ ابن حزم کا زاویہ نگاہ تھا جسے ہم نے واشکاکت الفاظ میں بیان کر دیا اور یہ ان کے دلائل تھے۔ جو انہوں نے حدیث بنوری سے پیش کئے۔ اب ہم ان کے ذکر کردہ قرآنی دلائل بیان کرنے ہیں۔

**پہلی دلیل:** قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمَسْئُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ

اے رسول بزرگ آپ کی طرف اتارا گیا ہے

براہم و کاسرت اسے پہنچا دیں۔

الْبَيْكَةِ (المائدہ - ۶۷)

اس آیت میں اس امر کا بڑا واضح بیان ہے کہ جو شخص حکم کی تعمیل نہیں کرتا اس نے نمازمانی کی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریمؐ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے تبلیغ اس کام میں کوتاہی سے کام لیا تو امر خداوندی کی تعمیل سے قاصر رہے۔

یہ ہے اس دلیل کی توجیہ جو ابن حزم نے کی ہے اس سے آپ کے دعویٰ پر دشمنی نہیں ٹپکتی کیونکہ نقطہ استدلال آیت کا یہ مکرہ ہے۔

وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو اس کا پیغام پہنچایا

یہ نہیں ہے

المائدہ - ۶۷

اس سے ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔

**دوسری دلیل:** بروہ اس سے نبیؐ کے استدلال کرتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ  
 وَرَسُولَهُ وَالذِّكْرُ لِلَّهِ  
 اسے ایمان والہ اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام  
 کی اطاعت کیجئے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ امر عمل کا موجب ہوتا ہے اور صرف سماع کا اقرار  
 کافی نہیں

پیشری دلیل :- وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں :-

” وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ دَلِيلٌ مِّنْهُ  
 إِذَا قَسَى اللَّهُ دَمَأْسُوكَ أَمْ دَانَ  
 يَكُونُ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِ هَذَا  
 (الاحزاب - ۳۶)

کسی مومن مرد و عورت کے لئے مناسب  
 نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام  
 کسی بات کا حکم دیں تو انہیں کسی بات کا بھی  
 اختیار باقی رہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہر امر حتمی طور پر لزوم کو چاہتا ہے۔

اہل ظاہر اور جمہور فقہاء کے مابین نقطہ اختلاف :- اسی طرح ابن حزم اپنے دعویٰ کے  
 اثبات میں دلائل دئے جلتے

ہیں اور مخالفین کے پیش کردہ دلائل کی تردید کرتے ہیں حق بات یہ ہے کہ ابن حزم اور جمہور فقہاء  
 کے مابین اس بات میں اختلاف نہیں پایا جاتا کہ امر علی الاطلاق لزوم فعل کا موجب ہوتا ہے  
 اس بات میں بھی اختلاف نہیں کہ نہی کی بناء پر فعل سے بازرہنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اختلافی  
 بحث نہیں بلکہ اہل ظاہر اور فقہاء کے مابین اس میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ اختلاف صرف ان  
 قرائن میں پایا جاتا ہے جو لزوم حکم سے مانع ہوتے ہیں۔ اور جن کی بنا پر وہ نص طلب حتمی و قطعی  
 سے نکل کر مذہب، اجابت یا کراہت کے لئے مستعمل ہوتی ہے۔ اہل ظاہر یہ کہتے ہیں کہ صرف نص  
 کی بنا پر ایک ایک لفظ و وجوب سے نکل کر دوسرے معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً ہر امر واجب  
 کے لئے ہوگا الا یہ کہ کسی نص سے کوئی دوسرا مفہوم ثابت ہو۔ اسی طرح ہر نہی و وجوب کے لئے ہوتی ہے  
 بجز اس صورت کے جب کسی نص یا اجماع کی بناء پر کوئی اور معنی معلوم ہو۔ بخلاف ازیں حنفیہ، مالکیہ اور  
 شافعیہ ان دلائل میں وسعت پیدا کرتے ہیں جن کی بناء پر امر و نہی کے معانی میں تبدیلی پیدا  
 ہو جاتی ہے۔

ابن حزم اپنے ظاہری مسلک کی بناء پر جو نص

وہ امور جو ابن حزم کی نگاہ میں واجب ہیں :- کے سوا کسی چیز کو وقعت کی نگاہ سے نہیں

دیکھتا دیکر فقہاء کے علی الرغم متعدد امور میں وجوب کے قائل ہیں۔ مثلاً ان امور میں وہ وجوب کا مفہوم مراد لیتے ہیں۔

امرا دل: خرید و فروخت میں گواہ بنا نا واجب ہے۔ شہادت کے بغیر کوئی معاہدہ گناہ سے پاک نہ ہوگا کیوں کہ قرآن پاک میں ہے۔

”وَآشْهَدَا إِذَا تَبَايَعْتَا“ خرید و فروخت کے وقت گواہ بنا لیا کرو۔

(البقرة - ۲۸۲)

امردوم: ابن حزم عمر کو حج کی طرح فرض قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ قرآن میں ہے۔

”وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ“ حج اور عمرہ کو خدا کے لئے پورا کرو۔

(البقرة - ۱۹۶)

جو لوگ عمرہ کی فرضیت کے قائل نہیں ابن حزم ان کی تردید کرتے ہیں۔

امر سوم: جب غلام اپنے آقا سے مکاتبت کا تقاضا کرتا ہو تو اس سے مکاتبت کا معاہدہ کرنا ابن حزم کی رائے میں فرض ہے بشرطیکہ غلام کتابت کی رقم ادا کرنے پر قادر ہو۔ مکاتبت کے معنی یہ ہیں کہ غلام کے ساتھ ایک رقم طے کی جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ یہ رقم ادا کر کے آزاد ہو جائے۔ اگر غلام اس کا مطالبہ کرتا ہو تو ابن حزم اسے آقا کے لئے لازم قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ قرآن میں آتا ہے۔

”وَكَاتِبُهُمْ مِنَ عَمَلِهِمْ“ غلاموں سے مکاتبت کیجئے بشرطیکہ تمہیں

معلوم ہو کہ ان کے پاس مال ہے۔

(النور - ۳۳)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مکاتبت فرض ہے اور ادا کتابت میں غلاموں کی مدد کرنا بھی فرض ہے۔ امر چہارم: جو شخص بیوی کو نان و نفقہ دینے پر قادر ہو اور عدل و انصاف بھی کر سکتا ہو تو نکاح کرنا اس پر فرض ہے اگرچہ اسے زنا کا ڈر نہ ہو۔ کیوں کہ آنحضرت نے فرمایا اے گروہ جو انان! تم میں سے جو شخص قوت لیسولیت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ جو اس کے مصارف سے عہدہ بر نہ ہو سکتا ہو وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ سے حیوانی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ نکاح کے واجب ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس حدیث میں امر علی الاطلاق وارد ہوا ہے اور کوئی قرینہ بھی ایسا موجود نہیں جو اسے ظاہری معنی سے نکال دے۔

امر پنجم: جب جمعہ کی اذان ہو رہی ہو تو خرید و فروخت کا ترک کر دینا واجب ہے۔ کیوں کہ سورہ

مجموع میں فرمایا ہے "وَذَرَا الْبَيْعِ" (بیع کو ترک دو) مابینہ اور ضابطہ بھی ہی کہتے ہیں امر ششم۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے ابن حزم کی رائے میں وضو واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ آنحضرت نے اس کا حکم دیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم سے دریافت کیا کہ آیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں۔ فرمایا اگر چاہو تو وضو کرو اگر چاہو نہ کرو۔ اس نے پھر پوچھا، آیا اونٹ کے گوشت سے وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں! اس حدیث سے واضح ہوا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ضابطہ کا مسلک یہی ہے۔

الفاظ کا ظاہری مفہوم اور ابن حزم ہم دیکھتے ہیں کہ اہل خاہر ادا مردنہ ہی سے وجوب مراد لیتے ہیں۔ ان کی رائے میں اسر طلب حتمی کے لئے ہوتا ہے اور نہ ہی اجتہاد تعلق کے لئے بجز اس کے کہ کسی نص یا اجماع سے ثابت ہو جائے کہ یہ الفاظ اپنے اصل معنی پر باقی نہیں رہے۔ اندر میں صورت امر وہی سے وہ مفہوم مراد لیا جائے گا جس کا نص تقاضا کرتی ہے۔

ابن حزم امر وہی کے سرت ظاہری صیغہ ہی کو اخذ نہیں کرتے بلکہ اس ظاہری لفظ کو مراد لیتے ہیں جو اس صیغہ سے بنا۔ وہ الفاظ کی تفسیر لغوی و لائنت کی روشنی میں کرتے ہیں مثلاً ارشاد باری ز تعالیٰ "ذَرِيَا بَكَ حَطِيْقًا" اس آیت میں ثياب سے مراد کپڑے اور طہارت سے ظاہری پاکیزگی مراد ہے نہ کچھ اور حدیث نبوی الْبَيْعَاتِ بِالْغِيَارِ مَا كَذَّ يَتَفَوَّقًا رَابِعٌ وَمَشْرَى كَوَاسٍ رِقَّتْ بَيْعِ كَ رَاسٍ كَرْنِ كَا اِسْتِبْرَارِ بَاقِي رَهْتَا هِ جَب تَك دِه اِيك دوسرے سے جدا نہ ہوں، ابن حزم یہاں تفرق سے جسمانی بلور پر سے الگ ہونا مراد لیتے ہیں۔ ابن حزم مسئلہ زیر بحث کے ضمن میں ایک فصل باندھتے ہیں اور اس کا عنوان یہ مقرر کرتے ہیں۔

"ادامرو اخبار کو ظاہر پر مہول کرنا"

اس فصل میں آپ ان لوگوں کی تردید کرتے ہیں جو بلا دلیل الفاظ کے ظاہری معنی مراد نہیں لیتے۔ ابن حزم ان کو "سوفسطائی" کے نام سے پکارتے ہیں اور ان کے اس قول کی تردید کرتے ہیں کہ الفاظ کا ظاہری مفہوم مراد لینا ضلالت کا موجب ہے۔ خوارج بھی ظواہر الفاظ سے احتجاج کر کے گمراہ ہوئے تھے۔ ابن حزم بڑے زوردار الفاظ میں ان کی تردید کرتے



ہیں اور بتاتے ہیں کہ خوارج الفاظ کے ظاہری مفہوم پر عمل کر کے گمراہ نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کی ضلالت کا راز اس امر میں مضمر تھا کہ انہوں نے بعض نصوص پر عمل کیا تھا اور بعض کو نظر انداز کر دیا تھا۔

ابن حزم فرماتے ہیں :-

”بکرہ کا یہ کہنا کہ خوارج ظواہر الفاظ کی پیروی کر کے گمراہ ہو گئے دروغ گوئی اور افتراء پر دازی سے زیادہ نہیں۔ خوارج کے گمراہ ہونے کا سبب وہی تھا جو خود بکرہ کی ضلالت کا سبب ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے بعض نصوص پر عمل کیا۔ اور بعض کو چھوڑ دیا۔ آنحضرتؐ کی تفسیر و توضیح کا بھی خیال نہ رکھا، جن کو ارشاد ہوا ہے کہ آپ قرآن کی تشریح فرمادیں اور اگر وہ جمیع آیات فرقانہ و احادیث نبویہ پر عمل پیرا ہوتے تو راہ راست پر جاتے۔“

نص یا اجماع کی بناء پر ظاہری مفہوم کو ترک کیا جاتا ہے۔ ابن حزم اس ضمن میں فرماتے

ہیں کہ اہل ظاہر کی عظیم خصوصیت یہ ہے کہ وہ لغت کے اعتبار سے الفاظ کا ظاہری مفہوم مراد لیتے ہیں۔ اور وہ لفظ کو اس کے لغوی معنی سے تب تبدیل کرتے ہیں جب کسی نص یا اجماع سے اس کی تائید ہوتی ہو فرماتے ہیں :-

”اگر مخالفین دریافت کریں کہ کسی لفظ کے معنی کی تبدیلی کا علم تمہیں کیونکر حاصل ہوتا ہے؟ تو ہم بتوفیق ربانی کہیں گے کہ کسی اور ظاہری دلیل یا یقینی اجماع سے جو آنحضرتؐ سے منقول ہو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس لفظ کا ظاہری مفہوم مراد نہیں۔“

ابن حزم لکھتے ہیں کہ کسی لفظ کے لغوی مفہوم سے صرف نظر کر کے کسی دلیل یا یقینی اجماع کے بغیر کوئی اور مطلب مراد لینا اس کی شریف کے مترادف ہے۔ کیونکہ اس کی بنا پر ایک لفظ بلا دلیل مجزاً اپنے اصل معنی سے پھر جاتا ہے جس سے کلام کے مفہوم میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور اس

لے بکرہ تشریح ان لوگوں میں سے تھا جو کہتے ہیں کہ وجود قرینہ سے قبل اوامر و نواہی میں توقف کیا جائے گا۔  
لے الاحکام ج ۳ ص ۲۰۔

لفظ کا موضوع نہ معنی بھی بدل جاتا ہے۔ گویا یہ اس آیت کا مصداق ہے۔  
 فَمَنْ جَدَاكَ يَخْتَضِعُ لِمَا أَسَمِعَا  
 فَيَأْتِيهِمْ عَلَى الَّذِينَ يُبِيدُونَكَ  
 جو سکر اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ  
 ان لوگوں پر ہوگا جو اسے بدل دیتے ہیں۔

(البقرہ - ۱۸۱)

ابن حزم الفاظ کے ظاہری مفہوم کو مراد لینے والوں کی تردید میں مزید فرماتے ہیں :-  
 جو لفظ کے ظاہری مفہوم کو ترک کر دے اور اس سے ایسا معنی تلاش کرے جس پر  
 وحی دلالت نہیں کرتی تو اس نے خدا تعالیٰ پر افتراء پر دازی سے کام لیا۔

ابن حزم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ  
 عنہا نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے

کسی حصہ کی بھی تاویل نہیں کیا کرتے تھے۔ چند آیات کے سوا جن کے متعلق جبریل نے آپ کو اطلاع  
 دی تھی۔ جب آپ قرآن کی تاویل نہیں فرماتے تھے حالانکہ قرآن براہ راست آپ پر نازل ہوا  
 تھا تو بہتر یہ ہے کہ اور بھی کوئی شخص اس کی تاویل کی جرأت نہ کرے۔ یہ ہے وہ استنباط جو  
 ابن حزم نے حضرت عائشہ کی روایت کر کے حدیث سے کیا۔

ابن حزم ارقام فرماتے ہیں :-

”جب نبی کریم قرآن کی کوئی ایسی تاویل نہیں کرتے جس سے اس کا ظاہری  
 مفہوم بدل جائے تو جو شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اور  
 رسول کریم کا مخالف ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام قرار دیا ہے کہ اس کے  
 متعلق یہ بات کہی جائے جسے وہ جانتا نہیں۔ جب ہمیں اسی بات کا علم ہوتا  
 ہے جو ہمیں معلوم ہو تو ظاہر کو چھوڑ کر جس کا ہمیں علم ہے تاویل کا سہارا لینا جس  
 کی کوئی دلیل نہیں، حرام، فسق اور خدا کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے  
 ڈرایا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو معذور قرار دیا ہے۔ لہذا جو دیدہ بینا رکھتا ہے اس  
 کا فائدہ اسی کو ہے اور جو اندھا ہے اس کا ضرر اسی کو ہوگا۔ جعفر بن برقان  
 روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا اے پیغمبرؐ جب تم حدیث بیان کرنے  
 لگو تو مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ حضرت ابوہریرہؓ کا یہ ارشاد بجا ہے وباللہ التوفیق“

یہ ادا مردنواہی کی ظاہری تفسیر و تشریح ہے  
وجوب امر بلا تاخیر کے فروع و ثمرات :- اس سلسلہ کلام کو ختم کرنے سے قبل جسے

ظاہری فقہ کا معز اور خلاصہ کہنا چاہیے۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ابن حزم امر کو فی الفور بلا تاخیر  
واجب الاطاعت قرار دیتے ہیں الا یہ کہ تاخیر کا جواز کسی دلیل سے ثابت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  
قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے :-

وَمَا سَأَلْتَهُمُ الْخَيْرَاتِ  
نیکوں میں آگے بڑھو۔

(البقرة - ۱۲۸)

تیز فرمایا :-

وَسَأَلْتَهُمُ الْخَيْرَاتِ  
یعنی ایسے نیک اعمال کے انجام دینے میں

جلدی کیجئے جو منفرت کا باعث ہیں۔

(آل عمران - ۱۳۳)

یہ ان ادا مرد کے بارے میں فرمایا جن کا وقت معین نہیں۔ جن ادا مرد کے اوقات مقرر ہیں  
وہ انہی اوقات پر واجب ہوں گے۔ اسی اصل پر آپ نے بہت سے فرعی مسائل کو مبنی قرار  
دیا۔ مندرجہ ذیل مسائل انہی میں سے ہیں۔

۱۔ مریض اور مسافر کو چاہئے کہ رمضان کا ہیبتہ ختم ہونے کے بعد جب بھی وہ قادر ہونی الفور قضا  
روزے رکھے۔ اگر روزہ رکھنے میں جلدی کی تو اپنے فرض سے سبکدوش ہوا اگر بلا وجہ  
تاخیر کی تو گنہ گار ہوگا۔

۲۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں بھی عجلت سے کام لینا چاہئے جو اپنے سبب (نصاب) اور اپنی  
شرط اسال کے گزرنے کے تحقق کے باعث فرض ہو چکی ہو۔ اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا  
چاہئے۔ اس کی بلا وجہ تاخیر گناہ کی موجب ہے۔

۳۔ حج صرف استطاعت کی بنا پر فرض ہو جاتا ہے اگر بلا عذر کوئی شخص اسے اگلے سال پر  
ملتوی کرے گا تو وہ تاخیر کی بنا پر گنہ گار ہوگا۔

## اجماع

ظاہری فقہ کے ارکان ہم نے نصوص کے متعلق بڑی کھل کر گفتگو کی ہے، کیوں کہ یہ ظاہری فقہ کا ستون ہیں۔ نیز اس لئے کہ نصوص کا ظاہری مفہوم ہی اہل ظاہر اور دیگر فقہاء کے درمیان نقطہ اختلاف ہے۔ ظاہر نصوص سے اخذ و استخراج ہی ایک عظیم خاصیت ہے جو اہل ظاہر کو دیگر فقہاء سے ممتاز کرتی ہے۔ اگر یہ قیاس کی نفی کرنے میں دیگر فقہاء بھی اہل ظاہر کے سپہ سالار شریک ہیں، مگر علی الاطلاق نصوص کو ظاہر پر محمول کرنے میں کوئی ان کا ہمنوا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام و خواص اور ادا مرو و نواہی کے بارے میں ہم نے تفصیلاً ظاہری نقطہ نظر کو واضح کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ان تفصیلات کی بنا پر ہم نے قاری کریم کے سامنے فہم نصوص کے بارے میں ظاہری فقہ کی ایک واضح تصویر رکھ دی ہے۔ جس سے ظاہری فقہ کا اہم رکن نمایاں ہو گیا۔ اس کا دوسرا رکن نفی قیاس اور تعلیل نصوص کی نفی ہے۔

اجماع کی حقیقت اور اس کے شرائط :- اب ہم فقہ ظاہری کے مصادر و مآخذ میں سے تیسرے عنصر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ اجماع ہے۔ ابن حزم قرار دیتے ہیں کہ اجماع کی حیثیت پر تقریباً سب علماء کا اتفاق ہے۔ اہل سنت میں کوئی اس کا مخالفت نہیں۔ وہ لکھتے ہیں :-

”انہم اور ہمارے مخالفین یہ کہتے ہیں یک زبان ہیں کہ علماء اہل اسلام کا اجماع حجت ہے اور دین اسلام میں سبھی قطعی حیثیت رکھتا ہے۔“

اجماع کے بارے میں ابن حزم کی گفتگو تین مراکز کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ہم اجماع کی حجت سے بحث نہیں کریں گے بلکہ ان محور ہائے بحث سے گمانہ پر اکتفا کریں گے وہ یہ ہیں :-

- ۱- اجماع کی حقیقت و ماہیت۔
- ۲- وہ اصل جس پر اجماع منعقد ہوتا ہے جسے علماء اسول سند الاجماع کہتے ہیں۔
- ۳- اجماع کا عصر و عہد۔ نیز یہ کہ اجماع کن لوگوں کا معتبر ہے۔

جہاں تک حقیقتِ اجماع کا تعلق ہے ابن حزم نے اس کی حد یا رسم بیان نہیں کی بلکہ شریعت کے مصادر و احکام ذکر کرتے ہوئے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں احکام دینیہ میں دو درجات ہیں سے ایک درجہ ضرور پائی جاتی ہے۔ تیسری کوئی وجہ نہیں۔

(۱) وہ وحی جو مصحف میں مکتوب ہے اور وہ قرآن ہے۔

(۲) وہ وحی جو مصحف میں درج نہیں اور وہ آنحضرتؐ کا بیان ہے۔ جو احکام ان دونوں مصادر سے ماخوذ ہوں گے ابن حزم ان کو تین اقسام میں منقسم کرتے ہیں :-

اول :- پہلی قسم کے وہ احکام ہیں جن کو امت مسلمہ عصرِ ابد عصرِ نقل کرتی چلی آئی ہے۔ مثلاً نمازیں روزے، حج۔ اسی کو اجماع کہتے ہیں ان میں سے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس پر اجماع منعقد نہ ہوا ہو۔

دوم :- دوسری قسم کے وہ احکام ہیں جو بتواتر منقول ہوں مگر ان پر اجماع منعقد نہ ہوا ہو۔ مثلاً آپ کا صحابہ کے رد پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا یا آپ کا خیبر کی اراضی کو ادھی پیداوار کے عوض اہل خیبر کو سپرد کر دینا۔

سوم :- تیسری قسم کے احکام وہ ہیں کہ جن کو ایک ثقہ راوی دوسرے ثقہ سے روایت کرے ان میں سے بعض احکام پر اجماع منعقد ہوتا ہے اور بعض میں اختلاف رونما ہوتا ہے۔

یہ بیان اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ اجماع حقیقی وہ ہے جسے تمام امت عصرِ ابد عصرِ نقل کرتی چلی آئی ہو۔ مثلاً ایمان، فرضی نمازیں ان کے اوقات، رکعات کی تعداد، روزے ان کا پیمانہ اور وقت یا حج اس کا وقت اس کے ارکان اور اس قسم کے وہ تمام احکام جو دین کا لازمی جز ہیں۔

یہ اجماع کا وہ مفہوم ہے جو ابن حزم نے بیان کیا۔ امام شافعی نے امام شافعی اور اجماع :- بھی اپنی کتاب جماع العلم میں اس حقیقت سے تعرض کیا ہے۔ امام صوت اپنے حریفین کے ساتھ معروف مناظرہ تھے۔ بحث و جدل کے دوران آخر اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس زمانہ میں اجماع کا منعقد ہونا دشوار ہے۔ حریف نے مجبور ہو کر پوچھا آخر کسی مسئلہ میں غایع کا وجود ملتا ہے؟ امام شافعی اسے ان الفاظ میں جواب دیتے ہیں :-

”یاں اب توفیق ربانی بہت سے فرائض پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ وہ فرائض

بھی ایسے ہیں جن سے ہر شخص آگاہ ہے۔ یہ وہ اجماع ہے جس کے متعلق اگر میں یہ کہوں کہ سب لوگ اس پر جمع ہو گئے ہیں تو آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ یہ اجماع نہیں ہے۔

یہی وہ طریقہ ہے جس کی تصدیق وہ شخص کرتا ہے جو ان احکام میں اجماع کا مدعی ہے اور بعض علمی اصولوں میں اجماع کا دعویٰ کرتا ہے نہ کہ فروعیات میں مگر جس اجماع کا دعویٰ تم کر رہے ہو یہ ایسے عصر و عہد میں وقوع پذیر ہو جائے لوگوں میں انتشار رونما ہو چکا تھا تم ہر دور کے لوگوں سے ان کے انکار و آراء نقل کرتے ہو یہ اجماع نہیں ہو سکتا۔

یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے۔ ابن حزم بعینہ یہی کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ قاری یہ سوچنے لگتا ہے کہ ابن حزم نے یہ نظریہ امام شافعی سے اخذ کیا۔ اور ابن حزم کی عظمت شان میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں کہ امام شافعی علم استنباط کی تحقیق میں ابن حزم کے پیش رو تھے اور علم الاصول میں ان سے سبقت کر چکے تھے۔ علم الاصول پر جن علماء کے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے امام ہمام کے عرصہ علم کی خوشہ چینی کی ہے۔ آپ کے لئے یہی فضیلت کیا کم ہے کہ آپ نے علماء اصول کے لئے ایک شاہراہ ہموار کر دی جس پر بعد میں وہ رواں دواں ہو گئے۔ اگرچہ ابن حزم اور امام شافعی دونوں ایک ہی مقام پر کھڑے ہیں مگر دونوں کا مقصد جداگانہ نوعیت کا ہے۔ ابن حزم اجماع کو اس میں محصور و مقید مانتے ہیں۔ اس کے برخلاف امام شافعی اجماع کے واقعات کو اس میں محدود کرتے ہیں اور اجماع کے نظریہ کو محصور و مقید قرار نہیں دیتے۔ بلکہ استفراء و تتبع کی بنا پر واقعات کو محصور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی نے الرسالہ میں اجماع کی بحث اور اس کے شروط لکھے ہیں مگر اجماع کی وہ تعریف بیان نہیں کی جو یہاں درج ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کسی زمانہ میں وہ بات وقوع پذیر ہو، جو آپ کے زمانہ میں نہ ہو سکی۔ اس لئے کہ امام شافعی نے استنباط کا ایسا قانون وضع کیا ہے جو کسی عصر و عہد کے ساتھ مختص نہیں۔

اجماع صحابہ یہ ہے ابن حزم کی بیان کردہ حقیقت اجماع۔ اب سوال یہ ہے کہ اجماع

منعقد کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ابن حزم اہل ظاہر کی رائے بیان کرتے اور اسے ابو سلیمان داؤد ظاہری کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ رائے یہ ہے کہ جس اجماع پر اعتماد کیا جاتا ہے وہ صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ داؤد ظاہری کی رائے ان کی بیان کردہ حقیقت اجماع سے ہم آہنگ ہے۔ داؤد ظاہری کے نزدیک حقیقی اجماع وہی ہے جو متواتر متفق علیہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا اجماع وہی ہو سکتا ہے جو عصر صحابہ میں منعقد ہوا ہو۔ بعد میں آنے والوں کا اجماع ان کے تابع ہوگا۔

ابن حزم فرماتے ہیں :-

”ابو سلیمان اور ہمارے بہت سے اصحاب کا قول ہے کہ اجماع صرف صحابہ کرام ہی کے اجماع کو کہا جاسکتا ہے۔ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ صحابہ نے متنازعہ مسئلہ میں آنحضرت کے ارشاد سے آگاہ ہو کر یہ اجماع منعقد کیا تھا۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ اجماع دراصل وہی ہے جو آنحضرت کے ارشادات گرامی پر مبنی ہو۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس دور میں جمیع صحابہ مومن تھے اور لوگوں میں ان کے سوا اور کوئی مومن نہ تھا، جن کے اوصاف یہ ہوں۔ ایسے لوگوں کا اجماع مومنین کا اجماع ہوگا اور ایسا اجماع قطعی ہوتا ہے۔ عصر صحابہ کے بعد لوگوں میں مومن بھی تھے اور کافر بھی سب مومن نہ تھے۔ لہذا بعض مومنین کا اجماع معتبر نہ ہوگا کیونکہ اجماع میں سب کا شریک ہونا شرط ہے۔ مزید برآں ان کی تعداد محدود تھی۔ لہذا اجماع میں ان کی شرکت کا پتہ آسانی سے چل سکتا تھا۔ حالانکہ بعد کے ادوار میں یہ بات نہ رہی۔“

ابن حزم نے داؤد ظاہری کے تین دلائل ذکر کئے ہیں ان کی اساس اس امر پر رکھی گئی ہے کہ اجماع آنحضرت کی تعلیم و تلقین پر مبنی ہونا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ ہی آپ کی تعلیمات کے حامل تھے۔ نیز قلت تعداد کی بناء پر ان کے اقوال کا حصر اور اجماع کا انعقاد ممکن تھا۔ مزید برآں عہد نبوت میں سب لوگ مومن تھے لہذا ان کا کسی بات پر جمع ہو جانا معتبر ہے۔

داؤد ظاہری کے قول کی توجیہ :- ابن حزم داؤد ظاہری کے قول کی بڑی عمدہ توجیہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس اجماع کا ذکر انہوں نے کیا ہے

یا تو ان سے مراد ان تمام ادوار کا اجتماع و اتفاق ہے جو تا قیام قیامت ظہور پذیر ہوں گے یا اسلامی ادوار میں سے کسی دور کا اجتماع مراد ہے۔ پہلا اجتماع اس لئے مراد نہیں لیا جاسکتا کہ کسی زمانہ کے لوگ بھی اس امر کا اقرار نہیں کر سکیں گے کہ فلان بات پر اجتماع قائم ہو چکا ہے۔ اس لئے کہ ابھی بہت سے تاریخی ادوار باقی ہیں جو قیامت سے قبل رونما ہوں گے لہذا ان کے ظہور سے پہلے اجتماع کیونکر منعقد ہوگا۔

اب صرف دوسری شق باقی رہی اور وہ ہے اسلامی ادوار میں سے کسی دور میں انعقاد اجتماع۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ عصر و عہد کون سا ہوگا۔ آیا صرف عصر صحابہ یا ان کے بعد کا زمانہ یا عصر صحابہ کے ساتھ مل کر پہلا دور ابن حزم فرماتے ہیں کہ شق ثانی ظاہراً بطلان ہے اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کے بعد کسی زمانہ میں اجتماع منعقد ہو۔ اس لئے کہ جس مسئلہ پر عصر صحابہ میں اجتماع منتشر نہ ہوا ہو بعد کے ادوار میں اس پر اجتماع منتشر ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ لہذا واضح ہوا کہ عصر صحابہ کے بعد منعقد ہونے والا اجتماع واجباً بالاطاعت نہیں۔

اب دوسرے فرضے باقی رہے اور وہ یہ ہیں :-

(۱) صرف صحابہ کا اجتماع۔

(۲) عصر صحابہ اور عصر تابعین کا اجتماع۔ بلاشبہ پہلا مفروضہ صحیح ہے۔ ابن حزم اس کی تائید و توفیق میں فرماتے ہیں :-

”یہ مفروضہ دو دلیلوں کی بنا پر صحیح ہے :-

پہلی دلیل :- اجتماع صحابہ کے صحیح ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ آج تک دو مسلمانوں نے بھی اس میں کبھی اختلاف نہیں کیا کہ صحابہ میں امر پر بلا اختلاف جمع ہو گئے ہوں وہ یقینی اور قطعی اجتماع ہوتا ہے اور اس کی خلافت و رزی کسی کے لئے بھی حلال نہیں۔

دوسری دلیل :- دوسری دلیل یہ ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے :-

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
(الباقعة - ۳)

آج کے دن میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔

جب یہ بات صحیح ہے تو دین میں کسی بات کا اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔ گویا اس



امر پر ہمارا اتفاق ہو گیا کہ دین اسلام سب کا سب خدا کی طرف سے منصوص  
 علیہ ہے۔ دین اسلام جب منصوص علیہ ہے تو اس کی معرفت صرف آنحضرتؐ ہی سے  
 حاصل ہو سکے گی جو وحی الہی کا ہیبت و مورد تھے۔

اب تیسری شق باقی رہی اور وہ یہ ہے کہ اس کا اجماع صحیح ہے اور اسی طرح  
 وہ اجماع بھی درست ہے جو کسی عصر و عہد میں منعقد ہو۔ ابن حزم اس ضمن میں ارقام  
 فرماتے ہیں۔

”اگرچہ صحابہ کے بعد منعقد ہونے والا اجماع اسی امر پر منعقد ہوا ہو جس پر قبل  
 ازیں صحابہ میں اجماع انعقاد پذیر ہو چکا تھا۔ تو ایسا اجماع بے کار ہے اور صرف  
 صحابہ کا اجماع معتبر ہے۔ اور اگر صحابہ کے بعد ایسی بات پر اجماع منعقد ہوا جس  
 میں صحابہ کا اختلاف تھا یا اس ضمن میں صحابہ سے کوئی قول سرے سے منقول

ہی نہیں۔ یا بعض صحابہ کا قول معلوم ہے اور سب کا نہیں۔ اندر میں صورت  
 اختلاف صحابہ والی شق میں بعد والوں کا اجماع باطل ہو گا۔ کیوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ  
 ایک امر صحابہ میں مایہ التزاع رہا ہو اور بعد کے لوگ اس مسئلہ میں ایک پلیٹ فارم  
 پر جمع ہو جائیں۔ یہ بھی جائز نہیں کہ جو غور و فکر ان کے لئے حلال ہے وہ  
 بعد والوں کے لئے ممنوع ہو۔ وہ اجماع اس لئے بھی باطل ہے کہ وہ مومنین کا اجماع  
 نہیں ہے کیوں کہ ان کا حصر ممکن نہیں۔ اس لئے دوسرے اور تیسرے مفروضہ کا  
 بطلان ثابت ہوا۔ اس لئے کہ صحابہ کے بعد دوسرے لوگوں کا شمار کرنا انسانی طاقت  
 سے باہر ہے البتہ صحابہ کا شمار کرنا ممکنات میں سے ہے۔ اب یہ امر روز روشن  
 کی طرح واضح ہو گیا کہ معتبر اجماع صرف صحابہ ہی کا ہے اور بس۔“

اجماع کی جو شکل و صورت ابن حزم نے بیان کی ہے  
 اجماع کا تصور نص کے بغیر ممکن نہیں۔ اور وہ ایسا اجماع ہے جو متواتر ہو اور کسی ایسے دینی مسئلہ

سے متعلق ہو جو آنحضرتؐ تک جا کر مل جائے، ایسا اجماع بدون نص انعقاد پذیر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس  
 سے ایک قدم بڑھ کر وہ آنحضرتؐ کی تعلیم و تلقین پر مبنی ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حزم ہر اس قول کو

توڑ کر پھینک دیتے ہیں جس کا مقتضایہ ہو کہ اجماع نص کے بغیر بھی منعقد ہو سکتا ہے۔ گویا ابن حزم کے نزدیک نص ہمیشہ اجماع کی رکن رکن ہوا کرتی ہے۔ بلکہ یوں کہتے کہ نص کے بغیر اجماع کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ مزید برآں آنحضرتؐ کی تعلیم و تلقین بھی اس امر میں ضروری ہے۔ ابن حزم ارتقا فرماتے ہیں:

”نص کے بغیر اجماع کا تصور ممکن نہیں۔ یہ نص یا تو آنحضرتؐ کا فرمان ہو گا جو کتب حدیث میں منقول و محفوظ ہے یا فعل ہو گا جو قول کی طرح آپ سے منقول ہے یا تقریری حدیث ہوگی جسے دانستہ آپ نے برقرار رکھا اور ناعلم کو تنبیہ نہ فرمائی تقریری احادیث بھی کتب حدیث میں محفوظ ہیں۔ ان وجوہات کے علاوہ جو شخص کسی بات پر انعقاد اجماع کا دعویٰ کرے گا۔ تو ہم اسے صحت دعویٰ ثابت کرنے کی تکلیف دیں گے۔“

ابن حزم کی مراد یہ ہے کہ بدون نص اجماع کا دعویٰ بے بنیاد ہے اور ایسے شخص کا فرض ہے کہ اپنے دعویٰ کی دلیل پیش کرے اور اس وقت تک اسے اجماع کے نام سے موسوم نہ کرے۔ ابن حزم اپنے دعویٰ کے اثبات میں دلائل دیتے ہیں۔ اگرچہ ان کی حسب تعریف ان دلائل کی بھی چنداں ضرورت نہیں کیونکہ انہوں نے اجماع کی تعریف یہ کی ہے کہ جس کا تصور نص کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ ابن حزم اجماع کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ وہ آنحضرتؐ کی متواتر تعلیم و تلقین پر مبنی ہوتا ہے۔ لہذا ابن حزم کی رائے میں اجماع کا تصور بدون نص ممکن نہیں۔

علاوہ ازیں ابن حزم کے نزدیک شرعی دلائل نصوص میں محدود و محدود ہیں۔ لہذا اجماع کے لئے دلیل کی ضرورت ہے اور وہ دلیل نص ہے۔ کیونکہ وہ قیاس و تعلیل کی نفی کرتے ہیں اور ان کو دلیل نہیں تصور کرتے۔ اس موضوع پر بھی ابن حزم نے حسب عادت بڑی کھل کر بات کی ہے اور معترض کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ وہ یہ دلائل پیش کرتے ہیں:

اب ہم ابن حزم کے پیش کردہ دلائل پر غور و فکر کریں گے۔  
ابن حزم کے دلائل :- کیوں کہ ان سے ابن حزم کی مہارت فقہ کا اندازہ ہوتا ہے۔

پہلی دلیل یہ آیت کریمہ ہے :-

پہلا دلیل: اَتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ  
 جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے  
 مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ  
 اس کی پیروی کیجئے اور اس کے سوا دیگر ادبیا  
 اَقْبَلِيَا (الاعراف - ۳) کی پیروی نہ کیجئے۔

یہ امر متنازع بیان نہیں کہ نص کے سوا کسی احتجاج و استدلال کو "ما انزل اللہ" کی پیروی سے تعبیر نہیں کر سکتے۔

دوسری دلیل: دوسری دلیل یہ آیت ہے۔

اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ - المائدہ ۳ آج کے دن میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔

لہذا ہر اجماع کا قرآن سے ماخوذ ہونا ضروری ہے جو عہد رسالت میں نازل ہوا۔ ورنہ لازم آئے گا کہ دین عہد رسالت میں کامل نہ تھا۔ حالانکہ قرآن نے اس کی تکمیل کی خبر دی ہے۔ اس کے بعد دین میں کسی اضافہ کا بھی امکان نہیں ہے۔ اس صورت کے کہ وہ اضافہ "ما انزل اللہ" کے مطابق ہو۔ یہ دونوں دلیلیں ابن حزم کے نظریہ کے مطابق ہیں اور وہ یہ ہے کہ دلیل صرف نص ہی کرتے ہیں۔ ابن حزم کے سوا دیگر علماء نصوص کے علاوہ علت و اطراز کو بھی دلیل تصور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قیاسات صحیحہ نصوص پر محمول ہوتے ہیں اور خدا کے نازل کردہ احکام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یعنی نصوص قیاسات تکمیل دین کے منافی نہیں۔ کیوں کہ جن اصولوں پر نئے پیدا ہونے والے غیر منتهی احکام و حوادث کا حل مبنی ہوتا ہے وہ پہلے ہی کامل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں دلیلیں فقہ ظاہری کے محور و مرکز کے گرد گھومتی ہیں اور اس سے تجاوز نہیں کرتیں۔

ابن حزم کے پیش کردہ دیگر دلائل کا محور و مرکز بھی فقہ ظاہری ہے۔  
 مزید دلائل: یہ دلائل انہی میں سے ہیں۔

ابن حزم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عقل انسانی یہ باز نہیں کر سکتی کہ مسلمان عہد رسالت کے بعد کسی ایسی بات پر جمع ہو جائیں جس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ آنحضرت کی دنات کے بعد صحابہ کرام مختلف دیار و اصصاریں پھیل گئے تھے۔ صحابہ کی ہر جماعت کے الگ الگ نشا گرد تھے۔ عہد صحابہ کے بعد تابعین اس قدر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے کہ صحتی اور قطعی طور پر اجماع کا حال معلوم کرنا دشوار ہو گیا۔ پھر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ مسلمان بلا نفس ہی کسی امر پر جمع ہو جاتے۔ یہ تو محالات کے قبیل سے ہے۔

ابن حزم فرماتے ہیں :-

”عقل درجس اور مشاہدہ اس بات کے زندہ گواہ ہیں کہ مسلمان علماء کا اجماع کسی امر پر بلا دلیل منعقد نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کا دعویٰ کرنے والوں سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا ان کے نزدیک یہ ممکنات میں سے ہے، کہ افتراق صحابہ کے بعد علماء اسلام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، یہاں تک کہ ایک بھی باہر نہ رہے یا یہ امر ناممکن ہے؟ اگر وہ اسے ممکن قرار دیں گے تو مشاہدہ کی مخالفت کے مرتکب ہوں گے!“

پھر ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ صحابہ عمدر رسالت کے بعد مختلف دیار و امصار میں پھیل گئے تھے۔ بعض مین میں چلے گئے، بعض عمان میں، بعض بحرین و طائف میں، بعض مکہ میں، بعض قرطبہ میں اور بعض جزیرہ عرب کے دیگر علاقوں میں چلے گئے۔ اس کے بعد درجہ وسعت پیدا ہو گئی۔ بعض سرزمین سندھ سے اندلس اور یلا دبربر کی طرف نکل گئے۔ بعض یعنی ساحل سے چل کر عازم آرمینیہ ہوئے۔ اس بات پر روشنی ڈالنا ہمارا فرض ہے کہ امام شافعی اولیں شخص تھے جنہوں نے یہ بات اپنی کتاب جماع العلم میں بیان کی ہے۔

ابن حزم اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ بدوں اپنے نظریہ کی تائید میں اجتماعی و نفسیاتی دلائل :-  
نص اجماع کا انعقاد اس لئے نہیں ہوتا کہ علماء جمع نہیں ہو سکتے۔ بلکہ واشکافات الفاظ میں کنتھا ہیں کہ نص کے بغیر اجماع کا امکان ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علت کے استخراج میں سب لوگ یک زبان نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر ایک کا طرز و انداز جداگانہ نوعیت کا ہوتا ہے۔ ابن حزم پر اس کی تائید میں نفسیاتی اور اجتماعی دلائل پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”بلاشبہ یہ بات درست ہے کہ لوگوں کے افکار و آراء اور طبائع و عادات میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگ اپنی بات کی تائید کرتے اور دوسروں کے نظریات سے متنفر ہوتے ہیں۔ نفرت و حقارت کے درجات میں بھی بڑا تفاوت پایا جاتا ہے۔ بعض نرم دل ہوتے ہیں اور لوگوں سے نرمی

کرنا چاہتے ہیں۔ بعض شدت پسند ہوتے ہیں اور لوگوں سے شدید برتاؤ کے خواہاں ہوتے ہیں۔ بعض جفاکش، محنتی اور صابر ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ضعیف الطبع ہوتے ہیں اور تن آسانی اُن کا شیوہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ ناز و نعمت کے دلدادہ ہوتے ہیں اور بعض شدت و خستونت کے عادی۔ بعض لوگ ان جملہ امور میں متوسط و معتدل ہوتے ہیں۔ بعض غفیناک اور تند خو ہوتے ہیں، بعض بردبار ہوتے ہیں اور چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ لہذا یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ رائے کی بنا پر ایک حکم صادر کرنے میں یہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ مختلف طبائع و عادات کے حامل بنی نوع انسان کو صرف وہی چیز ایک بات پر جمع کر سکتی ہے جس کو وہ اپنے حواس کی مدد سے محسوس کر سکیں اور اپنی عقل و ادراک کے بل بوتے پر سوچ سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ شرعی احکام ان دونوں قسموں میں داخل نہیں ہیں۔ لہذا وہ اجماع جو بنی کریم کی تعلیم و تلقین کے بغیر ہو وہ باطل ہے اور یہ ایک بڑی زبردست دلیل ہے۔

اس دلیل سے ابن حزم منطقی طور پر یہ نتیجہ برآمد کرتے ہیں کہ نص کے بغیر اجماع کا امکان نہیں۔ اس لئے کہ کوئی فقہ بدون نص حقیقت اجماع کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ نص سے بھی آگے بڑھ کر آنحضرت کی تعلیم و تلقین اور آگاہی بھی انعقاد اجماع کے لئے ضروری ہے۔

## اہل مدینہ کا اجماع

اجماع اہل مدینہ کی عدم حجیت :- جب ابن حزم کی رائے میں اجماع کی حقیقت ہی یہ ہے کہ جس پر بتواتر تمام علماء جمع ہو چکے ہوں اور

آنحضورؐ بھی اس سے باخبر ہوں تو اس سے ظاہر ہے کہ بنا بریں کسی مسئلہ پر بعض علماء کا جمع ہو جانا اجماع نہیں کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حزم اہل مدینہ کے اجماع کو اجماع نہیں سمجھتے اور نہ اسے حجیت قرار دیتے ہیں کیوں کہ یہ حقیقت اجماع کے منافی ہے۔ کیوں کہ حجیت تو نص و اجماع میں ہوتی ہے یا اس دلیل سے جو ان دونوں سے ماخوذ ہو مگر اجماع اہل مدینہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

جن لوگوں کا قول ہے کہ اہل مدینہ کا اجماع ان کی انصابت اور نزول وحی کے چشم دید گواہ ہونے کے پیش نظر حجیت ہے ابن حزم اسے منیٰ پر خطا قرار دیتے ہیں اور مختلف وجوہ کی بنا پر اس کی غلطی واضح کرتے ہیں۔

۱۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جن اقوال و آثار سے مدینہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے وہ اس امر کے مقتضی نہیں کہ مدینہ کے رہنے والے سبھی علماء فضلاء تھے۔ ابن حزم اپنے عصر و عہد میں مدینہ کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”آج کل مدینہ میں فساق کا غلبہ ہے بلکہ غالی روانض جیسے کفار وہاں بسیرا رکھتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ (البقرہ - ۱۵۶)

۲۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وحی کے چشم دید گواہ آنحضورؐ کے صحابہ تھے نہ کہ بعد آنے والے اہل مدینہ صحابہ سے تابعین نے اخذ کیا جو مختلف شہروں میں آباد تھے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیث بن سعد کو اہل مدینہ کی مخالفت پر عتاب فرمایا تو

لیٹ نے اپنے مکتوب بنام امام موصوف میں یہی دلیل پیش کی تھی۔  
ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ خلفاء راشدین میں سے خلفاء ثلاثہ ابو بکر و عمر و عثمان مدینہ میں سکونت پذیر تھے۔ لہذا انہوں نے اپنی رعایا کو مختلف دیار و اقصا میں دین کے احکام پہنچائے ہوں گے۔ اب دینی مسائل میں اہل مدینہ کی کوئی تخصیص نہیں رہی۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ انہوں نے صرف اہل مدینہ کو شرعی احکام سے آگاہ کیا اور دیگر بلاد میں ان احکام کو نہ پہنچا سکے۔ کیوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دینی مسائل کی تبلیغ میں کوتاہی سے کام لیا۔ یہ تغافل و تساہل ایک بدترین عیب ہے جس سے خلفاء کا دامن پاک ہے۔

ابن حزم اس  
اجماع اہل مدینہ میں امام شافعی اور ابن حزم میں اتحاد و اتفاق۔ ضمن میں وہی

بات کہتے ہیں جو ان کے پیش رو امام شافعی فرما چکے ہیں اور جو استقرار و تبلیغ پر مبنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل مدینہ کا اجماع اسی امر پر منعقد ہوتا ہے جس پر قبل ازیں صحابہ کرام جمع ہو چکے ہوں۔ مدینہ کے علاوہ دیگر بلاد میں بھی علماء کا اجماع اسی مسئلہ پر منعقد ہوتا ہے۔ بنا بریں ابن حزم امام شافعی کی پیروی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کے یہاں اجماع اسی مسئلہ پر انعقاد پذیر ہوتا ہے جس پر دیگر بلاد کے علماء مجتمع ہو چکے ہوں۔ جو مسئلہ اہل مدینہ کے یہاں اختلافی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیگر علماء کے نزدیک بھی متنازع فیہ سے ہے۔

اسی پر بس نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ابن حزم ان لوگوں کے اقوال کو بنی بر شک قرار دیتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ اہل مدینہ کا تعامل حجت ہے ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ بات وہ صرف امام مالک کی برتری ثابت کرنے کے لئے کہتے ہیں۔

فرماتے ہیں:-

”صرف متاخرین کی ایک جماعت نے یہ بات اس لئے کہی تھی کہ امام مالک کی تقلید کا جواز ثابت کر سکیں۔ دیگر علماء مدینہ سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ حالانکہ وہ

۱۔ مکتوب لیٹ بن سعد در اعلام الموقعین ج ۱ نیز تاریخ التشریح الاسلامی للبخاری و حیات

امام مالک از محمد ابو زہرہ

۲۔ حیات شافعی از محمد ابو زہرہ

ایک مسئلہ بھی ایسا ثابت نہیں کر سکتے جس پر مدینہ کے فقہائے صحابہ و تابعین نے اجتماع کیا ہو اور دیگر بلادِ اسلامیہ کے علماء ان کے خلاف ہوں۔

یہ ہیں اجماع کے بارے میں ابن حزم کے افکار و آراء! ان سے واضح اجماع کے شرائط ہوتا ہے کہ ابن حزم کی رائے میں اجماع آخر کار کسی نص تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اجماع کے لئے وہ یہ شرائط مقرر کرتے ہیں۔

۱۔ وہ کسی نص پر مبنی ہو۔

۲۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اجماع نقل متواتر اور قطعی سے منقول ہوتا ہو اور اہد نبوت تک جا پہنچے۔

۳۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اجماع آنحضرتؐ کی حدیثِ قولی، فعلی یا تقریری پر مبنی ہو۔  
واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔



## چوتھا مصدر استنباط یعنی دلیل

دلیل اور قیاس میں فرق :- ابن حزم اور ظاہری فقہاء کی رائے میں مصادر استنباط میں سے مصدر رابع دلیل ہے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ اہل ظاہر قیاس کو حجت شرعی تصور نہیں کرتے البتہ استنباط احکام سے مجبور ہو کر چار و ناچار وہ اسے تسلیم کرتے ہیں اور اس کا نام قیاس کے بجائے دلیل رکھتے ہیں۔ خطیب بغدادی نے داؤد ظاہری کے ترجمہ میں یہ بات تحریر کی ہے۔ مگر اہل ظاہر اس کا اعتراف نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ دلیل نص سے کوئی جداگانہ چیز نہیں ہے۔ ابن حزم دلیل کا ذکر کرتے ہوئے ان مخالفین کی تردید میں اپنے مخصوص تند و تیز لہجہ میں فرماتے ہیں :-

”جہلاء کا گمان ہے کہ دلیل کو تسلیم کر کے ہم نص و اجماع سے دور نکل گئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیاس اور دلیل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ مگر یہ بات سراسر بے بنیاد ہے۔ ہم ان شاء اللہ العزیز دلیل کی ایسی وضاحت کریں گے جس سے سارے اشکالات کا ازالہ ہو جائے گا۔“

پھر ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ دلیل براہ راست نص و اجماع سے ماخوذ اور ان کی پیداوار ہوتی ہے۔ نص و اجماع میں سے علت کا استخراج کر کے دلیل کو ان دونوں پر محمول نہیں کیا جاتا بلکہ دلیل نص و اجماع کی ذات سے براہ راست نکالی جاتی ہے۔ لہذا دلیل اور قیاس ایک چیز نہیں۔ قیاس نص سے استخراج علت پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر جہاں وہ علت پائی جاتی ہے، اسے نص کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ بخلاف ازیں دلیل بذات خود نصوص سے اخذ کی جاتی ہے۔

دلیل جو نصوص سے اخذ کی جاتی ہے۔ ابن حزم اسے سات دلیل کے اقسام میں منقسم کرتے ہیں۔ چنانچہ اب ہم ان اقسام میں سے سات ذکر کرتے اور ابن حزم کی ذکر کردہ مثالیں بیان کرتے ہیں :-

ذیل کی پہلی قسم یہ ہے کہ نفس در مقدمات پر مشتمل ہو اور نتیجہ مذکور نہ ہو۔ اندریں صورت  
دونوں مقدمات سے نتیجہ کے استخراج کو دلیل کہتے ہیں۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
کا یہ ارشاد مبارک ہے۔

كُلُّ خَيْرٍ مُسْتَعْرَضٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ  
دہر شراب نشہ آور ہوتی ہے اور ہر نشہ آور  
حرام ہے

ان دونوں مقدمات کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ بنا بر قیاس نہیں  
کیا جائے گا کہ جن نشہ آورانہیاد کا حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا وہ حرام نہیں ہیں بلکہ اس نص پر  
عمل کرتے ہوئے انہیں حرام قرار دیا جائے گا۔ مگر نص سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کیونکہ  
نتیجہ ہمیشہ مقدمات میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔

مثلاً کوئی شخص کہے: "ہر حیوان متحرک بالارادہ ہوتا ہے۔ انسان بھی ایک حیوان ہے۔  
پس انسان بھی متحرک بالارادہ ہے۔"

اس مثال سے ظاہر ہے کہ دونوں مقدمات نتیجہ پر مشتمل ہیں۔ پس مقدمات کا بدون نص  
ذکر کرنا لامحالہ دلالت نتیجہ کو متضمن ہوگا۔ لہذا نتیجہ کا سمجھنا دونوں مقدمات پر موقوف ہوگا نہ کہ کسی ایسی  
بات پر جو ان دونوں سے خارج ہو۔

چونکہ اہل ظاہر دلیل کی اس خاص نوع سے استدلال کرتے ہیں۔ اس میں نص مقدمات  
کو شامل تو ہوتی ہے مگر نتیجہ مذکور نہیں ہوتا۔ لہذا فقہانے اہل ظاہر کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا  
کہ جب علت منصوصہ ہو تو رد قیاس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر حق ہے مگر اہل ظاہر اسے  
قیاس سے مرسوم نہیں کرتے بلکہ دراصل یہ اسی نص کلی کی تطبیق ہے جو علت کو شامل ہے  
کیوں کہ ابن حزم نے سلاست کی ہے کہ نص کے عموم میں جو چیز بھی داخل ہوگی اس پر نص کی  
بنا پر حکم صادر کیا جائے گا نہ بنا بر قیاس۔ پس اسے قیاس کے نام سے مرسوم کرنا عمل  
نظر و تامل ہے۔

دلیل کی دوسری قسم وہ ہے جو فعل شرط کے عموم کی بنا پر  
دلیل کی دوسری قسم۔ نص سے ماخوذ ہو۔

مثلاً یہ آیت کریمہ ہے۔

إِنْ يَدْتَهُمْ يُعْذِرْ لَهُمْ مَا  
الانفال - ۸۴) اگر وہ باز آجائیں تو سابقہ گناہ معاف کر دئے جائیں گے۔  
قَدْ سَلَفَ -

اس شرط سے مفہوم ہوتا ہے کہ جو شخص بھی آئندہ افعال قبیحہ کے ارتکاب سے باز آجائے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دئے جائیں گے۔ خواہ وہ مشرک ہوں جن کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے یا غیر مشرک۔ یہ مفہوم الفاظ سے بھی مستفاد ہو رہا ہے اور سبھی لوگوں پر اس کا اطلاق کرنے سے بھی، کیوں کہ احکام شرعیہ میں سب لوگ برابر ہیں۔ پس صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ قیاس نہیں بلکہ دلالت الفاظ پر مبنی ہے۔

**دلیل کی تیسری قسم** :- دلیل کی تیسری قسم یہ ہے کہ لفظ جس معنی پر دلالت کرتا ہو وہ ایسے معنی کی نفی کو شامل ہو تو اس سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً یہ آیت کریمہ :-

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَدَّاۤ اٰمًا حَلِيْمًا (التوبہ ۱۱۲) بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور بربر بار تھے۔

اس آیت سے صحتی طور پر واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم احمق نہ تھے کیوں کہ حماقت و سفاہتِ علم کے مفہوم سے ہم آہنگ نہیں جو اس آیت میں وارد ہوا ہے۔ یہ آیت بھی اسی قبیل سے ہے۔

وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اٰفٍ وَّلَا تَنْهَرُهُمَا ۗ نَيْرٰ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا (الاسراء - ۲۳) اس آیت میں والدین کو پٹینے کی ممانعت بھی پائی جاتی ہے۔ کیوں کہ مار پیٹنا ان احکام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی جو اس آیت میں دئے گئے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں کہ والدین کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کیجئے۔ انہیں اذیت نہ کہئے اور ان سے حسن سلوک کا معاملہ کیجئے۔ اسی لئے بعض علماء کا دعویٰ ہے کہ اہل ظاہر قیاس جلی سے احتجاج کرتے ہیں۔ مگر ظاہر یہ ایسے قیاس نہیں تصور کرتے بلکہ دلالت لفظ پر محمول کرتے ہیں۔

**دلیل کی چوتھی قسم** :- دلیل کی چوتھی قسم یہ ہے کہ جس مسئلہ کے متعلق کوئی حکم شرعی موجود نہ ہو تو اسے مباح کہیں گے۔ جو چیز نص کی بنا پر حرام ہو اس کا ارتکاب گناہ کا موجب ہے۔ اگر وہ بنا بر نص فرض ہو تو اسے ترک کرنے سے گنہ گار ہوں گے۔ یا نہ فرض ہوگی نہ حرام بلکہ مباح ہوگی۔ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں اور اسے ترک بھی کر سکتے ہیں۔ جب حرمت اور فرضیت کسی کے بائے میں بھی نص وارد نہ ہوئی ہو تو اسے مباح کہیں گے۔ یہ قسم درحقیقت استصحاب الحال میں داخل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اپنی اصل

اباحت پر رہتی ہے جب تک کہ حرمت و فرضیت کی دلیل وارد نہ ہو۔ جیسا کہ آگے چل کر ہم استصحاب الحال کے باب میں بیان کریں گے۔

دلیل کے دیگر اقسام۔ یہ اس دلیل کے اقسام الذہنیہ تھے جو نص سے ماخوذ و مستنبط ہوتے ہیں۔ دلیل کی تین قسمیں اور بھی ہیں جو وجہ دلالت کے اعتبار سے ان دلائل کے مشابہ ہیں جو براہین منطقیہ سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ جن کا نام ابن حزم قضایا متدرجہ رکھتے ہیں وہ اسی قبیل سے ہیں۔ قضایا متدرجہ سے مراد یہ ہے کہ ان میں پہلا درجہ بعد والے پر فوقیت رکھتا ہے۔ مثلاً یوں کہا جائے کہ حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ سے افضل تھے اور حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ پر فوقیت رکھتے تھے پس حضرت ابوبکرؓ حضرت عثمانؓ سے افضل ہوں گے۔ یہ قسم دراصل دلیل کی پہلی قسم میں داخل ہے کیونکہ یہاں دونوں مقدمات مذکور ہیں اور وہ نتیجہ مذکور نہیں جو ان مقدمات سے ضمنی طور پر مفہوم ہوتا ہے۔ عکس القضا یا بھی اسی قبیل سے ہیں۔ مثلاً نص یوں وارد ہو کہ "ہر نشہ آور چیز حرام ہوتی ہے"۔ اب محمول کو موضوع اور موضوع کو محمول بنا کر ہم اس کا عکس مستوی یوں بنائیں گے کہ "حرام کی بعض قسمیں نشہ آور اشیاء ہوتی ہیں"۔ یہ بھی اسی قسم کی دلالت ہے جو بذات خود نص سے سمجھی جاسکتی ہے۔

دلیل کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ لفظ ایک معنی پر قصداً وبالذات دلالت کرتا ہو۔ پھر اس معنی کے کچھ لوازم ہوں جو لفظ سے مفہوم ہوتے ہوں۔ مثلاً ہم کہیں "زید لکھتا ہے"۔ ظاہر ہے کہ یہ جملہ زید کی کتابت کے اظہار کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ تاہم اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ زید زندہ ہے، اس کی انگلیاں متحرک ہیں اور اس کا ایک ہاتھ سالم ہے۔ یہ سب کچھ اشارہ سے سمجھا جاتا ہے عبارت سے نہیں۔ مناطقہ اسے دلالت تفسیعی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ابن حزم دلالت لفظیہ کے بیان کو ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں۔

"ہم انہی دلائل کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب نص کے تابع ہیں اور ان سے خارج ہرگز نہیں۔ یہ سب اقسام یا تو اجمال کی تفصیل ہیں یا ایک ہی مفہوم کو مختلف عبارتوں میں ظاہر کیا گیا ہے۔"

ہم اس امر میں ابن حزم کے ہم نوا ہیں کہ جسے وہ دلیل کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ وہ نص سے ماخوذ ہے اور اس سے خارج نہیں۔ ان دلائل کا قیاس سے کوئی واسطہ نہیں۔ البتہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ دلیل کی قسم اول قیاس کے قبیل سے ہے وہ معانی متناسبہ پر لفظ کی دلالت کو قیاس تصور کرتے ہیں۔ مگر حق یہ ہے کہ اس کا مفہوم لفظ سے اخذ کیا جاتا ہے نہ کسی خارجی چیز سے۔

نص و دلیل میں فرق :- مگر دلالت کے یہ سب اقسام لفظی دلالت کے قبیل سے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دلیل بھی جا کر نص پر ختم ہوتی ہے تو ابن حزم نے ایک مستقل قسم کی حیثیت سے انہیں دلیل کے نام سے کیوں موسوم کیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ابن حزم ظاہری المسلک ہیں اور ظاہری فقہ کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں معنی ظاہر نص سے اخذ کیا جاتا ہے۔ نہ اس کی تاویل کی جاتی ہے اور نہ کسی دوسری نص کے بغیر اس کے ظاہری مفہوم کو ترک کیا جاتا ہے۔ ظاہری فقہ میں فہم نصوص کا یہی انداز ہے خواہ نصوص کا تعلق عقائد سے ہو یا فروع سے۔ دونوں میں ظاہری مفہوم کو اخذ کیا جاتا ہے، اور بحث کرنے والا ایسی تاویل کو اخذ نہیں کرتا جو کسی دوسری نص کے ظاہری معنی سے نہ لی گئی ہو۔

جب ظاہری فقہ میں فہم نصوص کا طرز و انداز یہ ہے تو ان دلالات کو نصوص کی ظاہری دلالت قرار نہیں دے سکتے۔ لہذا اہل ظاہر کے نقطہ خیال سے ان کا الگ نام تجویز کرنا انہیں ناگزیر تھا۔ بنا بریں ظاہری فقہاء انہیں دلیل سے موسوم کرنے لگے۔ کیوں کہ یہ ظواہر الفاظ سے ماخوذ نہیں بلکہ ان دلائل میں ان معانی کو اخذ کیا جاتا ہے جن کو ان کی دلالت شامل ہے اور جو بادی النظر میں ظاہر نہیں ہوتے بلکہ نظر و تاویل سے واضح ہوتے ہیں۔ کیوں کہ وہ بھی فی الجملہ الفاظ کے ظاہری معانی کے لوازم ہیں۔ تاہم یہ معانی آخر کار الفاظ اور نصوص ہی کی طرف لٹتے ہیں اور انہیں سے مشتق اور متفرع ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قیاس میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ کیوں کہ قیاس بھی الفاظ پر محمول کیا جاتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ قیاس اور دلیل ایک چیز نہیں۔ کیوں کہ قیاس نص پر محمول کیا جاتا ہے اور وہ بعینہ نص نہیں ہوتا۔ قیاس میں حکم کی عدت کو کسی نص یا اجماع

سے تلاش کیا جاتا ہے یا نصوص سے معافی شریعہ کو تلاش کیا جاتا ہے اور ان پر قیاس کی بنا رکھی جاتی ہے۔ جب کسی جگہ علت کا سراغ لگ جاتا ہے تو حکم اصل نصوص سے تجاوز کر کے فرع مقیس تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قیاس الفاظ کے مفہوم سے انہیں نہیں کیا جاتا۔ البتہ وہ ان کے مفہوم کا حامل ہوتا ہے۔ ابن حزم کے ذکر کردہ دلائل و دلائل لفظی کے قبیل سے ہیں۔ اگرچہ بظاہر وہ نصوص سے ماخوذ معلوم نہیں ہوتے۔

یہ دلیل کے وہ اقسام تھے جو نصوص سے ماخوذ دلائل ماخوذہ از اجماع کے اقسام ہیں۔ ہوتے ہیں۔ اجماع سے اخذ کردہ دلائل ابن

حزم کی رائے میں چار ہیں:

وہ لکھتے ہیں:-

دلائل ماخوذہ از اجماع چار اقسام میں منقسم ہیں اور وہ یہ ہیں:-

۱- استصحاب الحال (کسی چیز کی سابقہ حالت کی بنا پر موجودہ حالت کو قیاس کرنا)

۲- اقل ما قبل کی بنا پر فیصلہ کرنا۔

۳- کسی قول کے ترک کرنے پر اعتقاد اجماع

۴- اس بات پر اجماع کا منقہ ہونا کہ سب مسلمانوں کا حکم برابر ہے۔

ہم آخری تین اقسام کی مختصر تشریح کرتے ہیں۔ پھر استصحاب کے ذکر و بیان کے لئے ایک

مستقل فصل تشریح کریں گے جس میں بیان کریں گے کہ مسئلہ ہذا میں ظاہری فقہاء کا نقطہ نظر کیا ہے

اور ابن حزم کی ذاتی رائے کیا ہے؟

ہم چوتھی قسم سے آغاز سخن کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ شرعی

(۱) مساوات اہل اسلام :- احکام میں سب مسلمان برابر ہیں۔ اس قاعدہ کی اساس

یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو مخاطب کر کے کوئی حکم دیا جائے تو وہ حکم سب مسلمانوں کے لئے

ہوگا۔ کیوں کہ سب مسلمان برابر ہیں اور ان میں کوئی فرق و امتیاز نہیں پایا جاتا۔ بجز اس صورت

کے کہ کسی کی خصوصیت نص سے ثابت ہو جائے یہ بات مسلمانوں کے ایک ایسے اجماع سے

ثابت ہے جو نبی کریم کے عصر و عہد سے منقول ہے۔ مثلاً وہ احادیث جو مخصوص اشخاص کے

حق میں وارد ہوئیں اور پھر ان کے حکم کو عام کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ عموم مسلمانوں کی مساوات سے

ہی سمجھا گیا ہے۔ عموم و خصوص پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم نے اس ضمن میں ابن حزم کا کلام نقل کیا ہے

ابن حزم کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لئے عمل میں نہیں آئی تھی کہ اپنے زمانہ ذالزل کو شرعی احکام پہنچائیں۔ بلکہ آپ ان سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے جو تاقیامت پیدا ہوں گے۔

بنابریں وہ حکم عام ہوگا اگرچہ الفاظ خاص ہوں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ لفظ خاص عموم پر دلالت کر رہا ہے۔ بلکہ یہ عموم اس امر سے پیدا ہوا کہ رسالت محمدیہ کی عمر بیت اور احکام شرعیہ میں تمام مسلمانوں کی مسادات پر اجماع قائم ہو چکا ہے۔ گو یا عموم حکم نص سے ماخوذ نہیں بلکہ اجماع سے لیا گیا ہے۔ اسی لئے اہل ظاہر کہتے ہیں کہ یہ دلیل اجماع سے ماخوذ ہے۔

معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ یوں کیوں نہیں کہہ دیا جاتا کہ حکم ذات اجماع سے ماخوذ ہے لہذا تیسرے ماخذ کو فرض کرنے کی ضرورت نہیں جسے دلیل کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ جس حکم کا نائزہ حاصل کیا جاتا ہے بعض اوقات اس پر اجماع منعقد نہیں ہوتا بلکہ ذات حکم اور اس کا فہم محل نزاع ہوتے ہیں۔ یہ اختلاف اس وقت رونما ہوتا ہے جب اس مسئلہ میں وارد ہونے والی خاص نص پر اعتماد کیا گیا ہو اور وہ عموم جس پر حکم کا اعتماد ہے مبنی بر اجماع ہو۔ اجماع اس بات پر منعقد ہوا ہے کہ احکام شرعیہ کے اعتبار سے سب مسلمان برابر ہوں۔

مثلاً وہ حدیث جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بالغ لڑکے کے دودھ پینے سے بھی اس کے اور اس عورت کے درمیان حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے جس کا دودھ اس نے پیا۔ ظاہری فقہاء کے نزدیک یہ حکم عام ہے۔ ہر کامل النصاب رضاعت سے ان کے یہاں حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ خواہ دودھ پینے والا چھوٹا ہو یا بڑا۔ بالغ کے دودھ پینے سے حرمت رضاعت کا ثبوت اس اجماع سے ملتا ہے جو احکام شرعیہ میں اہل اسلام کی مسادات کے سلسلہ میں منعقد ہو چکا ہے۔ اگرچہ حدیث سالم نامی لڑکے کے بارے میں وارد ہوئی ہے جس کے دودھ پینے کو حرمت کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ یہ حکم محل نزاع ہے۔ بنابریں حکم کی اس ایک عام اجماعی تفسیر پر رکھی گئی ہے۔ اگرچہ بذات خود اس پر اجماع منعقد نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ دلیل کو احکام کی معرفت حاصل کرنے کے طریقوں میں سے ایک ایسا طریق تصور کیا جاتا ہے جس کا اعتماد اجماع پر ہوتا ہے۔

(۲) اجماع پر مبنی دلائل کی دوسری قسم :- یہ مبنی بر اجماع دلائل کی چوتھی قسم تھی جس کا نام ابن حزم نے یہ رکھا ہے کہ احکام شرعیہ

میں مسلمانوں کے مساوی ہونے پر اجماع مبنی بر اجماع دلائل کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی قول کے ترک پر اجماع قائم ہو جائے۔ مثلاً کسی مسئلہ میں مختلف اقوال پائے جاتے ہوں اور ایک قول کو بالاتفاق ترک کر دیا جائے۔ یہ ترک کرنا اس کے بطلان کی دلیل ہے اور اس کا منشا و مصدر وہ اجماع ہے جو اس کے ترک کرنے پر منعقد ہوا۔

مثلاً دادا کی وراثت میں صحابہ مختلف الخیال ہیں :-

۱۔ ایک فریق کا قول ہے کہ باپ کی عدم موجودگی کی صورت میں دادا ہی حصہ لے گا جو باپ لیتا ہے۔ اور باپ کی طرح حقیقی اور علقاتی بھائیوں کو ورثہ سے محروم کر دے گا۔

۲۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ دادا حقیقی بھائیوں کی موجودگی کی طرح ہوگا اور علقاتی بھائیوں کے ساتھ ان میں سے ایک شمار ہوگا۔ بشرطیکہ اس کا حصہ ایک تہائی سے کم نہ ہو۔

۳۔ تیسرا فریق کہتا ہے کہ عصبیات کے ہوتے ہوئے دادا بھائی کا حکم رکھتا ہے۔ اور اگر عورتیں وارث ہوں تو دادا و اتہا عصبہ ہوگا۔ اور یہ صورت عورتیں اپنا حصہ وصول کریں گی بشرطیکہ دونوں حالات میں ان کا حصہ ۱/۲ سے کم نہ ہو۔

صحابہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ جب باپ نہ ہو تو دادا بھی وارث نہ ہوگا۔ یا یہ کہ دادا ۱/۲ سے کم ورثہ لے گا۔ اس قول کو ترک کرنے پر صحابہ کا اجماع اس کے بطلان اور عدم جواز کی دلیل ہے۔ یہ دلیل اس اجماع پر مبنی ہوگی جو اس قول کے ترک کرنے پر منعقد ہوا ہے۔

اجماع پر مبنی دلائل کی ایک قسم وہ بھی ہے جسے ابن حزم اقل (۴) تیسری قسم مبنی بر اجماع :- ماقیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے لئے انہوں نے اپنی کتاب

الاحکام میں ایک مستقل فصل باندھی ہے۔ ابن حزم نے اس موضوع کو قول غیر کے اعتبار سے چھیڑا ہے۔ مگر جس اجماع پر یہ مبنی ہے ابن حزم اسے محل نظر و تامل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں

« علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اقل ماقیل کی بنا پر حکم صادر کرنا بھی یقینی

اور حتمی اجماع کی ایک قسم ہے۔ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

نے نص و اجماع کی اطاعت ہم پر ضروری قرار دی ہے اور قول بلا دلیل

سے روکا ہے۔ جب کسی مسئلہ میں لوگوں کا اختلاف ہو تو علماء کی ایک جماعت



ایک خاص مقدار کو واجب ٹھیراتی ہے۔ مثلاً نفقات، پاداش، دیات، زکوٰۃ کے بعض اقسام وغیرہ۔

دوسرے اس سے زیادہ کو واجب تصور کرتے ہیں۔ کم از کم مقدار کے نکلانے پر سب کا اتفاق ہے۔ اس اجماع سے جو زائد ہو اس میں اختلاف ہے لہذا بنا بر اجماع اس پر عمل کرنا ہم پر واجب ہوا۔ جو شخص اس سے زیادہ کو واجب قرار دیتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ محتاج دلیل ہے۔ اگر وہ دلیل پیش کرے گا تو ہم اسے تسلیم کریں گے، ورنہ اس کے قول کو ترک کر دیں گے۔ اور وہ خدا کے یہاں بھی بلاشبہ باطل ہے۔ ہم کم از کم پر عمل درآمد کرنے میں یقینی طور پر حق بجانب ہوں گے کیوں کہ یہ ایک اجماعی امر ہے۔ اتفاق و اتحاد خدا کی نعمتِ عظیمی ہے ایسے اجماعی امور بلاشبہ واجب العمل ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اختلاف من جانب اللہ نہیں ہے۔ قرآن میں فرمایا۔

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَلِيِّ اللَّهِ لَوْ جَدُّوا  
فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء: ۸۲)

اگر قرآن خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔

یہ ابن حزم کا کلام ہے جسے انہوں نے دیگر علماء کی جانب منسوب کیا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابن حزم ان نظریات کو پسند کرتے ہیں کیوں کہ انہوں نے اسے دلیل کے اقسام میں ذکر کیا ہے۔ مگر وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ اجماع میں جملہ اہل ایمان شامل ہوں اور وہ اجماع پسندیدہ ہو یعنی صحابہ کا اجماع ہو۔ اس نظریہ پر تبصرہ کرتے ہوئے ابن حزم لکھتے ہیں۔

”اگر ہر عصر و عہد میں تمام اہل اسلام کے اقوال کا شمار کرنا ممکن ہوتا تو یہ بات حق اور صحیح ہوتی“

یہ ابن حزم کا قول ہے۔ بلاشبہ صحابہ میں مسلمان صرف صحابہ ہی تھے۔ ان میں مقادیر ثلاثہ کے مطابق تین اقوال پائے جاتے ہیں۔ قبیل ترین مقدار اجماعی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔

اس امر کی جانب متنبہ کرنا مناسب معلوم دیتا ہے کہ ابن حزم نصوص میں اس سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کی رائے میں نصوص کا نہم دشعور حاصل کرتے وقت ان کا وہ کم از کم مفہوم افند

کرنا واجب ہے جس پر نص ولالت کرتی ہو۔

ابن حزم کہتے ہیں :-

”جس کسی عمل کو واجب کرنے کے سلسلہ میں کوئی نص وارد ہوئی ہو تو موربہ کی اقل قبیل مقدار کی بناء پر فرضیت ساقط ہو جائے گی جس کے انجام دینے سے کسی شخص کو اس کا ناعمل کہہ سکیں۔ مثلاً کوئی شخص صدقہ کرنے کے لئے مامور ہوا ہو تو جو چیز بھی صدقہ کرے گا موربہ ادا ہو جائے گا کیوں کہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔

ابن حزم اس قسم کو اقل ماقیل کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ ان کے اقل ماقیل ہے۔ نزدیک مبنی بر اجماع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا قائل بذات خود کسی نص پر اعتماد نہیں کرتا اور نہ ہی اس مسئلہ پر اجماع منعقد ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اجماع منعقد ہوتا بھی ہے تو وہ اقل قبیل پر ہوتا ہے۔ لہذا اس سے احتجاج کیا جائے گا۔ اقل ماقیل پر عامل ہونے کی بناء پر اس اجماع پر بھی عمل درآمد ہو جائے گا جو مشروط اور متفق علیہ ہے۔ مثال کے طور پر واداک کی میراث میں صحابہ کے تین یا اس سے بھی زیادہ اقوال پائے جاتے ہیں تو ان میں جو قول کم از کم مقدار پر مبنی ہے یعنی ۱/۴ پر وہ اجماعی ہوگا۔ لہذا یہ کسی طرح جائز نہ ہوگا کہ واداک کو ۱/۴ سے بھی کم ورثہ دیا جائے جو شخص بھی یہ بات کہے گا اس کا قول خلاف اجماع ہونے کی بنا پر باطل ہوگا۔

اس مقام پر پہنچ کر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب استصحاب الحال پر روشنی ڈالی جائے جو ابن حزم کی رائے میں اجماع پر مبنی ہوتا ہے۔

## استصحاب الحال

امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ جو قیاس کو حجت شرعی نہیں مانتے استصحاب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

"استصحاب کا مطلب یہ ہے کہ جو بات زمانہ ماضی میں ثابت تھی وہ حال اور مستقبل میں بھی ثابت ہوگی۔ استصحاب کا لفظ مصاحبت سے ماخوذ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جو بات ماضی میں تھی اگر اس میں تبدیلی پیدا نہ ہو تو وہ جوں کی توں رہے گی۔ چنانچہ منطقی طرز سے اس کی دلیل یوں دی جاتی ہے: "فلاں حکم ماضی میں یوں تھا۔ جب ماضی میں یوں تھا اور اس کے معدوم ہونے کا گمان نہیں ہے تو وہ اب بھی باقی ہوگا۔"

ابن القیم استصحاب کی تعریف میں فرماتے ہیں :-

"استصحاب کا مطلب یہ ہے کہ جو ماضی میں موجود ہوا اسے موجود تصور کیا جائے اور جو معدوم ہوا اسے معدوم تسلیم کیا جائے یعنی نقی و اثبات دونوں صورتوں میں سابقہ حکم کو باقی رکھا جائے۔ بجز اس صورت کے جب تبدیلی حالت کی دلیل قائم ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک چیز کے ایک حالت پر قائم رہنے کے لئے دلیل مثبت کی ضرورت نہیں۔"

یہ استصحاب کی دو تعریفیں ہیں جو ابن حزم کے صدیوں بعد آنے والے دو فقہاء نے بیان کیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ علماء اصول کے یہاں استصحاب کسے کہتے ہیں۔ علماء اصول کی رائے میں استصحاب ایک سلبی دلیل ہے ایجابی نہیں۔ کیوں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک چیز تبدیلی کی دلیل کے فقدان کے باعث اپنی اصلی حالت پر قائم رہی۔ چونکہ استصحاب ایک سلبی دلیل ہے لہذا فقہاء کا قول ہے کہ فتویٰ دینے وقت آخر میں اس

کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ امام شوکانی ارشاد الفحول میں خوارزمی کا قول نقل کرتے ہیں کہ فتویٰ میں آخری دار مدار استصحاب پر ہوتا ہے۔ کیوں کہ مفتی سے جب کسی مسئلہ کا حکم دریافت کیا جاتا ہے تو وہ کتاب اللہ میں اس کا حل تلاش کرتا ہے۔ پھر حدیث رسول میں پھر اجماع میں اور پھر قیاس میں۔ اگر کہیں سے بھی اس کا حل معلوم نہ ہوتا ہو تو نفی و اثبات میں اس کا حکم استصحاب سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اگر اس امر میں مفتی تردد کا شکار ہو کہ آیا وہ سابقہ حکم باقی رہا یا نہیں تو اصل اس کی بقا ہے۔ اور اگر اس کے ثبوت میں تردد ہو تو اصل عدم بقا ہے۔

استصحاب سے متعلق ائمہ کے افکار و آراء۔ غور و فکر کرنے سے یہ حقیقت اُجاگر ہوتی ہے کہ جو فقہاء فقہ کے دائرہ

میں وسعت پیدا کرنے کے عادی ہیں۔ وہ استصحاب پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے۔ اس کے برعکس جن ائمہ کے یہاں فقہ کا دائرہ اتنا وسیع نہیں وہ استصحاب کا دروازہ چوٹ کھول دیتے ہیں۔ امام شافعی چونکہ استحسان اور مصالح مرسکہ کو حجت شرعی نہیں مانتے دلائل شرعیہ ان کے یہاں صرف نصوص اور قیاس میں محدود ہیں لہذا وہ استصحاب میں بڑی وسعت پیدا کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بھی ان ہی کی شاہ پر گام زن رہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے یہاں چونکہ استدلال بالرائے میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے اس لئے وہ استصحاب پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے۔

یہ نظریہ اس امر کا مقتضی ہے کہ اہل ظاہر بھی استصحاب پر اعتماد کرتے ہیں کیوں کہ استدلال کا دائرہ ان کے یہاں خاصا محدود ہے۔ چنانچہ ظاہری فقہاء استصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور جن فقہاء نے اس کا دائرہ تنگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ابن حزم نے ان پر سخت تنقید کی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بایں ہمہ ابن حزم نے استصحاب کی جو تعریف کی ہے اس میں چنداں وسعت نہیں پائی جاتی۔

ابن حزم کی تعریف استصحاب۔ ابن حزم استصحاب کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں کہ

جو حکم نص سے ثابت ہو تبدیلی کی دلیل سے قبل اس کے قائم رہنے کو استصحاب کہتے ہیں۔  
ابن حزم لکھتے ہیں :-

”جب کسی معاملہ میں کتاب و سنت کی کوئی نص وارد ہو۔ پھر ایک مدعی اس امر کا دعویٰ دار ہو کہ یہ حکم بدل چکا ہے یا باطل ہو چکا ہے کیوں کہ جس چیز کے بارے میں حکم صادر ہوا تھا وہ زمان و مکان کی تبدیلی کی بناء پر تغیر پذیر ہو چکی ہے، تو اس مدعی پر واجب ہے کہ کتاب و سنت کی کوئی دلیل پیش کرے اور ثابت کرے کہ یہ حکم بدل چکا ہے یا باطل ہو چکا ہے۔ اگر وہ ایسی دلیل پیش کر دے گا تو اس کی بات صحیح ہوگی۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اس کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ سب لوگوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ نص کے حکم پر اس وقت تک قائم رہیں جب تک کہ اس چیز کا نام باقی ہے جس پر حکم شرعی عائد کیا گیا تھا۔ کیوں کہ یہ ایک یقینی بات ہے، اس کی تبدیلی کا دعویٰ ایک بے بنیاد بات ہے جس کی خدا نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ لہذا نص کے ہوتے ہوئے یہ مردود ہے اور وہوغ کوئی پرہیزی ہے۔“

ابن حزم اور دیگر فقہاء کے نظریات میں نقطہ اختلاف :- اس حقیقت کی ائینہ دار ہے کہ استصحاب ان کے نزدیک اس حکم کے باقی رہنے کو کہتے ہیں جو بنی برنص ہو صرف اصل کا باقی رہنا استصحاب نہیں۔ گویا استصحاب میں بنی برنص ہونے کی قید ضروری ہے اور صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ کوئی چیز اپنی اصلی اباحت پر قائم رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن حزم کی رائے میں اشیاء میں اصلی اباحت نہیں پائی جاتی بلکہ نص شرعی وارد ہونے سے قبل توقف کیا جائے گا۔ خواہ وہ نص ان ادیان سے تعلق رکھتی ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تھے ابن حزم کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ شرائع کے مکلف و دامور ہوتے ہیں۔ مگر ابن حزم زیادہ دیر تک توقف کے نظریہ پر قائم نہیں رہتے۔ اور آخری فیصلہ یہ صادر کرتے ہیں کہ اشیاء میں اصلی اباحت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی طرف رسول بنا کر

بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محرّمات کے علاوہ آپ کے لئے باقی تمام اشیاء کو جائز رکھا تھا۔ اس ضمن میں ہم ابن حزم کا اقتباس نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں:

حضرت آدم اس کائنات ارضی پر رسول ہو کر آئے تھے۔ ان کو زمین پر اتارنے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا:-

رَكَعًا فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ (البقرة - ۱۳۶)

تمہارے لئے زمین میں جائے قرار ہے اور ایک مدت تک فائدہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے متاع کا لفظ فرمایا کہ اشیاء کو مباح کر دیا پھر ان میں سے جسے چاہا حرام کیا اور یہ سب کچھ شریعت کی روشنی میں ہوا۔

ابن حزم انرا اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اس عام نص کی بنا پر اشیاء میں اصلی اباحت ہے گو یا اشیاء میں اباحت اصلیہ اس وقت تک موجود رہے گی جب تک ممنوع ہونے یا فرض ہونے کی دلیل قائم نہ ہو جائے۔ یہ اباحت نص سے ثابت ہوگی عقل سے نہیں۔ خلاصہ کلام ابن حزم اور ان نقما کے مابین جریہ کہتے ہیں کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے صرف نظری فرق پایا جاتا ہے کیونکہ وہ عقل کی بنا پر اباحت اصلیہ کا اثبات کرتے ہیں اور ابن حزم شرع کی روشنی میں اور وہ نص عام جس سے حضرت آدم اور ان کی اولاد کو خطاب کیا گیا۔ وہ اباحت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ممانعت یا لازم ہونے کے دلائل قائم نہ ہو جائیں۔

آخر ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ابن حزم کی تعریف استحباب مقید بالنص خلاصہ بحث :- ہونے کے باوجود اس امر سے مانع نہیں کہ اس کے عموم میں یہ بات داخل ہو جائے کہ نص عام کے حکم کے مطابق ہر چیز اپنی اصلی اباحت پر باقی رہے گی اور وہ نص یہ ہے وَكَعْبًا فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ (البقرة ۲۶)

یہ اباحت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک تبدیلی پیدا کرنے والی دوسری دلیل نہ آجائے۔

یعنی بر نص دلائل کے اقسام بیان کرتے ہوئے ابن حزم نے اس کی صراحت کی ہے چوتھی دلیل کا ذکر کرتے ہوئے ابن حزم نے بیان کیا ہے کہ اگر فرضیت و تحریم میں سے کسی کی دلیل

موجود نہ ہو تو اباحت کا حکم صادر کیا جائے گا۔ اگر حرمت کی دلیل موجود ہو تو اسے حرام ٹھہرایا جائے گا۔ اگر حرمت کی دلیل موجود نہ ہو بلکہ اس کے برعکس فرضیت کا ثبوت ملتا ہو تو اسے فرض قرار دیں گے اگر دونوں میں سے کوئی دلیل بھی موجود نہ ہو تو اسے مباح تصور کریں گے۔

بنا بریں ہماری نگاہ میں ابن حزم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ بنا بر استصحاب اشیاء کی اباحتِ اصلہ کے قائل ہیں بجز اس کے کہ اس کی کوئی دلیل موجود ہو۔ جب قیامِ دلیل تک اشیاء میں اصل چیز اباحت ہے اور دلیل کو بھی نص و اجماع یا ان سے ماخوذ دلائل کے دائرہ میں محدود و مقید کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فقہ ظاہری نے بنا بر استصحاب بقاء اصل کا دروازہ چوڑا کھول دیا اور اس طرح اس کے دامن میں بڑی حد تک وسعت پیدا ہو گئی اور وہ تنگی باقی نہ رہی جو باوی النظر میں دکھائی دیتی ہے کیوں کہ اس سے بہت سے امور میں اباحت کا دروازہ کھل جائے گا جن میں قیاس پسند فقہاء تنگی پیدا کرتے ہیں۔ فقہ ظاہری کی یہ کشادگی اور وسعت اس آیت کریمہ کی مصداق ہوگی۔

تمہاری زبانی جس کذب بیانی سے کام لیتی ہیں اسے حرام یا حلال نہ کہو تا کہ تم خدا پر بھوٹ باندھو۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ  
الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ  
لِنَقُولَ وَعَلَى اللَّهِ الْكَلِمَۃُ

(النحل - ۱۱۶)

استصحاب کی چند مثالیں: ابن حزم استصحاب کی روشنی میں اصلی حکم کو ان شرعی بدہیئات پر عینی قرار دیتے ہیں جو سب فقہاء کے نزدیک مقرر اور طے شدہ ہیں اور جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی ثابت شدہ اصل پر قائم رہے گی جب تک تبدیلی کی دلیل قائم نہ ہو جائے۔

ابن حزم فرماتے ہیں:-

”ہم ہر مدعی نبوت سے کہیں گے کہ تم تو نبی نہ تھے اور نبی کیوں کہہ بن گئے۔ لہذا تمہارا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے۔ الا یہ کہ آپ اسے ثابت کر دکھائیں۔ اسی طرح جو شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی مرتد ہونے یا زنا کاری کا مرتکب ہونے کی بنا پر مباح الدم ہے تو اسے بری تصور کریں گے جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں نیک آدمی فاسق بن

کیا فلاں فاسق نیک ہو گیا یا فلاں زندہ مر گیا یا فلاں عورت سے فلاں نے نکاح کیا یا فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا فلاں آدمی اپنی ملکیت پر قابض نہیں رہا یا فلاں شخص ایسی اشیاء کا مالک ہو گیا جو اس کی ملکیت نہ تھیں وَ هَلْمَةٌ جَبْرًا۔ ان تمام صورتوں میں ہم سابقہ حالت کو تسلیم کریں گے الا یہ کہ دوسری صورت کا علم دلیل کی بنا پر حاصل ہو جائے۔

اس قاعدہ کے تحت ہر چیز اپنی اصل پر قائم رہے گی یہاں تک کہ اس کا خلاف ثابت ہو جائے یا اس کی حالت میں تبدیلی پیدا ہو جائے مثلاً اس کے ایک خاص وصف کی بنا پر اسے ایک حکم دیا جاتا تھا وہ وصف جب تبدیل ہو جائے گا تو دوسرے وصف کی بناء پر اس پر نیا حکم عائد کیا جائے گا۔ اس صورت میں نام کے بدل جانے سے حکم بھی بلاشبہ تبدیل ہو جائے گا۔ مثلاً شراب سرکہ میں بدل جائے یا اسے تبدیل کر دیا جائے تو اس کا حکم بھی بدل جائے گا۔ کیوں کہ حرام صرف شراب ہے۔ ظاہر ہے کہ سرکہ شراب سے ایک الگ چیز ہے۔ یا مثال کے طور پر گندگی جب مٹی کی صورت اختیار کرے تو اس کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح خنزیر کا دودھ شراب یا مردار جب اُسے مرغیاں کھالیں یا بکری کا پھ خنزیر کا دودھ پی لے تو ان اشیاء کی حرمت باقی نہیں رہے گی۔ کیونکہ اب مردار دودھ اور شراب کا نام باقی نہیں رہا اور جب محرمات کا نام وہ نہیں رہا تو ان کی حرمت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اب جو شخص انہیں حرام ٹھہرائے گا وہ بعینہ اس آدمی کی طرح ہو گا جو محرمات کو حلال قرار دیتا ہو۔ قطعی طور پر دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے ہوں گے۔ اور جو اللہ کی حدود کو پھاند جاتا ہے۔ وہ اپنی ہی جان پر ظلم کا تلبیہ ہے۔

خلاصہ کلام کسی چیز کا حکم اس وقت تک باقی رہے گا جب نص کی بنا پر اس میں تبدیلی پیدا ہو یا اس کی حالت میں تغیر آجائے۔ حالت کے بدل جانے سے اس کا نام وہ نہیں رہے گا۔ اور وہ دوسری نص کے عموم میں داخل ہو جائے گی۔

ابن حزم استصحاب سے وجوب

استصحاب سے وجوب اخذ و احتجاج کے دلائل۔ اخذ و احتجاج کے دلائل بیان



کرتے ہوئے رقمطراز ہیں :-

”ہر مومن و کافر اس بات کا زندہ گواہ ہے کہ ہمارے نبی کریمؐ یہ دین ہمارے پاس لائے۔ آپ نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ آپ آخری نبی اور خاتم الرسل ہیں۔ آپ کا دین ہر زندہ شخص کے لئے واجب الطاعت ہے اور ان تمام انسانوں کے لئے جو تا قیام قیامت اس کائنات ارضی پر پیدا ہوں گے۔ لہذا یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ تغیر زمان و مکان اور حالات کی تبدیلی دین اسلام پر اثر انداز نہیں ہو سکتی بلکہ بجز اس صورت کے کہ کسی نص سے معلوم ہو جائے کہ اس کا حکم کسی خاص زمان و مکان یا حالت میں واجب ہے۔ یا واجب نہیں ہے اور اس کا حکم منتقل ہو چکا ہے۔ اندریں صورت وہ حکم اسی زمان و مکان اور حالت میں محدود و مقید ہو گا۔“

الغرض استدلال کا دار و مدار وجوداً و عدماً نص پر ہے۔ اگر نص موجود ہوگی تو حکم بھی پایا جائے گا اور باقی رہے گا۔ نص کے مفقود ہونے سے حکم کی بھی نفی ہو جائے گی اور اس صورت میں کسی سابقہ نص پر عمل کیا جائے گا۔ اگر سابقاً کوئی نص موجود نہ ہو تو اس عام حکم شرعی کی اطاعت کی جائے گی جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے۔

رادرتہا رے لئے زمین میں ٹھکانہ اور  
ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَسَاجِدٌ وَمَسَاجِدٌ

(بقرہ - ۱۲۵)

اس آیت میں اباحت کا حکم دیا گیا ہے لہذا یہ کہ محالیت یا فرضیت کی کوئی دلیل آجائے۔

ابن جزم جمع احوال میں استصحاب سے احتجاج  
استصحاب سے جمع احوال میں احتجاج کرتے ہیں اور احناف اور مالکیہ کی طرح یہ

لے تغیر احوال سے عہد و عہد اور لوگوں کے حالات کی تبدیلی مراد ہے کسی چیز کی ذاتی تبدیلی مراد نہیں۔

۱۲۵ حوالہ مذکور

نہیں کہتے کہ استصحاب سے کسی شخص کے نقصانات کا ازالہ کیا جاسکتا ہے، مگر اس سے حقوق کا اثبات نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک استصحاب سے حقوق ثابتہ برقرار تو رکھے جاسکتے ہیں مگر بلا دلیل استصحاب سے حقوق کو زائل نہیں کیا جاسکتا۔ نہ اس سے غیر ثابت شدہ حقوق کا اثبات ہوتا ہے۔ وہ اس کی مثال میں مفقود کا ذکر کرتے ہیں یعنی جو شخص کہیں چلا جائے اور اس کی زندگی اور موت کا پتا نہ چلتا ہو۔ اخلاف کہتے ہیں کہ وہ اپنے مال پر قابض رہے گا اور اس کی موت کا فیصلہ صادر کرنے سے قبل اس کی ملکیت زائل نہ ہوگی جب اس کی موت کا فیصلہ صادر کیا جائے گا تو جو وارث اس وقت موجود ہوں گے اس کے ترکہ سے ورثہ پائیں گے۔ کم شدگی کے وقت جو وارث موجود تھے ان کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا البتہ مفقود موت کا فیصلہ صادر کرنے سے قبل اپنے اقارب کا وارث نہیں ہو سکے گا۔ جب اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوگا تو مفقود اس کا ورثہ نہیں پائے گا اور اسے اس وقت بھی ورثہ نہ پانے کی بنا پر مردہ تصور کیا جائے گا۔ اگرچہ اس کی کم شدگی اور اس کی موت کا حکم صادر کرنے میں صرف بیس سال کا وقفہ پایا جاتا ہو۔ حنفیہ کے اس قول کا کہ استصحاب دفع حقوق کے لئے حجت ہے مگر اثبات حقوق کے لئے حجت نہیں یہی مطلوب مقصود ہے۔

شواہد و حجابہ اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ استصحاب بہ یک وقت اثبات و دفع دونوں کے لئے حجت ہے۔ یعنی اس کی بنا پر حقوق ثابتہ کو برقرار بھی رکھا جاسکتا ہے اور اس سے جدید حقوق کا اثبات بھی ہوتا ہے جو قبل ازیں ثابت نہ ہوں کیوں کہ ان کے سبب کی بقاء فرض کر لی گئی ہے۔

ابن حزم اس مسئلہ میں دیگر ظاہری فقہاء کے ہمنوا ہیں کہ دیگر نظریات پر نقد و جرح۔ استصحاب سے بقاء کا حکم اپنی محل صورت میں پایا جاتا ہے اور دفع اثبات میں کوئی فرق سرے سے موجود ہی نہیں۔

ابن حزم مندرجہ ذیل قواعد کو استصحاب کے نظریہ پر مبنی قرار دیتے ہیں۔

۱۔ جو بات یقین کامل کی روشنی میں ثابت ہوئی ہو، اس کا ازالہ بھی کسی ایسی چیز سے ہوگا جو یقین میں اس کی شبیہ و مثیل ہو۔ مثلاً جس شخص نے دھوکا دیا ہوا اور وہ تردد کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کا دھوکا ٹوٹ گیا تو اس طرح اس کا دھوکا ٹوٹے گا نہیں بلکہ وہ باوجود

رہنے گا اور اسی وضو سے نماز ادا کرے گا جس شخص کو شک و مانگیہ ہو کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اسے طلاق نہیں ہوگی کیوں کہ نکاح ایک یقینی امر ہے اور اس کا ازالہ یقینی طلاق سے ہی ہو سکے گا۔ اسی طرح جو شخص اپنی کسی بیوی کو طلاق دے دے اور اُسے یاد نہ رہے کہ کسے طلاق دی۔ پھر وہ شک میں مبتلا ہو کہ کس عورت کو طلاق دی اندر میں سررت کسی عورت پر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مالکیہ اس کے خلاف ہیں۔

ابن حزم مالکیہ پر بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں۔ مالکیہ کا قول ہے کہ وضو میں شک پیدا ہونے سے وضو باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلقہ کے بارے میں شک کا رد نہ ہونا جب اسے یقین ہو کہ اس نے کسی عورت کو طلاق ضرور دی ہے۔ ان عورتوں پر طلاق واقع ہونے کا موجب ہے۔ ابن حزم طلاق کے مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں:-

”طلاق دینے والے کو یہ معلوم نہیں کہ اُس نے کسے طلاق دی۔ اندر میں صورت طلاق واقع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احداث اور مالکیہ نے ظن کی بناء پر ایک حکم جاری کر دیا۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک ورنوں اس سے روکتے ہیں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھا کر انہوں نے ایک ایسے باطل امر کا فتویٰ دیا جس کا بطلان یقینی و قطعی ہے اور اس آدمی کی ان عورتوں کو بھی حرام ٹھہرایا جو بلاشبہ حلال ہیں اور اس نے ان کو طلاق نہیں دی۔ مزید براں انہوں نے ایک یقینی حرام کو عوام الناس کے لئے حلال کر دیا۔ جن عورتوں کو اس نے طلاق نہ دی تھی وہ ان کے متعلق یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے لئے حلال ہیں اور لوگوں سے ان کا نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر اس مسئلہ کو یونہی تسلیم کر لیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ جب کوئی قاتل یا زانی لوگوں میں گھس جائے اور اس کا پتہ نہ چل سکے تو سب لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر جس شہر میں کوئی قاتل عمد موجود ہو اور بعینہ اس کا پتہ نہ چلتا ہو تو جملہ اہل شہر کو تہ تیغ کر دیا جائے اور اگر چور کا پتہ نہ چلے تو سب کے ہاتھ کاٹ دئے جائیں جب حرام کھانا شہر میں پاپا جاتا ہو اور اس کا سراغ نہ ملے تو سب قسم کے کھانوں کی حرمت کا فتویٰ دے دیا جائے اور پھر اس بناء پر خطہ بارضی کی ہر شادی شدہ عورت اور مرد کو اس بناء پر سنگسار کر دیا جائے کہ ان میں سے کسی نہ کسی نے ضرور زنا کیا ہوگا۔ اسی طرح جس شخص نے اپنے مال میں سے کچھ صدقہ دیا اور اسے یاد نہ رہا کہ صدقہ کی مقدار

کیا تھی تو وہ سبھی مال کو صدقہ کے طور پر دے دے۔ اس کی مثالیں لاتعداد ہیں  
اب اس نظریہ کا فساد و بطلان اس وضاحت و صراحت کے ساتھ اجاگر  
ہو گیا کہ اس میں کوئی شبہ ہی باقی نہیں رہا۔

مالکیہ و ضو کے مسئلہ میں ابن حزم کے اعتراض کا یہ جواب دے سکتے ہیں کہ مالکیہ کی نگاہ  
میں استصحاب کی بناء پر احکام ثابتہ برقرار رہتے ہیں۔ البتہ جدید احکام کے اثبات میں ان احکام  
کی بقاء معتبر نہیں۔ اندر میں صورت نماز کا اعادہ کیا جائے گا کیوں کہ نماز کے لئے یقینی وضو کی  
ضرورت ہے۔ مگر سابقہ کی بقاء میں شبہ لائق ہو چکا ہے۔ نماز کی ادائیگی ایسے وقت سے ہوتی  
ہے جو شبہات سے پاک ہو ایسے وضو سے نماز ادا نہیں ہوتی جس کے وجود و عدم دونوں کا احتمال  
مالکیہ طلاق کے مسئلہ میں ابن حزم کے اعتراض کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ شرمگاہوں میں  
اصل حرمت ہے جب تک کہ ان کی حلت کسی دلیل سے ثابت نہ ہو جائے۔ جب طلاق دینے  
والے کو طلاق کا یقین ہے مگر اس امر میں شک ہے کہ طلاق کسی کو دی لہذا ان میں سے ہر عورت  
کے نکاح کا باقی رہنا مشتبہ ہو جائے گا۔ بنا بریں ان میں سے کوئی بھی حلال نہ ہوگی۔ کیونکہ  
جو چیز یقینی طور پر حرام ہو اس کی حرمت یقینی نکاح سے زائل ہو سکے گی۔  
مگر اس سے ابن حزم کا اعتراض دور نہیں ہوتا کیوں کہ ان میں سے ہر عورت کا نکاح  
یقینی تھا۔ اس کا زوال بھی یقین ہی سے ہو گا۔ نیز یہ کہ اگر ہم اس شخص اور اس کی بیویوں  
کے درمیان تفریق کر دیں تو ان میں بعض خاوندوں کے لئے حلال ہوں گی، البتہ زوجیت  
کے بقاء میں شبہ ضرور باقی رہے گا۔ مالکیہ اگرچہ طلاق دینے والے کی نسبت سے ان کے  
حلال ہونے میں احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہیں مگر نئے ازدواج کے لئے حلت میں احتیاط نہیں  
کرتے۔ بجز اس کے کہ یہ کہا جائے ان عورتوں کو طلاق تو ہو جائے گی مگر وہ کسی دوسرے  
خاوند سے نکاح کرنے کی مجاز نہیں۔ اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا اور نہ ہی یہ بات قرین عقل و  
دانش ہے۔

ابن حزم نے مالکیہ کے قول سے جو نتائج برآمد کئے اور ان کو مورد الزام ٹھہرایا، کہ اس  
سے ان تمام لوگوں کو قتل کرنا جائز ٹھہرے گا۔ جن میں کوئی غیر عورت قاتل گھل مل جائے۔

علاوہ ازیں یہ اعتراضات دراصل ان پر وارد نہیں ہوتے۔ کیوں کہ ان عورتوں پر طلاق واقع ہونے کا باعث و موجب احتیاط ہے اور احتیاط کی بناء پر ایسے امور کو مباح قرار نہیں دیا جا سکتا جو بنا بریقین حلال ہو سکتے ہوں اور شبہ کے باعث ساقط ہو جاتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ طلاق اور قاتل کو جرم قتل میں تہ تیغ کرنا یہ دونوں یکساں نہیں۔ زنا کی حد بھی جداگانہ نوعیت کی چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شبہ ہوتے ہوئے ان امور کی صحت ثابت نہیں ہوتی اور یہ ایسے یقین سے بروٹھے کا راتے ہیں جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ البتہ طلاق شبہ کے ہوتے ہوئے بھی واقع ہو جاتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ شک کی موجودگی میں بھی اسے ثابت کر دیا جائے۔

خلاصہ کلام ابن حزم نے مالکیہ کو جن اعتراضات کی آماجگاہ بنایا ہے ان میں سے بعض ان پر وارد ہوتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے۔

**استصحاب پر مبنی مسائل**۔ ابن حزم نے استصحاب کو جن مسائل کا مبنی قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس چیز کی حلت ثابت ہو جائے وہ بلا دلیل زائل نہ ہوگی۔ یا وہ ایسے امر کی بنا پر زائل نہ ہوگی۔

جس سے اس کی ذلت میں تبدیلی پیدا ہو جائے۔ مثلاً نجاست جب پانی میں یا کسی پاکیزہ سیال چیز میں گر جائے تو وہ چیز اس وقت تک ناپاک نہ ہوگی جب تک اس کی صفت تبدیل نہ ہو جائے۔ اگر صفت تبدیل نہ ہو تو وہ ناپاک نہ ہوگی۔

ابن حزم ارقام فرماتے ہیں:-

پھر سیال چیز وہ پانی ہو، زیتون ہو، گھی ہو، عرق گلاب یا شہد یا شوربا اور کوئی خوشبودار چیز ہو جب اس میں کوئی نجس یا حرام چیز گر جائے جس سے احتراز ضروری ہو یا مردار جا پڑے اور اس کے گرنے سے اس کا رنگ، مزہ یا بو میں تبدیلی پیدا نہ ہو تو اس سیال چیز کا کھانا، پینا اور استعمال کرنا حلال ہے اس سے وضو اور غسل کرنا بھی مدعا ہے۔ اگر وہ فروختی چیز ہو تو اس کا فروخت کرنا بھی جائز ہے۔ اور اس بات کی کوئی پردا نہیں کہ وہ نجاست بظاہر نظر آتی ہو البتہ اگر کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشاب کر دے تو اس سے وضو یا غسل کرنا حرام ہے وہ غسل فرضی ہو یا نہ ہو۔ اگر در سرا پانی دستياب نہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے

مگر اس پانی کا پینا اس کے لئے اور اوروں کے لئے حلال ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جس پانی میں نجاست ہے، گر بائے ابن حزم اس کی نجاست کا فتویٰ تبھی دیتے ہیں جب اس میں دونوں میں سے ایک بابت پیدا ہو جائے۔  
۱۔ اس کا رنگ، و صفت یا بڑ تبدیل ہو جائے۔

۲۔ کوئی نص وارد ہو جو اسے نہیں قرار دیتی ہو۔ مثلاً اگر ریث میں آیا ہے کہ کھڑے پانی میں بول کر کے پھر اس سے وضو نہ کیا جائے۔

نجاست کے مسئلہ میں ابن حزم نے بڑے عجیب و غریب خیالات کا اظہار کیا ہے جن کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔

**نظریۃ استصحاب پر ابن حزم نے جن مسائل معاملات بیع و شراکہ نظریۃ استصحاب کی بنا رکھی ہے ان میں بیع و شراکہ کا یہ مسئلہ بھی ہے**

کہ بدون نص کسی پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی چنانچہ ہر عقد اور شرط جس میں اس کا نام اور لوازمات کی صراحت نہ پائی جاتی ہو وہ عاقد پر لازم نہیں۔ کیوں کہ اصل عدم الزام ہے۔ لہذا اوروں میں سے کسی عاقد بیع و شراکہ معاملہ کرنے والی کا حق دوسرے پر جبری لازم ہوتا ہے جب شرع اسے لازم ٹھیراتی ہو۔ شریعت کی بنا پر ہی ایک عاقد کے حقوق اور دوسرے پر ثابت ہوتے ہیں۔ ورنہ اصل یہ ہے کہ آدمی ان واجبات سے بری الذمہ ہوتا ہے۔ لہذا استصحاب الحال کا مقتضایہ ہے کہ یہ اصل (واجبات سے براءت) اس وقت تک باقی ہے گی جب تک نص اس سے نکلنے کو واجب قرار نہ دے۔ جب ابن حزم سے کہا گیا کہ معاملات میں واجبات کا التزام آدمی خود اپنے ذمہ لیتا ہے۔ اور اسی کی بنا پر وہ براءت اصل سے نکل جاتا ہے تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ خود لازم ٹھیرانے سے کوئی چیز لازم نہیں ہوتی اور نہ یہ دلیل الزام و اثبات ہے۔ بلکہ معاملات کے نتائج کا التزام عبادت کے لازم ٹھیرانے کی مانند ہے۔ کوئی شخص اگر کسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کرے تو وہ لازم نہیں ہو جاتی۔ مثلاً کوئی چھٹی ناز کو اپنے اوپر فرض قرار دے لے تو وہ فرض نہ ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص اگر شائع کے منشا کے علاوہ کسی شرط یا عتقہ کا التزام کرے تو وہ زائد عبادت کے التزام کی طرح ہے جو اپنے اوپر لازم کرنے سے

لازم نہیں ہوتی :-

ابن حزم فرماتے ہیں :-

”ہم ان سے دریافت کریں گے کہ اگر کوئی شخص چھٹی نماز کو اپنے اوپر لازم کرے یا مکہ کے علاوہ کسی اور مقام کا حج کرنے لگے یا ایام حج کے علاوہ وہ حج کا سفر اختیار کرے تو یہ حدود اللہ سے تجاوز کرنا اور خروج عن الدین ہوگا جو ان میں تفریق پیدا کرتا ہے وہ باطل کا قائل ہے۔“

استصحاب کے نتائج و عواقب ابن حزم کی نگاہ میں :- یہ بے نظریہ استصحاب! ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حالات میں ابن حزم نے اس کے دائرہ کو بڑی حد تک محدود کر دیا ہے۔ مثلاً ان کا یہ قول کہ ہر شرط باطل ہے الا یہ کہ شارع کی کسی دلیل سے اس کا لزوم ثابت ہو یا اس پر اجماع منعقد ہوا ہو۔ اگر نص و اجماع میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو لزوم کا کوئی امکان نہیں۔ جو شرط کتاب اللہ میں موجود نہ ہو وہ باطل ہوتی ہے، اگرچہ سو شرط ہو۔ اس طرح ہر مسلمان واجبات سے بنا برہ براءت اصل پر پاک ہے بجز اس کے کہ اس کے اختیار کردہ عقد یا شرط کی بنا برہ نص سے وہ حق اس پر لازم چھڑے۔

نظریہ استصحاب کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے مسائل میں اجتہاد کا دروازہ کھل گیا مزید براں یہ وسعت کے اسباب ہیں سے ہے اور دین اسلام میں صعوبت دقت کا موجب نہیں۔

ابن حزم نے نظریہ استصحاب کے پیش نظر بعض ایسے مسائل کا استخراج کیا ہے۔ جن کی توقع نہ تھی۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ سب حیوانات کا پچا ہوا پانی پیاں تک کہ خنزیر کا بھی پاک ہے۔ کتے کے سوا دوسرا کوئی حیوان مستثنیٰ نہیں۔ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھونے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ پاک کرنا ضروری ہے۔ ابن حزم کے نزدیک وضو اور غسل کا استعمال شدہ پانی بھی پاک ہے اور اسے ایک دو یا تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اصل کے اعتبار سے طہرا اور مطہر ہے۔ اور اسل سے

نکلنے کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ ہم فروعاً فقہیہ کے نمونے ذکر کرتے وقت بتائیں گے کہ استصحاب کی بنا پر سبت سے جدید احکام کا دروازہ کھل گیا۔

یہ ہیں وہ دلائل اور ان کے نتائج جن پر ابن حزم فقہاء کے ذکر کردہ دلائل اور ابن حزم اور دیگر ظاہری فقہاء نے اعتماد کیا ہے۔ یہ دلائل نص و

اجماع اور دلیل پر مشتمل ہیں جو نص و اجماع سے پیدا شدہ ہے۔ دلیل کو اس کے اجزاء میں سے کسی جزو کی بنا پر بھی قیاس سے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کی پہلی قسم بھی قیاس میں داخل نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جسے علماء اصول دلالت النص نحوی الخطاب یا مفہوم موافق کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اب ہم بیان کریں گے کہ ابن حزم فقہاء کے ذکر کردہ اور معتمد علیہا دلائل کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیوں کہ ابن حزم ان دلائل پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ ان کا ابطال کرتے، ان کے خلاف اعلان حرب و پیکار کرتے اور ان پر عمل پیرا ہونے کو احتجاج بالمدعی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ رائے کا شریعت سے کوئی علاقہ نہیں۔ شریعت نام ہے کتاب و سنت اور ایسے اجماع کی پیروی کا جو کتاب و سنت کے ساتھ متصل اور پیوستہ ہو۔ چنانچہ ہم اس سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہیں۔



## فقہ میں اجتہاد بالرائی کا مقام اور ابن حزم

ابن حزم کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ رائے کا دین وین اسلام میں اجتہاد بالرائی کا مقام ہے۔ کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں لیکن کسی شخص کے لئے موزوں نہیں کہ اپنی رائے سے اجتہاد کرے اور پھر اس امر کا دعویٰ دار ہو کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی رائے سے کوئی بات کہتا ہے وہ خدا پر افتراء پر دازی کرتا ہے۔

ابن حزم جب اجتہاد بالرائی کی نفی کرتے ہیں تو وہ استنباط بالقیاس، استحسان، مصالح، مرسلم اور ذرائع کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ نصوص میں استخراجِ علیل کے لئے غور و فکر کیا جاتا ہے۔ اس کا سلسلہ بھی مسدود ہو جاتا ہے اور اس طرح تعلیل کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ تعلیل (نصوص میں سے علت کا استخراج) رائے کی اساس ہے۔ ابن حزم کے نزدیک سب نصوص تبعیدی ہیں اور ان کے ظاہری مفہوم کو کسی حالت میں بھی ترک نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ مفہوم مخالفت بھی ان کے یہاں معتبر نہیں۔ وہ صرف نصوص سے احتجاج کرتے ہیں اور ان کے ظاہری مفہوم سے تجاوز نہیں کرتے۔

ابن حزم کتاب و سنت اور اجماع کے علاوہ تمام فقہی مصادر کو رد کر دیتے ہیں اور کسی کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رائے کو کسی صورت میں بھی حجت نہیں مانتے ہم اولاً یہ بیان کریں گے کہ رائے کی نفی و ابطال میں ان کا اعتماد کس بات پر ہے اور ثانیاً ان کے ابطال، قیاس، استحسان، مبدء المصالح اور سد الذرائع پر روشنی ڈالیں گے۔

ابن حزم مختصراً رائے کا ابطال کرتے ہوئے  
ابطال الرائی کے دلائل ہے۔ فرماتے ہیں:-

”کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ رائے کی بنا پر کوئی حکم صادر کرے“  
پھر کتاب و سنت اور اقوال صحابہ سے اس کے دلائل ذکر کرتے ہیں تاکہ اقوال صحابہ

کو ماننے والوں پر حجت قائم کر سکیں۔

قرآنی دلائل :- قرآن کی دلیل یہ ہے۔ ارشادِ ربّانی ہے۔

۱- مَا فَخَّرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ  
ہم نے کتاب میں کوئی کمی باقی نہیں  
چھوڑی (الانعام ۳۸)

یہ آیت اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ قرآن میں شریعت کی ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے  
لہذا اس پر اضافہ کرنا روا نہیں۔  
دوسری جگہ فرمایا :-

۲- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ  
اے ایمان والو! اللہ رسول اور اصحاب الامر  
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا  
کی اطاعت کیجئے۔  
(النساء ۵۹)

اس آیت کریمہ میں تمام شرعی مصادر کو شمار کیا گیا ہے اور درود، کتاب و سنت اور اجماع  
ہیں۔ جب اختلاف رونما ہوگا تو صرف کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں گے  
نہ کسی اور چیز کی طرف۔ اگر دین میں رائے کا بھی کوئی دخل ہوتا تو اس کی وضاحت کر دی  
جاتی۔ حدیث کے دلائل یہ ہیں :-

دلائل حدیث :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

۱- علم لوگوں کے سینوں سے چھینا نہیں جائے گا البتہ علماء کی موت کے باعث علم کو  
کھینچ لیا جائے گا۔ جب دنیا میں عالم نہ ہوں گے تو جاہل لوگوں کو سردار بنا لیا جائے گا  
جو رائے سے فتویٰ دیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔  
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رائے موجب ضلالت ہے۔ اور اس کا ثبوت اس حدیث سے  
ہوگا جب کتاب و سنت کا علم سینوں سے کھینچ لیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا قول بھی اس حدیث کا موید ہے۔  
فرماتے ہیں :-

۲- "بنو اسرائیل کے حالات درست رہے یہاں تک کہ ان میں لونڈیوں کی اولاد پران  
چڑھی اور وہ رائے سے فیصلہ کرنے لگے۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا۔" لہ

اقوال صحابہ۔ ابن حزم احوال صحابہ سے اس لئے احتجاج کرتے ہیں تاکہ رائے سے احتجاج کرنے والوں پر حجت قائم کر سکیں۔ ان میں سے بعض تو قیاس ہی میں محدود و محدود رہتے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ مثلاً امام شافعی۔ بعض نے قیاس اور غیر قیاس میں وسعت پیدا کر دی ہے۔ ابن حزم اس ضمن میں صحابہ کے متعدد اقوال و اخبار ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں:-

۱۔ "ابن میں اپنی رائے کو تہتم کیجئے" حضرت عمرؓ مزید فرماتے ہیں:-

۲۔ "صحابہ الراءئی سے بچتے رہئے۔ کیوں کہ وہ احادیث کے دشمن ہیں" حضرت عمرؓ کا ارشاد گرامی ہے:-

۳۔ "اے لوگو! نبی کریمؐ کی رائے صائب تھی کیوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرماتے تھے۔ ہماری رائے تو ظن و گھٹ پر مبنی ہے!" حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں:-

۴۔ "جب میں کتاب اللہ میں اپنی رائے سے کام لوں یا جانے بغیر کوئی بات کہوں تو کونسی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی اور کونسا آسمان مجھ پر سایہ نکلے ہوگا" حضرت علیؓ کا ارشاد ہے:-

۵۔ "اگر دین کا مدار و انحصار رائے پر ہوتا تو موزہ کی پخیل جانب مسح کرنا اس کی بالائی جانب سے بہتر ہوتا میں نے خود دیکھا تھا کہ آنحضرتؐ موزہ کی بالائی جانب پر مسح فرمایا کرتے تھے"۔

ابن حزم اسی طرح اقوال صحابہ بیان کئے جاتے ہیں:-

علماء ان دلائل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ رائے کے مطابق فتویٰ دینا اس موقع پر ممنوع ہے۔ جب نص موجود ہو۔ جن لوگوں کی طرف رائے کے مطابق فتویٰ دینا منسوب ہے۔ یہ اس وقت ہے جب نص نہ پائی جاتی ہو علاوہ ازیں ابن حزم کے ذکر کردہ بعض اقوال ان کے لئے حجت نہیں ہیں۔ مثلاً حضرت علیؓ نے مسح الخفین کے مسئلہ میں جو رائے کی مذمت فرمائی۔ وہ اس لئے ہے کہ موزہ کی پخیل جانب مسح کرنا معارض نص ہے۔ اس بات پر علماء

کا اتفاق ہے کہ نص کی موجودگی میں رائے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رائے پر وہاں عمل کیا جاتا ہے۔ جہاں نص موجود نہ ہو۔

جواز استدلال بالرائی کے دلائل اور ان کا ابطال :- ابن حزم مذکورہ صدر مثبت دلائل پر ہی اکتفا نہیں کرتے

بلکہ استدلال بالرائی کے جواز پر فقہاء کے بیان کردہ دلائل کی خوب خوب تردید کرتے ہیں۔ استدلال بالقیاس کے جواز میں عموماً تین دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔

پہلی دلیل: آیت قرآنی مثلاً *فَاَعْتَبُوا يٰۤاٰوٰلِیَۤا۟ۤا۟ الذّٰرِیۤنَ (الحشر: ۲)*

عول

دوسری دلیل: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ جب وہ کسی مسئلہ کا حل کتاب و سنت میں نہیں پائیں گے تو اپنی رائے سے اجتہاد کریں گے۔ آنحضرت نے خاموش رہ کر اس پر ہر تصدیق مثبت فرمادی۔

تیسری دلیل: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھا۔

”اشبہاء و امثال کو پہچان اور بعض امور کو بعض پر قیاس کر۔“

جہاں تک آیات قرآنیہ کا تعلق ہے ان سے استدلال بالرائی کا جواز صراحتاً ثابت

نہیں ہوتا۔ اب یہ دونوں اقوال باقی رہے جو حنفی کی سبھی کتب میں مذکور و منقول ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابن حزم ان کا کیا جواب دیتے ہیں۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ابن حزم نے ان دونوں آداب سے انکار کر کے بڑی جرأت سے کام لیا ہے پھر پہلے قول کی صحت فرض کر کے اس کی تائید کی اور اس طرح مسلکی تعصب کی بنا پر اپنے ظاہری مسلک سے نکل گئے۔

ابن حزم کا قول ہے کہ حدیث معاذ صحیح نہیں صحیح ستہ

حدیث معاذ پر نقد و نظر :-

میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ منقول ہے :-

”عمر بن حارث حمص میں اصحاب معاذ کی ایک جماعت سے روایت

کرتے ہیں کہ جب نبی کریم نے حضرت معاذ کو من بھیجا تو فرمایا معاذ! آپ فیصلہ

کیوں کر کریں گے؟ عرض کیا کتاب اللہ کی روشنی میں۔

”فرمایا۔ اگر اس مسئلہ کا حل کتاب اللہ میں نہ ملتا ہو“ حضرت معاذ نے عرض کیا

”سنت رسول کے مطابق فیصلہ کروں گا“

آپ نے مزید فرمایا، اگر اس کا ذکر کتاب سنت دونوں میں نہ ملتا ہو تو پھر کیا کریں گے؟

حضرت معاذ نے جواباً کہا صَلَّیْہِ اٰمَتِ کِی رَاثَے کَے مَطَابِقِ نِیصَلہ کَر دَں گَا۔  
آپ نے فرمایا اگر وہ مسئلہ نہ کتاب سنت میں مذکور نہ ہو نہ صالحین نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہو تو پھر کیا کریں گے؟

حضرت معاذ نے کہا میں اپنی رائے سے کام لوں گا اور اس میں کوتاہی نہیں کروں گا  
ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ مقدور پھر حق کی پیروی کروں گا۔  
ایک روایت میں صالحین کا ذکر نہیں ہے۔

یہ ہے حدیث معاذ ابن حزم اس ضمن میں فرماتے ہیں بہ  
"حدیث معاذ ساقط الاحتجاج ہے کیوں کہ وہ صرف حارث بن عمرو کی سند سے مذکور ہے۔ حارث مجہول ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔"

ابن حزم اپنے مخصوص تیز ذہن لہجہ میں حدیث معاذ کو صرف ساقط الاحتجاج قرار دینے پر ہی بس نہیں کرتے بلکہ اس کی دو تائیدیں کرتے ہیں:-

پہلی تاویل "اَجْتَهَدُ بِرَاٰی" کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو معلوم کرنے کے لئے مشورہ کروں گا۔ وہ اس کی تائید میں سفیان بن عیینہ کا قول پیش کرتے ہیں کہ اجتہاد الرأی سے مراد اہل علم کا مشورہ ہے نہ کہ اپنی رائے سے فتویٰ دینا۔ اس ضمن میں میری مصنف کی رائے یہ ہے کہ ظاہر الفاظ سے یہ مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ سیاق و سباق بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ وہ (معاذ) اپنی رائے پر اعتماد کریں گے اور اس پر اپنی پوری کاوش صرف کریں گے۔ جہد و سعی کا کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کریں گے۔

دوسری تاویل: دوسری تاویل کا ذکر ابن حزم ان الفاظ میں کرتے ہیں:-  
"اگر حدیث منازکی صحت فرض کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کتاب و سنت سے حق تلاش کرنے میں جہد و سعی سے کام لوں گا اور اس کی تلاش میں سرگرم عمل رہوں گا۔"

آپ دیکھتے ہیں کہ ابن حزم ایسا جلیل القدر امام اہل ظاہر حدیث کی بعید از کار تاویل کر کے اسے ظاہری مفہوم سے نکال رہا ہے۔ سیاق و سباق سے بھی اس مفہوم کی تائید نہیں ہوتی۔ کیوں کہ مقصود کلام یہ ہے کہ پیش آمدہ حادثہ کے بارے میں بعد از سعی بسیار کتاب و سنت میں انہیں کوئی چیز نہیں ملی۔ باقی رہی یہ بات کہ وہ سال ہا سال تک مصروف طلب و تلاش رہیں گے۔ اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں۔ اور یوں بھی اس سے دیگر حقوق ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کا عمل ہونا لازم آتا ہے۔ اگر مفہوم کلام یہی ہے کہ میں حدیث کی طلب و تحقیق میں انتہائی جہد و سعی سے کام لوں گا تو اَجْتَهِدُ بِرَأْيِي میں رائی (میری رائے) کا لفظ بیکار ہو کر رہ جائے گا اور اس کا کوئی مطلب ہی نہ ہوگا۔ اس کا مفہوم اسی صورت میں صحیح طور پر ادا ہوگا۔ جب وہ ذاتی فکر و نظر سے اس مسئلہ کا حل تلاش کریں۔

ہم اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے کہ ابن حزم حدیث معاذ کی اصحت با عدم صححت نے حدیث معاذ کو اس بناء پر مورد طعن بنایا

ہے کہ یہ حارث بن عمر سے مروی ہے جو مجہول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابن حزم کا یہ طعن کس حد تک صحیح ہے؟ اس میں شبہ نہیں کہ یہ حدیث مشہور اور مستفیض احادیث کا درجہ رکھتی ہے اور علماء کے مابین عام طور سے اسے سند قبول حاصل ہو چکی ہے۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ آیا علماء کے یہاں اس حدیث کی کوئی قابل اعتماد سند موجود ہے۔

علم اصول سے واقفیت رکھنے والے فقہار نے ابن حزم اور ان کے پیش رو علماء کے اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ فقیہ ابو بکر الرازی جو جصاص کے نام سے مشہور ہیں اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اپنی کتاب الفصول میں فرماتے ہیں۔

”اگر کہا جائے کہ حدیث معاذ کو روایت کرنے والے ان کے وہ اصحاب ہیں جو مجہول ہیں اور ان کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس سے حدیث کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ کیوں کہ اصحاب معاذ کی جانب اس حدیث کی نسبت کرنے ہی سے اس کی تائید ہو جاتی ہے۔ اصحاب معاذ وہی ہو سکتے ہیں جو ثقہ ہوں اور صرف انہی سے روایت کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث معاذ علماء میں عام طور سے مقبول و مشہور ہو چکی ہے اور کسی نے بھی اس کے روایت پر نقد و جرح نہیں کی اور نہ اس

کی تردید کی ہے۔

خطیب بغدادی اپنی کتاب "الفقہ المتفقہ" میں لکھتے ہیں :-

"حارث بن عمرو کا یہ کہنا کہ وہ اصحاب معاذ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ روایت شہرت پذیر ہو چکی ہے اور اس کے روایت کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضرت معاذ علم وز بہ ہیں معروث تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے اصحاب بھی بڑے و بیدار اور عابد و زاہد اور ثقہ ہوں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عباده بن مسی نے یہ حدیث عبدالرحمن بن عثم سے روایت کی اور انہوں نے حضرت معاذ سے اخذ کی۔ یہ سند متصل ہے اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ مزید براں حدیث معاذ کو قبولیت عامہ کا شرف حاصل ہو چکا ہے۔ اور سب علماء اس سے احتجاج کرتے ہیں۔ یہ امر اس حدیث کی صحت کا آئینہ دار ہے۔"

ابوبکر بن العزنی اپنی کتاب العارضہ میں لکھتے ہیں :-

"اس حدیث میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اسے صحیح کہتے ہیں اور بعض غیر صحیح۔ میں اس حدیث کی صحت پر اعتقاد رکھتا ہوں۔ کیوں کہ یہ حدیث مشہور ہے اسے شعبہ بن حجاج روایت کرتے ہیں۔ پھر ان سے ائمہ دین اور فقہاء کی ایک جماعت نے یہ حدیث اخذ کی۔ مثلاً یحییٰ بن سعید عبداللہ بن مبارک ابوداؤد طیالسی، شعبہ اس حدیث کو حارث بن عمرو سے روایت کرتے ہیں جو اسی روایت کی بدولت مشہور ہوا مگر اس حدیث کی صحت کی ضمانت کے لئے یہی بات کافی ہے کہ شعبہ جیسا محدث اسے روایت کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ حدیث "افراد" کی قسم میں داخل ہوگی۔ مگر اس سے حدیث کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں کہ اصحاب معاذ میں سے کوئی بھی مجہول نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا نام عذت کر دیا گیا ہے اس سے ان کا مجہول ہونا لازم نہیں آتا۔ کوئی حدیث مجہول اس وقت ہوتی ہے۔ جب اس کا راوی

لے حاشیہ البنداز امام کوثری مرحوم ص ۴۱۔

ایک ہو، اور یوں کہا جائے "حَدَّثَنِي رَجُلٌ" یا کہے "حَدَّثَنِي إِنْسَانٌ" یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اس کے رُداۃ اصحاب معاذ کہلاتے ہیں اور صاحب وہی شخص ہوتا ہے جس کو کسی کے ساتھ کچھ خصوصیت ہو۔ پھر اس پر مزید یہ کہ اصحاب معاذ کو حمص کے شہر کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ امام بخاری جو صحت حدیث میں بڑے متشدد تھے۔ عروہ البارقی کی حدیث کو یوں روایت کرتے ہیں۔

"میں نے ایک جماعت کو سنا جو سب کے سب عروہ سے روایت کرتے تھے۔"

حدیث معاذ کی توثیق و تائید۔ خلاصہ کلام حدیث معاذ پر دو اعتراض وارد کئے جاتے ہیں:-

- ۱۔ یہ حدیث حارث بن عمرو سے مروی ہے جو خود بھی مجہول ہے۔
- ۲۔ وہ چند غیر معروف اصحاب معاذ سے روایت کرتا ہے جو حمص میں اقامت پذیر تھے۔

اعتراض اول کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حارث سے روایت کرنے والے شعبہ بن حجاج ہیں جو ایک عظیم محدث اور بڑے ثقہ راوی تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک ثقہ راوی ہی سے حدیث اخذ کر سکتے تھے۔ حارث کی ثقاہت بیان کرنے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ ان سے روایت کرنے والے شعبہ ہیں۔ اور اگر ہمارے نزدیک وہ مجہول ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شعبہ بھی ان سے واقف نہ تھے۔ لہذا شعبہ کا ان سے روایت کرنا ہی ان کی ثقاہت و نزکیہ کی ضمانت ہے۔

اب زیادہ دوسرا اعتراض تو اس ضمن میں واضح ہونا چاہئے کہ حارث نے جن سے روایت اخذ کی ہے وہ ہرگز مجہول نہیں ہیں۔ وہ اصحاب معاذ کی ایک جماعت ہے جو حمص کے شہر میں اقامت پذیر تھی۔ اصحاب معاذ ہرنے کے اعتبار سے ان کی روایت قابل قبول ہے یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ حضرت معاذ ایسے عابد و زاہد صحابی کی دوستی فاسق و فاجر اور کتاب لوگوں کے ساتھ ہو جو قابل اعتماد نہ ہوں۔ اور حضرت معاذ اور اس سے بڑھ کر آنحضرت پر بھی



افتراء پروازی کر سکتے ہوں۔ ان کے اسماء کے حدیث کرنے کی وجہ اختصار بھی ہو سکتی ہے۔  
امام بخاری نے بھی ایسی احادیث سے احتجاج کیا ہے۔

مزید براں یہ حدیث ایک اور طریقہ سے بھی مردی ہے جس کی سند متصل ہے اور اس کے  
رداۃ سب معروف ثقہ اور غیر مجہول ہیں۔ خطیب بغدادی نے اس سند کا ذکر کیا ہے ہم قبل انہیں  
خطیب بغدادی کا قول نقل کر چکے ہیں۔ مزید براں اس حدیث کو قبول عام کی سند مل چکی ہے۔ ابن حزم  
تو اس سے کم درجہ کی احادیث سے بھی احتجاج کرتے ہیں اور حزان کہ تسلیم نہیں کرتا اس پر بڑی  
لے لے کرتے ہیں۔ انہوں نے حدیث "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" کو مرسل ہونے کے باوجود قبول کر لیا ہے  
حالانکہ وہ مراسیل سے احتجاج نہیں کرتے۔ قبول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ علماء تابعین نے قبل انہیں اس  
حدیث کو شرف قبول بخشا ہے۔

ہم نے حدیث معاذ کے نقد و تبصرہ میں بڑی طوالت سے کام لیا کیوں کہ یہ حدیث  
استدلال بالرائی کا سنگ بنیاد ہے۔ اور فقہ کی تمام شاخیں اسی پر مبنی ہیں۔

ابن حزم نے حضرت عمر فاروقؓ کے اس مکتوب کا بھی انکار کیا ہے جو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ  
اشعریؓ کے نام لکھا۔ اس خط میں قیاس صریح کی طرت دعوت دی گئی تھی اور اس میں ذرا بھڑکنا  
نہیں۔ ابن حزم اس کا انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اس مکتوب کو صرف عبدالملک بن ولید بن معدان اپنے والد سے روایت کرتا

ہے اور وہ بالاتفاق ساقط الاعتبار الا احتجاج ہے۔ اس کا والد ثقاہت

میں اس سے بھی کم درجہ بلکہ ضعیف رواۃ میں وہ ضعیف تر شمار ہوتا ہے۔

اگر یہ مکتوب صرف اسی سلسلہ سے منقول ہوتا تو بھی ایک بابت تھی مگر یہ عبدالملک کے علاوہ ایک

اور سند سے بھی مردی ہے۔ امام احمد سے ایک اور طریقہ سے روایت کرتے ہیں۔ لہذا ابن حزم کا اس

مکتوب کو ایک سلسلہ سند کے اندر محصور کرنا صحیح نہیں۔ اگر وہ یہ بابت کہتے کہ ہمیں کسی اور سند کا علم نہیں تو

بھی آسے صحیح کہا جاتا مگر قیاس سے تعصب رکھنے کی بناء پر انہوں نے یہ ٹھکر کھائی۔ باوجودیکہ وہ حدیث

بنوی کے زبردست عالم اور جلیل الشان حافظ تھے۔ نہ عبدالملک ساقط الا احتجاج ہے اور نہ اس کا والد اس

سے ضعیف تر بلکہ بعض علماء نے اسے ثقہ قرار دیا ہے۔ اور قول راجح بھی یہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس

راوی کو بعض علماء نے صالح کہا ہے اسے ساتھ احتجاج نہیں کہہ سکتے۔

حضرت عمر کا یہ مکتوب گرامی جب ثقہ راویوں سے منقول ہے تو اس کے قبول کرنے سے چارہ نہ ہوگا۔ اس مکتوب سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے دینی جلالت کے باوجود نص کی عدم موجودگی کی صورت میں قیاس کو مباح کہا بلکہ اس سے اندر احتجاج کو واجب قرار دیا اور جس مسئلہ میں قاضی اپنا فیصلہ صادر کرے گا اس میں اجماع بھی منعقد نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ نبی حضرت عمر نے قیاس کو پسند کیا ہے تو جو شخص ان کی پسندیدہ کو نظر استحسان دیکھے گا وہ گمراہ نہ ہوگا۔ مزید برآں نص کی عدم موجودگی میں رائے اخذ و احتجاج کرنے کا جواز جلیل القدر صحابہ سے مروی ہے۔ ابن حزم بذات خود حضرت ابو بکر سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو بکر نے فرمایا۔

”نبی کریم کے بعد میں کے نامعلوم مسائل میں حضرت ابو بکر سے زیادہ کوئی نہیں ڈرتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ ڈرنے والے حضرت عمر تھے ایک حادثہ ایسا پیش آیا جس کا حل حضرت ابو بکر کو کتاب و سنت میں نہ مل سکا۔ انہوں نے اجتہاد کیا پھر فرمایا۔ یہ میری رائے ہے۔ اگر درست ہو تو تو توفیق ربانی ہے اور اگر غلط ہو تو اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے۔“

اس قسم کے الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے بھی منقول ہیں۔ یہ اثباتاً اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ دونوں جلیل الشان صحابہ رائے سے احتجاج کرتے تھے اور اس راہ کے سالک کو گمراہ تصور نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے فعل کو گمراہی سے تعبیر کرنے والا خود جادو مستقیم سے جھٹکا ہوا ہے۔

ابن حزم نے رائے کی ممانعت میں جو دلائل پیش کئے ہیں ان سے یہ مستفاد نہیں ہوتا کہ ہر رائے باطل ہے۔

مثلاً یہ آیت کہ میرے۔

مَا فَتَوَطَّنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۖ

ہم نے قرآن میں کوئی کمی باقی نہیں

چھوڑی۔

(الانعام-۲۸)

دو وجوہات کی بنا پر رائے کے منافی نہیں ہے۔

**وجہ اول:** قرآن کریم میں بہت سے احکام کلی ہیں جن کے تحت بہت سی جزئیات ہوتی ہیں۔ ان جزئیات کی پہچان لامحالہ رائے ہی سے ہوتی ہے۔ عقل کی بنا پر ہر زمانہ میں پیش آنے والے حوادث کا حکم نصوص قرآنیہ سے اخذ کیا جاتا ہے۔ بلاشبہ یہ رائے نصوص قرآنیہ کی ذات پر مبنی ہوتی ہے۔

**وجہ ثانی:** جن فقہاء نے رائے کو وسیع معنی میں لیا وہ قیاس، استحسان، مصالح اور ذرائع سے احتجاج کرتے ہیں۔ ذہن اپنے اقوال کی بنا نصوص کتاب و سنت پر رکھتے ہیں۔ قیاس، عمل علی النص کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ استحسان مصالح مرسلہ اور ذرائع ایک قسم کے قواعد کلیہ ہیں جو نصوص قرآن، اقوال رسول اور شریعت کے مصادر و موارد سے مستفاد ہوتے ہیں۔ فقہاء ان قواعد کی تطبیق کے وقت قرآن کریم کے سامنے سرنیزاز جھکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اجتہاد بالرائے اور مذکرۃ الصدر آیت کریمہ میں کوئی منافات نہیں۔

اسی طرح یہ آیت کریمہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَآلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ** (النساء - ۵۸) غیر منصوص احکام میں رائے کو منع نہیں کرتی۔ بلکہ اس کا

مقتضا یہ ہے کہ منصوص احکام میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے اور غیر منصوص مسائل کے سلسلہ میں کتاب و سنت میں غور و فکر کیا جائے اور ان سے قواعد عامہ کا استخراج کر کے ان کو تطبیق دی جائے۔ اسی کا نام فقہی رائے ہے اور بس۔ بنا بریں اس شخص کی رائے مناسب ہو سکتی ہے جو قرآن کی اس آیت میں رحمت غور و فکر گوارا کرتا ہو۔

ارشاد ہوتا ہے :-

اور جب امن یا خوف پر مشتمل کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو وہ اسے خوب پھیلاتے ہیں اور اگر وہ اسے رسول اور اصحاب امر کی طرف لٹا دیتے تو استنباط کرنے والوں کو اس کا پتلا چل جاتا اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے سے شامل حال نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذْعَبُوا بِهِ وَكَوُنُوا فِي الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّكَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ وَكَوُنُوا فِضْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ دَخَمْتُمْ لَاتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ آیات قرآنیہ میں تدبیر کرنا اور ان سے مسائل کا استنباط کرنا مطلوب و مقصود ہے۔ نیز یہ کہ کتاب و سنت کے زیر سایہ استدلال بالراشئ کرنے اور ان سے قواعد مقررہ اخذ کرنے کا نام استنباط ہے جو اصحاب الامر کا حصہ ہے اور وہ علماء ہیں جو استنباط احکام میں ماہرانہ بیہیریت رکھتے ہیں۔

رائے کی مذمت میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان سے مطلقاً رائے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی۔ مثلاً حدیث:-

لَا يُشْذَعُ الْعِلْمُ مِنْ صُدُورِ الْوَجَالِ  
علم لوگوں کے سینوں میں سے چھینا نہیں جائے گا۔

اس حدیث میں اس رائے کی مذمت بیان کی گئی ہے جو نصوص سے ماخوذ نہ ہو اور نہ ان پر مبنی ہو جو رائے نصوص سے ماخوذ ہوگی وہ کتاب و سنت سے مستنبط ہوگی۔ لہذا موجب ضلالت نہیں ہو سکتی۔

اب یہ بتانا ہمارے لئے ناگزیر ہے کہ ممنوع  
محدوح و مذموم رائے میں فرق و امتیاز ہے۔  
رائے کونسی ہے اور جائزہ کونسی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ

صحابہ کی ایک جماعت رائے سے احتجاج کرتی ہے۔ اور پھر وہی صحابہ ان لوگوں کی مذمت بیان کرتے ہیں جو رائے کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی کریم سے بھی منقول ہے کہ آپ نے بعض صحابہ کی رائے کو درست قرار دیا اور بعض کی مذمت فرمائی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مدح و تہنیت ایک ہی مقام پر وارد ہو رہی ہے۔ بلکہ ہر ایک کا ایک جداگانہ مقام ہے۔ طائرانہ نظر ڈالنے سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ جس رائے کو کبار صحابہ مثلاً حضرت ابو بکر و عمر و علی و ابن مسعود رضی اللہ عنہم نے جائزہ ٹھیرا یا وہ وہی رائے ہے جو نصوص کتاب و سنت پر بصورت قیاس حمل کرنے سے معلوم ہوئی ہو۔ یا کتاب و سنت کے قواعد عامہ مثلاً مصالح مرسلمہ، استحسان اور ذرائع سے ماخوذ ہر بشرطیکہ پیش آمدہ حادثہ کے بارے میں کوئی نص وارد نہ ہو۔ ایسی رائے قابل مدح ہے۔ یہ ایک فقہی ضرورت بھی ہے۔ جس کی طرف میلان و رجحان ضروری ہے۔ ایسی رائے نص سے خارج نہیں بلکہ ان کے مجموعہ میں شمار ہوتی ہے البتہ کبھی خاص نص میں محدود و مقصود نہیں ہے۔

دوسم کی رائے ممنوع ہے۔

۱۔ پہلی وہ رائے ہے جو نصوص پر مبنی نہ ہو اور نہ ان قواعد عامہ سے ماخوذ ہو جو نصوص سے

مستنبط ہوتے ہیں۔ اس کا ہمیشہ صرف خرابی نفس یا عقلی استحسان ہو۔ اس کا اعتماد

کسی ایسے مجبورہ قواعد پر بھی نہ ہو جس کا اثبات تمام نصوص شرعیہ سے ہوتا ہو۔

۲۔ ممنوع رائے کی دوسری قسم وہ ہے جو نفس کے خلالت ہو۔ اس کے ممنوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نفس کے جوتے ہوئے رائے کا کوئی مقام نہیں۔ کیوں کہ رائے ایک فقہی ضرورت ہے جس کی طرف اعتقاد نفس کی صورت میں رجوع کیا جاتا ہے۔ ہم نفس کو طرد کرتے ہیں جب وہ دستیاب نہیں ہوتی تو ناچار ہم احکام نصوص پر تیا س کرتے ہیں یا عام ثابت شدہ قواعد پر تطبیق دیتے ہیں۔

رائے کی مدح و قدح کے بارے میں صحابہ کرام اور انھنوں کے لئے کی کوئی قسم مدح نہیں ہے۔ سے جو متنازعہ اقوال منقول ہیں ان میں جمع و تطبیق دینے کے لئے علماء نے یہ توجیہ کی تھی کہ رائے کو دو اقسام میں منقسم کر دیا۔ مگر ابن حزم اس تطبیق کو پسند نہیں کرتے۔ وہ مطلقاً رائے کی نفی کرتے ہیں اور اس کی کسی قسم کو بھی جائز تصور نہیں کرتے فرماتے ہیں :-

”ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ مذہب صرف وہ رائے ہے جو کسی اصل پر ہو نہ ہو جس رائے کا فتویٰ ائمہ مذاہب نے دیا ہے وہ ایسی رائے ہے جو کتاب و سنت سے ماخوذ و مستنبط ہوتی ہے۔ ہم اپنے مخالفین سے کہیں گے کہ آپ کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اگر کسی سے اس کی سخت منقول ہو تو بات ٹھیک ہے ورنہ ہم کہیں گے کہ آپ نے صحابہ پر انرا پر ماری سے کام لیا۔ طلب و تحقیق کے بعد ہمیں کسی صحابی کے متعلق معلوم نہیں ہوا کہ وہ کتاب و سنت سے ماخوذ رائے اور رائے کے دیگر اقسام میں فرق کرتے ہوں۔“

یہ ہے ابن حزم کا زاویہ نگاہ! جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ممانعت رائے کی دونوں قسموں کو شامل ہے اور اس میں بنی علی النصوص یا غیر بنی رائے کی کوئی تمیز نہیں۔ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ صحابہ سے کوئی تخصیص منقول نہیں اور تخصیص کے لئے صحابہ کی تصریح کی ضرورت ہے۔ آخر ابن حزم اس کا انکار کیونکر کریں گے کہ حضرت ابو بکر نے اپنی رائے پر عمل کیا اور فرمایا اگر یہ درست

ہے تو خدا کی توفیق سے ہے اور اگر خطا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ اور میں خدا سے مغفرت چاہتا ہوں۔ پیرائے پر عمل کرنا نہیں تو ادر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول بھی اس کی مانند ہے۔ حضرت عمر کے افکار و آراء بھی مشہور و معروف ہیں۔ کیونکہ اسلامی فتوحات کے باعث اس دور میں نئے حوادث کثرت سے رونما ہوئے اور اجتہاد کی ضرورت پیش آئی۔ اگر نص صریح دستیاب نہ ہوتی تو آپ اس حادثہ کو اس کے اشبہ و نظائر پر مہمول کرتے۔

جب صحابہ کرام سے اخذ و احتجاج ایک یقینی امر ہے اور ان کرام سے منع کرنا بھی ثابت ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو ہم دونوں قسم کے اقوال کو ناقابل التفات قرار دیں گے اور یہ کسی طرح قرین قیاس نہیں۔ کیوں کہ صورت تعارض کی بنا پر احادیث کو ٹھٹھلا یا نہیں جا سکتا۔ بلکہ ایک حدیث کو دوسری پر ترجیح دی جائے گی یا جمع و تطبیق کی کوشش کی جائے گی۔

یا دونوں قسموں میں سے بلا دلیل ترجیح ایک قسم پر عمل کریں گے۔ یہ بھی ناموزوں ہے کیونکہ یہ ترجیح بلا ترجیح ہے۔ یا دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی جائے گی اور یہ تطبیق ہی قابل صدق و سوابد اور قرین عقل و دانش ہوگی۔ یہ عقلی بدیہیات کے قبیل سے ہے جسے ابن حزم علم النفس کہتے ہیں جو بدیہی ہونے کی بنا پر محتاج دلیل نہیں۔ لہذا جمع و تطبیق ہی قابل قبول ہوگی۔

ابن حزم جب کہ رائے کو بالکل تسلیم نہیں کرتے اور

ابن حزم کے نظریہ پر نقد و تبصرہ۔ قیاس و استحسان یا مصالح مرسلمہ میں سے کسی پر بھی

اعتماد نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ فقدان نص کی صورت میں وہ کونسا طریق کار اختیار کریں گے؟

خصوصاً جب کہ ایسے مسائل بھی تعداد میں کچھ کم نہیں۔ ابن حزم کے یہاں اس سوال کا جواب

یہ ہے کہ وہ مسئلہ کسی نص کے وار و ہونے تک اپنی اصلی حالت پر رہے گا۔ اسے استصحاب الحال

کہتے ہیں۔ ابن حزم اس نظریہ کو بنظر استحسان دیکھتے اور استدلال بالبراہین کی نسبت اسے اقرب الی الصواب

سمجھتے ہیں۔ جب کہ نص صریح موجود نہ ہو اور اصول منصوصہ میں سے کسی اصل پر باقواعد ثابتہ بالا جماع

میں سے کسی قاعدہ پر اس کا حمل ممکن ہو۔

میرا خیال ہے کہ اندر میں صورت اجتہاد بالرای اولیٰ و افضل ہے۔ کیوں کہ عقل و منطق کا

تقاضا یہی ہے یہ امر محتاج دلیل نہیں کہ اشبہ و نظائر کا حکم بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ جو حکم ایک

چیز کے لئے ثابت ہوگا وہی دوسری کے لئے ہوگا۔ اگر اصل و فرع کے مابین مشابہت کا تحقق ہو

جائے تو ان کا حکم بھی ایک ہوگا۔ اور یہ بدیہیات عقلیہ کا ایک طے شدہ قاعدہ ہے۔ اشیاء کا قانون

سادات اس بات کو واجب کرتے ہیں کہ ان کا حکم بھی ایک ہے۔ یہ عقلی بدیہیات میں سے ایک ایسی بات ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ صرف استحباب کے قاعدہ پر عمل کرنے سے بھی یہ اولیٰ و افضل ہے۔ سلف صالحین کا قاعدہ ہے کہ وہ احکام کی معرفت حاصل کرنے کے لئے طلب و تحقیق کو بہتر سمجھتے تھے۔

ابن حزم کا تسکب نصوص اور ان کے ظاہری مفہوم کو اخذ کرنا عجائب و غرائب کے ظہور کا موجب ہوا۔ انہوں نے یہاں تک کہ وہ یا کہ خنزیر کا بچا ہوا پانی پاک ہے۔ جب کہ کتے کے کسی برتن میں منہ ڈالنے سے برتن کی حالت مرتبہ دشوفا ضروری ہے ان میں سے ایک مرتبہ سے مٹی سے صاف کیا جائے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ابن حزم کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ نص کتے کے بارے میں دار و ہوئی ہے لہذا خنزیر کا بچا ہوا پانی اپنی اصلیت پر رہا۔

ابن حزم کا خیال ہے کہ حیوان کا بول خراہ رہا کتا ہو یا خنزیر پاک ہے اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ مگر انسان کے بول سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور اس سے وضو جائز نہیں۔ یہ بات ظاہری فقہاء کے عجائب میں سے ایک ہے۔

ان مسائل کی وجہ یہ ہے کہ اہل ظاہر نصوص کے پابند ہیں جب نص موجود نہ ہو تو وہ استحباب اطلاق کے قاعدہ کے پیش نظر اصلی حلت پر عمل کرتے ہیں۔ بلاشبہ وہ اجتہاد بالرائی جو اشیاء منماثلہ کو ایک حکم میں جمع کرے ظاہر نصوص پر عمل کرنے اور عقل کے احکام کو معطل کرنے سے افضل ہے جو مساری اشیاء کے لئے ایک ہی حکم ثابت کرتی ہے۔

جو اساس اس شد و ذفکری کی موجب ہوئی وہ یہ ہے کہ اہل ظاہر کے نزدیک شرعی احکام عقلی مصالح پر مبنی نہیں ہیں۔ فقہاء ظاہر کہتے ہیں کہ شرعی نصوص کی اساس عقل مطرودہ یا غیر مطرودہ پر نہیں ہے بلکہ عقلی تعلیل نصوص کی نفسی کرتے ہیں جس سے استنباط بالرائی کی عمارت ہی مہدم ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمارے لئے از بس ضروری ہے کہ ہم تعلیل نصوص اور اس کے ابطال کے بارے میں فقہاء ظاہر کے افکار و نظریات پر روشنی ڈالیں۔

# تعلیل نصوص

نصوص سے استخراجِ علیٰ فقہ اہل ظاہر اور جمہور فقہاء کے نابین و دوسرا بنیادی فرق  
تعلیل نصوص ہے۔ جمہور فقہاء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نصوص

معقولۃ المدنی ہوتی ہیں اور ان کے احکام ایسے اغراض و مقاصد کے لئے شروع ہوئے  
ہیں جن سے دین و دنیا کے احکام کی تنظیم وابستہ ہے۔ لوگ امن و سکون سے ان کی راہ پر راہ  
دراں رہتے ہیں۔ تمام نصوص سے ایسے قواعد کلیہ کا استخراج کیا جاتا ہے جن کے تحت بہت سی  
جزئیات ہوتی ہیں۔ انہی قواعد مستخرجہ سے جدید واقعات و حوادث کے احکام معلوم کئے جاتے  
ہیں۔ بہت سی نصوص قواعد کی تصریح کرتی ہیں اور بعض ان کی طرت مشیر ہوتی ہیں۔

مثلاً دفع حرج کا قاعدہ صریحاً اس آیت میں مذکور ہے۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج ۷۸)  
تم پر دین کے بارے میں تنگی نہیں

ضرورت کے قاعدہ کی جانب درج ذیل آیت اشارہ کرتی ہے۔

فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا  
إِثْمَ عَلَيْهِ • (البقرہ - ۱۷۳)  
جو مضطر ہو جائے مگر باغی یا حد سے تجاوز کرنے  
والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں

نیز یہ آیت:

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ  
(النحل - ۱۰۶)  
مگر جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان  
کے ساتھ مطمئن ہو

مترجمہ ذیل آیت الذرائع کے قاعدہ کی جانب اشارہ کرتی ہے۔

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ  
اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (الانعام ۱۰۸)  
جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں  
انہیں گالی نہ دودہ بغیر علم کے ہی نہ اڑو گالیاں  
دینے لگیں گے



اس آیت میں بتوں کو گالی دینا اس لئے ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ ان کو گالی دینا خدا کو گالی دینے کا ذریعہ ہے۔ تَعَا لَکَ مِنَ ذَٰلِکَ عَلَوًّا کَبِیْرًا۔

تفصیل نصوص کی بنا پر شریعت کا دامن تمام آنے والے احوال و اعداات کے لئے کھل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نصوص کی تعداد محدود ہے مگر حوادث و احوال غیر متناہی ہیں۔ لہذا قیاس کے لئے احکام عقولہ سے علیت کا معلوم کرنا ضروری ہوا۔ پس جو نصوص قواعد کی جانب مشیر ہیں یا ان میں قواعد کی صراحت پائی جاتی ہے ان سے قواعد کلیہ کا استنباط کرنا از بس ناگزیر ہے۔ یہ استنباط کردہ قواعد ایک ایسی مشعل فردزاں ہوں گے۔ جن کی جانب احکام شرعی کا ہر طالب جسے نص صریح نہیں مل سکے گی۔ طلب احکام کے لئے آئے گا۔

یہ جمہور فقہاء کا نقطہ نظر ہے جہاں تک ظاہر یہ کے زاویہ نگاہ کا تعلق ظاہر یہ کا زاویہ نگاہ ہے۔

ہے وہ کہتے ہیں نصوص اگرچہ بذات خود معقولہ المعنی ہیں یعنی ان میں ہندوؤں کی مصلحت کا خیال رکھا گیا ہے۔ مگر ہر نص اپنے موضوع کے دائرہ میں محدود ہے اس سے تجاوز نہیں کرتی۔ نہ اس سے علت کا استخراج کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ یہ اعتقاد رکھنا اپنی جگہ پر ضروری ہے کہ یہ دنیوی و آخری فلاح و بہبود کو ضامن و شامل ہے۔ خلاصہ کلام وہ شرائع و نصوص میں سببیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ الا یہ کہ سبب منصوص ہو۔ ابن حزم اپنے ادراہل ظاہر کے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

"ہم یہ نہیں کہتے کہ سبب احکام شرعیہ میں برابر سبب ہیں بلکہ ان میں سے سبب وہی ہیں، جن کا سبب ہونا منصوص ہو۔ اس کے ماسوا سبب احکام مشیت ایزدی پر مبنی ہیں، نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے نہ حلال کرتے نہ اس میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ ہم صرف وہی بات کہتے ہیں جو اللہ اور رسول نے کہی۔ نہ اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں نہ ذرا عجز کو چھوڑتے ہیں اسی کا نام دینِ خالص ہے جس کی مخالفت کسی کے لئے جائز نہیں نہ اس کے سوا کسی چیز کا اعتقاد ضروری ہے وباللہ التوفیق۔

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:-

لَا یَسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَہُمْ یَسْئَلُونَ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں

کی جاتی اور لوگوں سے باز پرس کی جاسکتی ہے۔

(الانبیاء، ۲۳)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اس کے اور بندوں کے درمیان کیا فرق ہے۔

ارشاد ہوا کہ اس کے کاموں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام کیوں نہ کیا؟ جب اس کے احکام و افعال کے بارے میں سوال کرنا درست نہیں تو سب اسباب و علل باطل ٹھہرے۔ سوائے اس کام کے جس کی علت خود واضح کر دی ہو۔ خدا سے علت بھی دریافت نہیں کی جاسکتی۔ کسی بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ خدا سے پوچھے ایسا کیوں ہوا؟ نہ کوئی یہ دریافت کر سکتا ہے کہ فلاں چیز کیوں سبب بنایا اور فلاں کو کیوں نہ بنایا؟ کیوں ایسا کہنے والا خدا کا نافرمان ہے اور وہ الحاد کا مرتکب ہوتا ہے۔

یہ ہیں ابن حزم کے ارشادات اس مسئلہ میں کہ نصوص شرعیہ ظاہریہ کے نظریہ پر نقد و نظر۔  
 کے علل سے بحث نہیں کی جاسکتی۔ ان کا اعتماد اس ضمن میں متذکرہ آیت کریمہ پر ہے۔ جب خدا کے افعال معلل نہیں تو شریعت کی کوئی بات بھی معلل نہیں ہو سکتی اور نہ کسی نص کی علت سے بحث کی جاسکتی ہے۔ کیوں کہ نص کی علت سے بحث کرنا بیعتہ اس طرح ہے جیسے خدا کے افعال کی علت تلاش کرنا اور یہ دونوں باتیں بقضائے آیت مذکورہ نادرہ ہیں۔

اہل ظاہر کا یہ نقطہ نگاہ محل فکر و تامل ہے۔ بلاشبہ ذات خداوندی اپنے اعمال و اقوال کی بنا پر کسی کے سامنے جرابدہ نہیں۔ کیوں کہ وہ احکام لٹاکین ہے۔ اور سب پر غالب ہے کسی سے مغلوب نہیں ہند کوئی شخص اس کے افعال کی علت معلوم کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔

اب سوال یہ ہے کہ آیا نصوص شرعیہ کی علت دریافت کرنا بھی منع ہے؟ میرا خیال ہے کہ نصوص شرعیہ اور افعال باری تعالیٰ کی علت میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ نصوص شرعیہ کی علت سے اس لئے بحث کی جاتی ہے کہ ان کا مطلوب و مقصود معلوم کیا جائے۔ مثلاً جو شخص تحریم خمر والی آیت کی علت تلاش کرتا ہے وہ اس نتیجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ آیت کا دامن کتنا وسیع ہے اور علت کی بنا پر ظاہری الفاظ کے دائرہ سے کہیں آگے بڑھ کر حرمت سے متعلق ارادہ الہی کا نفاذ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص نابالغ لڑکی کی مالی ولایت کی علت دریافت کرتا ہے اسے آیت کے شتملات اور عموماً کا بخوبی پتا چل جاتا ہے۔ علت کو جاننے والا شخص ہر ایسے موقع پر ارادہ خداوندی کی تکمیل کرنا چاہتا ہے جہاں بھی نص کے معنی و غایت کا تحقق ہوتا ہو۔ فقہاء کرام جب حدیث ربانہ میں نص کی علت معلوم

کرنے کے درپے ہوتے ہیں مثلاً حدیث

الْبُؤْبُؤُ بِالْبُؤْبُؤِ مَثَلًا بِمَثَلٍ يَدًا بِيَدٍ ۵

دگندم کے عوض گندم برابر برابر دست بدست  
توان کا مقصد یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ نص کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے۔ نیز وہ یہ چاہتے ہیں کہ  
شارع کے ارادہ کو مکمل طور پر نافذ کر سکیں۔ جو شخص نصوص کے علل کو اس لئے تلاش کرتا ہے  
تا کہ ان کے حدود و اطلاق کا جائزہ لے سکے وہ خدا کو اپنے سامنے جواب دہ تصور نہیں کرتا بلکہ اس  
کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نصوص کے وسیع اور عام معنی کے مطابق بندوں کی مسئولیت کا دائرہ متعین  
کر سکے۔ ظاہر ہے کہ خدا کے افعال کی علت دریافت کرنے اور تعلیل نصوص کے مابین بڑا فرق پایا جاتا  
ہے۔

ابن حزم اس بات کے قائل ہیں کہ شارع کے مقاصد و اغراض کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔ مگر اس  
کے لئے نص شرعی کی ضرورت ہے۔

فرماتے ہیں:-

”خوب جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال و احکام کے تمام اسباب رد کئے  
جانے کے قابل ہیں۔ سوائے ان اسباب کے جن کی صراحت اللہ و رسول سے  
منقول ہو۔ جہاں تک خدا کے افعال و احکام کی غرض و غایت کا تعلق ہے تو غرض وہی  
ہوتی ہے جو ظاہری نظر میں ان سے مفہوم و مستفاد ہوتی ہو۔ بعض احکام کی غرض  
صرف عوام الناس کی عبرت پذیری ہوتی ہے۔“

مندرجہ بالا بیان سے جمہور فقہاء

جمہور فقہاء اور اہل ظاہر کے درمیان نقطہ اختلاف :- اور اہل ظاہر کے نقطہ ہائے

نظر کی وضاحت ہو گئی۔ یا بالفاظ موزوں تر فریقین کا محل نزاع و نقطہ اختلاف متعین ہو گیا۔ جمہور  
فقہاء یہ کہتے ہیں کہ نصوص احکام کی علت سے دینی و دنیوی امور کی تنظیم ہوتی ہے۔ نص کی  
عدم موجودگی کی صورت میں استدلال بالرائی بھی تعلیل ہی پر مبنی ہے۔ اس کے عین برعکس ظاہر یہ  
تعلیل نصوص کے قائل نہیں۔ بلکہ علت کو تلاش کئے بغیر نصوص پر عمل کرتے اور نص کے حکم کو جہاں نص  
وارد نہیں ہوئی وہاں نہیں لے جاتے۔

فریقین کے نقطہ ہائے نظر کی توضیح و تشریح ہم پر واجب ہے۔ کیوں کہ اس سے اسلامی فقہ کا ایک اہم گوشہ کھل کر سامنے آجائے گا۔

**تعلیلِ نصوص کی اہمیت و ضرورت**۔

جمہور فقہاء جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نص کی عدم موجودگی کی صورت میں فروعاً احکام پر عمل کیا جاتا ہے یہ فروعاً ان قواعد سے اخذ کئے جاتے ہیں جو احکام سے مستنبط ہوتے ہیں۔ مثلاً مصالحِ مرسلہ یا استحسان یا کسی خاص نص پر تیس کرنے سے انہیں معلوم کیا جاتا ہے۔ ان کا قول ہے کہ شرعی احکام لوگوں کی مصلحت کے لئے وارد ہوئے ہیں۔ جو خاص حکم ہوتا ہے وہ کسی خاص مصلحت کے لئے وارد ہوتا ہے مثلاً تحفظِ نفس، عقل، دین، ناموس یا مال۔ یہ بات شریعت کے تمام مقاصد سے عیاں ہے۔ شریعت کا جو حکم ہوگا، وہ کسی ایسی ہی مصلحت پر مشتمل ہوگا جس شخص کا یہ گمان ہو کہ شریعت مصالحِ عباد کو ملحوظ نہیں رکھتی وہ فہم شریعت سے قاصر ہے اور یہ بات اس کے قصور و فہم کی آئینہ دار ہے۔ نصوص کے تنوع و استقرار سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ جو شخص احکامِ مخصوصہ میں سے کسی حکم کے بارے میں فکر و تامل سے کام لے گا تو اس پر یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ ہر حکم ان پانچ امور میں سے کسی ایک پر منتج ہوتا ہے۔

جب شریعت کا میلان اس جانب ہے تو اس عام مقصد کے حصول کے لئے نصوص کی علت دریافت کرنا ضروری ہوا۔ بنا بریں جمیع احکام شریعہ اس غرض و غایت کو پورا کر رہے ہوں گے جن کی طرف ہمیں ایز و متعال نے متوجہ فرمایا۔ تعلیلِ نصوص کا میلان و رجحان صرف استقرار ہی کا نتیجہ نہیں ہے۔ بلکہ شارع حکیم نے ہمیں اس طرف متوجہ فرمایا۔ چنانچہ آیاتِ قرآنیہ حکم کو ذکر کر کے اس کی علت پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ خود قرآنی آیات سے نصوص کا مصلح ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح بعض احادیث نبویہ بھی علت کی جانب مشیر ہیں۔ بلکہ بعض اوقات علت و حکمت کی تصریح کرتی ہیں۔

**تعلیلِ نصوص کے قرآنی دلائل**۔

جو آیاتِ قرآنیہ علت حکم یا اس کی ایسی حکمت کو متفقین ہونے کی بنا پر جو علت کی جانب مشیر ہو قاری کو تعلیل نصوص کی جانب متوجہ کرتی ہیں ان میں سے چند ایک آیات یہ ہیں۔

۱۔ مثلاً مندرجہ ذیل آیات میں ادیان سابقہ کے قصاص کا حکم بیان کیا۔ اس سے قبل حضرت آدمؑ کے دونوں بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا جن میں سے ایک نے اپنی قربان قبول نہ ہونے کے باعث اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔

ارشاد ہوتا ہے :-

”اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا کہ جو شخص بلاوجہ کسی کو قتل کرے یا زمین میں فنا و بپا کرے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کو قتل سے بچا لیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو زندہ رکھا۔“

یہ آیت کریمہ مشروعیت قصاص کی حکمت و مصلحت پر روشنی ڈالتی ہے۔

اسی طرح یہ آیت :-

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ (البقرة ۱۷۹) تمہارے لئے قصاص میں زندگی پائی

جاتی ہے۔

یہ آیت اس امر پر روشنی ڈالتی ہے کہ قصاص کی بنا پر انسانی زندگی میں امن و سکون کے آثار

پیدا ہو جاتے ہیں اور کوئی کسی پر ظلم و زیادتی کی جسارت نہیں کرتا۔

۲۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبینی زبید کی بیوی زینب سے نکاح کی ترغیب دلاتے

ہوئے فرمایا۔

لَكِنِّي لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَوْبٌ

تاکہ مومنوں پر ان کے لئے پالک بٹوں کی بیویوں

کے بارے میں کوئی تنگی نہ ہو جب کہ وہ اپنی

فِي أَنْوَاجِ آذِ عِيَاءِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ

ضرورت ان سے پوری کر لیں۔

(الاحزاب - ۳۷)

وَظُرًا

مذکورہ بالا حکم کو متلل کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ احکام خاص اغراض کے تحت مشروع

کئے گئے ہیں۔

۳۔ مالِ غنیمت کے بارے میں فرمایا :-

”جنگ کئے بغیر جو مال اللہ تعالیٰ اہل دیہات کی طرف سے آنحضرت کو دلوادیں رہا اللہ

رسول اٹار ب بیٹیوں، مکینوں اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ وہ تمہارے

دولت مند لوگوں ہی میں نہ گھومتا رہے۔“

اس آیت میں واضح کیا کہ مالِ غنیمت کی یہ عارلانہ تقسیم اس لئے کی جا رہی ہے کہ وہ مال دولت مند

لوگوں ہی میں گردش نہ کرتا ہے اور فقراء تک نہ پہنچ سکے۔

۴۔ ارشاد ہوتا ہے :-

فِي ظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا وَاحْرَمْنَا عَلَيْهِمْ

اپنیوں کے ظلم کے باعث ہم نے جو پاکیزہ چیزیں ان پر

طَبَيَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُنَّ (النساء - ۱۶۰) حلال نہیں حرام کر دیں)  
مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر بعض طَبَيَاتِ حَرَامِ کرنے کی وجہ ان کی حرص اور ظلم و تعدی تھی۔  
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو حلال سے بھی محروم کر دیا گیا تاکہ انہیں جملہ محرمات سے کٹ رہ کش  
رہنا پڑے۔

یہ آیات قرآنی مسلمانوں کی توجہ اس امر  
تعلیلِ نصوص کی تائید میں احادیث نبویہ پر کی جانب مبذول کرتی ہیں کہ احکام شرعیہ  
علل و اسباب پر مبنی ہیں جن کی طرف خداوند کریم خود اشارہ فرماتے ہیں اور ہمیں اس حکم  
کی حکمت سے آگاہ کرتے ہیں جس سے اس علت کی معرفت حاصل ہوتی ہے جو اکثر حالات  
میں اس حکمت کی موجب ہوتی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ تعلیلِ نصوص خود قرآن سے ثابت ہے اور  
خدا نے علیم و حکیم نے اس کی تعلیم دی ہے۔

بعض احادیث نبویہ بھی حکمت احکام پر روشنی ڈالتی اور ان کی علت کی جانب اشارہ کرتی ہیں  
مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کی ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کی وجہ بیان فرمائی اور  
ذخیرہ اندوزی کو مباح فرمایا۔ آپ نے فرمایا گوشت کی ذخیرہ اندوزی ایک قوم کی وجہ سے منع کی گئی  
تھی، جو مدینہ منورہ میں وارد ہوئی تھی اگر گوشت کا ذخیرہ کر لیا جاتا تو وہ لوگ گوشت کھانے سے محروم  
رہ جاتے، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث نبوی سے استفاد ہوا کہ جب گوشت کھانے والے  
فقراء موجود ہوں تو اس کی ذخیرہ اندوزی ناروا ہے۔ حدیث میں "دافہ" کا ذکر ہے۔ "دافہ" اس جماعت  
کو کہتے ہیں جو زاہد راہ کے بغیر ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہو۔ جب ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کی وجہ ایسے محتاجوں  
کا وجود ہے تو ان کی عدم موجودگی کی صورت میں ذخیرہ اندوزی مباح ہوگی اور اسی طرح حکم وجود و ادو  
عدا علت کے ساتھ دائر ہوگا۔

جن احادیث سے تعلیل احکام پر روشنی پڑتی ہے ان میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان  
بھی ہے۔

اذن اس لئے طلب کیا جاتا ہے کہ داخل ہونے  
والا گھر والوں کو دیکھ لے

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنَ لِجَلِّ الْبَصْرِ

اس حدیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے لئے اجازت اس لئے حاصل کی جاتی ہے کہ داخل ہونے والا کسی ایسی چیز سے آگاہ نہ ہو جس سے اس کا باخبر ہونا درست نہیں۔ کیونکہ وہ اسے مستور و محبوب ہے اور اس کا کشف و اظہار مناسب نہیں۔

یہ ہر دو احادیث اس بات کی آئینہ دار ہیں کہ آنحضرتؐ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ نصوص معلل ہوتی ہیں ہر حکم میں کوئی علت ضرور ہوتی ہے۔ احکام کی معرفت اس لئے حاصل کی جاتی ہے کہ ان کے مصالح سے آشنائی پیدا کی جائے، جو شارع حکیم کا مطلوب و مقصود ہیں۔ نیز اس لئے کہ نصوص شرعیہ کو وسیع ترین عموم سے ہم آہنگ کیا جائے اور ان کے اقطبی غایات کو حاصل کیا جائے۔ جو شخص نصوص سے علل دریافت کرنے کے درپے ہوتا ہے وہ خدائے علیم و خبیر کی تعلیمات کا پیرو ہے۔

یہ جمہور فقہاء کا نقطہ نظر تھا جو نصوص کو دو قسموں میں منقسم نصوص تعبیدی و غیر تعبیدی کرتے ہیں۔

۱۔ نصوص تعبیدیہ وہ ہیں جو علت کو قبول نہیں کرتیں مثلاً کفارات جن کے لئے عبادت کی ایک خاص مقدار مقرر ہے۔ مثال کے طور پر تین دن یا ساٹھ دن کے روزے اور اسی قسم کی دیگر نصوص عبادات پاوہ نصوص جن کے مختص بالرسول ہونے پر دلیل قائم ہو چکی ہے۔

۲۔ نصوص کی دوسری قسم نصوص غیر تعبیدیہ ہے جن کے مختص ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو۔ ان کے احکام معلل ہوتے ہیں اور ان کی علتیں مقام نص سے تجاوز کر کے دوسری جگہ بھی پہنچ جاتی ہیں۔

نصوص کی یہ قسم قیاس کی نفی کرنے والے اصحاب ظواہر اور جمہور فقہاء کے مابین متنازع فیہ ہے جو رائے کو ایک ناگزیر فقہی ضرورت قرار دیتے ہیں۔ اصحاب ظواہر نے اس رائے سے بے نیازی کا اظہار کیا اور ایک ایسی رائے میں گرفتار ہوئے جو قیاس نیز استحسان مصالح مرسلہ ذرائع اور عرفت ایسے اصول عامہ پر مبنی رائے کی نسبت دین کے لئے زیادہ ضرر رساں ہے۔

ابن حزم نے فقہاء کے ذکر کردہ دلائل کے تفصیلی جوابات فقہاء کے دلائل کی اجمالی تردید۔ دیئے۔ وہ تمام دلائل کا جواب یہ دیتے ہیں کہ شارع نے

ان اسباب کی صراحت کر دی ہے۔ لہذا یہ اسباب منصوص ہیں اور ہم نص کو ہر قیمت پر قبول کرتے ہیں۔ وہ آخر میں لکھتے ہیں:-

”ہم ایسی نصوص کے پائے جانے سے انکار نہیں کرتے، جن میں احکام کو اسباب منصوصہ پر مبنی قرار دیا گیا ہو، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان حدود کو غیر کی طرف متعدی

کرنا درست نہیں اور ان احکام کو دہاں لے جانا ناروا ہے۔ جہاں یہ وارد نہیں ہوئے۔  
 نہ ہم ایسے اسباب کو گھڑنا پسند کرتے ہیں جن کا حکم خدا نے نہیں دیا۔  
 بنا بریں اہل ظواہر کی نگاہ میں یہ نصوص تعلیل احکام کی طرف مؤدبی نہیں۔ اہل ظاہر کہتے ہیں کہ  
 ان نصوص میں اپنی اپنی جگہ اسباب کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ مگر ان کا حکم دوسری جگہ تجاوز نہیں کرتا بلکہ  
 ایسی جگہ مقصود و محدود رہے گا۔ جہاں اسے ذکر کیا گیا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اسباب اور ان کے متعدی  
 ہونے کی طلب و تلاش کا سلسلہ ہی سرے سے ترک کر دیا جائے۔  
 فرماتے ہیں۔

"خدا تعالیٰ جب ایک چیز کو کسی جگہ کسی حکم کا سبب بنا دے تو وہ صرف وہیں سبب بنے گی  
 اور ملزوم سے تجاوز کر کے کسی اور جگہ سبب قرار نہیں پائے گی۔"

یہ جمہور فقہاء کی ذکر کردہ آیات و احادیث کی اجمالی تردید تھی۔ ابن حزم  
 تفصیلی تردید :- فقہاء کی پیش کردہ آیات میں سے ہر ایک کا فرداً فرداً جواب دیتے ہیں  
 تعلیل نصوص کے سابقہ دلائل کے علاوہ فقہاء یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں۔ جس میں اللہ تعالیٰ شراب  
 قمار کی حرمت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

شيطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور قمار بازی  
 کے باعث وہ تم میں بغض و عداوت پیدا کرے  
 اور تمہیں ذکر خداوندی اور نماز سے روک دے  
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ  
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ  
 عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ  
 مُنْتَهُونَ - (المائدہ - ۹۱)

اب ہم بیان کریں گے کہ اس آیت میں جو علت بیان کی گئی ہے اور جس سے فقہائے تعلیل  
 نصوص پر استدلال کیا ہے۔ ابن حزم اس کا کیا جواب دیتے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آپ کی تردید  
 فقہاء کا طرز و انداز کیا ہے۔ ابن حزم ارقام فرماتے ہیں۔

"یہ دلیل مختلف وجوہ کی بنا پر ان کے مفید مطلب ہونے کے بجائے ان کے خلاف ہے۔"

۱۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ حصول مال و جاہ ذکر الہی اور نماز سے زیادہ روکنے والا اور شراب و قمار  
 کی نسبت بغض و عداوت کو زیادہ پیدا کرنے والا ہے، تاہم وہ حرام نہیں۔ اور اپنی حالت پر باقی رہا حالانکہ



بیان کردہ علت کی بنا پر اسے حرام ہونا چاہیے) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا: "میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بلکہ اس امر سے خائف ہوں کہ ملک فتح کئے جائیں گے اور تم ان میں اُلجھ جاؤ گے۔ اور یہ تمہاری ہلاکت کا موجب ہو گا۔ جس طرح اہم سابقہ تباہ و برباد ہو گئیں، یہ آپ کا حقیقی مطلوب و مقصود تھا۔ مباد کہ کوئی جاہل یہ بات کہے دے کہ ہم اپنی مرضی اور رائے سے ایک بات کہہ دیتے ہیں یا نبی کریم کے ارشاد فرمانے کے بغیر ہم اسے آپ کی جانب منسوب کر رہے ہیں۔"

مزید برآں حرمتِ قمار سے قبل ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ اس سے عداوت پیدا ہوئی ہو یا کسی شخص کی عقل جاتی رہی ہو۔ بلکہ اس کے برعکس قمار بازی عربوں کے موافق اور مفید مطلب تھی۔ اسی طرح شراب میں بھی کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی جو آیت میں مذکور ہو۔ اس کے پیتے سے سب کے اخلاق میں فساد بھی رونما نہیں ہوتا۔ بلکہ بہت سے لوگ شراب پی کر رونے لگتے ہیں، موت اور آخرت کو بکثرت یاد کرتے، جہنم سے ڈرتے، خدا کی تعظیم بجالاتے اپنے گناہوں سے تائب ہوتے اور بخشش مانگتے ہیں۔ حالتِ نشہ میں وہ دوسروں کی تکمیل بجالاتے ہیں ان کے ہوش و حواس قائم رہتے ان کی سقاہت و حماقت کا نور ہو جاتی ہے اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہمارے ان بیانات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شیطان کے جن ارادوں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے وہ شرابِ قمار کی حرمت کا سبب نہیں بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے از خود بلا سبب حرام قرار دیا۔ حالانکہ شراب سولہ سال حلال رہ چکی تھی۔ اگر حرمتِ شراب کا سبب نانا اور ذکرائی سے روکنا، بغض و عداوت کا پیدا کرنا ہوتا شراب کبھی بھی حلال نہ ہوتی۔ کیوں کہ نشہ اس میں ہمیشہ رہا اور شیطان بھی ہمیشہ سے بغض و عداوت پیدا کرتا رہا تاہم شراب حلال رہی۔ حالانکہ اس وقت بھی وہ ان صفات کی حامل تھی۔ لہذا یہ بات بے بنیاد ہے کہ اس کا نشہ اس کی حرمت کا سبب ہے۔ مشروب کا نشہ نہ حرمت سے قبل موجب تحریم تھا اور نہ اس کی حرمت کا حکم نازل ہوتے وقت۔ آیت میں صرف شیطان کے ارادوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ارادے اس کی حرمت کی علت یا سبب ہیں۔ کس انسان کے لئے یہ بات روا نہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ایسی خبر لے جو خود اس نے بیان نہیں فرمائی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر روشنی ڈالی۔ یہی ہمارا قول ہے کہ ملحوظ صرف نص کو رکھا جاتا ہے نہ کسی اور چیز کو۔

فقہاء نے تعلیلِ نصوص اور علت  
 ابن حزم کا نظریہ تنقید و تبصرہ کی نگاہ میں۔ احکام پر استدلال کرتے ہوئے جن قرآنی آیات  
 سے استشہاد کیا تھا یہ ہے ان کی تردید کا ایک نمونہ ابن حزم کے قلم سے اب اس پر غور و فکر  
 کرنا ہمارا حق ہے کہ آیا ابن حزم کا یہ بیان قرین حق و صواب ہے یا ان کے شدید گروہی تعصب  
 کا اٹھینہ دار ہے، جس کے پیش نظر وہ ایک ناقابل تردید بات کی تردید کرتے اور ایک غیر مستحسن فعل  
 کا اقدام کرتے ہیں؟

اب ہم ابن حزم کی تردید فقہاء کے وجوہ میں سے ایک ایک وجہ کو بیان کرتے ہیں اور ان  
 کی تردید کرنے سے پیشتر جمہور فقہاء کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔

فقہاء نے آیت خمر و میسر رقمار بازی کو علت احکام کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ اس کی  
 دلیل یہ ہے کہ مذکورہ صدر آیت اور اس کے اشیاء و امثال میں جہاں کسی بات کا حکم دیا گیا ہے  
 یا کسی بات سے روکا گیا ہے وہاں علل احکام کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خمر و میسر کی  
 حرمت کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ ان سے بغض و عداوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔

ابن حزم وجہ اول کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ بغض و عداوت تحریم خمر کی موجب نہیں ہو سکتی۔ اس کی  
 وجہ یہ ہے کہ بغض و عداوت تو کسب و تجارت اور کثرت مال سے بھی پیدا ہوتے ہیں حالانکہ ان میں  
 سے کوئی چیز بھی حرام نہیں۔

یہاں ٹھہر کر ہم قدرے غور و فکر سے کام لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کسب مال اکثر اوقات میں  
 بغض و عداوت کا موجب نہیں ہوتا۔ بلکہ اکثر تاجر ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور باہم  
 ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ البتہ باہم رشک ضرور پیدا ہو جاتا ہے جو بعض اوقات  
 عداوت کا موجب بنتا ہے مگر ایسے واقعات بکثرت رونما نہیں ہوتے۔ اگر ان کی کثرت ہوتی بھی ہے تو  
 تجارت کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے وجوہ و اسباب کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف شراب و قمار  
 سے بذاتِ خود عداوت پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں تجارت ضروریات زندگی میں سے ایک ہے  
 اور لوگ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے اور اس میں بڑا فائدہ بھی ہے۔ تجارت و صنعت کے بغیر عمرانی نظام  
 چل ہی نہیں سکتا۔ لہذا تجارت کی بنا پر اگر کبھی رقابت و منافست پیدا ہو بھی جائے تو اس کے فوائد و منافع  
 کے پیش نظر وہ قابل برداشت ہے۔ یوں بھی ہر چیز میں نفع و ضرر کے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔  
 تحریم و تحلیل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں میں سے غالب پہلو کون سا ہے جس کا نفع غالب ہوگا۔

وہ مباح اور مطلوب ہوگا اور جو غالب الفرر ہوگا اسے حرام ٹھہرایا جائے گا۔  
 جب بلا عداوت تجارت کا امکان ہوگا تو عداوت حرام ہوگی اور تجارت مباح بالجزم و مطلوب بالکل  
 ہوگی مقصد یہ ہے کہ تبادل احوال اور ترقی اقتصاد کے پیش نظر تجارت سے چارہ نہیں۔  
 ابن حزم نے جو حدیث نقل کی ہے وہ اس موقع پر بے تعلق ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں  
 کو فقر و فاقہ سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ باہم مل جل کر اپنے نفوس و عزائم کو تقویت دیتے  
 ہیں اور ناز و نعمت میں بڑھ کر تن آسانی کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ البتہ کثرت فتوحات سے خطرہ لاحق  
 ہوتا ہے کہ مسلمان کہیں عیش و کوشی اور خوشحالی کی زندگی میں مبتلا ہو کر ہوا و ہوس کی بھاگ دوڑ کے میدان  
 میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ کیونکہ اس طرح ان کی قوت و شوکت اور رعب و داب  
 جاتا رہے گا۔

آیت نحر و میر سے فقہاء نے تعلیل نصوص پر جو استدلال کیا  
ابن حزم کی ذکر کردہ وجہ ثانی :- تھا اور ابن حزم نے اس کی جو تردید کی اس کی یہ پہلی وجہ تھی  
 اس پر تبصرہ ہو چکا۔ ابن حزم اس کے بطلان کی دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قمار بازی کبھی عداوت  
 کی موجب نہیں ہوتی۔ نہ حرمت کے بعد اور نہ اس سے پہلے۔ ابن حزم کا یہ قول بڑا  
 تعجب خیز ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قمار بازی سے بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے مگر ابن حزم خدا کی  
 بیان کردہ خبر میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں۔ قمار بازی کے متعلق آئے دنوں یہ مشاہدہ کیا جاتا  
 ہے کہ یہ بغض و عداوت کی موجب ہے اور اس سے لوگوں میں خرابی اور قلق و اضطراب رونما  
 ہوتا ہے۔ اگر عربوں میں یہ فسادات ظاہر نہ تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو بڑا سا وہ ہوتا تھا اور  
 اس سے مقصود اس دور میں کسب مال نہ تھا۔ بلکہ جس اونٹ کا گوشت قمار باز حاصل کرتا تھا اسے  
 صدقہ کر دیتا تھا۔ اس کے بعد قمار بازی کے دائرہ میں بڑی وسعت پیدا ہوئی۔ مختلف احوال و ادوار  
 میں قمار بازی کی کئی قسمیں ہو گئیں اور اسے کسب مال کا ذریعہ بنایا گیا، جس سے بغض و عداوت کی آگ بھڑکنے  
 لگی اور قمار باز کی زندگی اجیرن بن کر رہ گئی۔ جس میں قرار و اطمینان کا نام بھی نہیں پایا جاتا۔ خدا کا فرمان بالکل بجا ہے۔  
 عصور مختلفہ میں قمار بازی کا ظہور و تنوع اور عربوں کے یہاں اس کا عدم و قرع صداقت  
 قرآن اور اس کے عامۃ الناس کے لئے پیغام رشد و ہدایت ہونے کا بین ثبوت ہے۔  
 ابن حزم کا کلام اس مقام پر ان کے شایان شان نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اس قول کا موجب ان  
 کا گروہی تعصب ہے جو انسان کو اندھا اور پرہنا دیتا ہے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

ابن حزم کی ذکر کردہ وجہ ثالثہ۔  
 قلیل مقدار موجب سُکر نہیں اس سے عداوت بھی پیدا

نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض مخمور آدمی رونے لگتے ہیں اور ان کے دل خوفِ خداوندی سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کی تردید میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حرمت کی علت بیان نہیں فرمائی بلکہ اس کی حکمت پر روشنی ڈالی ہے۔ حکمت میں تخلف کا بھی امکان ہوتا ہے۔ جب کہ علت میں تخلف درست نہیں۔ لہذا ابن حزم کے قول سے فقہاء کی تردید نہیں ہوتی کیونکہ فقہاء کا یہ دعویٰ نہیں کہ حرمتِ خمر کی حکمت بکثرت اور ہمیشہ پائی جاتی ہے تاکہ ان پر اعتراض کیا جاسکے کہ اس میں تخلف کیسے پیدا ہوا؟ حرمتِ شراب کی وجہ وہ تخریرِ کسل مندی اور تکدیرِ حواس ہے جو قلیل و کثیر شراب میں پائی جاتی ہے۔ تخریرِ انسانی ضمیر کو غالب آنے سے روکتی ہے۔ بہر کیف کچھ بھی ہو شراب کی کثرت ان کو مڑو کر دیتی ہے اور انسان کے احساسِ خیر اور شر سے اثر پذیر ہونے کے جذبہ کو کمزور کر دیتی ہے۔ وہ نشہ کی حالت میں ایسے امور کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے جو حالتِ صحو میں اور بقائمی ہوئیں جو اس کبھی نہ کرتا۔

نشہ کی حالت میں رونے کی وجہ وہ انفعالات و تاثرات ہیں جو مخمور میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے اس کی باطنی عقل جاگ اٹھتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب شراب کثرت سے پی جائے اور اس کے نتیجہ میں حواس معطل ہو جائیں۔ ایسا انسان اگر کسی حادثہ کا شکار ہو چکا ہو تو اس کی باطنی عقل جو اس کے تحت الشعور میں پوشیدہ ہوتی ہے جاگ اٹھتی ہے اور اس کے افعال سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے یا اس کی رحمت کا طالب ہے۔ بلکہ اس کے برعکس اس کے ذہنی آلام و محن جو تحت الشعور میں فحشی ہوتے ہیں، حواس کی گمشدگی کے وقت معرضِ ظہور میں آ جاتے ہیں۔

یہ ابن حزم کی ذکر کردہ تیسری وجہ تھی۔ اس سے جمہور فقہاء کے  
تردید فقہاء کی چوتھی وجہ ہے۔ اس نظریہ کی تردید نہیں ہوتی کہ قرآن کریم نے بعض احکام کی

حکمتیں بیان کی ہیں جن سے ان کے علل کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ نصوصِ معلکہ میں، ہر حکم کی ایک علت ہوتی ہے جو خدا کے ارادہ کو مفید و محدود نہیں کرتی بلکہ اس کے احکام کی عمومیت کو واضح کرتی اور عقلِ انسانی کی حد تک خداوند تعالیٰ کے مقاصد پر روشنی ڈالتی ہے۔ فقہاء کے قول کو رد کرنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ شراب کی حرمت انحصار کی بعثت کے سولہ سال بعد نازل ہوئی۔ اس سے قبل حلال تھی اور سب تک لوگ شراب پیتے تھے۔ اگر حرمتِ خمر کا سبب ذکر اللہ

نماز سے روکنا اور بغض و عداوت پیدا کرنا ہوتا تو وہ ہمیشہ حرام ہوتی اور کبھی حلال نہ ہوتی۔ یہ ابن حزم کے کلام کا خلاصہ ہم دو طرح سے اس کی تردید کرتے ہیں۔

۱۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جو سبب حرمت مذکور ہے وہ تحریم خمر کی حکمت ہے، جو علت کی جانب مشیر ہے مگر علت نہیں بیان کردہ حکمت کا ہر جگہ پایا جانا شرط نہیں البتہ اکثر احوال میں ضرور پائی جاتی ہے۔ آغاز اسلام میں چونکہ مومنین اولین بڑے قوی الایمان تھے۔ لئے ان کا تقویٰ اور خداوندی شراب کے مضرات پر غالب آجایا کرتا تھا۔ شرعی احکام تمام انسانوں لئے نازل کئے گئے ہیں تاکہ ہر شخص اپنے اپنے حال کے مطابق ان پر عمل پیرا ہو۔

بایں ہمہ ان صلحائے امت سے بھی بعض ایسے افعال صادر ہوئے جو بغض و عداوت کے موجب۔ مثال کے طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کے اولین مجاہد تھے، نشہ سے سرشار ہو کر حضرت علی کی ناقہ کو ذبح کر دیا جب کہ آپ اسے تیار کر کے جنگل سے لکڑیاں لانے جا رہے تھے کہ انہیں جنت کر کے اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر ادا کر سکیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے مخاطب ہوئے تو وہ بولے "تم سب میرے والد کے غلام ہو۔ اس واقعہ میں وہ اس لئے پیدا نہ ہو سکی کہ نشہ سے صرف ایک ہی فریق (حضرت حمزہ) سرشار تھا آنحضرت حضور تھے اور نہ آپ نے ان کی باتوں کو چہاں اہمیت دی۔ آپ سید الخلق اور سب لوگوں سے زیادہ ہم دربار تھے صحابہ کرام میں سے جو لوگ لطیف المزاج تھے وہ سمجھتے تھے کہ شراب نوشی اسلامی اصولوں سے ہمراہنگ نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔

اللَّهُ بَيْنَ لَنَا فِي الْخَيْرِ بَيَانًا شَافِيًا  
دائے اللہ شراب نوشی کے بارے میں کوئی  
قطع فیصلہ فرما

۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل کرنے سے پیشتر خداوند کریم نے ات قرآنیہ میں فرمادیا تھا کہ شراب نوشی ایک غیر مستحسن فعل ہے اور مومن کے لئے شایان شان نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب حلال نہ تھی جیسا کہ ابن حزم کا دعویٰ ہے البتہ شراب نبی پر گنہگار نہیں کی جاتی تھی۔ اسلامی شریعت کا نزول تدریجاً ہوا یا تھا یہ کیونکر ہو سکتا تھا کہ شراب بہ یک جنبش لب حرام قرار دیا جاتا جب کہ عرب اس سے مانوس تھے اور اسے نیکی کا کام سمجھتے تھے کیونکہ شراب سے آدمی میں بھڑو و سخاوت کا جذبہ ابھرتا ہے۔ تین مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے شراب کی مذمت بیان کی ہے۔

الف) رسالت محمدیہ کے آغاز میں شراب کی مذمت پر مشتمل آیت نازل ہوئی۔ مثلاً سورہ النور میں جو سچی سورت ہے ارشاد ہوا۔

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ (النحل - ۶۷)

انگور اور کھجور کے پھلوں سے تم نشہ اور عمدہ رزق تیار کرتے ہو۔

اس آیت کریمہ میں خمر کو رزقِ حسن کے بالمقابل ذکر کیا۔ ظاہر ہے کہ جو چیز حسن کے بالمقابل وہ حسن (عمدہ) نہیں ہو سکتی۔

ب) دوسری تفسیر اس آیت میں فرمائی۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا آثَةٌ كَبِيرَةٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ (البقرہ - ۲۱۹)

اُپ سے شراب قمار کے بارے میں پوچھا ہے آپ فرمادیں کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فوائد بھی ہیں۔

حضرت عمرؓ جیسے لوگوں نے اس آیت سے حرمت کا حکم سمجھ لیا تھا۔ باوجودیکہ حرمت صراحتاً مذکور نہ تھی۔ اس لئے کہ جس چیز میں زیادہ ضرر ہوگا وہ حرام کیونکر نہ ہوگی۔

ج) تیسری تفسیر یہ فرمائی کہ نشہ کی حالت میں نماز سے منع کر دیا۔ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ۔ (النساء - ۴۳)

اے ایمان والو! نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس وقت تک نماز نہ ادا کرو جب تک تمہیں یہ نہ معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔

اس آیت میں حرمت کی طرف واضح اشارہ کیا گیا ہے۔ بلکہ عملی طور پر اس آیت کی بنا پر شراب نوشی کا انسداد ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ صبح کی نماز پڑھے بغیر کوئی شخص شراب نہیں پئے گا۔ پھر صبح کے وقت بھی شراب پینے سے احتراز کرے گا۔ مبادا ہوش میں آنے سے قبل ظہر کا وقت آجائے علیٰ ہذا القیاس شراب نوشی کے لئے اسے فارغ وقت مل سکے گا۔ اس تفسیر کے ہوتے ہوئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ شراب حلال تھی البتہ بعض محققین مثلاً شاطیہی الموافقات میں لکھتے ہیں کہ آغاز اسلام میں شراب حلال تھی اور پینے والے پر گرفت نہیں کی جاتی تھی البتہ نہ پینے والا اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا تھا۔

یہ ایک نمونہ ہے ابن حزم کی تردید فقہاء کا جس میں انہوں نے تعلیلِ نصوص پر استدلال کیا ہے۔ ہم نے اس کا مالہ، دعا علیہ بیان کر دیا۔ ہمارا خیال ہے کہ ابن حزم اس ضمن میں جاوہِ حق و صواب پر نہ تھے اس بیان کو ختم کرنے سے قبل ہم پر واجب ہے کہ ابن حزم اور اصحابِ ظاہر کا نقطہ نظر واضح کریں۔ کیونکہ ظاہری فقہ کی اساس اسی پر رکھی گئی ہے۔ اصحابِ ظاہر جو رائے کے جملہ اقسام کی نفی کرتے اور قیاس، مصالحِ مرسلمہ اور استحسان کو باطل ٹھہراتے ہیں، اس کا مدار و انحصار بھی اسی ایک نظریہ پر ہے۔

تعلیلِ نصوص کے بطلان پر ابن حزم کے ولاتل :- ابن حزم تعلیلِ نصوص کے بطلان کی پہلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ اپنے افعال کی بنا پر کسی کے سامنے جواب دہ نہیں اور تعلیل سے اس کا مسئول ہونا لازم آتا ہے حالانکہ بنا برص وہ اس سے منزہ ہے۔

پہلی دلیل بہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ تعلیلِ نصوص کی معرفت شارع کے مقاصد کو معلوم کرنے کے لئے حاصل کی جاتی ہے نہ کہ اسے مسئول ٹھہرانے کے لئے۔

دوسری دلیل :- بطلانِ تعلیل کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم کے مقابلہ میں اپنے آپ کو اس لئے افضل قرار دیا تھا۔ کہ وہ آگ سے مخلوق ہے اور حضرت آدم مٹی سے اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ اگر علت کا شریعت میں کوئی مقام ہو تا تو ابلیس کی بیان کردہ علت قبول کر لی جاتی۔ اور حضرت آدم اس درخت کا پھل کھانے میں معذور قرار دئے جاتے کیوں کہ آپ عافیت کی علت سے نا آشنا تھے۔

تیسری دلیل :- تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر شریعت کی نگاہ میں علت قابل قبول ہوتی تو مشرکین فقراء کو نہ دینے کی جو وجہ بیان کرتے تھے وہ قبول کر لی جاتی۔ وہ کہتے تھے :-

”کیا ہم ان لوگوں کو کھانا دیں کہ جنہیں اگر خدا تعالیٰ کھانا دینا چاہتے تو دے دیتے“

مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر عتاب فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علت مقبول نہیں۔

چوتھی دلیل :- ابن حزم بطلانِ تعلیل کی چوتھی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خداوند کریم نے صراحتاً فرمایا ہے کہ یہود کے مظالم کے باعث خدا نے ان پر طیبات کو حرام قرار دیا۔ مظالم کا صدور تو یہود کی

طرح ہم سے بھی ہوا ہے، علت کے تقاضا کی بنا پر واجب تھا کہ اس نص کو وہاں متعدی کر دیا جاتا جہاں علت پائی جاتی اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہم پر بھی لہیات کو حرام کر دیا جاتا۔

یہ خلاصہ ہے ابن حزم کے دلائل کا! ہم نے دلیل اول کی تردید اپنے موقع پر کر دی تھی۔ اور بتا دیا تھا کہ یہ دلیل اپنے مقام پر نہیں اور نہ یہ مسئلہ متنازعہ فیہ ہے۔ اس دلیل میں انفعال خداوندی کی تعلیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ مسئلہ زیر بحث تعلیلِ نصوص کا معلوم کرنا ہے تاکہ شرعی مقاصد کی معرفت حاصل کی جائے۔

ابن حزم کی دوسری اور تیسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ اہلیس ابن حزم کے دلائل کی تردید۔ اور مشرکین کی بیان کردہ علت ناسدہ ہے۔ انکار اصل علت

کا نہیں کیا جاتا بلکہ اس بات کا کہ اہلیس کی تعلیل مبنی بر صند تھی۔ اس نے اس عنصر کو جس سے اس کی تخلیق ہوئی تھی فضیلت کی اساس قرار دیا تھا اور اس بات کو مطلقاً بھول گیا کہ فضیلت دینا خلاق عالم کا کام ہے اور اس نے حضرت آدم کو فضیلت عطا کی تھی۔ لہذا اس فضیلت کے بعد عنصر تخلیق پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ کیوں کہ اس نے جس کو افضل قرار دیا وہ اس کی مخلوقات کا ایک فرد تھا۔ اس نے ہر مخلوق کے لئے ایک عنصر کو منتخب کر رکھا ہے اور اسی سے وہ اس مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔

تیسری دلیل میں مشرکین نے تقدیر کو عدم عطا کی علت قرار دیا تھا اور یہ نہ جان سکے کہ تو نگر شخص اس بات کا مکلف و مامور ہے کہ وہ محتاجوں کو اسی طرح فقراء کو مصائب پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ لہذا ان کا سوال تکلیف کا موجب ہے اور تکلیف کی علت نہیں ہے

جہاں تک ابن حزم کی دلیل چہارم کا تعلق ہے اس کی اساس یہ ہے کہ علت کو اس لئے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ جہاں بھی علت موجود ہو وہاں اس کا حکم ثابت کیا جائے۔ ان کے قول کا مقصد یہ ہے کہ جس مقام پر کتاب و سنت کی کوئی نص موجود نہ ہو وہاں اس علت کے باعث حرمت ثابت ہو جائے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔

آج کے دن تم پر پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا گیا۔

أَلْيَوْمَ مَا حَلَّلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ

اہل کتاب کا کھانا تمہارے لئے حلال کیا گیا

الذَّيْنِ أَدْوَأَلِكُمْ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ

اور تمہارا کھانا ان کے لئے حلال کیا گیا

(المائدہ - ۵)

حَلَّ لَكُمْ

حالانکہ تعلیلِ نصوص کی دعوت دینے والے جن کا دعویٰ ہے کہ جہاں نص موجود نہ ہو وہاں علت



کی بنا پر ان کا حکم نافذ ہو جاتا ہے اس طرح نہیں کہتے۔ کیوں کہ وہ تعلیل کے بل بوتے پر کسی حکم کو وہاں نہیں لے جاتے جہاں نص موجود ہو۔

مزید برآں انقطاع رسالت و نبوت کے زمانہ میں امت محمدی اور بنی اسرائیل کی حالت یکساں نہیں ہے۔ خداوند کریم کا نازل کردہ قرآن رزق قیامت تک ہم پر محبت ہے۔ اگر کسی زمانہ میں بھی ہم اپنی پیش رو قوم بنی اسرائیل کی راہ پر گامزن ہوں تو اس میں کوئی ایسا مادی و مرشد ضرور ہو گا جو ہمیں کتاب خداوندی کی جانب بلائے گا۔ اور سنت نبوی کی راہ دکھائے گا۔

جیسا کہ حضرت علی کا ارشاد ہے کائنات ارضی ایسے مرشدین سے کبھی خالی نہیں رہتی۔ اخصوٰرہ کا ارشاد ہے۔

”تم اہل کتاب کی راہ پر چلو گے اور اگر وہ کسی گمراہی میں داخل ہوئے ہوں گے  
تو تم بھی ضرور داخل ہو گے۔“

اخصوٰرہ نے یہ بھی فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اذیتناک پر ایک ایسے شخص کو بھیجتے رہیں گے۔ جو دین کی تجدید  
کا کام انجام دے گا۔“

جب ہم سابقہ اقوام کی راہ پر گامزن ہوں گے تو خدا ہی ہمیں بچائے کہ ہم حرص و ظلم کے مرتکب نہ  
ہوں۔ جس کا علاج طببات کو حرام کر کے کیا جاتا ہے۔

میں اس سے بڑھ کر یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ فرمان خداوندی ”حَرَّمْنَا عَلَيْكَ طِبِّبَاتٍ اُحْدَثَتْ  
لَهُمْ“ اس بات کی جانب مشیر ہے کہ ہر مومن کو اپنا علاج خود کرنا چاہیے۔ اگر مومن کسی وقت محسوس  
کرے کہ وہ شہوات کی جانب مائل ہے اور اس کا علاج اسی راہ سے ممکن ہو کہ وہ اس انحراف  
سے بچنے کے لئے مباحات سے بھی گریزاں ہوں تو اسے ایسا کہ گزرنا چاہیے۔ اور یہ اسی طرح ہو گا جیسے کوئی  
شخص محرمانہ سے بچنے کے لئے شہوات سے بھی احتراز کرے، کیونکہ ہر شخص چرک گاہ کے ارد گرد گھومتا ہے  
اس سے چرک گاہ میں داخل ہونے کی توقع کی جاتی ہے۔

جمہور فقہاء جو فقہانِ نص کی صورت میں اجتہاد بالرائی

فریقین میں نکتہ فرق و امتیاز :- کو واجب قرار دیتے ہیں ان میں اور اہل ظاہر میں جو اس

کی نفی کرتے ہیں یہی نکتہ فرق و امتیاز ہے۔ اہل ظاہر اس سے ایک قدم بڑھ کر یہاں تک کہتے ہیں  
کہ استدلال بالرائی زیادتی فی الدین اور خدائی حدود سے تجاوز کرنے کے مترادف بلکہ خدا پر اتر پڑا ہوا ہے۔

کیونکہ اجتہاد کرنے والے ان لوگوں کے زمرہ میں شمار ہوتے ہیں جو مندرجہ ذیل آیت کی ہنی سے دانستہ خروج کرتے ہیں۔

فرمان باری تعالیٰ ہے :-

وَلَا تَقُولُوا لِلْبَاطِلِ إِنَّا تَصِفُكَ الْكُذِّبُ  
هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَمْ يَخْتَفِرُوا عَلَيَّ  
اللَّهُ الْكُذِّبُ - (النحل - ۱۱۶)

دہماری زبانیں جس دروغ گوئی سے کام لیتی ہیں ان کے بلے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم خدا پر بھڑٹ باندھنے لگو۔

فریقین میں نکتہ فرق و امتیاز تفسیر نصوص ہے اور بس۔ جو لوگ استنباط کی شاہراہ کو محدود کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ تفسیر نصوص کو تسلیم نہیں کرتے جس سے خود بخود قیاس کی نفی ہو جاتی ہے۔ وہ استحسان مصلح مرسلا اور ذرائع کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ جو استنباط و استخراج میں وسعت کے خواہاں ہیں وہ تفسیر نصوص کا باب وا کر دیتے ہیں اور ہر نص کو محمل قرار دیتے ہیں سوائے ان نصوص کے جو عبادات سے تعلق رکھتی ہوں یا ان کے بلے میں کوئی ایسی دلیل موجود ہو کہ ان کا حکم ان سے تجاوز نہیں کرتا۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر تفسیر نصوص کو تسلیم نہ کیا جائے تو یہ فقہ اسلامی میں وسعت پیدا ہوتی ہے نہ

لوگوں کی مشکلات کے ازالہ کا کوئی امکان باقی رہتا ہے اور نہ ان قواعد فقہیہ کی تخریج کی جاسکتی ہے جو متفرق مسائل کو جمع کرتے ہیں۔ تفسیر ہی وہ سبب و وجہ ہے جس کی بنا پر فروع و عادت مختلفہ میں نصوص عامہ سے اخذ کردہ عمل کی بنا پر ربط پیدا کیا جاتا ہے یا نص خاص سے علت خاص کا استخراج کر کے اس سے ربط کا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ تفسیر ہی کے بل بوتے پر فقہ کا سرچشمہ چھوٹا بلکہ تفسیر کا نام ہی فقہ ہے۔ یا یوں کہتے کہ یہ فقہ کا مغز ہے۔ جو لوگ تفسیر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں وہ فقہ کے دروازوں پر تالے لگانا چاہتے ہیں۔ پھر لطف یہ ہے کہ اگر تفسیر کا باب مسدود کر دیا جائے تو اسالیب استنباط میں سے کوئی چیز اس کی قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ آخری سہارا پھر استصحاب الحال ہی کو بنایا جاسکتا ہے۔ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ استصحاب الحال کے نظریہ کو قبول کرنے کا نتیجہ کیا ہوا۔ تفسیر کی فرض و غایت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ شارع حکیم کی نصوص کے مقاصد و غایات کی معرفت حاصل کی جائے۔ جو اس سے منع کرتا ہے وہ ایک کشادہ دروازہ کو تنگ کر دینا چاہتا ہے اور عقل انسانی کو روکتا ہے کہ وہ شریعت خداوندی میں غور و فکر کر کے تمام نصوص کا احترام بحال لاتے ہوئے نئے حوادث سے شریعت کو ہم آہنگ کر سکے۔ خواہ وہ

نص قرآنی ہو یا حدیث نبوی ہو یا قول صحابی کیونکہ صحابہ نبی کریم کی مشعلِ فروزاں سے مشتیر تھے۔  
خداوند کریم ہمیں فکرِ تدبیر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔

حَلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (غور کیجئے کہ آسمان و زمین میں کیا ہے)  
(یونس ۱۱)

علاوہ انہیں دیگر آیات قرآنیہ جو فکرِ تدبیر اور حکمت و تامل کی دعوت دیتی ہیں۔ جب اس نے  
قرآن میں ہمیں آیاتِ کونییہ میں غور کرنے کی دعوت دی ہے تو نصوص میں غور و فکر کرنے کی دعوت بالآدلی  
دی ہوگی۔ تاکہ ہم نصوص کے عام و خاص مقاصد کا استخراج کر سکیں۔ کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے اور دین  
سلام بھی فطری دین ہے۔

جمہور فقہاء اور منکرینِ رائے یعنی اصحابِ ظاہر کے درمیان اس حدِ فاصل کی نشان دہی کرنے  
کے بعد اب ہم رائے کے مختلف اقسام یعنی قیاس، استحسان، مصالح، مُرسلہ اور ذرائع کے بارے میں کلام  
ابن حزم کی مختصر تشریح و توضیح کریں گے۔

# قیاس

ابن حزم کا انداز کلام قیاس کے بارے میں اس شخص ایسا ہے جو اس حقیقت قیاس سے انکار کرتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رائے کی کسی قسم کو بھی تسلیم نہیں کرتے، قیاس رائے کی اولین قسم ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں۔

”متاخرین اصحاب فتویٰ میں سے کچھ لوگ دین میں قیاس کی کو صحت مانتے ہیں۔

ان کا قول ہے کہ ایسے مسائل و حوادث آئے دنوں ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں جن کا کتاب و سنت میں کوئی ذکر نہیں نہ ان پر اجماع قائم ہوا ہے۔ ہم کتاب و سنت میں ان کے ایشاہ و امثال کو دیکھتے ہیں، اور جہاں نص یا اجماع نہیں ہوگا، وہاں وہی حکم صادر کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ دونوں میں علت حکم ایک ہی ہوتی ہے لہذا ہم ایک ہی حکم لگا دیتے ہیں۔ جملہ ماہرین اصحاب قیاس جن میں شوائع اور احناف بھی شامل ہیں یہی کہتے ہیں۔ حنیفہ و مالکیہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یک گونہ مشابہت کی بنا پر دونوں کو ایک ہی حکم میں شریک کر دیا جاتا ہے۔“

ابن حزم کا یہ بیان اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ ان کے نزدیک متاخرین اصحاب فتویٰ دین میں قیاس کو جائز تصور کرتے ہیں۔ ابن حزم کی یہ بات بڑی حیرت آفریں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام مالک ابو حنیفہ شافعی احمد بن حنبل اور ان کے اصحاب و تلامذہ کو متاخرین اصحاب فتویٰ میں شامل کرتے ہیں اور ان کو متقدمین میں شمار نہیں کرتے۔ اس سے ان کا مقصد قاری کو اس وہم میں مبتلا کرنا ہے کہ قیاس متاخرین کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ اور متقدمین اس کے قائل نہ تھے۔ حق بات یہ ہے کہ قیاس قبل ازین موجود تھا کیوں کہ وہ اجتہاد بالرائے کا رفیق و انیس ہے بلکہ اس طبعی مسلم قاعدہ پر مبنی ہے کہ وہ امور جو باہم ملتے جلتے ہوں ان کا حکم بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ مساوات فی الحکم حقیقی مساوات اور حکم کو راجب کرنے والے امر کی مساوات کی فرع ہے۔

قیاس اور اجتہاد بالرائے ایک ہی دور کی پیداوار ہیں۔ بلاشبہ امام ابو حنیفہ کے گرامی قدر استاد و عماد

اور ابراہیم نخعی قیاس کرتے تھے کیوں کہ وہ رائے سے اجتہاد کرنے کے عادی تھے۔ پھر قیاس متاخرین کی بدعت کیونکر ہو سکتی ہے؟ اس کے برعکس وہ ایک ایسا منہج و مسلک ہے جو متقدمین میں عام طور سے معروف تھا۔

**قیاس میں بناء اختلاف :-** ابن حزم کہتے ہیں کہ فقہاء قیاس کے بارے میں یک زبان تھے۔ جمیع اجاب شافعی کے نزدیک اصل و فرع کے علت حکم میں مشترک ہونے کا نام قیاس ہے۔ بعض حنفیہ اور مالکیہ بھی ان کے ہمنوا ہیں۔ دوسروں کا خیال ہے کہ اصل و فرع کا علت میں مشترک ہونا ضروری نہیں بلکہ کسی قسم کی مشابہت و مماثلت بھی پائی جاتی ہو وہی کافی ہے خواہ علت میں اشتراک موجود نہ ہو۔

یہ اختلاف دراصل حقیقت قیاس میں نہیں اور نہ اس ضمن میں ہے کہ قیاس میں اصل و فرع کا اس وصف میں مشترک ہونا واجب ہے جسے علت حکم تسلیم کیا گیا ہو۔ بلکہ اس اختلاف کا معنی علت کا طریق استنباط و استخراج ہے۔

جمہور حنفیہ کا قول ہے کہ اصل و فرع کا اس وصف میں شریک ہونا ضروری ہے، جسے اصل میں اساس حکم قرار دیا گیا ہو یا اسے جنس اصل میں اساس حکم فرض کیا گیا ہو۔ یا اس کی جنس کو جنس حکم قرار دیا گیا ہو اور اسی طرح کے دیگر اقوال جو اس وصف کے بارے میں کہے گئے جسے علت حکم تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر مسئلہ زیر بحث میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے تو وہ اصل مشارکت یا اصل قیاس میں نہیں بلکہ علت کے طریق استخراج اور اس وصف کی پہچان میں ہے، جس کے ساتھ حکم وجوداً وعدماً وابترہ ہوتا ہے۔

**قیاس سے متعلقہ امور کا مختصر جائزہ :-** پھر ابن حزم تائیلین قیاس کے مطابق اس کے اقسام بیان کرتے ہیں۔ بعد ازاں قیاس اور اخبار

احادیث مرسل کے مابین معارضہ پر ردشنی ڈالتے اور اس میں علماء کے افکار و آراء بیان کرتے ہیں۔ قیاس پر عمل کرنے والے ائمہ دین کے حالات بیان کرتے ہوئے ہم نے ان کی تفصیلات ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد ابن حزم وہ دلائل بیان کرتے ہیں، جن سے قیاس کا اثبات ہوتا ہے۔ اور پھر اپنے مخصوص انداز میں ان کی تردید کرتے ہیں۔ اثبات قیاس میں فقہاء کے ذکر کردہ دلائل

کو شور و شغب سے تعبیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”اصحابِ قیاس نے یونہی شور مچا رکھا ہے اور چند ایک باتیں بڑے شد و مد سے بیان کرتے ہیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کردہ دلائل کی تردید کریں گے اور بعونہ تعالیٰ ان کا بطلان ثابت کریں گے۔ پھر ابطالِ قیاس پر روشن دلائل پیش کریں گے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔“

ابن حزم پھر اصحابِ قیاس کے دلائل پیش کر کے ان پر نقض وارد کرتے ہیں۔ جس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہم صرف وہ دلائل پیش کریں گے۔ جو انہوں نے ابطالِ قیاس کے ضمن میں ذکر کئے اور کہا کہ یہ بڑے روشن دلائل ہیں ان دلائل سے ان کے فقہی منہج و مسلک کا پتا چلتا ہے اور یہی ہماری نگاہ میں اہم ہیں۔

ابن حزم نے ابطالِ قیاس کے

ضمن میں جو دلائل ذکر کئے ہیں

## ابطالِ قیاس کے دلائل ابن حزم کی نگاہ میں :-

ہم ان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

**پہلی دلیل :-** خداوند کریم نے شرعی احکام نازل فرمائے ان میں سے جس چیز کا امر فرمایا اسے واجب کہتے ہیں۔ جس سے منع کیا، وہ محرمات ہیں جیسے نہ منع کیا اور نہ اس کا حکم دیا وہ مباحات اور حلال ہیں۔ محرمات اور مامورات کے بارے میں نصوص وارد ہوئی ہیں۔ باقی اشیاء اپنی اصل اباحت پر قائم ہیں۔ جو شخص اس کے بعد قیاس یا غیر قیاس کی بناء پر کسی چیز کو واجب ٹھہرائے تو اس نے وہ کام کیا جس کا خدا نے حکم نہیں دیا۔ جس نے بدن نص کس چیز کو حرام قرار دیا تو وہ بھی غیر شرعی فعل کا مرتکب ہوا۔

**دوسری دلیل :-** اصحابِ قیاس اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جہاں نص موجود ہو وہاں قیاس کی ضرورت نہیں۔ قیاس کی ضرورت وہاں لاحق ہوتی ہے جہاں نص نہ ہو۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نصوص ہمہ احوال و حوادث کو شامل نہیں وہ مندرجہ ذیل آیات کی خلاصہ و رزی کرتا ہے۔

۱۔ الاحکام ج ۷ ص ۵۶۔

۲۔ الاحکام ج ۸ ص ۲۔

قرآن میں ارشاد ہوتا ہے :-

الْيَوْمَ اكْتُمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتُمْتُمْ  
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ، (المائدہ - ۳)

آج میں نے تمہارے دین کو کا مل کر دیا  
اور تمہاری نعمت کو پورا کر دیا)

نیز فرمایا :-

لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ  
(النحل - ۱۰۴)

تاکہ آپ لوگوں کے لئے اس چیز کو واضح کر دیں  
جو ان کی جانب اتاری گئی ہے،

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ الوداع کے موقع پر فرمایا :-

"اے اللہ میں نے تیرے احکام لوگوں تک پہنچا دئے۔ لوگوں نے کہا ضرور!  
تب آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہ۔"

ان دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ نصوص شرعیہ حملہ مسائل پر مشتمل ہیں پھر قیاس کی ضرورت  
کیا ہے؟

**تیسری دلیل** :- ابطال قیاس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ جہاں نص نہ ہو وہاں قیاس کو اس  
وصف پر مبنی قرار دیا جاتا ہے، جس کو اصل منصوص علیہ اور فرع منصوص کے مابین علت حکم تصور  
کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس وصف کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر نص کو اس کی دلیل تسلیم کیا جائے تو  
فرع کا حکم نص سے ماخوذ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس کو قیاس نہیں کہتے۔ اور اگر نص یا اجماع  
سے ماخوذ نہ ہو تو پھر کہاں سے اخذ کیا گیا؟ اس عقده کو حل کئے بغیر ترک کر دینا ذات خداوندی  
کے شایان شان نہیں۔ کسی شخص کے لئے یہ حلال نہیں کہ اسے خدا کے دین کی طرف منسوب کرے  
جس نے اپنے رسول کی زبان پر ہر بات کو واضح کر دیا۔

چوتھی دلیل :- چوتھی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم نے مسلمانوں کو مامور فرمایا کہ خدا اور رسول جس بات کو  
ذکر کریں اس کی کرید نہ کریں۔ ان نصوص فرماتے ہیں :-

"جب تک میں کوئی چیز بیان نہ کروں، اس کے متعلق سوال نہ کیجئے۔ گزشتہ اقوام  
انہی سے زیادہ سوال کرنے اور اختلافات کرنے کی بنا پر ہلاک ہو گئیں۔ جب میں کسی

لئے الاحکام ص ۴  
لئے الاحکام ص ۵

بات کا حکم دوں تو امکانی حد تک اس کی تعمیل کیجئے اور جب کسی بات سے منع کروں  
تو اس سے کنارہ کش رہئے۔

مذکرۃ الصدر حدیث اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ جس مسئلہ کے بارے میں کوئی نص موجود نہ  
ہو تو بندے کے لئے یہ زیبا نہیں کہ اسے قیاس سے حرام ٹھہرائے یا بنا برقیاس اسے ضروری قرار دے  
ورنہ وہ خدا کی شریعت میں زیادتی کرنے والا ہوگا۔ اور اس حدیث صحیح پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ  
پانچویں دلیل یہ ابطال قیاس کے بارے میں کثرت سے صریح آیات قرآنیہ وارد ہوئی ہیں  
مثلاً یہ آیات۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ  
يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (الحجرات - ۱)  
اے ایمان والو خدا و رسول سے آگے نہ بڑھو۔  
لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الاسراء - ۳۶)  
جس بات کا آپ کو علم نہیں وہ مت کہئے

مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ  
(الانعام - ۳۸)

ہم نے قرآن کریم میں کوئی کئی باقی نہیں  
چھوڑی

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ  
لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا - (النحل - ۷۸)

خدا نے تمہیں شکم مادر سے پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہ  
جانتے تھے

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ  
آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ - (البقرہ - ۱۲۹)

جیسے ہم نے تم میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا  
جو تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ تمہیں پاک  
کرتا ہے اور کتاب و حکمت کا درس دیتا ہے اور تمہیں  
وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہ تھے

مذکرۃ الصدر آیات اور ایسی دیگر آیات اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہیں کہ دینی علم وہی ہے جو  
اللہ تعالیٰ ہمیں سکھائیں اور جو اس کی کتابوں اور رسولوں سے منقول ہو دین میں قیاس زنی ایک ایسا علم  
ہے جو خدا کی راہ سے نہیں پہنچا اور نہ اس نے اس کا حکم دیا۔ لہذا وہ شیطانی علم ہے۔ خداوند کریم  
شیطان لعین کے بائے میں فرماتے ہیں۔



انما یا مؤکف بالشوء والفتشاء وان تقولوا علی اللہ مالا تعلمون - (البقرہ - ۵۶۹)

وہ برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم

خدا کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہ ہو

ابن حزم فرضی مخالفین کو چشم تصور کے سامنے رکھ کر ان کے اعتراضات پیش کرتے اور پھر خود ہی جواب دیتے ہیں۔ ہم نے ان کے ذکر کردہ دلائل کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ یہ دلائل انہوں نے اسی تیز و تند قلبی جنگ کے دوران ذکر کئے تھے۔

ابن حزم کے دلائل کی اساس یہ ہے کہ نصوص میں ہر چیز کا بیان موجود ہے اور نص و اجماع سے ثابت ہے جس میں کسی اہواز کا امکان نہیں۔ منہیات بھی ثابت شدہ ہیں اور ان میں بھی اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ مبایعات کے قبیل سے ہے۔ اس لئے نہیں کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے بلکہ اس لئے کہ جو اشیاء ممنوع نہیں ہیں، نصوص سے ان کی اباحت ثابت ہوتی ہے ابن حزم فرماتے ہیں:-

"شریعت کے تمام احکام از اول تا آخر میں اقسام میں منقسم ہیں۔ چوتھی کوئی قسم نہیں۔

۱- پہلی قسم کے فرائض ہیں جن پر اعتقاد رکھنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔

۲- محرمات ہیں جن سے قولاً و عملاً کنارہ کش رہنا ضروری ہے۔

۳- تیسری قسم حلال ہے جس کا کرنا اور نہ کرنا مباح ہے۔

مکروہ اور مندوب مبایعات میں داخل ہیں جیسا کہ قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ کیوں کہ مکروہ کا فاعل گناہگار نہیں ہوتا اور اگر اسے گناہگار تسلیم کیا جائے تو مکروہ کو حرام قرار دینا پڑے گا۔ البتہ مکروہ کو ترک کرنے والا اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ مندوب کا تارک گناہگار نہیں ہوتا۔ اور اگر اسے گناہگار کہیں تو مندوب فرض ہو جائے گا۔ البتہ اس کا فاعل اجر پاتا ہے۔ تمام مسلمانوں کے اجماع کے مطابق یہ شریعت کے اقسام ہیں۔ نیز اس لئے کہ صحیح تقسیم میں یہ بھی ضروری ہے کہ عقل سموع و منقول دلائل کی طرف رجوع کرتی ہے اور ایسے شرعی دلائل موجود ہوں۔ جب اس میں شبہ باقی نہیں رہتا تو یہ فرمان باری تعالیٰ بھی سن لیجئے، فرمایا:-

خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرہ - ۲۹)

تمہارے لئے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین

میں ہے

نیز فرمایا:-

قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا

اس نے حرام اشیاء کو واضح کر دیا سوائے ان چیزوں

مَا اضْطُرُّدْتُكَ إِلَيْهِ - (الانعام - ۱۱۹) کے جن کی طرف تم مجبور کئے جاؤ

ان آیات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ کائناتِ ارضی کی ہر چیز اور ہر عمل مباح اور حلال ہے سوائے ان اعمال کے جو احضار کتاب و سنت میں ممنوع ہوں اور قرآن کے شارح و ترجمان نبی کریم نے ان کی حرمت پر روشنی ڈالی ہو۔ یا اجماع امت سے ان کی ممانعت ثابت ہوتی ہو جس کی پیروی قرآن کریم میں ضروری قرار دی گئی ہے۔ یہ اجماع بھی کسی نص پر مبنی ہو جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا گیا۔ اگر نص میں کسی چیز کی حرمت کی تصریح کی گئی ہو تو ہم اسے جرم قرار دیں گے۔ اور اگر نام لے کر نص میں کسی چیز کی حرمت پر اجماع منعقد ہوا ہو تو وہ چیز پہلی آیت کی بنا پر حلال ہوگی۔

ابن حزم اس طرح فقہ اسلامی میں قیاس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔

ان بیانات سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ ابن حزم کی کوئی حادثہ نص سے خالی نہیں ہے۔

نگاہ میں کوئی ایسا حادثہ موجود نہیں جس کے بارے میں نص نہ پائی جاتی ہو۔ لہذا قیاس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکم دینے والی یا منع کرنے والی نص موجود نہ بھی ہو تو مباح کرنے والی نص اپنی جگہ پر باقی ہے۔ لہذا کوئی پیش آمدہ واقعہ ایسا نہیں جو اس آیت کی اباحت کے عموم میں داخل نہ ہو۔

فرمان باری تعالیٰ ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ  
جَمِيعًا - (البقرہ - ۲۹) تمہارے لئے پیدا کی

اہل ظاہر پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ان حوادث میں وہ کیا کریں گے جہاں نص موجود نہیں؟ ابن حزم اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم یہ اعتراض معتزضین پر پلٹ دیں گے۔ اور ان سے پوچھیں گے کہ جب تمہارے نزدیک ایسے حوادث بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں تو بتائیے آپ کے نزدیک ان کا حل کیا ہوگا؟ یہ اعتراض تم پر وارد ہوتا ہے ہم پر نہیں۔ کیوں کہ ہماری نگاہ میں تو کوئی ایسا حادثہ سرے سے وقوع پذیر ہی نہیں ہو سکتا، جس کے بارے میں کوئی نص موجود نہ ہو۔ کیوں کہ اباحت والی نص ان تمام حوادث کو شامل ہے

۱۔ الاحکام ج ۸ ص ۱۴ -

۲۔ الاحکام ج ۸ ص ۱۶ -

جن کے بارے میں نص وارد نہیں ہوئی۔ خلاصہ کلام نصوص سب محکم ہیں کوئی چیز ان سے خارج نہیں اور نہ ان میں غیر کا گزر ہو سکتا ہے۔ لہذا جس شخص نے بنا بر قیاس کسی چیز کو حرام قرار دیا یا اس کا حکم دیا اس نے شرعی احکام کی خلاف ورزی کی۔ ایسا شخص ان لوگوں کے زمرہ میں داخل ہے جن کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں کیا گیا ہے۔

قُلْ اِنَّكُمْ لَعِنْتُمْ مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلٰلًا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ اَذِيْنٌ لِّكُمْ اَمْرٌ عَلٰى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ۔  
(یونس - ۵۹)

اُپ ان سے کہہ دیں کہ خدائے جو رزق تم پر نازل کیا تھا پھر تم نے اس میں سے حرام اور حلال بنا لیا۔ کیا خدا نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا یا تم اس پر بھوٹا بنا دیتے ہو

ابن حزم چند قیاسات کا ذکر کرتے ہیں جو آنحضرت کے عہد مبارک

ابطال قیاس عہد نبوی میں۔ میں پیش آئے اور آپ نے ان کی غلطی واضح فرمائی۔ ابن حزم

ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جو ریشمی لباس کے بارے میں وارد ہوئی اس میں حضرت عمر اور اسامہ کے قیاس کا ذکر ہے آنحضرت نے اس قیاس کو غلط قرار دیا۔ ابن حزم فرماتے ہیں:-

”حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے عطارومینی کو بازار میں ریشمی سوٹ فروخت کرتے دیکھا۔ آنحضرت سے عرض کیا کہ آپ اسے خرید لیں اور جب وند آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس وقت زیب تن فرمایا کریں آپ نے جواباً فرمایا ریشمی لباس وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اعرصہ بعد آپ کو کئی ریشمی سوٹ ملے۔ آپ نے ایک سوٹ حضرت عمر کو بھیج دیا اور ایک حضرت علی کو مرحمت فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ اسے کاٹ کر مستورات کے دوپٹے بنا لیں۔ پھر انہوں نے حضرت عمر کے واقعہ کو بیان کیا حضرت اسامہ ریشمی سوٹ پہنے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے کراہت کی نگاہ سے دیکھا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا حضور آپ ہی نے یہ سوٹ بھیجا تھا۔ آنحضرت نے فرمایا میں نے پہننے کے لئے نہیں بھیجا تھا بلکہ اس لئے کہ تم کاٹ کر اس کے دوپٹے بنا لو“

ابن حزم اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی غلطی کا مصدر و منشاء صرف قیاس ہے، اسی طرح حضرت اسامہ کی خطا بھی مبنی بر قیاس ہے۔ حضرت عمر کے قیاس کا حاصل

یہ تھا، کہ جو چیز اپنی ملکیت ہو اسے فروخت کر سکتے ہیں اور ہر طرح اپنے کام میں لاسکتے ہیں جس طرح اسے فروخت کرنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا مباح ہے اسی طرح اسے پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر انتفاع کے دوسرے طریقے حرام ہوتے تو پہننا بھی ناروا ہوتا۔ اسی طرح اسامہ نے بھی پہننے کو ملکیت پر قیاس کیا۔ جب ریشمی کپڑے کی ملکیت جائز ہے تو اس کا پہننا بھی درست ہے۔ انسوس کہ ہم نہ ابن حزم کے ذکر کردہ اس قاعدہ سے اظہار اتفاق کرتے ہیں اور نہ ان کے برآمد کردہ نتیجہ سے حضرت عمر نے ریشمی سوٹ کو زیب تن کرنا اس لئے جائز سمجھا کہ وہ ممانعت سے آگاہ نہ تھے لہذا انہوں نے اسے مباح خیال کیا اور یہ قیاس نہیں ہے۔ جب انہوں نے پہننے کی حرمت سے یہ نتیجہ برآمد کیا کہ اس کی ملکیت بھی حرام ہوگی تو یہ ان کا استنباط ہے قیاس نہیں۔ وجہ استنباط یہ تھی کہ جب اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہے تو اس کی ملکیت کیونکر جائز ہوگی۔ آنحضرت نے واضح فرمایا کہ مردوں کو پہننے کی حرمت کے باوجود بھی انتفاع ممکن ہے۔ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ حضرت عمر و اسامہ کا قیاس مبنی برخطا تھا تو اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر قیاس ہی باطل ہوا کرتا ہے۔ اس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مخصوص قیاس حضرت عمر و اسامہ کا قیاس درست نہیں۔ جب اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے تو حتمی طور پر قیاس میں بھی خطا کا امکان ہے۔

آیت قرآنی سے اثبات قیاس اور اس کی تردید۔ کا ذکر کرنے کے بعد قیاس آرائی کے بارے میں اقوال صحابہ پیش کرتے ہیں۔ ابطال قیاس کے ضمن میں آپ اپنے پیش کردہ دلائل پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ فقہاء کی نگاہ میں جو آیت قیاس کی قوی ترین حجت ہے اس پر نقض وارد کرتے ہیں۔ اور وہ یہ آیت کریمہ ہے۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (الحشر: ۲۰) اسے گروہ دانشمندان عبرت حاصل کیجئے

ابن حزم کہتے ہیں کہ عربی زبان میں کسی کے نزدیک بھی "فَاعْتَبِرُوا" کے یہ معنی نہیں کہ قیاس کیجئے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبرت کیجئے یا نصیحت حاصل کیجئے۔ قرآن میں آیا ہے۔

یہاں عبرت کا مفہوم نصیحت و موعظت

عِبْرَةٌ لِّلَّذِينَ الْأَلْبَابِ -

(ہے)

دوسری جگہ فرمایا۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَزْتٍ ذَّكَّرَ لَنَا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (النحل - ۶۶-۶۷)

چوپایوں میں تمہارے لئے بڑی عبرت ہے ان کے شکم میں گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پیتے والوں کے لئے خوشگوار ہے اور گوبر اور انگور کے دانتوں سے تم نشہ اور بڑا اچھا رزق بناتے ہو اس میں نشہوں کے لئے بڑی نشانی ہے۔

ابن حزم کہتے ہیں کہ آخری آیت سے قیاس کا بطلان ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت میں بتایا کہ دودھ حلال ہے مگر وہ گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے جو حرام ہیں۔ اسی طرح ایک ہی پھل سے عمدہ رزق بھی پیدا ہوتا ہے اور نشہ بھی لہذا دو مماثل اشیاء کا حکم ایک نہیں ہو سکتا۔

ابن حزم اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ عبرت کے معنی قیاس کا بطلان ہے اور اسی پر اپنے مضر نفسیات کی عمارت استوار کرتے ہیں، مگر کتب لغت سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ "نَا عُنْبُرًا" کے معنی ہیں "قیاس کیجئے" مشہور لغوی ثعلب کہتے ہیں۔

"اعتبار کے معنی یہ ہیں کہ آدمی ایک کام کو دیکھ کر خود بھی ویسا کام کرے۔ یا اس پر تفریح بھٹائے اور یہ محتاج تشریح نہیں۔ جو شخص دیکھتا ہے کہ کسی نے برا کام انجام دیا اور اس سے برا نتیجہ برآمد ہوا تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ بھی اس نتیجہ بد سے درچار نہ ہو۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو کسی اور کو دیکھ کر عبرت پذیر ہو۔" الْعِظَةُ اِدْرَالُ تَعَانًا۔ کے یہی معنی ہیں۔ غیر سے عبرت پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک فعل کی بنا پر کسی دیکھ میں مبتلا ہوا ہو دوسرا انسان اسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ اگر میں نے یہ فعل انجام دیا تو میں بھی اسی مصیبت میں گرفتار ہوں گا۔"

بلاشبہ اس میں ایک حال کو دوسرے پر قیاس کیا گیا ہے اور یہ ان بدیہیات میں سے

ایک ہے جو عام طور سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اگر ابن حزم آغاز زندگی سے قیاس کے منکر نہ ہوتے تو اپنی کتاب التقریب میں اس بدیہی بات کو ذکر کرتے۔ کیوں کہ یہ نفس انسانی کی ان اولیات میں سے ہے جس کا ادراک ہر انسان اپنی فطرت ہی سے کر لیتا ہے لہذا یہ انسان کی ابتدائی معلومات میں داخل ہے۔

یہ ہے قیاس کے بارے میں ابن حزم کے قیاس کے ضمن میں ابن حزم کے نقطہ نظر کی وضاحت :-

کا زادیہ نگاہ! وہ بڑی شدت سے قیاس کی نفی کرتے ہیں۔ ان کے دلائل خمسہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم بیان کر چکے ہیں کہ نفی قیاس کا منبئ ان کے یہاں یہ ہے کہ شرعی نصوص انسانی ضرورت کے لئے کافی ہیں اور ان میں تمام حوادث کا حل مذکور ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ بعض حوادث کا حکم نصوص میں مذکور نہیں وہ دین اسلام کو نامکمل خیال کرتا ہے۔ حالانکہ آیت "الْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَ اِسْلَامٍ كَامِلٌ لَمْ یَبْقَ شَیْءٌ مِّنْ اَمْرِ دِیْنِ اِسْلَامٍ لَمْ یَبْقَ شَیْءٌ مِّنْ اَمْرِ دِیْنِ اِسْلَامٍ" کے تحت دین اسلام کامل ہو چکا ہے شریعت میں جملہ احکام مذکور ہیں۔ جس حادثہ کے بارے میں کوئی واضح امر وہی موجود نہیں وہ ان نصوص کے زیر اثر مباح ہے جن میں فرمایا گیا ہے کہ اس کائنات اراضی کی تمام اشیاء انسان کے لئے پیدا کی گئیں ہیں۔ بنا بریں قیاس نص کی موجودگی میں ہوگا۔ حالانکہ نص کے ہوتے ہوئے قیاس کی ضرورت نہیں ہوتی۔

یہ ہے ابن حزم کی تصریحات کے مطابق اصحاب ظاہر کے نقطہ نظر کی وضاحت

اصحاب قیاس کا خیال ہے کہ ابن حزم کے وارد کردہ ۱۵ اعتراضات بے محل ہیں۔ وہ ہر اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ سرے سے ان پر وارد ہی نہیں ہوتا۔ کیوں کہ شریعت اسلامیہ اصحاب قیاس اور دیگر فقہاء کے نزدیک بالکل واضح ہے اس میں ذرا بھر شبہ نہیں۔ بنی کریم نے ہمیں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا تھا۔ جس میں شب و روز کی کوئی تمیز نہیں۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جزوی حوادث پر ایک ایک کر کے روشنی ڈال دی اور علیحدہ علیحدہ نام لے کر ہر حادثہ کا حل بتا دیا۔ یا ایک ایسا عام قاعدہ بتایا جو ان کے سب افراد کو شامل ہو۔ کیوں کہ حوادث غیر متناہی ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ نصوص ان تمام حوادث پر مشتمل ہوں جو ابھی ظہور پذیر ہوئے یا ہوں گے۔ حالانکہ دین اسلام آنے والے زمانوں کے لئے بھی رُشد و ہدایت کا پیغام ہے۔ لہذا بیان احکام سے ایسی تشریح و توضیح مراد ہوگی۔ جو ان پیدا شدہ یا تمام اعصار و ادوار میں پیدا ہونے والے متعدد و مختلف حوادث کے مطابق و موافق ہو۔

بیان احکام کے اقسام :- اس سے واضح ہوا کہ بیان احکام کی دو قسمیں ہیں :-  
۱- وہ نص صریح جن سے حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لئے صرف عربی زبان اور شرح کرنے والی حدیث نبوی کی ضرورت ہوتی ہے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔

۲- بیان کی دوسری قسم دلالت نص سے اخذ کی جاتی ہے اس میں استنباط و تامل کی ضرورت ہوتی ہے اور نص سے اسباب و نتائج کو معلوم کیا جاتا ہے، جو اجتہاد و استنباط سے معلوم کئے جاسکتے ہیں۔

یہ اصحاب قیاس کا نظریہ ہے اس کی اساس علم کی قسم ثانی یعنی استنباط سے احکام کی معرفت حاصل کرنے پر رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی نصوص کی دلالت احکام کو دو قسموں میں منقسم کرتے ہیں  
۱- دلالت ظاہرہ و اصرہ۔

۲- خفیہ دلالت جو استنباط سے معلوم کی جاسکتی ہے۔  
امام شافعی فرماتے ہیں۔

”مسلمان جس حادثہ سے بھی دوچار ہو اس کے بارے میں شریعت کا حکم موجود ہوگا اور اس میں دلالت حکم پائی جائے گی۔ جب بعینہ حکم موجود ہو تو مسلمان کے لئے اس کی پیروی ضروری ہے۔ اور اگر بعینہ حکم موجود نہ ہو تو وہ اجتہاد کی بنا پر معلوم کیا جائے گا۔ اجتہاد کا دوسرا نام قیاس ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ قیاس نصوص سے خارج نہیں ہوتا۔ بلکہ انہیں پر مبنی اور انہی کے مطابق جاری و ساری ہوتا ہے۔ نصوص ہی اس کا مرکز و محور ہوتی ہیں اور وہ گھوم پھر انہی کی طرف لوٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی اجتہاد کے بارے میں فرماتے ہیں جو ان کے لئے قیاس کا مترادف ہے۔

”کتاب و سنت کے اجارہ و وسائل ایک چشمہ ہیں جن کے منیٰ کا قصد کر کے اجتہاد پر وارو ہوتا ہے۔“

امام شافعی کی مراد یہ ہے کہ فقہیہ و مجتہدہ نص کی طرف رجوع کر کے ان کا مفہوم تلاش کرتا ہے۔ پھر اس اصل پر قیاس کرتا ہے جو اس معنی کو شامل ہوتی ہے جس پر حکم کی بنا رکھی جاتی ہے۔ بنا بریں جمیع نصوص کامل اور تمام معانی شرعیہ کو شامل ہوں گی۔ البتہ معانی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے نصوص کی دو قسمیں ہیں۔ دلالت کی ایک قسم صریح اور واضح ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی دلالت استنباط سے معلوم کی جاتی ہے ان دونوں میں دلالت لفظ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پایا جاتا فرق صرف ان سے معنی و مفہوم معلوم کرنے کے طرق میں مضمحل ہے۔ بعض الفاظ کا مفہوم واضح ہوتا ہے جس کو ہر زبان و ان آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ دوسری قسم کے الفاظ کا مطلب غیر واضح ہوتا ہے اور صرف اہل علم و استنباط ہی اس کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہی اہل الذکر ہیں جن سے سوال کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔

فَأَسْأَلُ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل - ۴۳)

داگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو

یہ ہے نصوص کے قیاس پر دلالت کرنے کے بارے میں جمہور کا نظریہ! ابن حزم اسے تسلیم

علم شریعت محتاج بیان نہیں

نہیں کرتے اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”علم دین سب واضح ہے قرآن میں فرمایا تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ عَرَبِيًّا“ (النحل - ۴۴)

دوسرے مقام پر ارشاد ہوا التَّبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ (النحل - ۴۴) اس سے واضح ہوا کہ آپ نے تمام نازل شدہ احکام کی وضاحت فرمادی تھی۔ جو اسے تسلیم نہیں کرتا وہ اجماع امت کی بنا پر کافر ہے۔ ابن حزم کے نزدیک بین وہ حکم ہے جسے ہر اہل زبان سمجھتا ہو۔ فرماتے ہیں۔

”شرعی احکام ہر اس شخص کے لئے واضح ہیں جو اس زبان سے آشنا ہو جس میں

ہمیں مخاطب کیا گیا۔ شریعت کا علم جن لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ رہا۔ اس کی وجہ یہ

ہے کہ وہ اس سے روگردانی کرتے رہے اور اس کی طرف پوری توجہ نہ دے

سکے۔ بلکہ باطل کی طرف متوجہ رہے جس سے شریعت کا نہم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یا علم

شریعت کے مخفی رہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے نہم و ادراک سے قاصر تھے۔ جب کہ

ان کی دلی توجہ کا مرکز کوئی اور بات ہوتی تھی یا مرض و غفلت کا شکار تھے۔ اگر

شریعت کا علم واضح نہ ہوتا تو جاہلوں کے لئے اس کی کوئی بات سمجھنا بظاہر



دشوار ہوتا ہے

ابن حزم کے نقطہ نظر کا خلاصہ یہ ہے کہ بیان کا مطلب حکم کی ایسی وضاحت کرنا ہے جسے ہر وہ شخص سمجھ لے جو عربی زبان سے آشنا ہو اور اس کے معانی اصلیکہ فہم و ادراک پر قادر ہو۔ ورنہ نہ قرآن کو واضح کر سکیں گے نہ آنحضرت کا بیان کامل ہوگا ورنہ تبلیغ محمدی پاریہ نیکیل کو پہنچی ہوگی۔

جمہور فقہاء کی رائے میں جو بیان آنحضرت پر واجب ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس سے بعینہ حکم کا پتہ چل جاتا ہو اور ایسے معنی کی طرف فقہ کی توجہ مبذول ہو جاتی ہو جسے پہچان کر وہ استنباط کر لے اور اس کے مقتضا کے مطابق فیصلہ کر سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ منکرین قیاس یا بالفاظ دیگر منکرین رائے کا رجحان و خلاصہ بحث و نظر۔ میلان بڑا بعید از عقل ہے اور وہ یہ ہے کہ منکرین قیاس استصحاب کو ایک مستقل قاعدہ کی حیثیت دیتے ہیں۔ اس سے اخذ و احتجاج کرنے کو معانی کتاب و سنت و اجماع سے بنا بر استخراجِ علل و تعرفِ مدار حکم استنباط کرنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ باوجودیکہ قیاس میں اشبہ و امثال اتحاد حکم کی بنا پر باہم ملحق و مربوط ہو جاتے ہیں۔ ظاہر یہ کا خیال ہے کہ آیات قرآنیہ جن میں مذکور ہے کہ تمام اشیاء انسان کے لئے مسخر کر دی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اشیاء دراصل مباح ہیں۔ لہذا اشیاء کی اباحت منصوص علیہ ہے۔ لہذا قیاس یا غیر قیاس کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اہل ظاہر کے نزدیک ظاہری نصوص کا نام شریعت ہے اور بس۔

جمہور فقہاء کا خیال ہے کہ بلاشبہ نصوص ہی شریعت کی ترجمانی کرتی ہیں۔ مگر نصوص کا فہم و ادراک ان کے ظاہری معانی ہی سے حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ ان مقاصد و علل کی بنا پر جن پر نصوص روشنی ڈالتی ہیں۔ ان کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ علل احکام کی معرفت حاصل کئے بغیر نصوص کے معانی پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے۔ جہاں نص نہیں ہوتی اسے وہ نصوص پر محمول کرتے ہیں اور اسے عمل علی النص کہتے ہیں۔ استصحاب ایک عام قسم کی دلیل ہے اور اس کی جانب فقہان نص کی صورت میں رجوع کیا جاتا ہے

نتیجہ بحث و نظر یہ ہے کہ جہاں نص نہیں ہوتی وہاں اصحاب ظاہر استصحاب کے قاعدہ پر عمل کرتے ہیں جب کہ جمہور فقہاء استنباط و اجتہاد کو استصحاب کے مقابل میں ترجیح دیتے ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ جمہور فقہاء کا نقطہ نگاہ ہی قابل صدق و صواب ہے۔ کیونکہ اس سے شریعت بذاتِ خود اور اس کے دلائل و براہین با معنی و پُر مغز معلوم ہوتے ہیں۔ ہم قبل ازیں یہ حقیقت واضح کر چکے ہیں کہ اصحابِ ظواہر کے استصحاب سے احتجاج کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے نزدیک خنزیر کا بچا ہوا پانی نجس نہیں ہوتا۔ جب کہ کتے کے منہ ڈالنے سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ ظاہر یہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کے بول سے پانی پلید ہو جاتا ہے مگر خنزیر اور کتے کے بول سے نہیں۔ گویا اصحابِ ظاہر کے نزدیک یہ نصوص عبادات میں وارد ہوئی ہیں کہ اپنے مقام سے تجاوز نہیں کرتیں، نہ ان کا معنی و مقصد معلوم ہوتا ہے اور یہ بات بڑی حیرت آفرین ہے۔

## ابطالِ اسْتِحْسان

اسْتِحْسان کا لفظ امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے زمانہ  
اسْتِحْسان میں ائمہ کا اختلاف۔ سے فقہاء کی زبانوں پر جاری ہے۔ یعنی جب سے قیاس  
 دیگر اقسامِ اجتہاد سے متمیز ہوا، اسی زمانہ سے اسْتِحْسان کا چرچا جاری ہے۔ اجتہاد بالرائی کا لفظ  
 قیاس و غیر قیاس سبھی کو شامل ہے۔ صحابہ کرام کی زبانوں پر جب رائے کا لفظ آتا تو اس سے مراد  
 ہر وہ اجتہاد ہوتا جہاں نص شرعی مقامِ حادثہ میں موجود نہ ہو۔ مثلاً حضرت ابو بکر و ابن مسعود کا یہ  
 فرمان کہ "یہ میری رائے ہے اگر درست ہوئی تو خدا کی طرف سے ہے اور اگر خطا ہے تو اس کی  
 ذمہ داری مجھ پر اور شیطان پر عائد ہوتی ہے۔"

اسی طرح حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا۔

أَجْتَهَدُ سَائِلِي - (میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا)

عمر تابعین میں رائے کے طرق و وجوہ اور بھی نکھر گئے۔ پھر امام ابو حنیفہؒ و مالکؒ کے عصر و عہد میں  
 اس میں مزید ترقی ہوئی۔ امام محمد بن حسنؒ امام ابو حنیفہؒ سے روایت کرتے ہیں۔  
 "اصحاب ابی حنیفہ قیاس میں آپ سے بھگڑے تھے۔ جب آپ فرماتے کہ میں اسْتِحْسان  
 کرتا ہوں تو کوئی آپ کی ہمسری نہ کر سکتا۔"

اس عبادت سے واضح ہوتا ہے کہ عصر ابی حنیفہ میں قیاس و اسْتِحْسان باہم متمیز ہو چکے تھے  
 عبدالرحمن بن قاسم امام مالکؒ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

"علم کے دس حصوں میں سے نو اسْتِحْسان میں پائے جاتے ہیں۔"

امام مالک کے تلمیذ اصبح فرماتے ہیں۔

"علم میں اسْتِحْسان کرنا قیاس پر غالب ہے۔"

امام شافعیؒ آئے تو انہوں نے قیاس کو اساسِ استنباط قرار دیا اور اس کے ماسوا سے انکار کر دیا۔  
 آپ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی اور اس کا نام "کتاب ابطالِ الاستحسان" رکھا یہ کتاب امام شافعی کی

مشہور کتاب الامم میں موجود ہے۔ اس طرح قیاس و استحسان ایک دوسرے سے متمیز ہو گئے اور وہ رائے چند اقسام میں منقسم ہو گئی جو عہد صحابہ میں معروف تھی اور صحابہ اس سے بے گانہ نہ تھے۔ اتنی بات ہے کہ امام مالک و شافعی کی اصطلاح میں استحسان کا لفظ قیاس کے مقابل دونوں اقسام استنباط پر بولا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک قسم کا نام استحسان ہی باقی رہا اور دوسری قسم کو مصالِح مرسلہ کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اس تقسیم کا ظہور امام شافعی کے بعد ہوا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی نے استحسان کا نام لے کر اس کا ابطال کیا ہے۔ حالانکہ جو دلائل وہ پیش کرتے ہیں ان سے قیاس کے علاوہ اجتہاد کی ہر قسم کا بطلان ثابت ہوتا ہے بنا بریں استحسان کا لفظ ان کی نگاہ میں اس استحسان اصطلاحی کو شامل ہے جسے متاخرین مالکیہ استحسان کہتے ہیں اور مصالِح مرسلہ بھی اس میں داخل ہیں۔

امام مالک بھی استحسان کے لفظ میں دونوں کو داخل تصور کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب ابطال الاستحسان میں امام شافعی کا مطبوع نظر اصحاب مالک کی تردید تھی جو امام مالک سے اخذ کر کے استحسان کو حجت مانتے تھے۔

**استحسان کی حقیقت :-** آحناف استحسان میں مصالِح مرسلہ کو داخل نہیں کرتے۔ آحناف کا خیال ہے کہ استحسان اس بات کو کہتے ہیں کہ مجتہد ایک مسئلہ میں اس

کے نظائر و امثال کے مطابق حکم صادر نہ کرے بلکہ کسی وجہ کی بنا پر اس سے عدول کرے۔ مثلاً قیاس سے نص یا اجماع یا ضرورت یا عرت کی بنا پر عدول کیا جائے یا ایسے قیاس کو ترک کر دیا جائے جس کی علت ظاہر ہو اور اس کے مقابلہ میں ایسے قیاس کو اختیار کیا جائے، جس کی علت خفیہ ہو، البتہ تاثیر کے اعتبار سے اقویٰ ہو۔

استحسان اور مصالِح مرسلہ کے باہم متمیز ہو جانے کے بعد مالکیہ کی رائے میں استحسان اس حکم کا نام ہے جس کا قیاس کسی جزوی امر میں خلاف مصلحت ہو۔ بنا بریں استحسان قیاس کا مقابل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اجراء قیاس بعض دفعہ ظلم و حرج کا موجب ہوتا ہے۔

مصالِح مرسلہ ان مصالِح کہتے ہیں جن کا ذکر کسی نص میں اثباتاً یا منعاً نہ کیا گیا ہو۔ یہ مرسل یعنی حدود و قیود سے آزاد ہوتی ہیں۔ نصوص شرعیہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسانوں کی مصلحت ملحوظہ مطلوب ہے اور ان کی تکلیف کا اتنا ضروری ہے۔ مجموعہ نصوص اور عمل صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہر امر میں انسانوں کی مصلحت مطلوب ہے۔ جب تک منع کی کوئی دلیل قائم نہ ہو۔

استحسان کے بارے میں ابن حزم کا نظریہ بیان کرنے سے  
استحسان اور ابن حزم پیشتر ہم نے تمہید کے طور پر یہ خیالات ظاہر کر دیے ہیں تاکہ  
 استحسان کا مقصد واضح ہو جائے۔ اب آگے چل کر ہم بیان کریں گے کہ استحسان میں کیا اختلاف  
 پایا جاتا ہے۔

ایسے معلوم ہوتا ہے کہ استحسان کا مفہوم ابن حزم کی نگاہ میں عام ہے جو مصالح مرسلہ اور  
 استحسان اصطلاحی جسے مالکیہ نے بعد میں الگ کر لیا ہر دو کو شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن حزم  
 نے مصالح مرسلہ کو موضوع گفتگو نہیں بنایا۔ انہوں نے احتجاج کے دائرہ کو صرف نص یا اس اجماع  
 تک محدود رکھا جو قائم علی النص ہو۔ وہ مصالح مرسلہ کے ابطال کے درپے بھی نہیں ہوئے لہذا بلاشبہ  
 ان کے نزدیک مصالح مرسلہ استحسان میں داخل ہیں۔

ابن حزم کا نقطہ نظریہ ہے کہ اجتہاد میں غلو و اغراق کا نام استحسان ہے۔ کیونکہ استحسان احوال و  
 ازمان اور اشخاص کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ جو استحسان ایک فریق کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے  
 دوسرے لوگ اسے قبیح سمجھتے ہیں۔ جسے ایک گروہ مصلحت تصور کرتا ہے، دوسرے اسے مفرت پر  
 محمول کرتے ہیں۔ اس طرح حقائق شرعیہ کا بطلان لازم آتا ہے اور ان کی بنیاد متزلزل ہو جاتی  
 ہے۔ ابن حزم فرماتے ہیں۔

”یہ محال ہے کہ فقہا کا استحسان بلا برہان حق و صواب کا حامل ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ  
 تکلیف مالا یطاق ہوتی۔ اس سے حقائق باطل ہو جاتے ہیں۔ دلائل و براہین میں  
 تضاد و تناقض پیدا ہو جاتا اور خدا نے ہمیں اس اختلاف کا حکم دیا ہوتا جس سے  
 اس نے خود ہی منع فرمایا ہے اور یہ محال ہے۔ یہ کسی طرح جائز نہیں کہ سب علماء کا  
 استحسان ایک ہی طرز و انداز کا، جب کہ ان کے طبائع و عادات اور اغراض و مقاصد  
 میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ سخت مزاج ہوتا ہے اور دوسرا نرم طبع۔ ایک  
 قوی العزم ہوتا ہے اور دوسرا محتاط۔ ان دو اعمی و محرکات اور اختلاف نتائج و موجبات  
 کے ہوتے ہوئے ایک استحسان پر متفق ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ ہم اختلاف کو  
 دیکھتے ہیں، ان کی نگاہ میں وہ بات پسندیدہ ہوتی ہے جسے مالکیہ قبیح سمجھتے ہیں۔  
 مالکیہ جس چیز کو مستحسن تصور کرتے ہیں وہ ان کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ تو  
 اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے دین میں جو بات حق ہے وہ بعض کی پسندیدہ

ہے اور بعض اسے ناپسند کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ باطل ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب خدا کا دین ناقص ہو۔ جب دین اسلام کامل اور واضح ہے اور اس میں اضافہ کا کوئی امکان نہیں تو اس کے مخصوص علیہ اور اجماعی ہونے کا کوئی معنی نہیں۔ کہ ایک شخص اسے پسند کرے اور دوسرا نفرت کی نگاہ سے دیکھے۔ حق ہمیشہ حق ہی رہتا ہے، اگرچہ لوگ اسے برا سمجھیں۔ باطل لوگوں کی پسندیدگی کے باوجود بھی باطل ہی رہتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ استحسان صرف حرص و ہوا اور ضلالت پرستی کا نام ہے **وَبِاللّٰهِ تَعَالٰی نَعُوْذُ مِنَ الْغَدْرِ**۔

**استحسان کے بارے میں ابن حزم کے نظریہ پر نقد و تبصرہ**۔ یہ ہے ابن حزم کا نظریہ

ابن حزم فرماتے ہیں کہ استحسان فقہ میں ایک غیر منضبط اور بے قاعدہ چیز ہے۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک فقیہ جس بات کو محسن تصور کرتا ہے، دوسرا اسے غیر محسن قرار دیتا ہے۔ اس طرح احکام میں بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے اور شریعت کا انضباط قائم نہیں رہتا۔ حالانکہ شریعت صرف نص کا نام ہے بدون نص شریعت کا وجود ہی نہیں۔ ہم یہاں یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ابن حزم نے استحسان کو حرص و ہوس پر مبنی قرار دیا ہے۔ حالانکہ درحقیقت ایسا نہیں۔ استحسان دراصل اس علم کا پتھر ہونا ہے جو فقیہ شریعت کے غایات و مقاصد سے حاصل کرتا ہے۔ البتہ مالکیہ میں سے ابن رشد کا قول ہے کہ فقیہ کے دل میں جو بات کسی اصل شرعی کے بغیر جاگزیں ہوتی ہے اس کا نام استحسان ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ استحسان کا مدار و انحصار حرص و ہوس پر ہے۔ اس کے برعکس استحسان کی اساس فقیہ کی فطری منطق اور ان عام شرعی قواعد پر رکھی جاتی ہے جن کا تعلق لوگوں کی مصلحت اور ان کی معاش و معاد کی صلاح و فلاح سے ہوتا ہے۔ لہذا استحسان کا حکم ذاتی ہوس کی بنا پر نہیں بلکہ عقل اسلامی کی روشنی میں صادر کیا جاتا ہے جو شریعت کے مصادر و موارد کی جستجو میں لگی رہتی ہے۔

اس کے باوجود سب مالکیہ اس ضمن میں ابن رشد کے ہمنوا نہیں ہیں جن کے قول سے یہ لازم آتا ہے کہ استحسان کا مدار فقیہ کی ذاتی رائے پر ہے۔ بلکہ اکثر مالکیہ اور جمیع احناف یہ کہتے ہیں کہ

استحسان ایک منضبط اور باقاعدہ چیز ہے اور اس کا دروازہ چوہٹ کھلا ہوا نہیں ہے کہ اس میں حرص و ہوس کا گذر ہو سکے۔

مالکیہ کہتے ہیں کہ استحسان فقہ اسلامی کے ابواب میں سے ایک ضروری باب ہے جس کا تعلق لوگوں کی مصلحت ان کی ضروریات حاجات اور کمالات سے ہے یعنی استحسان کا تعلق انسان کی اس مصلحت سے ہے جس کے بارے میں شارع کے ادا و نواہی کے استقرار کی بنا پر یہ معلوم ہو کہ یہ اس کے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور اس کے مخالف نہیں ہے۔ حرص و ہوس کا شمار ان مصالح کے اندر نہیں ہوتا جو شارع کے مقاصد سے مربوط ہوں۔ اس لئے کہ شرائع سماویہ کا نزول انسانوں کو تہذیب و شائستگی سکھانے اور خواہشات نفسانی پر غلبہ پانے کے لئے ہوا ہے۔

حنفیہ کے یہاں استحسان مالکیہ کی نسبت زیادہ محفوظ و منضبط ہے اور اس کا تعلق کسی مصلحت سے نہیں۔ اس کے برعکس استحسان کا مناط و مدار حنفیہ کے یہاں یا اجماع پر ہے یا عرف و ضرورت پر یا قیاسی علت پر جو ظاہری علت سے زیادہ قوی الثاثر ہوتی ہے۔ گویا حنفیہ کے نزدیک استحسان فقہ کی رائے پر مبنی نہیں بلکہ محدود و مقید ہوتا ہے۔ استحسان کے بارے میں حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں خلاف قیاس حکم صادر کیا جاتا ہے اگرچہ اس کی داعی نص ہی کیوں نہ ہو۔ گویا نص پر عمل کرنے اور علت ملحدہ کے ترک کرنے کو استحسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے جب حضرت ابوہریرہؓ کی روایت کردہ حدیث سنی کہ بھول کر کھاپی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو آپ نے فرمایا اگر حدیث نہ ہوتی تو ہم قیاس پر عمل کرتے۔

اس سے واضح ہوا کہ استحسان میں ذاتی خواہش پر عمل نہیں کیا جاتا بلکہ قواعد مقررہ کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور ان کو ایک دوسرے پر ترجیح دی جاتی ہے۔

اب ہم یہ بتائیں گے کہ مصالح کے بدل جانے سے احکام میں کیونکہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جو بات

### تبدیل احوال سے تبدل احکام

ایک قوم کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ دوسروں کے لئے ضرر رساں ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بات ایک ملک میں مفید ہوتی ہے دوسرے میں مضر ہوتی ہے۔ ایک چیز ایک وقت میں نفع رساں ہوتی ہے اور دوسرے وقت موجب ضرر۔ ابن حزم اسے اضطراب فی الشرع پر محمول کرتے ہیں کیوں کہ جملہ دیار و امصار اور احوال و اشخاص کے لئے حق ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر استحسان کو تبلیہ کر لیا جائے تو اس سے حق میں اختلاف اور تعدد کا ہونا لازم آتا ہے۔ اگر دین میں استحسان اور مصلحت

شناسی کی کوئی گنجائش ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ شریعت میں اختلاف روا ہے بلکہ شریعت خود ہمیں اختلاف کا حکم دیتی ہے۔ حالانکہ دین اسلام ہمیں اتفاق و اتحاد کی تلقین کرتا اور حکم دیتا ہے کہ اختلاف کی صورت میں ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں۔ ان کے سایہ میں رہ کر اتفاق پیدا کریں اور ان کے دائرہ سے باہر نہ نکلیں۔

یہ ابن حزم کا کلام ہے۔ غور کرنے پر یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ ابن حزم کا اعتراض بے محل ہے۔ جب فقہان نص کی صورت میں استحسان اور صالح پر عمل کیا جائے تو ابن حزم کا اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ یہ اختلاف تعددِ حق کا موجب نہیں بلکہ حق ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ ایک جگہ ایک بات کا حکم دیا جاتا ہے اور دوسری جگہ اسی چیز کو ممنوع مقرر کیا جاتا ہے مگر حق و صداقت دونوں جگہ موجود ہوتی ہے اور باعث بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ طیب حاذق بعض اوقات ایک جسم کی مصلحت کے پیش نظر ایک خاص دوا استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ دوسری حالت میں وہ اس دوا سے روک دیتا ہے۔ پہلی حالت میں اس دوا کا استعمال کرنا قرین مصلحت تھا اور دوسری صورت میں اس سے اجتناب کرنا مفید مطلب تھا۔ لہذا حق دونوں ہی معاملات میں پایا جاتا ہے۔ کیوں کہ اس کی اساس جہانی مصلحت پر رکھی گئی ہے، اور وہ دونوں حالتوں میں یکساں ہے۔

جب ایک امر ایک قوم کے لئے سود مند ہو اور دوسری کے لئے موجب ضرر تو یہاں بھی وہی صورت حال ہوگی۔ حق و صداقت کا تقاضا یہ ہے کہ جن کے لئے یہ امر فائدہ مند ہے ان کے لئے اسے مباح کیا جائے اور دوسروں کے لئے اسے ناروا تصور کیا جائے۔ زندگی کے باقی امور کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے۔ وہ تمام امور و احکام جو کسی قوم کے لئے سود مند ہوں اور ان کے بارے میں کوئی شرعی نص موجود نہ ہو تو وہ تمام بلاد و اقطار اور جمیع ازمہ و اکنہ میں واجب الاتباع ہوں گے۔

یہ ہیں ابن حزم کے افکار و آراء استحسان کے ضمن میں جو نظر بہ ابن حزم کی تلخیص۔ استدلال بالرائی کا ایک شعبہ ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابن حزم

اپنے محدود و مقصور نقطہ نگاہ کے مطابق استحسان پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دین اسلام میں اجمال و تفصیل رائے کیلئے کوئی جگہ نہیں۔ ان کے نزدیک شرعی نصوص ہی سبھی کچھ ہیں نصوص ظاہرہ اور واضحہ کے بغیر دوسرے دلائل ان کی نگاہ میں کسی وقعت کے حامل نہیں۔



ابطالِ استحسان کے ضمن میں ابن حزم امام شافعی کی وضع کردہ راہ پر گامزن تھے۔ امام شافعی کا قول ہے "جو شخص استحسان کرتا ہے وہ خود شارع کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے" وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ استحسان کسی قاعدہ و ضابطہ پر مبنی نہیں۔ استحسان کے مطابق اجتہاد کرنے سے احکام میں اضطراب و خلل پیدا ہو جاتا ہے۔

(استحسان ایک لذت گیری کا نام ہے)

امام شافعی مزید فرماتے ہیں  
إِنَّ الدِّسْتِحْسَانَ تَكْدَادٌ -

ابن حزم نے بھی بعینہ اپنی خیالات کا اظہار کیا ہے۔

## الذرائع

ذرائع کی حقیقت: ابن حزم اجمہاد بطریق ذرائع کو تسلیم نہیں کرتے کیوں کہ یہ بھی ابراہیم رائے میں سے ایک باب ہے اور آپ رائے کے جملہ اقسام سے انکار کرتے ہیں۔

ابن حزم کے دلائل پر روشنی ڈالنے سے قبل ہم اجمہاد بطریق ذرائع کی حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں جس سے مالکیہ نے احتجاج کیا ہے اور مالکیہ کے یہاں اس کی بڑی کثرت پائی جاتی ہے۔

ہم جن فقہاء کی جانب اشارہ کر چکے ہیں ان کے یہاں ذرائع بھی فتویٰ کی اساسات میں سے ایک اساس ہیں۔ ذرائع کی حقیقت و ماہیت یہ ہے کہ جب شارع بندوں کو کسی امر کا مکلف بنا کر کہتا ہے تو اس امر کا وسیلہ بھی مطلوب و مقصود ہوتا ہے۔ اور جب کسی بات سے منع کرتا ہے تو جو چیز اس میں واقع ہونے کی موجب ہوتی ہے وہ بھی حرام کر دی جاتی ہے۔ شرعی اوامر و نواہی کے نتیجہ و استقرار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شارع ایک بات سے روکتا ہے تو اس کے تمام ذرائع سے منع کر دیتا ہے جو اس کی جانب پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ جب ایک چیز کا حکم دیتا ہے تو اس کے تمام ذرائع و وسائل کو بھی ضروری ٹھہراتا ہے۔

مثال کے طور پر اس نے جمعہ کی نماز کا حکم دیا تو اس کی جانب سعی کو بھی ضروری قرار دیا اور ترک بیع کا حکم دیا۔ کیوں کہ بیع کا چھوڑنا سعی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح لوگوں کو جب باہم محبت کا حکم دیا تو بغض و تفرقہ سے منع فرمایا۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ جہاں ایک شخص رشتہ طلب کر چکا ہو وہاں رشتہ طلب نہیں کرنا چاہئے۔ جہاں ایک شخص کا سودا طے ہو جائے وہاں سودا کرنا بھی ناروا قرار دیا۔ اس ممانعت کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس سے بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے جو شرعاً ممنوع ہے۔

شارع نے جب وارثوں کے حصے مقرر کر دیئے تو ہر ایسی چیز سے روک دیا جس سے تقسیم میں تبدیلی پیدا ہو۔ مثلاً وارث کو وصیت کرنے سے منع کیا۔ اور اس سے بھی روک دیا کہ وارث کا حق نہ دیا جائے۔ اس بنا پر سابقین مہاجرین و انصار نے فتویٰ دیا کہ جس عورت کو مرض الموت میں تین بائیں

طلاق دی گئی ہوں وہ اپنے فوت شدہ خاوند کی وارث ہوگی۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے اسے ورثہ سے محروم کرنے کے لئے طلاق دی گئی ہو۔ اگرچہ اس ارادہ کا کوئی ثبوت نہیں۔ کیوں کہ اس حالت میں عموماً طلاق عورت کو ورثہ سے محروم کرنے کے لئے دی جاتی ہے۔ لہذا یہ کہ اس کے برخلاف کوئی دلیل موجود ہو۔ مثلاً عورت خود طلاق کا مطالبہ کرتی ہو۔ یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ خاوند اسے وراثت سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا۔

اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں چور کا ہاتھ کاٹنے سے منع کیا مبادا وہ دشمن سے جائے اور کفار کو مسلمانوں کے اسرار سے آگاہ کر دے۔ یہ اپنی مسلمہ قواعد کی روشنی میں نیز بنا بر استقراء مالکیہ و حنابلہ کا خیال ہے کہ جو چیز کسی امر حرام کا ذریعہ ہو وہ خود بھی حرام ہوتی ہے۔ اسی طرح جو چیز اکثر احوال میں حرام کا ذریعہ بنتی ہو وہ بھی حرام ہے۔ مثلاً جب فتنہ بازی کا دور دورہ ہو اس وقت اسلام کی بیع حرام ہے۔ حنابلہ کے یہاں سرے سے یہ بیع منع ہی نہیں ہوتی اگرچہ سودا بھی کر لیا جائے۔ جو بیع ربا کی موجب ہو اس قاعدہ کی بنا پر فاسد ہوگی۔

اس سے مالکیہ و حنابلہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ احکام شریعت دو قسموں میں منقسم ہیں۔

۱۔ مقاصد۔

۲۔ ذرائع

مقاصد ان امور کو کہتے ہیں جن میں مصالح و مقاصد دونوں ہوتے ہیں۔ مصالح مطلوب ہیں اور مقاصد سے منع کیا گیا ہے۔

ذرائع ان امور کا نام ہے جو مقاصد کی جانب پہنچانے والے ہوتے ہیں اگر یہ کسی اچھی بات کی طرف پہنچائیں تو یہ مطلوب ہوں گے اور اگر حرما ت کی طرف لے جائیں تو یہ خود بھی ممنوع ہوں گے۔

یہ ہے اصل قاعدہ و ضابطہ ابن حزم اس کی

مخالفت کرتے ہیں اور اس کو کچھ اہمیت نہیں

ذرائع کے نظریہ پر ابن حزم کی تنقید

دیتے۔ باوجودیکہ یہ بڑا اہم قاعدہ ہے اور اپنے مقصد و معنی میں بڑا مضبوط و مستحکم ہے۔

ابن حزم فرماتے ہیں۔

"لوگوں کی ایک جماعت نے بطریق احتیاط بعض اشیاء کو حرام قرار دیا ہے مبادا وہ حرامِ خالص کا ذریعہ بن جائیں۔ وہ ثبوت میں حضرت نَعْمَان بن بَشِير کی روایت کردہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حلال و حرام دونوں واضح ہیں اور ان کے درمیان مشتبہات ہیں جن سے اکثر لوگ ناواقف ہیں جو شخص حرام سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچالیا، اور جو مشتبہات میں جا پڑا وہ حرام میں واقع ہوا جس طرح چرواہا جو چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہو اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مویشیوں کو اس میں چرانے لگے۔ خبردار! ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور خدا کی چراگاہ اس کے محرمات ہیں۔"

ابن حزم کا یہ بیان اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ ان کی رائے میں باپ ذرائع صرف اسی بات میں محدود و مقصود ہے کہ مشتبہات سے کنارہ کشی اختیار کی جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم حرام کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ بخلاف ازیں مالکیہ و حنابلہ نے ذرائع کا دروازہ چوپٹ کھول دیا ہے۔ اور بنا بر احتیاط سے مشتبہات سے احتراز کرنے تک محدود نہ رکھا۔ ان کے نزدیک ذرائع تین امور پر مشتمل ہیں۔

۱- مقامِ اشتباہ۔ جو سب سے ادنیٰ مرتبہ ہے۔ ان کے طلب کرنے سے غیر کا طلب کرنا لازم نہیں آتا۔

۲- ذرائع کی دوسری قسم تمام موجباتِ حرام سے کنارہ کش رہتا ہے۔ مثلاً فتنہ و فساد کے زمانہ میں اسلحہ فروخت کرنا۔

ان دونوں قسموں کو سد الذرائع کہتے ہیں۔

۳- تیسری قسم ان ذرائع کا طلب کرنا ہے جو قطعی طور پر مودی الی المطلوب ہوں۔ مثلاً نماز کے لئے سعی کرنا۔ یا اہل و عیال کے نان و نفقہ کے لئے رزق کی کوشش کرنا ہے یا مقروض کی دینی حالت کو درست کرنے کے لئے اس کے مال کو فروخت کرنا۔ یہ تمام ذرائع مطلوب ہیں کیوں کہ یہ ان امور کا لازمی ذریعہ ہیں جو شرعی نصوص کی بناء پر مطلوب و مقصود ہیں۔

ہم اسی لئے کہتے ہیں کہ ابن حزم کا نظریہ درست نہیں کیونکہ انہوں نے ذرائع کے دائرہ کو ذکر کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حرام سے بچنے کے مشبہات کو ترک کر دینا چاہیے۔ کیونکہ جو چراگاہ کے آس پاس چراتا ہو اس کے مویشیوں کا چراگاہ میں داخل ہو جانا ممکن ہے۔

مشبہات کی عدم حرمت ابن حزم کی نگاہ میں۔ ابن حزم نے جہاں ذرائع کے دائرہ کو کوعمان بن بشر کی روایت کردہ حدیث کے مندرجات تک محدود کر دیا وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث نمان جن امور پر مشتمل ہے وہ لازمی اور قطعی نہیں ہیں۔ کیونکہ کوئی چیز حرام اس وقت ہوتی ہے جب اس کی حرمت کی کوئی قطعی دلیل موجود ہو۔ کیونکہ علت کے دلائل بطریق یقین ثابت ہیں۔

مثلاً قرآن میں فرمایا

سَخَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ حَبِيبًا  
(البقرہ-۲۹) (پیدا کیے)

زمین میں سب چیزیں تمہارے لئے

نیز فرمایا۔

”آپ فرمادیں کہ یہ بتاؤ خدا نے تمہارے لئے جو رزق اتارا تمہا تم نے اس میں سے کچھ حرام بنا لیا اور کچھ حلال۔ کیا خدا نے تمہیں یہ حکم دیا تھا یا تم اس پر بھوٹ باندھتے ہو؟“

اللہ تعالیٰ نے مشبہات کو حرام قطعی قرار نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی اصل پر قائم ہیں، جو نصوص سے ثابت ہے اور وہ علت ہے چونکہ مشبہات کی حرمت دلیل سے ثابت نہیں لہذا ابن حزم نے کوعمان بن بشر کی حدیث میں یہ پہلو اختیار کیا کہ اس حدیث میں ذرع اور حفاظین و نفس کی تلبیغ کی گئی ہے تاکہ حرمت میں نہ جا پڑیں۔ حدیث میں مکلف نہیں کیا گیا بلکہ ذرع کی دعوت دی گئی ہے۔ اور ذرع کا مفتضا یہ ہے کہ ہوا و ہوس کے مقتضیات سے بچنے کے لئے بعض باحاطت سے بھی احتراز کیا جائے۔ ابن حزم لکھتے ہیں۔

”اس حدیث میں نبی کریم نے ذرع کی تلبیغ فرمائی۔ یہ حدیث اس بارے میں نص جلی ہے کہ چراگاہ کا آس پاس چراگاہ کے حکم میں داخل نہیں۔ لہذا مشبہات یقینی طور پر حرمت میں داخل نہیں۔ جب حرام نہیں تو یقیناً حلال ہوں گی۔ کیونکہ قرآن میں وارد ہے۔“

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ . (اس نے تمہارے لئے محرمات کی تفصیل بیان

(الانعام - ۱۱۹) (کر دی ہے)

جس کی تفصیل بیان نہیں کی وہ حلال ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا ہے "زمین کی تمام چیزیں تمہارے لئے پیدا کی گئی ہیں" نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

"دین اسلام میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی غیر محرم چیز سے سوال کیا اور اس کے سوال کی بنا پر اسے لوگوں پر حرام کر دیا گیا۔"

جو حدیث مشہدات سے احتراز کی دعوت دیتی ہے اس سے آنحضرتؐ کا مقصد ورع و تقویٰ کی تلقین کرنا ہے۔ ابن حزم تلقین و ترغیب اور ایجاب میں فرق کرتے ہیں ایجاب کی بنا پر کوئی چیز قطعی حرام ٹھہرتی ہے یا فرض ہو جاتی ہے۔ ترغیب کا مقصد صرف دعوت اجتناب دینا ہوتا ہے۔ اس ضمن میں آنحضرتؐ کا قول مبارک بھی روایت کیا گیا ہے۔

"کوئی شخص اس وقت تک منقحی لوگوں کے زمرہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک محرمات سے کنارہ کش رہنے کے لئے مشہدات کو ترک نہ کر دے۔"

ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی سابقہ حدیث کی طرح ترغیب و تلقین کے لئے وارد ہوئی ہے ایجاب کے لئے نہیں۔

بنا بریں ابن حزم کسی امر کو اس وجہ سے حرام نہیں ٹھہراتے

ابن حزم کے نظریہ کی وضاحت ایک مثال سے :-

کہ وہ کسی فعل حرام کا موجب ہے۔ بلکہ اس لئے کہ اگر حرام کا یقین ہو مگر یہ معلوم نہ ہو کہ بعینہ حرام چیز کونسی ہے تو اس یقین کی بنا پر وہ حرام ٹھہرے گی۔ ابن حزم اس کی مثال ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

"ہر فعل جو اس بات پر منتج ہو کہ اس کا فاعل یقینی طور پر حرام کا مرتکب ہوتا ہو وہ فعل حرام ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دو برتنوں میں پانی ہو اور دونوں کی طہارت مشکوک ہو۔ ایک کی نجاست کا یقین ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ وہ دونوں میں سے کونسا برتن ہے۔ جب کوئی شخص دونوں برتنوں سے وضو کرے گا۔ تو ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ اس نے نجاست سمیت نماز ادا کی جو حلال نہیں۔ اسی طرح اگر دو کپڑے ہوں دونوں میں سے ایک نجس ہو مگر یہ معلوم نہ ہو کہ نجس کونسا ہے تو اس صورت

میں بھی اسی طرح کیا جائے گا۔

**عدم حرمت مشبہات میں ابن حزم کے دلائل** ابن حزم آخریہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو اس کی حرمت کا فتویٰ اس بنا پر نہیں دیا جاسکتا کہ وہ مؤدی الی الحرام ہے ابن حزم بڑے اعتماد و وثوق سے کہتے ہیں۔

”جو شخص مشبہات کی حرمت کا فتویٰ صادر کرتا ہے وہ خدا کے حکم کے بغیر دین میں اضافہ کرنے کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ بنی کریم کی خلاف ورزی کرتا اور اپنی عقل کے بل بوتے پر دین اسلام میں چند اشیاء کو معرض وجود میں لاتا ہے، اس ضمن میں یہ اجماع امت عصر اربعہ عصر کافہ ہے کہ آنحضرت کے عہد سعادت ہمد بلکہ آپ کے زمانہ حیات مدینہ منورہ میں جب کوئی شخص کوئی سودا خریدنا چاہتا خواہ وہ کھانے پینے کی چیز ہوتی یا از قسم مرکوبات و خدام تو وہ بازار میں چلا جاتا یا کسی مسلم تاجر سے مل کر مطلوبہ اشیاء خرید لیتا۔ بشرطیکہ اسے ان کے حرام ہونے کا علم نہ ہوتا یا جب تک حرام اس چیز پر اس قدر غالب نہ آجاتا کہ حلال پوشیدہ ہو کر رہ جائے۔ حالانکہ بازار میں مفسوبہ و مسروقہ اشیاء بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی جو ناحق دوسروں سے لی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کے زمانہ میں ہوتا رہا۔ اور آپ نے اس سے منع نہ فرمایا۔ پھر ابن حزم ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے آنحضرت سے دریافت کیا کہ اسلام میں نئے داخل ہونے والے اعرابی ہمارے پاس جانور ذبح کر کے لاتے ہیں اور ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ انہوں نے تکبیر پڑھی یا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم خدا کا نام لے کر کھالیا کرو یہ بھی مردی ہے کہ آپ نے فرمایا جس کا مسلمان بھائی اسے کوئی چیز کھلائے تو وہ کھائے اور اس سے پوچھے نہیں بنی کریم کی طرح ہم بھی لوگوں کو درع و تقویٰ کی ترغیب دیتے اور مشبہات سے کنارہ کش رہنے کی تلقین کرتے ہیں مگر اس کا قطعی فیصلہ نہیں کرتے اور ایک فتویٰ کی طرح اسے ان کے لئے لازم قرار نہیں دیتے۔ جیسے آنحضرت نے بھی اس کا صنفی فیصلہ صادر نہیں فرمایا۔“

لہ الاحکام ج ۶ ص ۴۷

لہ الاحکام ج ۶ ص ۷

پھر ابن حزم حسب عادت مخالفین کے نظریہ پر بڑی کڑی تنقید  
مخالفین کے نظریہ پر تنقید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حرمت و عدت ظن کی بنا پر ثابت نہیں  
 ہوتی۔ جو ذرائع کے پیش نظر کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے وہ بنا بر ظن اس کی حرمت کا فیصلہ صادر کرتا ہے  
 حالانکہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَىٰ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (النجم ۲۸)  
 (بلاشبہ ظن حق کی جگہ کام نہیں آتا)  
 ابن حزم فرماتے ہیں۔

”جو شخص بنا بر تہمت یا غیر یقینی احتیاط کے بل بوتے پر یا موڈی الی الحرام ہونے کے  
 خوف سے کسی چیز کو حرام ٹھہراتا ہے وہ ظن کی بنا پر حکم دیتا ہے اور ظن کی بنا پر حکم  
 صادر کرنے والا کذب و باطل کے مطابق حکم دیتا ہے جو حلال نہیں۔ کیوں کہ وہ بنا بر  
 خواہش نفس حکم دینے اور حق سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ ہم تمام  
 ایسے مذاہب سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں، جن کا نتیجہ ارتباہ باطل ہو۔ کیونکہ یہ مذہب  
 بذات خود مبنی بر فساد و تناقض ہے اس لئے کہ ایک چیز دوسری کی نسبت تہمت کے  
 زیادہ قابل نہیں۔ بلکہ یہ خطرہ ہر چیز میں موجود ہے۔ جب ایک آدمی کسی حلال چیز کو حرام  
 کے خوف سے ممنوع قرار دیتا ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے غلاموں کو خصی کر دے مبادا  
 وہ زنا کاری کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ اور کفر کے خوف سے لوگوں کو تہ تیغ کر دے۔ نیز  
 انگور کے درختوں کو اس لئے کاٹ ڈالے کہ ان سے شراب بنائی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ  
 فاسد ترین مذہب ہے کیوں کہ اس سے حقائق کا بطلان لازم آتا ہے۔ وَاللّٰهُ التَّوَّابُّ الْعَلِيمُ“

یہ ابن حزم کی تصریحات ہیں ہم نے انہیں اس لئے ذکر کر دیا تاکہ معلوم ہو کہ انہیں اپنے منہج و مسلک  
 سے کس قدر وابستگی ہے اور کس شدت سے اجتہاد بالرائی کی ہر قسم کو رد کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کا  
 حاصل محرمات و منہیات سے اجتناب و احتراز ہی کیوں نہ ہو۔ ہم ابن حزم کے نظریات کے بارے  
 میں اپنے خیالات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اب اس جانب اشارہ کرتے ہیں۔

(۱) ابن حزم کے نظریہ پر نقد و جرح کے سلسلہ میں پہلی  
ابن حزم کے نظریہ پر نقد و جرح بات یہ ہے کہ مشکوک کی عدت و حرمت مشتبہ ہے اس لئے



اقدام کرنے کا نتیجہ اکثر حالات میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی محرمات کا ارتکاب کرنے کی جرأت کر بیٹھتا ہے۔ کیونکہ چراگاہ کے ارد گرد چرانے والے کے مویشی چراگاہ میں داخل ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ مشبہات کو حرام سمجھ لیا جاتا ہے۔ علمائے اسلام میں سے کوئی بھی ان کو حرام قطعی کی طرح تصور نہیں کرتا۔ جس کی حرمت میں نص وارد ہوئی ہو۔ جن لوگوں نے بعض مشبہات کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے وہ بھی انہیں حرام قطعی نہیں تصور کرتے بلکہ احتیاط پر مبنی قرار دیتے ہیں۔

مثلاً امام مالک جن کا قول ہے کہ جو شخص اپنی بیویوں میں سے کسی عورت کو مہم طور سے طلاق دے گا تو اس کی سب بیویوں پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہ بھی ان عورتوں کو قطعی طور پر حرام قرار نہیں دیتے بلکہ بنا بریں احتیاط ان کی حرمت کا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ امام مالک نے یہ فتویٰ دیتے وقت مرد کے لئے احتیاط ملحوظ رکھی ہے۔ انہیں عورتوں کے بارے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس مرد سے سب عورتوں کو طلاق دینے کا مطالبہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دوسرے خاوندوں سے نکاح کر سکیں۔ کیونکہ دیگر ازدواج سے نکاح کرنے کے لئے ان کا یقینی طور پر مطلق ہونا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پہلے خاوند پر بلاشک و شبہ حرام ہو چکی ہوں۔ ابن حزم مالکیہ پر یہ گرفت کرتے ہیں کہ انہوں نے مرد کا خیال رکھا ہے اور عورت کا خیال نہیں رکھا۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ کس چیز کے موذی الی الحرام ہونے میں غلیہ ظن اور کثرت وقوع پر اعتماد کیا جاتا ہے قلیل الوقوع کی پروا نہیں کی جاتی۔ اس کا مقتضا یہ ہے کہ زنا کاری سے بچنے کے لئے مردوں کو خصی کرنا صحیح نہیں۔ اسی طرح کفر کے خوف سے لوگوں کو تہ تیغ کرنا اور شراب بنانے کے خطرہ کے پیش نظر انگور کی بیلوں کا کاٹ دینا درست نہ ہوگا۔ اسے سئل الذرائع کے قاعدہ پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے کہ لوگوں میں زنا کاری کی اکثریت نہیں اور نہ ہی انگوروں سے شراب بنانے کو غلیہ حاصل ہے۔

مزید براں خداوند کریم نے مثلہ سے منع کیا ہے اور تحفظ نسل کی تاکید کی اور اس بات پر تہ و رد دیا ہے کہ نفوس انسانی کو قتل سے بچایا جائے اور اموال کی حفاظت کی جائے۔ لہذا آدمیوں کو خصی کرنا اور انگور کی بیلوں کو اکھاڑنا درست نہیں۔ کیوں کہ ان کی مخالفت میں نص وارد ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیز حرام لذائذ ہو اس کو اس لئے مباح قرار دیا جائے کہ وہ ایک امر حرام کا ذریعہ ہے۔ ایک حرام ذاتی کو موذی الی الحرام ہونے کی بنا پر مباح کرنا درست نہیں جو چیز بذات خود حرام ہے وہ اس

حرام کے مقابلہ میں لائق تزییح ہے جس کی جانب وہ مؤصل ہے۔ مثلاً کسی انسان پر اس لئے ظلم و زیادتی نہیں کی جاسکتی کہ اس کے کسی پر حملہ آور ہونے کا خطرہ ہے کیوں کہ اس کی جان دوسروں کی طرح محفوظ ہے۔ خلاصہ کلام متوقع ظلم کی بنا پر کسی شخص کو ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا جاسکتا۔

۳۔ اس سلسلہ میں تیسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو علماء سد الذرائع کے نظریہ کو تسلیم کرتے ہیں انہوں نے اس بات کو پیش نظر رکھا ہے کہ بعض امور کو قصداً اس لئے انجام دیتے ہیں کہ انہیں ارتکابِ حرام کا ذریعہ قرار دیا جائے۔ مثلاً ایک شخص خرید و فروخت اس لئے انجام دیتا ہو کہ اسے ربا کا پیش خیمہ بنائے یا کسی عورت سے اس لئے نکاح کرے کہ وہ پہلے خاوند کے لئے حلال ٹھہرے، یا مرض الموت میں اپنا سب مال اس لئے ہبہ کر دے کہ اس کے وارث اپنے جائز حقوق سے محروم رہیں جو قرآن میں مذکور ہیں۔ جو شخص شرعی مقاصد کو منہدم کرنے کے لئے ان امور کا قصد کرتا ہے وہ شرعی قواعد کی خلاف ورزی کرتا اور حرمت کو مباح ٹھہراتا ہے، لہذا اس کا ارادہ اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ اسی لئے وہ ان ذرائع کو حرام قرار دیتے ہیں۔ جو تقریبات بھی اس ارادہ سے کئے جائیں گے وہ باطل ہوں گے۔ خلاصہ کلام سد الذرائع کا مقصد شریعت کے اوامر و نواہی کا تحفظ ہے شریعت پر اضافہ کرنا مقصود نہیں۔

ذرائع میں دو امور کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔

اول :- جب کوئی شخص کسی شرعی فریضہ سے حیلہ کی بنا پر غلامی کرنا چاہتا ہو۔ مثلاً زکوٰۃ سے یوں غلامی حاصل کرے کہ کسی فقیر کو دے دے اور وہ فقیر بعد ازاں اسے واپس لوٹا دے یا مالِ زکوٰۃ کسی فقیر کے پاس فروخت کر دے اور پھر اسے فقیر سے خرید لے تو یہ حیلہ جوئی حرام ہوگی۔ کیوں کہ اس میں خدا کے حکم کو ٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

دوم :- دوسری بات یہ ہے کہ کوئی چیز غالباً ایک وقت میں موصل الی الحرام ہوتی ہو تو وہ صرف اسی وقت حرام ٹھہرے گی دیگر اوقات میں نہیں۔ مثلاً اسلحہ کی فروختگی فتنہ کے دوران منع ہے اور دیگر اوقات میں نہیں۔

ابن حزم نے تمام فقہاء کو تنقیدِ شدید کا نشانہ بنایا ہے فقہاء پر ابن حزم کی تنقیدِ شدید۔ فقہاء کا قول ہے کہ اصول را باواجداد کی شہادت فروع (اولاد و احفاد) کے لئے اور فروع کی اصول کے لئے باطل ہے کیونکہ اس میں کذب کا احتمال ہے۔ اس

کے برعکس ابن حزم کی رائے میں اصول و فروع دونوں ایک دوسرے کے حق میں شہادت دے سکتے ہیں اور ان کی شہادت کی بنا پر فیصلہ صادر کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ وہ شاہد عدل ہوں۔ ابن حزم اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ الہام کی بنا پر ایک عادل شخص کی شہادت کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ تہمت ایک ظنی چیز ہے اور شخص عادل قابل یقین و وثوق ہے۔ ظاہر ہے کہ ظنی چیز کے مقابلہ میں یقینی چیز راجح ہوگی۔ ابن حزم فرماتے ہیں۔

« ذرائع کے فاسد قاعدہ کی بنا پر فقہاء نے بہت سے مسائل میں ناروا تہمت کے بل بوتے پر حکم صادر کر دیا۔ مثلاً عادل اشخاص کی شہادت ان کے آباء و اہلداد اجاب و اعزہ اور رشتہ دار خواتین کے لئے ان کے نزدیک باطل ہے۔ کیوں کہ اس میں دروغ گوئی اور ظلم کا احتمال ہے۔ ان کا یہ خیال اس لئے درست نہیں کہ مسند زیر بحث میں تہمت کی بنا پر حکم صادر کیا گیا ہے جو ظنی ہونے کی بنا پر حرام ہے خداوند کریم ظن پر عمل کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

وَأَظَنُّكُمْ ظُنًّا سَوِيًّا وَكُنْتُمْ قَوْمًا جَوْرًا - (الفتح - ۱۲)

تم نے بدگمانی سے کام لیا اور تم ہلاک ہونے والے ہو

ایک دوسری قوم کی مذمت میں فرمایا جو بدگمانی کی عادی تھی۔

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ - (النجم - ۲۸)

ان کے پاس علم نہیں وہ تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں

نیز فرمایا :-

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ - (النجم - ۲۳)

وہ تو صرف ظن اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

إِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ - (سنن)

(بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے)

ابن حزم اس پر اظہار حیرت و استعجاب کرتے ہیں کہ اصول و فروع کی شہادت باہم قبول نہ کی جائے حالانکہ عدالت تہمت کی بنا پر منتفی نہیں ہو سکتی۔ ہم ابن حزم کی حیرت پر محو حیرت و استعجاب ہیں۔ مزید

جبرانی ہیں اس بات پر ہو رہی ہے کہ انھوں نے مسئلہ زیر بحث کو ذرائع کے قاعدہ کے بطلان کی اساس بنایا ہے۔ اس قاعدہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اصول و فروع کی شہادت ایک دوسرے کے لئے قابل قبول نہیں۔ عدم قبول کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

۱۔ شہادت کے عدم قبول کی پہلی وجہ یہ ہے کہ تہمت شدیدہ عدالت میں موثر ثابت ہو سکتی ہے۔ کون شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کے خلاف شہادت دے کر اسے قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار کرے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی شہادت اپنی اصل و فرع یا بیوی کے لئے اسی طرح ہے جیسے اپنی ذات کے لئے کیونکہ انسان کی اولاد اس کی جان کی طرح ہوتی ہے بلکہ لوگ اولاد و ازدواج کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ جو شخص کسی بات کا مدعی ہو اور اس کی اصل و فرع یا بیوی اس کی شہادت دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خود ہی اپنے دعویٰ کی شہادت دے رہا ہے۔ اور اگر ان کی شہادت کی بنا پر فیصلہ کر دیا جائے تو ایسے ہوگا جیسے صرف اس کے دعویٰ کی بناء پر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عادل شخص کا اپنے اصول و فروع یا بیوی کے لئے شہادت دینا اس کے لئے باعث تکلیف ہے اس لئے کہ اگر وہ سچی شہادت دے تو اس کے اقارب ناراض ہو جائیں گے اور ان کے درمیان شدید نفرت و حقارت پیدا ہوئے گی۔ اور اس کی شہادت کا قبول کرنا قطع رحمی کا موجب ہوگا۔ اور اگر جھوٹی شہادت دے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا۔ لہذا شارع نے اسے اس عظیم حرج سے بچایا اور اس کی عدالت کے تحفظ و بقاء کے لئے عادل کی شہادت اصول و فروع کے لئے قبول نہ کی۔

یہ ہیں ابن حزم کے نظریات رائے  
ابطال رائے میں ابن حزم کی خصوصیات :- اور اس کے انواع و اقسام کے بارے میں۔

استدلال بارائے کا ابطال کرتے ہوئے آپ کا کلام تین خصوصیات کا حامل نظر آتا ہے۔

اول :- آپ کے بیان کردہ دلائل ظواہر الفاظ سے ماخوذ ہیں اور آپ دوران استدلال الفاظ

کے ظاہری مفہوم سے تجاوز نہیں کرتے۔

دوم :- آپ شریعت کے معانی و مقاصد معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کی رائے میں شرعی

احکام کا مقصد صرف انسانوں کو مکلف و مامور بنانا ہے ان کے پس پردہ کوئی علت پوشیدہ نہیں ہوتی جلت

کی طلب و تحقیق ان کی رائے میں سبجاوز عن الحد اور بے راہ روی ہے۔ ان کے نزدیک نصوص عبادات و نصوص معاملات میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ انسانوں کو مطلقاً و مامور بنانے کے اعتبار سے دونوں مساوی ہیں۔

سوم: ابن حزم ظاہری فقہ کے زبردست حامی تھے۔ بعض اوقات ان کا تعصب مخالفین کے کلام کو بالاستیعاب نقل کرتے سے مانع ہوتا۔ بلاشبہ یہ تعصب آپ کے علم و فضل پر ایک بدنامدار غیبت ہے اگر آپ اپنے علمی مباحث میں تعصب کو نظر انداز کر دیتے تو ان کے لئے بھی سود مند ہوتا اور لوگوں کے لئے بھی۔

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم فقہ ظاہری کے بعض ابواب کی تفصیلات ذکر کریں تاکہ ظاہری فقہ کے منہج و مسلک کا نمونہ سامنے آجائے۔ اس پر روشنی ڈالنے سے قبل ہم بتائیں گے کہ اقوال صحابہ فقہ ظاہری میں کیا مقام رکھتے ہیں۔

## فقہ ظاہری میں اقوال صحابہ کا مقام

اقوال صحابہ کی عدم حجیت :- ہو یا غیر صحابی، زندہ ہو یا مردہ۔ حدیث نبوی کی دلیل کے بغیر قول صحابی سے احتجاج کرنے کو وہ ناروا خیال کرتے ہیں ابن حزم صرف کتاب و سنت اور اس اجماع سے احتجاج کرتے ہیں جو ان سے ماخوذ ہو۔ یا اس دلیل سے جو ان براہین ثلاثہ سے اخذ کی جاتی ہے صحابی کے قول سے استدلال اس لئے ناروا ہے کہ وہ بھی بنی نوع آدم میں سے ایک بشر ہے اور اس سے غلطی کا صدور ممکن ہے۔ ابن حزم امام شافعی سے بس اسی قسم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا۔ میں صحابی کے قول سے کیوں کہ احتجاج کر سکتا ہوں حالانکہ اگر وہ میرے زمانہ میں ہوتے تو میں ان سے جھگڑا کرتا "صحیح بات ہے کہ اگر صحابہ کسی بات پر جمع ہو جاتے تو امام شافعی ان سے احتجاج کرتے۔ اور اگر ان کے اقوال علیحدہ علیحدہ ہوتے تو ان کے جس قول کو چاہتے پسند کرتے اور اسے چھوڑ کر دوسرے قول پر عمل کرتے۔ یہ مقولہ جو آپ سے نقل کیا گیا ہے اس صورت میں ہے جب حدیث اور قول صحابی باہم متعارض ہوں۔ اس صورت میں قول صحابی بلاشبہ قابل اتباع نہ ہوگا کیوں کہ آنحضرت کی حدیث کے ہوتے ہوئے قول صحابی قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

"ہر انسان کی بعض باتیں تسلیم کی جاتی ہیں اور بعض کو ترک کر دیا جاتا ہے البتہ اس رد و نہ والے (نبی کریم) کی کوئی بات رد نہیں کی جاسکتی۔"

### تصنیفات ابن حزم میں اقوال صحابہ کی کثرت کے وجوہ و اسباب :-

ابن حزم اگرچہ بار بار اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ اقوال صحابہ قابل احتجاج نہیں۔ بلکہ احتجاج صرف کتاب و سنت یا اجماع سے کیا جاتا ہے تاہم وہ بڑی کثرت سے اقوال صحابہ کا ذکر کرتے ہیں بلکہ ان کی فقہی تصنیفات خواہ ان کا تعلق اصول سے ہو یا فروع سے اقوال صحابہ

سے برتر ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ تصنیفات ابن حزم اقوال صحابہ کے عظیم ترین مجموعہ پر مشتمل ہیں تو ان میں ذرا بھر بالغم نہ ہو گا نہ اس میں کوئی غلطی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اقوال صحابہ کی عدم بحیثیت کے باوصف ان کے نقل و ذکر کا کیا مطلب؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اقوال صحابہ کا ذکر بیان ابن حزم کی تصنیفات میں تین وجوہات کے پیش نظر آیا ہے۔

وجہ اول :- ابن حزم اقوال صحابہ سے احتجاج کرتے اور انہیں پیش کرتے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب نقل کردہ فتویٰ صحابہ کے درمیان اجماعی ہو۔ یا ابن حزم کا دعویٰ ہو کہ وہ اجماعی ہے اور کوئی اس کا مخالفت نہیں۔ مثلاً انعقادِ خلافت میں ابن حزم کا نظریہ ابن حزم بیان کرتے ہیں کہ انعقادِ خلافت پہلے تین مرتبہ صحابہ کا اجماع منعقد ہوا ہر دفعہ انعقادِ خلافت کا طریقہ جداگانہ نوعیت کا تھا۔

۱- انعقادِ خلافت کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ خلیفہ سابق دوسرے کو ولی عہد بنا دے گا۔  
۲- دوسرا یہ کہ چن آدیوں کو متعین کر دے کہ ان میں سے ایک کو خلیفہ بنایا جائے جیسا کہ حضرت عثمان کے وقت ہوا۔

۳- تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص اوصافِ امامت کا حامل ہو وہ لوگوں کو دعوتِ خلافت دے اور لوگ اس کی اطاعت کر لیں۔ جیسے حضرت علی نے کیا ان تینوں طریقِ خلافت پر صحابہ کا اجماع منعقد ہوا تھا۔ ان کا اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تینوں طریقوں کو جائز تصور کرتے تھے۔

وجہ ثانی :- اقوال صحابہ کو ذکر کرنے کا دوسرا سبب الزام فقہاء ہے۔ ابن حزم جانتے تھے کہ فقہاء اقوال صحابہ کو حجت مانتے ہیں۔ جب مقلدین ائمہ اربعہ سے مناظرہ کرتے تو انہیں الزام دیتے اور ان کے اختیار کردہ مسلک میں تشکیک پیدا کرنے کے لئے صحابہ کے اقوال و منادی ذکر کرتے۔ جیسا کہ رائے کے ابطال میں ہم دیکھ چکے ہیں رائے کے ابطال میں آپ نے حضرت ابو بکر و عمر و ابن مسعود مجتہدین صحابہ اور دیگر ائمہ فقہ کے اقوال ذکر کئے ہیں۔ ان اقوال سے ابن حزم کا استشہاد مخالفین کے افہام و الزام کے پیش نظر ہے۔

وجہ ثالث :- ابن حزم کے اقوال صحابہ کو ذکر کرنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کے اقوال اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ان (ابن حزم) کے نظریات

بعیب و غریب اور غیر نائوس قسم کے نہیں بلکہ خالص شریعت سے مہبت قریب ہیں اور ان صحابہ کے اقوال سے ہم آہنگ ہیں جنہوں نے براہ راست ان حضورؐ سے استفادہ کیا۔ گویا اقوال صحابہ سے ان کا استشہاد اصل استدلال کے لئے نہیں بلکہ تائید و توثیق کے لئے ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا قول مخالفین کے اقوال کی نسبت اقرب الی الحق ہے، مخالفین کو الزام دینے کے علاوہ ان کا مطمح نظر تہذیب و شہادت بھی ہوتا ہے وہ اقوال صحابہ کو قابل اعتماد و حجت تصور نہیں کرتے جو شخص مرض الموت میں گرفتار ہو اس کے احکام کے بارے میں ابن حزم نے اکثر صحابہ کی مخالفت کی ہے۔

اصول ابن حزم اور دیگر فقہی اصولوں پر ان کے اعتراضات ذکر کرنے کے بعد ہم فقہ ظاہری کی بعض فروعات کا تذکرہ ضروری سمجھتے ہیں۔ کیوں کہ ان فروعات سے ظاہری فقہ کا طرز و انداز واضح ہوتا ہے۔



## فقہ ظاہری کے بعض مسائل

ہم قبل ازیں ان فقہی اصولوں پر روشنی  
فقہ ظاہری میں رائے و قیاس کا عدم وجود والے چکے ہیں جن پر ابن حزم اور اہل ظاہر نے  
 استنباط احکام اور تفریح فروعات میں اعتماد کیا ہے۔ اب ہم فقہ ظاہری کے چند مسائل ذکر کرنا چاہتے  
 ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ انھوں نے کس حد تک ان اصولوں کو تطبیق دی اور کہاں تک اس کے  
 پابند رہے۔

بعض علماء کا دعویٰ ہے کہ ظاہریہ قیاس کی نفی کرنے کے علی الرغم قیاس سے اجتناب کر  
 سکے۔ بے شک وہ قیاس کے نام سے کنارہ کش رہے مگر عملی طور پر اس سے علیحدہ نہ رہ سکے۔ یہی وجہ  
 ہے کہ جسے وہ دلیل کے نام سے موسوم کرتے ہیں اس میں کسی حد تک قیاس پایا جاتا ہے۔ ہم قبل  
 ازیں بیان کر چکے ہیں کہ دلیل کا قیاس سے کوئی تعلق نہیں نہ ہی ان کی فروعات میں نام کو کوئی  
 قیاس ملتا ہے۔ البتہ ابن حزم جب مخالفین کے خلاف میدان مناظرہ میں اترتے ہیں، تو انہی کے  
 ہتھیاروں سے اس کے خلاف بزوازا ہوتے ہیں، اگرچہ وہ قیاس پر اعتماد نہیں کرتے۔ مخالفین  
 کی تردید میں قیاس سے احتجاج کرنا ایسا ہی ہے جیسے یہود و نصاریٰ سے مناظرہ کرتے وقت وہ  
 تورات کے اقوال پیش کرتے تھے حالانکہ وہ انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے۔

ابن حزم کی مشہور آفاق کتاب المحلی فقہ ظاہری کا دیوان ہے۔ اس میں فقہ ظاہری کے تمام  
 دلائل مذکور ہیں۔ ہم نے المحلی میں بہت سی فروعات کو دیکھا اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ استدلال بالرائی  
 کے ایوان میں سے وہ صرف ایک باب کو مانتے ہیں اور وہ باب استصحاب ہے۔ آپ نے استصحاب  
 کا دروازہ چوٹ کھول دیا تھا اور اس میں بہت سے اسالیب استنباط کو سمولیا تھا۔

ہم بعض فروعات فقہیہ کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جن سے فقہ ظاہری کے مناج استنباط پر عموماً اور فقہ  
 ابن حزم پر خصوصاً روشنی پڑتی ہے۔

ان مسائل میں سے بعض کا تعلق نکاح سے ہے بعض کا مریض مرض الموت کے تصرفات سے اور بعض کا اجارہ سے۔ ہم مختصراً ان تمام مسائل پر روشنی ڈالیں گے۔ جس سے ظاہری مسلک و منہج کھل کر سامنے آجائے گا۔ ہم صرف اسی قدر تفصیل سے کام لیں گے؛ جس قدر طرز استدلال کی وضاحت و صراحت کے لئے ضروری ہے۔

---

## فقہ ظاہری میں مسائل نکاح

فقہ ظاہری میں فرضیت نکاح۔ ابن حزم ان آیات کے پیش نظر جن میں شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے نکاح کو فرض قرار دیتے ہیں۔ ہم قبل ازیں معلوم کر چکے ہیں کہ اہل ظاہر کے نزدیک امر و جوب و لزوم کے لئے ہوتا ہے ابن حزم کی تصریحات اس ضمن میں حسب ذیل ہیں۔

”جو شخص مجامعت پر قادر ہو اور شادی بیاہ یا لونڈی کے مصارف برداشت کر سکتا ہو اس پر دونوں میں سے ایک کام فرض ہے۔ اگر اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہ ہو تو کثرت سے روزے رکھے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو ہم نے بطریق بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شادی کے لوازمات سے عہدہ برہ ہو سکتا ہو وہ شادی کرے اور جو ایسا نہ کر سکے وہ روزے رکھے۔ کیونکہ روزہ رکھنے سے خواہش جماع جاتی رہتی ہے امام مسلم کے طریق سے ہم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کیا وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون نے بیوی بچوں سے الگ ہو جانے کا ارادہ کیا تو آنحضرت نے انہیں اس بات سے منع فرمایا علمائے سلف کی ایک جماعت بھی یہی کہتی ہے۔“

ہم نے احمد سے روایت کیا وہ سعد بن ہشام سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دنیا سے قطع تعلق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ایسا مت کیجئے۔ کیا تم نے یہ آیت قرآنی نہیں پڑھی؟

وَلَقَدْ آتَيْنَا سُلَيْمَانَ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُ مَا يَشَاءُ وَيُجَاوِزُ سَبِيلَهُ (الرعد: ۳۸) بیوی بچوں والا بنایا۔

عبداللہ بن طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک آدمی سے کہا شادی

کر لیجئے ورنہ میں آپ سے وہی بات کہوں گا جو حضرت عمر نے ابوالنذر واند سے کہی تھی کہ نکاح سے تمہیں یہ بات مانع ہے کہ یا تو تم مجامعت پر قادر نہیں ہو یا بدکار ہو۔ لے

یہ بیانات اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں کہ جو شخص نکاح کے مصداق برداشت کر سکتا ہو اور اس میں قوت رجولیت بھی پائی جاتی ہو۔ تو ابن حزم کے نزدیک نکاح کرنا اس پر فرض ہے۔ خواہ اسے زنا کا خطرہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی جو شخص جسمانی اعتبار سے تندرست توانا ہو۔ اور مالی وسائل سے بھی بہرہ ور ہو اس کے باوصف وہ تنقی بھی ہو اور خواہشات نفسانی پر قابو پاسکتا ہو تو ایسے شخص پر بھی نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر وہ نکاح نہ کرے تو لونڈی رکھ لے کیوں کہ وہ نکاح کے جا بجا ہے۔

یہ ابن حزم کا نظریہ ہے۔ اس کے **فرضیت نکاح میں علماء کا اختلاف** :- برعکس جمہور یہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا

اس وقت فرض ہوتا ہے جب کوئی شخص مالی وسائل سے بہرہ ور ہو۔ قوت رجولیت رکھتا ہو اور شادی نہ کرنے کی صورت میں اس کے مرتکب زنا ہونے کا خطرہ ہو۔ اندر میں صورت نکاح کے بطریق فرضیت و لزوم مطلوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نکاح حرام سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ زنا کاری ایک حرام فعل ہے عفت و عسمت بھی ضروری چیز ہے لہذا جو چیز حرام سے بچنے کا موجب ہو سکتی ہو اور اس سے عفت بھی قائم رہتی ہو وہ لازم ہوگی۔ البتہ ایک شخص جو حالت اعتدال میں ہو۔ اس کے بارے میں فقہاء کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ احناف، حنابلہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ حالت اعتدال میں نکاح کرنا مندوب ہے۔ کیوں کہ نبی کریم اور اکثر صحابہ اس پر عمل پیرا تھے نیز اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا نکاح ایک سنت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔

”نکاح ہماری سنت ہے جو اس سے روگردانی کرتا ہے وہ ہم

سے نہیں“

شواہع کہتے ہیں کہ نکاح اس حالت میں فرض و مندوب نہیں بلکہ مباح ہے۔ کیوں کہ یہ عبادت کے قبیل سے نہیں بلکہ شہوت نفسانی پوری کرنے کے لئے اس کا حکم دیا گیا ہے لہذا یہ مطعومات مشروبات سکونتی مکانات اور دیگر جسمانی ضروریات کی طرح مباحات کے قبیل سے ہے۔ عبادت کا شمار روحانی لوازمات میں ہوتا ہے۔

**ابن حزم کے نقطہ نظر کی توضیح :-** یہ ہیں ابن حزم کے نقطہ نظر کے مقابلہ میں جمہور فقہاء کے افکار و آراء! دیگر ظاہری فقہاء بھی فریضیت نکاح میں ابن حزم کے ہم خیال ہیں۔ ابن حزم نبی کریم کے ظاہری الفاظ سے اخذ احتجاج کرتے ہیں کہ جو شخص لوازم نکاح سے عمدہ برا ہو سکتا ہو وہ نکاح کرے۔ وہ اسے لازم حتمی خیال کرتے ہیں کیوں کہ امران کے یہاں وجوب کے لئے ہوتا ہے، الا یہ کہ کسی نص سے عدم وجوب کا پتہ چل جائے۔

ہمارا خیال ہے کہ ابن حزم اس ضمن میں ظاہری نص پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ کیونکہ نص نکاح کا حکم دیتی ہے اور ابن حزم اس کے برعکس فریضیت کو نکاح میں محدود نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک کام ضرور کرے یا نکاح کرے یا لونڈی گھر میں رکھے۔ دونوں میں سے ایک پر عمل پیرا ہونا امر لایہی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ تسری (لونڈی رکھنے) کو نکاح کے مساوی قرار دینے میں ابن حزم

۱۔ حنفیہ کے نزدیک شرعی احکام پانچ قسموں میں منقسم ہیں۔ نکاح کمان پانچوں میں شمار کیا جاسکتا ہے۔  
(۱) اگر کوئی شخص نان و نفقہ اور عدل و انصاف پر قادر ہو اور شادی نہ کرنے کی صورت میں زنا کاری کا صدور اس سے بتا کید متوقع ہو تو اس پر نکاح فرض ہے۔

(۲) اگر دیگر شرائط موجود ہوں مگر زنا کاری کا صدور بتا کید متوقع نہ ہو بلکہ اس کا خطرہ لاحق ہو تو نکاح واجب ہے۔

(۳) اگر شادی شدہ ہونے کی صورت میں اس سے ظلم کا صدور یقینی ہو تو نکاح کرنا حرام ہے۔

(۴) اگر بصورت نکاح ظلم کا صدور یقینی نہ ہو بلکہ اس کا ظن غالب ہو تو نکاح مکروہ ہوگا۔

(۵) اگر کوئی شخص حالت اعتدال میں ہو وہ نان و نفقہ اور عدل و انصاف پر بھی قادر ہو اور اس کے ترک زنا ہونے کا خوف نہ ہو تو نکاح مندوب ہوگا۔

نے کس نص پر اعتماد کیا ہے اگر تسری سے ان کی مراد عصمت و عصمت کا حصول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نصوص کو عقل قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کے نزدیک نصوص میں کوئی علت نہیں پائی جاتی۔ لہذا ضروری ہوگا کہ انہوں نے اس نص پر اعتماد کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرضیت نکاح اس حالت میں ہوتی ہے جب لونڈی موجود نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مندرجہ ذیل آیت پر اعتماد کیا ہو۔

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء - ۳) بیوی کافی ہے یا لونڈیاں تمہاری ملکیت ہوں  
 ابن حزم نے نکاح کو تسری کے مساوی قرار دیا۔ چونکہ ابن حزم نے یہاں کوئی دلیل ذکر نہیں کی  
 لہذا ہم نے جستجو کر کے یہ آیت تلاش کر لی اور ہم نے اس کی وہ توجیہ پیش کی جو ان کی عقل و منطق سے  
 ہم آہنگ ہے۔

ابن حزم و دیگر ظاہریہ کی طرح نکاح کو مردوں پر  
عورتوں پر نکاح کی عدم فرضیت فرض قرار دیتے ہیں عورتوں پر نہیں۔ نبی کریمؐ  
 کے الفاظ میں جہاں جوانوں کو ما مور فرمایا گیا ہے ابن حزم کے نزدیک عورتیں اس حکم میں داخل  
 نہیں ہیں نص کی تخصیص کرتے ہوئے وہ آیت قرآنی اور حدیث نبوی پر اعتماد کرتے ہیں ہم  
 ان کے دلائل ان کے اپنے الفاظ میں نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں۔  
 عورتوں پر نکاح فرض نہیں کیوں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّادِيْنَ لَا يُرْجُونَ  
 نِكَاحًا - (النور - ۶۰) اور وہ بچے رہنے والی عورتیں جو نکاح کی امید  
 نہیں رکھتیں

نیز اس حدیث نبوی کی بنا پر جو بطریق مالک مروی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا میدان جنگ میں  
 شہید ہونے کے علاوہ سات شہید اور ہوتے ہیں ان میں آپ نے اس عورت کا ذکر فرمایا جو  
 نو عمری میں بلوغت کو پہنچنے سے قبل فوت ہو جائے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ فرضیت نکاح کی حدیث کو ابن حزم مردوں سے مخصوص قرار دیتے ہیں اور اس میں  
 عورتوں کو داخل نہیں کرتے۔ کیوں کہ قرآن نے متذکرۃ الصدرا آیت میں عورتوں کو عدم نکاح کی

اجازت دی ہے۔ نیز آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ عورت کو جو فوت ہو جائے شہداء میں سے شمار کیا۔ اگر یہ ایک ناروا بات ہوتی تو آپ اس کی مدح و ستائش نہ فرماتے۔

مخالفین کے دلائل کا ابطال۔ ابن حزم جب دلائل و براہین کی روشنی میں نکاح کو فرض قرار دیتے ہیں تو عدم فرضیت پر فقہاء کے پیش کردہ دلائل کی تردید بھی کرتے ہیں۔ ابن حزم کے دلائل پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”بعض لوگ نکاح کی عدم فرضیت پر قرآن کے ان الفاظ سے احتجاج کرتے ہیں۔“

وَسَيِّدًا وَحَصَوٰتًا۔ حضرت یحییٰ سردار تھے اور عورتوں سے الگ

(ال عمران - ۳۹) تھک رہتے تھے

حالات کہ ان الفاظ سے ان کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ حضور اس شخص کو کہتے ہیں جو مجاہدت پر قادر نہ ہو ظاہر ہے کہ ہم ایسے شخص کے لئے نکاح کو فرض نہیں ٹھہراتے بلکہ اس شخص کے لئے جو جماع کی قوت رکھتا ہو۔

نکاح کی عدم فرضیت کے قائل دو حدیثوں سے بھی احتجاج کرتے ہیں۔

ایک حدیث میں آپ نے فرمایا دو صد شخصوں میں سے بہتر وہ خفیہ الحال آدمی ہے جس کا اہل و عیال نہ ہو۔

دوسری حدیث حضرت حذیفہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ جب کسی شخص کی عمر ایک سو پانچ سال کی ہو چکی ہو تو اس وقت کتے کے پٹے کو جنم دینا پٹے کی پیدائش سے بہتر ہے۔

یہ دونوں حدیثیں موضوع ہیں۔ ان دونوں کا راوی ابو عصام ابن الجراح عسقلانی منکر الحدیث اور ناقابل احتجاج ہے۔ ان کے موضوع ہونے کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اگر لوگ ان پر عمل کرنے لگیں تو فرضیہ جہاد اور دیگر امور دینیہ بے کار ہو کر رہ جائیں اور کفار کا غلبہ ہو جائے۔ مزید برآں اس میں کتے پالنے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے۔

حق بات یہ ہے کہ جو لوگ نکاح کو فرض نہیں تصور کرتے ان کا نقطہ استدلال یہ ہے کہ نکاح فرض ہوتا تو ارکان اسلام میں سے اسے کن شمار کیا جاتا۔ حالانکہ صحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے

جنہوں نے عمر بھر شادی نہ کی۔ قطعِ علائق سے منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ترکِ تعلق کو تقربِ خداوندی کا موجب سمجھتے تھے۔ حالانکہ جمہور کا یہ خیال نہیں۔ بلکہ اکثر فقہاء کہتے ہیں کہ حالتِ اعتدال میں نکاح مندوب ہے۔

ہم یہاں یہ بات کہتے ہیں کہ ابن حزم علتِ احکام کو ملحوظ رکھتے ہیں اور اسی بناء پر ان دونوں احادیث کو ناقابلِ احتجاج ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان احادیث پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نسلِ انسانی دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ جہاد بے کار ہو کر رہ جائے گا اور کفر پورے خطہ ارضی پر چھا جائے گا۔ اسی کا نام علل کو معتبر سمجھنا ہے حالانکہ وہ خود تعلیلِ نصوص سے منع کرتے ہیں۔

چار بیویوں سے نکاح کرنے اور لونڈیاں رکھنے میں حُر و عبد کی مساوات ہے۔

ابن حزم فرماتے ہیں کہ یہ یک وقت چار عورتوں سے زیادہ نکاح میں نہیں لائی جاسکتیں وہ عورتیں آزاد ہوں یا لونڈیاں اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے

فَانِكَحُوا مَا كَتَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنِي ۚ  
دو دو تین تین اور چار چار (النساء ۳۰)

ابن حزم کہتے ہیں کہ غلام بھی آزاد کی طرح چار عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے اس میں عبد حُر کی کوئی تمیز نہیں۔ یہ نظریہ جمہور فقہاء کے خلاف ہے۔ فقہاء کا قول یہ ہے کہ غلام کو آزاد کی نسبت نصف حقوق ملتے ہیں اسے سزا بھی آزاد سے نصف دی جاتی ہے، لہذا غلام بہ یک وقت دو عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھنے کا مجاز نہیں۔ فقہاء اقوال صحابہ سے احتجاج کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پر صحابہ کا اجماع منعقد ہو چکا ہے ابن حزم ان عقائد اجماع کو تسلیم نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ بعض صحابہ کا قول ہے اور اس کی مخالفت کسی سے منقول نہیں۔ مگر اس طرح اجماع منعقد نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابن حزم اپنے مخالفین کے اقوال و آراء بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

۱۔ "حضرت عمر فرماتے ہیں کہ غلام دو عورتوں سے نکاح کر لے

۲۔ ابن جریر روایت کرتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا غلام کتنی عورتوں سے نکاح کرے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا دو سے زیادہ عورتیں نکاح



میں نہ لائے۔

۳۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ غلام دو عورتوں سے نکاح کرے۔

۴۔ عطاء کہتے ہیں سب صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ غلام دو سے زیادہ عورتیں اپنے نکاح میں نہ لائے۔

۵۔ حضرت حسن بصری عطاء ابو حنیفہ شافعی احمد بن حنبل سفیان ثوری لیث بن سعد وغیرہم

سب اسی کے قائل ہیں۔

اس کے برعکس مجاہد اور امام زہری کہتے ہیں کہ غلام چار عورتوں سے نکاح کر لیتا ہے امام مالک بھی اسی کے قائل ہیں۔ اس مسئلہ میں مالکیہ نے صحابہ کی مخالفت کی ہے۔ حالانکہ صحابہ بھی غلام کو دو عورتوں کی اجازت دیتے ہیں۔ مالکیہ کے یہاں صحابہ کی خلافت و زریٰ ایک غیر معمولی بات ہے مگر جہاں ان کا دل چاہے وہ ایسا کر بھی لیتے ہیں۔

حجت صرف کتاب و سنت کی نصوص ہیں۔ اللہ اور رسول کے سوا کسی کی بات قابل احتجاج نہیں ہے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔

فَأَنْكِحُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدِيمَةٌ (النساء - ۳)

اس آیت میں آزاد و غلام سب کو مساوی رکھا گیا ہے کسی کی تخصیص نہیں کی گئی۔

وَاللَّهُ التَّوَّابُّ الْعَلِيمُ

مسئلہ زیر نظر میں دو وجوہات کی بنا پر ابن حزم اقوال صحابہ پر عمل نہیں کرتے۔

۱۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلہ پر صحابہ کا اجماع منعقد نہیں ہوا۔ اگرچہ اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بات اس ضمن میں یہ ہے کہ بعض صحابہ اس کے قائل تھے اور کسی نے ان کی مخالفت نہ کی۔ ظاہر ہے کہ اس سے اجماع منعقد نہیں ہوتا۔

۲۔ اقوال صحابہ کو ترک کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ نص صریح میں حروع عبد کے درمیان کوئی بھی تفریق نہیں کی گئی۔ اس تفریق کے لئے کتاب و سنت کی کوئی دلیل مطلوب ہے کیونکہ نص عام کی تخصیص صرف کتاب و سنت سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نص کی تخصیص بھی نص ہی ہو سکتی ہے۔

اگرچہ مالکیہ اور ابن حزم مسئلہ زیر نظر میں ایک دوسرے کے ہمتوا ہیں۔ تاہم ابن حزم مالکیہ کو نقد و جرح کا نشانہ بنانے سے نہیں چوکتے اور موافقت و مخالفت ہر حالت میں ان پر تنقید کے تیر چلائے جاتے ہیں۔ باوجودیکہ مالکیہ اندلس میں برسر اقتدار تھے اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ ابن حزم کا اعتراض مالکیہ پر یہ ہے کہ وہ مسئلہ زیر بحث میں اپنے مسلمہ قاعدہ سے انحراف کر دیتے ہیں۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جن اقوال صحابہ کی مخالفت دوسرا کوئی صحابی نہ کرتا ہو وہ واجب الاتباع ہوتے ہیں۔

ابن حزم چار عورتوں سے نکاح کرنے ہی کے جواز نسری میں حُر و عید کی مساوات۔ مسئلہ میں حُر و عید کو مساوی قرار دیتے ہیں بلکہ جواز نسری میں بھی ان کو برابر سمجھتے ہیں۔ ایک آزاد آدمی جتنی لونڈیاں چاہے رکھ سکتا ہے اس میں تعداد کی کوئی پابندی نہیں۔ اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ۔ (النساء - ۳)

اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف کو قائم نہ رکھ  
سکو گے تو ایک ہی بیوی سے نکاح کیجئے یا  
وہ لونڈیاں جن کے تم مالک ہو

اس آیت میں لونڈیوں کو علی الاطلاق حلال ٹھہرایا اور کوئی تعداد مقرر نہیں کی۔ جسے آزاد کے لئے لونڈیوں کی تعداد معین نہیں اسی طرح غلام کو بھی بلا قید و اجازت فرائی اس کے دو سبب ہیں۔

۱۔ پہلا سبب یہ ہے کہ حُر و عید کی تفریق کسی نص سے ثابت نہیں۔ فقدان نص کی صورت میں یہ خطاب عام حُر و عید دونوں کو شامل ہوگا۔

۲۔ حُر و عید میں مساوات کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ابن حزم کے نزدیک غلام کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے اس کی ملکیت آقا کی ملکیت سے علیحدہ ہوگی۔ ابن حزم اس کو ایک عام قاعدہ کی حیثیت دیتے ہیں۔ اور اس میں جمہور فقہاء بلکہ بالفاظ موزوں تران کے اجماع کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جمہور فقہاء کا قول ہے کہ غلام خود اور اس کی ہر چیز آقا کی ملکیت ہے۔ ابن حزم منصفہ شہود پر جلوہ گر ہوئے۔ تو انہوں نے کہا غلام کے مالک نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اور یہ کتاب و سنت یا اجماع مبنی پر قرآن و حدیث یا دلیل ماخوذ از براہین ثلاثہ کی کس نص سے ثابت ہے؟ کسی مثبت دلیل کے فقدان کی صورت میں اس عام قاعدہ پر عمل کیا جائے گا جو نصوص کتاب

سنت سے ثابت ہے کہ بنی آدم سب مالک ہو سکتے ہیں۔ جب غلام کا مالک ہونا ثابت ہو گیا تو وہ لونڈیوں کا بھی مالک ہو سکتا ہے۔ اسے لونڈیوں پر جملہ حقوق ملکیت حاصل ہوں گے اور وہ ایک آزاد آدمی کی طرح ان سے تسری بھی کر سکے گا۔  
ابن حزم رقمطراز ہیں۔

«غلام کی تسری میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ان کے غلام لونڈیاں رکھتے تھے اور آپ انہیں منع نہیں فرماتے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس نے اپنے ایک غلام سے ایک لونڈی کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی ملکیت حاصل کر کے اسے اپنے لئے حلال بنا لو۔ کسی صحابی کے متعلق معلوم نہیں کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی ہو۔ امام شعبی ابراہیم نخعی حسن بصری عطاء امام مالک نیز ابوسلیمان سب اس کے قائل ہیں۔ اس ضمن میں کسی کی مخالفت معروف نہیں۔ البتہ ابراہیم اور حکم بن عقبہ سے ایک غیر مشہور روایت منقول ہے۔ ابن سیرین سے ایک صحیح روایت بھی نقل کی گئی ہے کہ وہ غلام کی تسری کو مکروہ سمجھتے تھے۔ البتہ اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ امام ابوحنیفہ اور شافعی غلام کو تسری کی اجازت نہیں دیتے۔ حالانکہ ان کے یہاں یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ صحابی کا وہ قول جس کی کوئی مخالفت نہ کرتا ہو واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ مسئلہ زیر نظر میں اپنے قاعدہ کے علی الرغم وہ ابن عباس اور ابن عمر کی خلاف ورزی کرتے ہیں حالانکہ صحابہ میں سے کسی نے ان کے قول کی مخالفت نہیں کی۔ اس اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا لازمی عظیم معلوم ہوا کہ خداوندیکہ فرماتے ہیں۔

وہ لوگ جو اپنی شرکگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے ایسے لوگوں کو ملامت نہیں کی جائے گی۔

«وَالَّذِينَ هُمْ يُعْبُدُونَ  
إِلَّا عَلَىٰ آزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
فَأِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (المومن - ۴۷)»

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حروع عبد کے درمیان کوئی تفریق نہیں فرمائی۔ ہم قبل ازیں غلام کی صحبت ملکیت کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں اب اسے

دہرائش گے نہیں لے

ہم دیکھتے ہیں کہ ابن حزم مسئلہ زیر نظر میں اقوال صحابہ سے احتجاج نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ اجماعی نہیں۔ اس کے برعکس اپنا رخ کتاب و سنت کی طرف موڑ دیتے ہیں اور اس آیت کے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس سے انہیں مسئلہ متنازعہ میں رہتائی حاصل ہوتی ہے۔ اقوال صحابہ کو احتجاج کے لئے پیش نہیں کرتے بلکہ تائید و توثیق کے لئے اپنے مخالفین کے انجم و الزام کے پیش نظر مخالفین کو الزام اس لئے دیتے ہیں کہ وہ مسئلہ ہذا میں قول صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں حالانکہ ان کے یہاں مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب قول صحابی کا مخالف کوئی نہ ہو تو وہ حجت ہوتا ہے۔

نظر یہ ابن حزم کی صداقت ہے۔ ابن حزم کے ان بیانات سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ وہ اپنی فقہ میں غلاموں کو وہ جملہ حقوق عطا کرتے ہیں جو مردانِ حر کو حاصل ہیں الا یہ کہ حقوق میں کمی کسی نص سے ثابت ہو جائے۔ اس صورت میں وہ نص پر عمل کرتے ہیں نص سے یہ بات ثابت ہے کہ جو عقوبات (سزائیں) قابلِ تنصیف ہیں ان میں غلام کو نصف سزا دی جائے گی۔ حقوق میں تنصیف کسی نص سے ثابت نہیں لہذا حقوق اپنی جگہ پر قائم رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق انسانیت کے بل بوتے پر عطا کئے جاتے ہیں۔ حریت کی بنا پر نہیں۔ لہذا ملکیت کا حق نص عام *هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا* کے مقتضا کے مطابق ثابت ہوگا۔ ملکیت ہر انسان کا حق ہے جو اسے انسان ہونے کی بنا پر حاصل ہے۔ ملکیت صرف احرار کا حصہ نہیں کہ غلاموں کو اس سے محروم کر دیا جائے۔ بلکہ انسان ہونے کو ن و مکان کو مستز کرنے اور تنظیم شرائع کی بنا پر یہ حق اسے ارزانی کیا گیا ہے۔

میں اس امر میں ابن حزم کا ہم خیال ہوں کہ حقوق کو عقوبات پر قیاس کر کے نصف بنانے کا نظر یہ قرین صدق و صواب نہیں ہے۔ اصل مسئلہ میں میں ابن حزم کا ہمنوا ہوں، گو اصل استدلال میں مجھے ان سے اختلاف ہے۔ ابن حزم تنصیفِ حقوق کو اس لئے تسلیم نہیں کرتے کہ وہ قیاس کی نفی کرتے اور ظواہر نصوں سے احتجاج کرتے ہیں میں تنصیفِ حقوق کو اس

لئے صحیح نہیں سمجھتا کہ اس کی علت کا تحقق نہیں ہوتا۔ عدم تحقق کی وجہ یہ ہے کہ غلام چونکہ اپنی اور لوگوں کی نگاہ میں کم درجہ ہوتا ہے اس لئے اس کا جرم چنداں اہمیت نہیں رکھتا اور دوسروں کے ہم پلہ نہیں کیونکہ جو شخص بڑا ہوا اور ذمہ دار ہو اس کا جرم بھی اسی نوعیت کا ہو گا۔ اس کے عکس معمولی آدمی کا جرم بھی معمولی ہو گا۔ لہذا آزاد کو زیادہ سزا دی جائے گی اور غلام کو کم مگر حقوق کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ کیونکہ ایک شخص اگر کمزور ہو تو اس کی کمزوری کی بنا پر اسے حقوق سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ اگر وہ معمولی آدمی ہے تو اس کا مقتضایہ نہیں کہ اسے انسانی حقوق سے بہرہ ور نہ کیا جائے۔

اس مسئلہ  
بیوی کی علیحدگی کے بعد اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کی حرمت میں ابن حزم نے جمہور اہل اسلام کی مخالفت کی ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کی فرقت کے بعد اس کے خاوند پر اس کی بیٹی دو شرطوں کی موجودگی میں حرام ہوگی۔

(۱) پہلی شرط یہ ہے کہ بیوی مدخولہ ہو۔

(۲) دوسری یہ کہ بیوی کی بیٹی نے اس کے خاوند کے زیر سایہ تربیت پائی ہو۔ اگر اس کے زیر تربیت نہ رہی ہو تو حرام نہ ہوگی۔ جمہور فقہاء کا خیال ہے کہ شرط ثانی حرمت میں معتبر نہیں۔ اگر اس کی والدہ مدخولہ ہو تو وہ حرام ٹھہرے گی۔ خواہ اس نے خاوند کے گھر میں تربیت پائی ہو یا نہیں نص تحریم یہ آیت ہے۔

قَدْ بَابِكُمْ مَالِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ  
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (النساء - ۲۳)

اس آیت میں "حجورکم" تمہاری گودوں میں، کے الفاظ سے ان کے نکاح سے روکنا مقصود ہے کہ انہوں نے تمہاری اولاد کی طرح تمہاری گود میں نشوونما پائی ہے۔ یہ لفظ حرمت کی قید نہیں ہے۔ ابن حزم ظاہری چونکہ ظواہر الفاظ کے پابند ہیں اس لئے وہ اسے حرمت کی قید تصور کرتے ہیں۔ جب اس قید کا تحقق نہ ہوگا تو معاملہ حسب سابق صلت پر مبنی رہے گا۔

ابن حزم فرماتے ہیں۔

!! جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اس عورت کی کوئی بیٹی ہو اگر بیٹی اس کے خاوند کے زیر تربیت رہی ہو۔ اس کی ماں مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ البتہ

دونوں تنہا ایک جگہ رہ چکے ہوں تو اس کی بیٹی اس کے خاوند کے لئے  
کبھی حلال نہ ہوگی۔ اگر بیوی مدخولہ ہو اور بیٹی اس کے زیر تربیت نہ رہی ہو یا بیٹی  
اس کی پروردہ ہو۔ مگر بیوی مدخولہ نہ ہو تو لڑکی سے نکاح کرنا حلال ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ زیر تبصرہ

ابن حزم اور فقہاء کے مابین نقطہ اختلاف :- میں ابن حزم دو باتوں

میں جمہور فقہاء کی مخالفت کرتے ہیں۔

۱۔ پہلی بات یہ ہے کہ مدخولہ ہونے کے لئے ان کے نزدیک مجامعت شرط نہیں بلکہ دخول حقیقی  
کے بغیر خلوت صحیحہ ہی کافی ہے۔ حالانکہ فقہاء دخول حقیقی کی شرط لگاتے ہیں۔ قرآن کریم ایک شائستہ  
کتاب ہے۔ لہذا وہ عربیوں اور انہیں وطنی یا جماع کا ذکر نہیں کرتا۔ بلکہ بطریق کنا یہ بھی اسے لفظ مس سے  
کبھی دخول اور کبھی نفستی سے تعبیر کرتا ہے۔ مثلاً فرمایا: "فَلَمَّا تَغَشَّاهَا" (جب اس سے جماع کیا)  
آیت میں لفظ دخول سے مراد مجامعت ہے۔ ابن حزم اس سے ظاہری مفہوم یعنی بیوی کا رخصت  
اور خلوت مراد لیتے ہیں اگرچہ مجامعت کی نوبت نہ آئے۔

۲۔ دوسرا نقطہ اختلاف یہ ہے کہ لڑکی کی حرمت کے لئے عورت کے خاوند کے گھر میں اس  
کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے ابن حزم لکھتے ہیں۔

"اس کی دلیل تذکرۃ الصدرا بیت ہے اس آیت میں بیوی کی بیٹی کو اس شرط  
پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ خاوند کے یہاں پروردہ ہو اور اس کی ماں مدخولہ ہو۔ اگر یہ  
دونوں شرائط مفقود ہوں تو لڑکی حرام نہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت  
کے بعد ارشاد ہوتا ہے :-

وَأَحِلَّ لَكُمْ مِمَّا دَسَّاءَ ذَٰلِكُمْ - ۱۷ (اس کے ماسوا سب حلال ہیں)

(النساء-۲۴)

"فی حججہ رکنہ" کا مفہوم ابن حزم کے نزدیک عام ہے کہ اس کے زیر تربیت رہی ہو یا خاوند  
کو اس پر حق ولدیت حاصل ہو۔ اگرچہ لڑکی اس کے گھر میں سکونت پذیر نہ ہو۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ اس  
لفظ سے دو امر ثابت ہوئے :-

۱۔ لڑکی اپنی والدہ کے خاوند کے گھر میں رہتی ہو۔  
 ۲۔ لڑکی کی والدہ کا خاوند اس کی نگرانی کرتا ہو اور اس پر اسے حق ولایت حاصل ہو  
 ان دونوں امور کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ لڑکی اس کے زیر تربیت رہی ہے۔ جہاں تک  
 منکوحہ بیوی کی والدہ کا تعلق ہے وہ صرف نکاح ہی سے حرام ہو جاتی ہے۔ لہذا وہاں وہ قید  
 مذکور نہیں۔

مخالفین کے دلائل اور ان پر تنقید کے دلائل ذکر کرنے کے بعد ابن حزم مخالفین  
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”رَبَابُكُمْ“ کا عطف محرمات پر ہے ”الَّتِي فِي مَجُورِكُمْ“ رباب کی صفت ہے  
 ”مِنْ نَسَائِكُمْ“ رباب کا صلہ ہے

ان دونوں اوصاف سے مقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اوصاف  
 رباب کے ساتھ مختص ہیں۔

پھر ابن حزم مسئلہ زیر نظر میں صحابہ کے اختلاف پر روشنی ڈالتے ہیں اور اپنی تائید میں  
 ان کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ تاکہ ان کے مسلک کی غرابت و اجنبیت زائل ہو جائے  
 لکھتے ہیں :-

”منکوحہ بیوی کی لڑکی کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے  
 ایک گروہ کا خیال ہے کہ اس کی ماں اگر مدخولہ ہو تو لڑکی حرام ہو جائے گی۔  
 خواہ وہ اس کے زیر تربیت رہی ہو یا نہیں۔ حسن بن عمران بن حصین سے  
 جب ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے ایک عورت سے نکاح  
 کیا اور دخول سے قبل اسے طلاق دے دی تو انہوں نے جواباً کہا منکوحہ بیوی  
 کی ماں اس پر حرام ہو جائے گی خواہ اس سے مجامعت کی ہو یا نہیں۔ اگر دخول  
 سے قبل اس کو طلاق دے دے تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ  
 مالک اور شافعی کا قول یہی ہے۔

”ایک گروہ اس مسئلہ میں ہمارا ہم خیال ہے مالک بن ادس روایت کرتے ہیں۔  
 میری ایک بیوی صاحب اولاد تھی وہ فوت ہو گئی تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں

حضرت علی سے ملا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا بیوی فوت ہو گئی فرمایا کیا اس کی کوئی لڑکی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں! آپ نے پوچھا کیا وہ آپ کے زیر تربیت رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں وہ طائف میں مقیم ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے نکاح کر لیں۔ میں نے دریافت کیا وہ آیت قرآنی کیا ہوئی جس میں فرمایا "دبا بکم اللہ فی حورکم" فرمایا وہ آپ کے یہاں کی تربیت یافتہ نہیں۔ اس کی حرمت اس وقت ہے جب وہ آپ کے گھر کی پروردہ ہو۔"

ابن جریر کہتے ہیں مجھے میسرہ نے بتایا کہ ایک شخص نے مجھے خبر دی جیسے عبداللہ بن معبد کہا جاتا تھا کہ ان کے باپ یا دادا نے ایک صاحبِ اولاد و عورت سے نکاح کیا۔ کچھ عرصہ وہ بیوی خاوند کی حیثیت سے رہے۔ پھر اس نے ایک نوجوان عورت سے نکاح کیا۔ اس عورت کے بیٹے نے کہا کہ ہماری والدہ بوڑھی ہو چکی تھی تم نے ایک نوجوان عورت سے نکاح کر لیا اور اس سے بے نیاز ہو گئے اب اس نوجوان عورت کو طلاق دے دو۔ اس نے کہا میں اس شرط پر طلاق دوں گا کہ تم اپنی بیٹی میرے نکاح میں سے دو۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔ اس نے نوجوان عورت کو طلاق دے دی نہ وہ لڑکی اس کی تربیت میں رہی تھی اور نہ اس کا والد بوڑھا کا بیٹا تھا۔ میں سفیان بن عبداللہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرے لئے حضرت عمر سے فتویٰ پوچھیے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ چلیئے میں ان کی معیت میں حضرت عمر کے پاس حاضر ہوا۔ اور ماجرا کہ سنایا۔ حضرت عمر نے فرمایا کچھ حرج نہیں۔ فلاں شخص سے فتویٰ پوچھئے اور مجھے بھی بتاتے چائیے۔ راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ حضرت علی سے مسئلہ دریافت کرنے کا حکم دیا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔"

یہ ابن حزم کا بیان ہے۔ ذکر کردہ واقعہ محتاج تشریح ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا عورت کا ایک بیٹا تھا جو ایک لڑکی کا والد تھا۔ جب وہ بوڑھی ہو گئی



تو اس کے خاندان نے اسے طلاق دے دی اور ایک نوجوان عورت سے شادی کر لی۔ بڑھیا کا بیٹا کہ  
اسے ڈانٹتے لگا اور اس سے کہا کہ نوجوان عورت کو طلاق دے دو۔ اس نے حلف اٹھا کر کہا کہ میں تب  
طلاق دوں گا اگر تم اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو یعنی مطلقہ بڑھیا کی پوتی مجھے بیاہ دو۔ اس نے ایسا کر دیا  
کیونکہ وہ لڑکی اور اس کا والد دونوں اس کے تربیت یافتہ نہ تھے حضرت عمر نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں  
ہم دیکھتے ہیں کہ ابن حزم اسی طرح صحابہ کے  
نظریہ ابن حزم پر ایک تنقیدی نگاہ :- غیر معروف اقوال سے اپنے قول کی تصدیق و توثیق  
کرتے ہیں اور جمہور فقہاء کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ جن کا قول ہے کہ دخول سے مجامعت مراد ہے  
اس کے مقدمات نہیں۔

ابن حزم کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **الَّذَاتِیْنَ وَخَلْتُمْ بِهِنَّ** "دخول سے مراد مجامعت ہے۔  
ابن عباس کا قول یہی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ منکوحہ بیوی کے بوسہ سے اس  
کی بیٹی حرام ہو جاتی ہے۔ عطاء کہتے ہیں کہ خاوند اور بیوی کی خلوت مراد ہے اگرچہ  
وہ کچھ بھی نہ کرے۔"

اس سے ابن حزم کا زاویہ نگاہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن حزم آیات  
سے لفظی استدلال کرتے ہیں وہ "دخول" اور "حجور کم" کے الفاظ کو ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں۔ وہ الفاظ و  
عبارات کے منفرد مفہوم کی طرف توجہ نہیں دیتے اگرچہ الفاظ بانگ و ہل اپنے معانی کا اعلان کر  
رہے ہوں۔ دراصل "حجور کم" کے الفاظ سے منع نکاح کی ترغیب دلانا مقصود تھا کہ انہوں نے بیٹیوں کی  
طرح تمہاری گود میں نشوونما پائی ہے کہ درمیان میں کوئی پردہ حائل نہ تھا۔ لہذا جس طرح بیٹی حرام  
ہوتی ہے اسی طرح وہ بھی حرام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دخول اور "نی حجور کم" کے دونوں اوصاف بیان  
کرنے کے بعد حالتِ حلت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا۔

فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ (النساء - ۲۳) میں کوئی حرج نہیں

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری شرط یعنی "نی حجور کم" ذکر نہیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے

کہ دوسری شرط ضروری نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ اسے ذکر فرماتے۔ ابن حزم اپنے مخالفین کو یہ آیت یاد دلایا کرتے ہیں۔ "وَكَانَ سَابِقَ لَكَ نَسِيًّا" (مریم - ۶۴) اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں) اب ہم انہیں یہ آیت یاد دلاتے ہیں کہ اگر "نی حور کم" کی قید ضروری تھی تو اللہ تعالیٰ اسے کیونکر بھول جاتے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اصحاب ظواہر ظاہری الفاظ کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی گہرائی میں اثر کر حقائق تک نہیں پہنچتے۔

قاضی کے حکم سے زوجین میں تفریق ابن حزم بحکم قاضی زوجین میں تفریق کرنے کو صرف چند صورتوں میں صحیح مانتے ہیں۔ مثلاً بیوی خاوند پر حرام ہو جائے۔ بیوی خاوند کی مالک ہو جائے یا خاوند بیوی کی ملکیت حاصل کر لے یا ایسے خیار کی بنا پر جو منصوص ہو۔ ان امور کو وہ آٹھ اشیاء میں محدود قرار دیتے ہیں۔ ابن حزم فرماتے ہیں۔

"اٹھ وجوہات کی بنا پر نکاح بعد از صحت فسخ ہو جاتا ہے۔

(۱) رضاعت کی بنا پر بیوی حرام ہو جائے (مثلاً بیوی خاوند کی ماں کا دودھ پی لے یا خاوند بیوی کی ماں کا دودھ پئے۔ کیونکہ ابن حزم کے نزدیک بڑی عمر میں بھی حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے)

(۲) خاوند کا باپ یا دادا غلطی سے یا قصداً بیوی سے زنا کرے۔

(۳) زوجین آپس میں لعان کریں۔

(۴) بیوی پہلے لونڈی ہو پھر آزاد ہو جائے تو اسے فسخ نکاح کا اختیار ہے۔

(۵) دونوں کا مذہب الگ الگ ہو۔ اس صورت میں بیوی کو فسخ نکاح کا اختیار ہے

البتہ اگر خاوند اسلام لے آئے اور بیوی کتابیہ ہو تو دونوں کا نکاح باقی رہے گا۔ اس

صورت کو مستثنیٰ کر کے دینی اختلاف کی پانچ صورتیں ہیں۔

(الف) خاوند اسلام لائے اور بیوی غیر کتابیہ ہو۔

(ب) بیوی مشرف باسلام ہو اور خاوند کافر ہو اس کا کتابی وغیر کتابی ہونا برابر

ہے۔

(ج) خاوند مرتد ہو جائے اور بیوی مسلمان رہے۔

(د) بیوی مرتد ہو اور خاوند مسلمان رہے۔

- (۱) دونوں مرتد ہو جائیں۔ ان پانچوں صورتوں میں نکاح فسخ ہو جائے گا۔  
 (۲) فسخ نکاح کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ خاوند بیوی یا اس کے کچھ حصہ کا مالک ہو جائے۔  
 (۳) ساتویں وجہ یہ ہے کہ بیوی خاوند کی یا اس کے کچھ حصہ کی مالک ہو جائے۔  
 (۴) خاوند یا بیوی کی موت کی صورت میں بے

طلاق و خلع کے علاوہ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں زوجین کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے۔ بنا پر ابن حزم کے نزدیک خاوند کے عیوب بیوی کی تکلیف اور خاوند کی غیوبت کی صورت میں نکاح فسخ نہیں ہوگا۔ ابن حزم کا یہ نظریہ جمہور فقہاء کے خلاف ہے اس میں وہ اپنے مسلک پر نصوص و استصحاب الحال سے استناد کرتے ہیں۔

مسئلہ زیر تبصرہ میں ابن حزم کا نقطہ نظر  
 مسئلہ زیر تبصرہ میں ائمہ اربعہ کے مسالک :- ان کے دلائل اور فقہاء پر ان کی تنقیح پر

روشنی ڈالنے سے قبل ہم اس ضمن میں فقہاء کے اختلافی اقوال ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ قاضی کے حکم سے تفریق زوجین کے مسئلہ میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔ بعض کا نقطہ نظر موجب حرج و صیحت ہے۔ بعض کے خیالات میں وسعت پائی جاتی ہے۔ حنفیہ کا مسلک اس ضمن میں محدود ہے۔ شافعیہ کے یہاں مقابلہ وسعت پائی جاتی ہے۔ مالکیہ و حنابلہ کا نظریہ فریقین کی نسبت وسیع تر ہے۔

مسلک احناف: حنفیہ عیب زوجہ کی بنا پر تفریق کی اجازت نہیں دیتے۔ کیوں کہ خاوند کو حق طلاق حاصل ہے۔ اور وہی کافی ہے۔ جہاں تک خاوند کے عیوب کا تعلق ہے جنسی نقص کی بنا پر جب ثابت ہو جائے کہ خاوند نے بیوی سے مجامعت نہیں کی تفریق کی اجازت دیتے ہیں۔

جنسی نقص تین امور میں محدود ہے۔

(۱) مقطوع الذکر ہونا۔

(۲) خستی ہونا۔

(۳) نامرد ہونا۔

کیونکہ جنسی نقص کی موجودگی میں مقصدِ نکاح جو تحفظِ نسل اور طبعی شہوت کا پورا کرنا ہے فوت ہو جاتا ہے اور ان کی موجودگی میں نکاح کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ اس مسئلہ میں اخاف کا اعتماد اقوال صحابہ پر ہے۔

اصحاب ابی ابو حنیفہ میں سے امام محمد نے اس پر تین عیوب کا اضافہ کیا ہے۔

(۱) برص۔

(۲) جذام۔

(۳) جنون۔

جب خاوند میں ان عیوبِ ثلاثہ میں سے کوئی ایک پایا جاتا ہو تو بیوی قاضی سے نکاح فسخ کروا سکتی ہے۔

امام محمد یہ حکم اس لئے صادر فرماتے ہیں کہ ان عیوب کی موجودگی میں باہمی معاشرت ناممکن ہو جاتی ہے۔ یہ امراض یوں بھی ناقابلِ اصلاح ہیں۔ اور مردانہ امراض کی طرح موجب ضرر ہیں یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ ان وجوہ کے علاوہ کسی اور وجہ کی بنا پر ان کے یہاں تفریقِ زوجین درست نہیں۔

نان و نفقہ نہ دینے ضررِ رسانی خاوند کی گمشدگی یا بیوی کے عیوب کی بنا پر یا نقائص کے باعث تفریقِ زوجین جائز نہیں ہے۔

جب خاوند فقروفاقم کے باعث بیوی کو نان و نفقہ مالکیہ، حنابلہ اور شوافع کے نظریات پر نہ دے سکے تو امام شافعی کے نزدیک تفریقِ جائز ہے۔ امام شافعی خاوند کے افلاس کو قوتِ رجولیت میں نقص کی طرح موجب تفریق سمجھتے ہیں۔ جب خاوند قادر علی الانفاق ہو تو امام شافعی کے نزدیک تفریقِ جائز نہیں۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک اس کے قریب قریب ہے۔ عیوبِ تناسلیہ کی بنا پر امام شافعی کے نزدیک تفریقِ جائز ہے خواہ یہ عیب مرد میں پایا جاتا ہو، یا عورت میں کوئی ایسا نقص ہو جس کے سبب وہ مجامعت کے قابل نہ ہو۔

امام شافعی جنون، جذام یا برص کی بنا پر بھی تفریق کو جائز تصور کرتے ہیں، خواہ مرد میں ہو یا عورت میں۔ ضررِ رسانی خواہ کسی قسم کی ہو اور گمشدگی امام شافعی کے نزدیک موجب تفریق نہیں۔ اس صورت میں ازالہ ضرر کی کوشش کی جائے گی اور زوجیت کو قائم رکھا جائے گا۔

مالکیہ نان و نفقہ نہ دینے کی بنا پر تفریق کی اجازت دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ قدرت کے باوجود عدم انفاق ان کے یہاں موجبات تفریق میں سے ہے، عیوب ان کے یہاں صرف چارہی میں محدود نہیں جن کا ذکر قبل ازیں کیا گیا۔

مالکیہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہر اس مستحکم عیب کے باعث تفریق جائز ہے، جو بوقت نکاح بتایا نہ گیا ہو۔ اور اس کا اظہار ہونے کے بعد اسے ناپسند کیا گیا ہو۔ یا وہ نکاح کے بعد عارض ہوا ہو اور اسے ناپسند کیا جاتا ہو۔ مالکیہ و حنابلہ ضرر و غیوبت کی بنا پر بھی تفریق کو جائز تصور کرتے ہیں۔

اس بات پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ قاضی گمشدہ شخص کی موت کا فیصلہ صادر کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ یہ بات اس کے نزدیک ثابت شدہ ہو۔ اگرچہ اثبات موت کے طرق میں اختلاف ہے۔ اس ضمن میں حنفیہ کا مسلک بڑا شدید ہے۔ وہ مفقود کی موت کا حکم اس وقت صادر کرتے ہیں۔ جب اس کے ہمسرد ہم عصر سب فوت ہو جائیں۔ بعض اس کے لئے نوے سال کی مدت مقرر کرتے ہیں اور بعض اس سے بھی زیادہ۔ دوسرے ائمہ کے یہاں اس ضمن میں وسعت پائی جاتی ہے اور وہ قرآن سے اخذ و احتجاج کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ کتب فقہ کے باب المفقود میں تفصیلاً درج ہے۔

یہ ہیں ائمہ اربعہ اور ان کے وابستہ فتراک  
تفریق زوجین میں ظاہر یہ کا مسلک :- لوگوں کے افکار و نظریات!

اصحاب ظاہر اسے تسلیم نہیں کرتے۔ آپ جان چکے ہیں کہ طلاق و خلع اور ایلاء کے علاوہ وہ صرف امور ثانیہ میں تفریق کے قائل ہیں۔ ہم قبل ازیں ان کی تفصیلات ذکر کر چکے ہیں۔

اصحاب ظاہر کے نظریہ کی اساس یہ ہے کہ طلاق کا حق صرف خاوند کو دیا گیا ہے کسی اور کو نہیں اگر وہ بیوی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ مستوجب تعزیر ہے۔ نان و نفقہ نہ دینے کی صورت میں اس پر جبر کیا جاسکتا ہے یا اس کے مال کو فروخت کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی عیب پایا جاتا ہے تو اس کی بنا پر تفریق جائز نہیں۔ کیوں کہ تفریق کی کوئی دلیل کتاب و سنت اور اجماع میں موجود نہیں۔ حلت بضمہ بنا بر نکاح عمل میں آئی تھی اب بدون نص اسے حرام کر کے دوسرے کے لئے کیونکر حلال کر دیا جائے؟ اور اسے کسی شرعی دلیل کے بغیر خاوند سے الگ کیسے کر دیا جائے؟

اب ہم تفریق بنا پر عیوب گمشدگی یا عدم اتفاق کے بارے میں ابن حزم کے نظریات بیان کریں گے۔

عیوب زوج کے تذکرہ کا آغاز ابن حزم اس کی نامردی سے کرتے ہیں اور بڑی شدت سے صراحت کرتے ہیں کہ اس عیب کی بنا پر اس کی بیوی کو الگ نہیں کیا جاسکتا۔ جب تک وہ خود اسے طلاق نہ دینا چاہتا ہو۔  
فرماتے ہیں۔

”جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور آغاز کار ہی سے مجامعت پر قادر نہ ہو۔ یا ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ مجامعت کرنے کے بعد وہ قادر نہ رہے تو حاکم ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کر سکتا نہ خاوند کو مہلت دے سکتا ہے وہ عورت اس کی بیوی رہے گی اور اسے اختیار ہو گا کہ اسے طلاق دے یا نہ دے اس مسئلہ میں قدیم زمانہ سے اختلاف چلا آتا ہے“

پھر ابن حزم اس مسئلہ میں صحابہ کے فتاویٰ نقل کرتے ہیں جن پر ائمہ الرب نے جواز تفریق میں اعتماد کیا ہے اور ان روایات کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت عمر کی روایت۔ بعض روایات کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں کیوں کہ وہ اقوال صحابہ سے احتجاج نہیں کرتے جیسا کہ قبل ازیں ہم بیان کر چکے۔

پھر اپنے نظریہ کی تصدیق و توثیق میں صحابہ کے اقوال پیش کرتے ہیں۔

”چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پر واز ہوئی کہ کیا آپ ایک ایسی عورت کے حق میں فیصلہ فرمائیں گے جو نہ تو رانڈ ہے اور نہ شادی شدہ فرمایا تمہارا خاوند کہاں ہے؟ کتنے لگی یہ دیکھنے لوگوں میں موجود ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھا گرتا پڑتا آیا حضرت علی نے فرمایا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ بوڑھے نے کہا اس سے دریافت کیجئے کیا میں نان و نفقہ نہیں دیتا؟ حضرت علی نے فرمایا پھر ٹھیک ہے اور کوئی بات ہے بوڑھا کتنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو خود بھی تباہ ہوا اور بیوی کو بھی ہلاک کیا۔ عورت بولی میرے اور خاوند کے درمیان تفریق کر دیجئے فرمایا صبر کرو اور خدا سے ڈرو اگر چاہے تو تمہیں کسی بڑی مصیبت

میں گرفتار کر دے۔

جو لوگ نامردی کی بنا پر تفریق کے قائل ہیں ان کا اعتماد صرف اقوال صحابہ ہی پر نہیں بلکہ وہ حدیث نبوی بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ابورکبانہ اور ان کی بیوی جو مزنہ کے قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی کے درمیان تفریق کر دی تھی۔ اس عورت نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر کہا تھا کہ میرا خاوند میرے لئے اتنا کارآمد بھی نہیں جتنا میرا یہ بال (سر کا بال) ہاتھ میں پکڑ کر کہا۔  
ابن حزم اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابورکبانہ نہ صحابی تھے اور نہ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ان کے خیال میں اس حدیث سے استدلال کرنا ابلہ فریبی کے مترادف ہے۔

عدم تفریق کے اثبات میں ابن حزم کے دلائل :- کے براہین و دلائل ذکر

کرنے کے بعد ابن حزم اپنے دلائل بیان کرتے ہیں۔

ابن حزم لکھتے ہیں۔

”ہمارے قول کی دلیل یہ ہے کہ ہر نکاح خدا کے حکم اور سنت نبوی کی بنا پر تکمیل پذیر ہوتا ہے۔ منکوہہ عورت دوسروں پر حرام ہو جاتی ہے جو شخص کتابت سنت کی دلیل کے بغیر ان کے درمیان تفریق کراتا ہے وہ ان لوگوں کے زمرہ میں داخل ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ  
الْمَرْءِ وَنَجْوَاهُ - (البقرہ - ۱۰۲)

ان دونوں سے وہ باتیں سیکھتے ہیں جن سے  
بیوی خاوند کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں

وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا -

پھر ابن حزم ان فقہاء کو لکھتے ہیں جو نامردی کو خاوند کا ایک لازمی عیب قرار دے کر اسے ایک سال کی مہلت دیتے ہیں۔

ابن حزم ارقام فرماتے ہیں۔

”ہم اس بات سے منع نہیں کرتے کہ عینین (قوت رجولیت سے محروم) اگر چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ہمیں اس بات سے انکار ہے کہ جبراً دونوں میں

تفریق کر دی جائے۔ یا عینین کو ایک سال کی مہلت دی جائے اور پھر تفریق کر دی جائے۔ یہ وہ باطل نظریہ ہے جو نہ تو کتاب و سنت میں مذکور ہے نہ کسی روایت صحیحہ یا فاسدہ میں اس کا ذکر آیا ہے نہ عقل و منطق سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اگر مخالفین یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اہل میں توقف کا حکم دیا ہے مدت توقف گزرنے کے بعد اہل کرنے والے کو رجوع یا طلاق دونوں میں سے ایک پر مجبور کیا جائے گا۔ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ درست ہے چار ماہ انتظار کا حکم دیا گیا ہے مگر تفریق کرنے میں ایک سال کی مہلت کس دلیل پر مبنی ہے؟

ابن حزم ان لوگوں پر بڑے زور دست وار کرتے ہیں اور اپنی تنقید کے تیروں سے انہیں گھائل کرتے ہیں جن کا قول ہے کہ عینین اور اس کی بیوی میں تفریق کر دی جائے۔ یا جو یہ کہتے ہیں کہ اسے ایک سال کی مہلت دی جائے اور اگر وہ اپنی بیوی پر قادر نہ ہو تو ان میں تفریق کر دی جائے۔ یہ احناف شوافع اور مالکیہ ہیں۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ سال کی مہلت نامردی کی آزمائش کے لئے ہے۔ کیونکہ ایک ہفتہ یا ایک ماہ مجامعت نہ کرنے سے کسی کا عینین ہونا ثابت نہیں ہوتا ایک سلیم المزاج آدمی بھی بعض اوقات اتنا عرصہ مقاربت سے اجتناب کر لیتا ہے۔ سال بھر جلاوطن کرنا سال کی چاروں فصلوں کو شامل ہے۔ سال بھر کی عدم مقاربت سے ظاہر ہوگا کہ نامردی کا عارضہ اسے دائمی طور پر لاحق ہے۔ دراصل لوگوں کے مزاج مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایک موسم میں خوش و خرم رہتے ہیں اور بعض دوسرے میں۔ لہذا یہ ضروری تھا کہ عینین کو اتنی مہلت دی جاتی جو فصول اربعہ پر مشتمل ہوتی۔ اگر اس پوری مدت میں وہ بیوی سے مجامعت نہیں کرتا تو اس کے عینین ہونے کی دلیل ہے۔ جب اس کا اثبات ہو جائے گا۔ تو دونوں میں تفریق کر دی جائے گی۔

ابن حزم جس طرح عینین ہونے کو موجب تفریق قرار دیتے ہیں اس طرح جملہ اسباب تفریق کے بارے میں قطعی فیصلہ صادر کرتے ہیں سوائے اس تفریق کے جو خداوند کی جانب سے ہو۔

فرماتے ہیں :-

«انکاح جب ایک مرتبہ صحیح ہو جائے تو زوجین کے مبتلاء جذام برص یا جنون ہونے



سے فسخ نہیں ہوتا۔ نہ اس طرح فسخ ہوتا ہے کہ خاوند بیوی میں ان میں سے کوئی عیب پائے یا بیوی خاوند میں کوئی نقص ملاحظہ کرے۔ اسی طرح نکاح نامردی کشف فرج نان و نفقہ باس یا مہر ادا نہ کرنے سے بھی فسخ نہیں ہوتا۔ پھر ابن حزم جدام برص اور جنون کا تفصیلی ذکر کرتے اور اس ضمن میں اقوال صحابہ اور اصحاب مذاہب ائمہ کے بیانات نقل کرتے ہیں۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ اقوال صحابہ سے ائمہ کے نظریات کی تائید نہیں ہوتی کیوں کہ صحابہ کے اقوال مکمل طور پر افکار ائمہ سے ہم آہنگ نہیں۔ یا اس لئے کہ ان کی سند ضعیف ہے وہ یوں بھی صرف انہی اقوال صحابہ کو حجت قرار دیتے ہیں، جو اجماعی ہوں۔ کیوں کہ اس کا نام تقلید ہے اور تقلید نارو ہے۔

ثابٹین فسخ نکاح ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے بنی غفار کی ایک عورت سے نکاح کیا جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کپڑے اتارے تو آپ نے اس کے پہلو پر سفیدی کا ایک نشان دیکھا۔ آپ نے فرمایا کپڑے پہن لو اور اپنے گھر چلی جاؤ۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کی صحت تسلیم بھی کر لی جائے تو اس سے تفریق بحکم تاضی کا اثبات نہیں ہوتا۔ کیوں کہ آپ نے اسے طلاق دی تھی اور طلاق دینا منع نہیں۔ پھر نکھتے ہیں کہ خاوند کی سفاندگی کے بغیر تفریق کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ دلیل تو صرف کتاب و سنت یا اس اجماع میں مضمون ہے جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہو۔

ابن حزم لکھتے ہیں کہ

”یہ سب فاسد خیالات ہیں۔ نکاح کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے

فَاتْمَسَاكُ كَيْمَعَرُوفٍ اَوْ تَسْرِیْحٍ

یا حَسَانٍ (البقرہ۔ ۲۲۹)

اس کے علاوہ اگر کوئی نفس صحیح ہوگی تو اس پر عمل کیا جائے گا۔

ابن حزم اگرچہ بنا بر عیوب

**عقد نکاح کے وقت عیوب سے سلامتی کی شرط** تفریق زوجین کے قائل نہیں

ہیں تاہم ان کا خیال ہے کہ اگر زوجین میں سے ایک دوسرے کا سالم از عیوب ہونا شرط ٹھہرالے

اور بعد میں پتا چلے کہ یہ شرط موجود نہیں تو نکاح خود بخود فسخ ہو جائے گا اور واضح ہو گا کہ جس بات پر معاملہ طے ہوا تھا وہ اس میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا اندرین صورت بلا مرضی فریقین نکاح فسخ ہو جائے گا۔

ابن حزم ارقام فرماتے ہیں۔

«اگر زوجین عقد نکاح کے وقت عیوب سے سالم ہونے کی شرط لگائیں اور کسی میں کوئی عیب نکل آئے تو وہ نکاح فسخ ہو جائے گا اور کسی کو اس کے باقی رکھنے کا اختیار حاصل نہ ہوگا۔ اس نکاح میں نہ ہر ہوگا نہ میراث نہ نفقہ خواہ عورت مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عورت وہ نہیں جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا۔ کیونکہ سالم از عیوب عیب دار عورت سے الگ ہوگی۔ اگر وہ اس سے نکاح نہ کرے تو دونوں میں زوجیت کا رشتہ نہیں ہوگا۔»

ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ابن حزم نے ایک بے دلیل بات کہی ہے جو کسی نص و اجماع یا ایسی دلیل سے اخذ نہیں کی گئی جو مبنی بر نص یا اجماع ہو۔ ان کی یہ رائے فقط قیاس اسانی کی آئینہ دار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں انہوں نے دو جگہ اپنے اصول کی خلاف ورزی کی ہے۔

(۱) خلاف ورزی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ فتویٰ رائے کی بنا پر دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ خاوند نے جس عورت سے نکاح کیا تھا وہ اور تھی اور جو اسے پیش کی گئی وہ اور دونوں میں غیرت و اجنبیت کا نقطہ بڑا حیرت زا ہے۔ اس لئے کہ جب شخصی طور پر اور اشارہ اور نام کی بنا پر اس کی تعیین ہو چکی تھی تو یہ عورت عیب دار ہونے کی صورت میں ایک اجنبی عورت کیونکر بن گئی۔ البتہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس عورت پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اس لئے نہیں کہ یہ عورت کوئی اور ہے بلکہ اس لئے کہ جو شرط فائدہ کی موجب تھی وہ پائی نہیں جاتی۔

(۲) دوسری خلاف ورزی یہ ہے کہ انہوں نے عقد نکاح کے وقت جو شرط لگائی تھی اسے معتبر قرار دیا۔ حالانکہ ان کے نزدیک سب شرائط باطل ہیں سوائے اس کے جس کا ایفاء نص کی بنا پر ضروری ہو۔

اگر خاوند کی گمشدگی کی بنا پر بیوی کو تکلیف پہنچ رہی  
**غیوبت زوج کی بنا پر تفریق زوجین** ہو تو بقول حنا بلہ و مالکیہ غیوبت کے ایک سال

بعد دونوں میں تفریق کرانا جائز ہے۔ اس کی تفصیلات ہم نے اپنے موقع پر اپنی کتاب "الاحوال الشخصیہ" میں بیان کر دی ہیں۔ حنفیہ اور شافعیہ اسے صحیح نہیں سمجھتے کیوں کہ ضرر کی بنا پر وہ تفریق کے قائل نہیں۔ شادی کا معاملہ بھی ایک خداوندی تقدیر ہے۔ غیبت کے معاملہ میں کوئی چارہ کار باقی نہیں بلکہ ان چار عورت کو صبر کرنا پڑے گا۔

ابن حزم صرف طلاق اور اسباب ثانیہ کی صورت میں تفریق کو جائز سمجھتے ہیں۔ لہذا خاوند کی گمشدگی کی صورت میں تفریق کا کوئی جواز نہیں۔ خواہ اس کی جائے سکونت یا زندگی اور موت کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ ابن حزم کی رائے میں اس کی موت ثابت ہو جانے سے قبل نہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی نہ اس کا مال تقسیم کیا جاسکے گا۔

ابن حزم لکھتے ہیں :-

"جو شخص مفقود ہو خواہ اس کی جائے سکونت کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ لڑائی میں گم ہوا ہو یا کہیں اور اس کی بیوی یا ام ولد بھی ہو۔ اس کے علاوہ اس کا مال اور لونڈی بھی موجود ہو۔ ایسے شخص کا نکاح اپنی بیوی سے کبھی نسخ نہ ہوگا اور وہ اس وقت تک اس کی بیوی رہے گی جب تک اس کی زندگی کا ثبوت ملتا ہے۔ لایہ کہ بیوی مر جائے۔ اس کی ام ولد آزاد نہ ہوگی، اس کی لونڈی کو فروخت نہیں کیا جائے گا۔ نہ اس کے مال کو الگ کیا جاسکے گا البتہ مذکورہ متعلقین پر اس کا مال خرچ کیا جائے گا۔ اگر مال نہ ہو تو اس کی لونڈی کو فروخت کر دیا جائے گا۔ اس کی بیوی اور ام ولد کو کہا جائے گا کہ اپنی ذمہ دار وہ خود ہیں۔ اگر بیوی اور ام ولد کے پاس مال نہ ہوگا تو فقراء و مساکین کے لئے جو صدقات رکھے گئے ہیں ان میں سے انہیں نان و نفقہ دیا جائے گا۔ اندر میں صورت ان میں اور فقراء میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ لے"

مفقود و الخیر کے بارے میں ائمہ اربعہ کے مذاہب :- ابن حزم اس کے بعد ائمہ اربعہ کے اقوال و فتاویٰ بیان کرتے اور صحابہ کے چیدہ و برگزیدہ فتاویٰ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ صحابہ بذات خود ان مسائل

سے دو چار ہوئے تھے کیونکہ فاروقی عہد اور بعد کے ادوار میں کافی لڑائیاں ہوئیں اور ان میں بہت سے لوگ گم ہو گئے۔ گمشدگی کے زیادہ واقعات لڑائیوں میں اور بعض بعض لڑائیوں کے علاوہ بھی پیش آئے۔

آثار صحابہ کی صحتِ عدمِ صحت پر تبصرہ کرنے کے بعد ابن حزم اقوال فقہاء پر تنقید کرتے اور آخر میں بیٹہ پر پہنچتے ہیں کہ وہ ناقابلِ احتجاج ہیں۔ کیوں کہ حجت صرف نص یا اجماع میں مضموم ہے۔ مگر یہاں ایسی کوئی چیز نہیں۔ لہذا مفقود الخبر کو اس وقت تک زندہ تصور کریں گے جب تک اس کی موت ثابت نہ ہو جائے۔ تحقیق موت کے بعد اس کی بیوی عدتِ وفات گزار دے گی اور اس کا مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل وہ باقی زندوں کی طرح ہوگا۔ وہ دوسروں کا وارث ہوگا۔ مگر کوئی اس کے مال کا وارث نہیں پائے گا۔ اس کی بیوی اس سے الگ نہیں ہوگی۔

ابن حزم لکھتے ہیں :-

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا قول حجت نہیں۔ لہذا گمشدگی کی بنا پر کسی کا نکاح فسخ نہ ہوگا۔ نہ صحتِ موت سے قبل اس کی بیوی عدت گزار دے گی۔ نہ کسی پر طلاق واقع ہو سکے گی۔ و یا اللہ التوفیق“

تفریقِ زوجین کے مسئلہ میں فقہ ابن حزم کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرور عیب کی بنا پر تفریقِ ناروا ہے۔ گو با ضرور عیب کو وہ قطعی طور پر تفریق کا موجب قرار نہیں دیتے۔ اس ضمن میں بعض متاخرین بھی ابن حزم کے ہمنوا ہیں۔ امام شوکانی نیل الاوطار اور الروضة اللندیہ میں فرماتے ہیں۔

”غور و فکر کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ فسخِ نکاح کے نظریہ کے اثبات میں کوئی قابلِ اعتماد دلیل ایسی نہیں، جس سے استدلال کیا جاسکے۔“

ابن حزم تان و نفقہ ادا نہ کرنے کے باعث تفریقِ زوجین کو جائز قرار نہیں دیتے۔

دیتے۔ اس مسئلہ میں آپ کا مسلک امام مالک شافعی اور احمد کے خلاف ہے ابن حزم مسئلہ زیر بحث میں امام ابوحنیفہ کے ہم خیال ہیں۔ البتہ اس امر میں دونوں کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے کہ امام ابوحنیفہ غنی اور قادر علی الاتفاق کو نان و نفقہ ادا کرنے پر مجبور کرنا جائز تصور کرتے ہیں۔ ابن حزم کے نزدیک یہ جبر واکراہ درست نہیں۔ ان کی رائے میں نان و نفقہ نہ ادا کرنے کے باعث تفریق درست نہیں۔ خواہ خاوندان و نفقہ ادا کرنے پر قادر اور خوشحال ہو یا فقیر اور عاجز ہو۔ اگر خاوند خوشحال ہو تو اس کے مال کو فروخت کر کے اس کی بیوی اور دیگر متعلقین پر خرچ کیا جائے۔ ابن حزم لکھتے ہیں :-

”اگر خاوند غائب ہو یا نان و نفقہ دینے سے انکار کرتا ہو تو اس کے مال کو فروخت کر دیا جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انصاف پر قائم ہو جاؤ! مسلمان پر جس طرح کسی کا نفقہ فرض ہو تو اس کا حق اس کے مال میں واجب ہو جاتا ہے اور اس کی ادائیگی اس پر لازم ہو جاتی ہے اگر وہ صرف اسی طرح نفقہ ادا کرنے میں قادر ہو کہ اس کی زمین یا سامان فروخت کیا جائے، تو بلاشبہ ایسا کر دینا چاہیے۔ کیونکہ قرآن میں فرمایا ہے کہ بیع کو حلال کیا جس شخص نے استیفاء حق کی بنا پر اس کے مال کو فروخت نہ کیا، اس نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا۔

قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ  
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
(المائدہ - ۲)

نیکی اور تقویٰ میں تعاون کیجئے اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں

حقدار کو حق ادا کرنا سب سے بڑی نیکی ہے اور حقدار کو حق سے محروم کرنا اثم و عذران میں داخل ہے۔

ابن حزم کے یہ ارشادات اس شخص کے بارے میں ہیں جو نان و نفقہ کی ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود عملی طور پر ایسا نہ کرتا ہو۔ اس مسئلہ میں ابن حزم امام ابوحنیفہ اور شافعی دونوں کے ہمنوا ہیں۔ کیونکہ امام شافعی عدم اتفاق کی بنا پر تفریق کی اجازت نہیں دیتے۔ جب خاوند تنگ دستی کی بنا پر نان و نفقہ ادا نہ کر رہا ہو۔ تو ابن حزم اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔

«اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ پھر وہ تنگ دست شخص کو کیونکر تکلیف دے گا۔ اگر عورت محتاج ہوگی تو اسے صدقات دئے جاسکتے ہیں۔ اگر اس کے اقارب اسے نان و نفقہ نہ دیں تو بیت المال میں جو فقراء کا حصہ ہے وہ اس سے لے سکتی ہے اگر عورت غنی ہوگی تو اپنے ذاتی مال میں سے خرچ کرے گی»

امام مالک نے ایک تنگ دست شخص اور اس کی بیوی میں تفریق کرا دی تھی، حالانکہ دور صحابہ میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ ابن حزم اس پر شدید تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں: «جب کسی شخص نے امام مالک رضی اللہ عنہ کے ایک تنگ دست شخص اور اس کی بیوی کے مابین تفریق کرانے پر اعتراض کیا کہ صحابہ بھی بعض اوقات فقر و فاقہ سے دوچار ہوتے تھے۔ اور اس کے باوجود زوجین میں تفریق نہیں کرائی جاتی تھی تو اس کے جواب میں امام مالک نے فرمایا تھا کہ آج کل لوگوں کی حالت بدل چکی ہے۔ اس عورت نے خوشحالی کی امید میں اس شخص سے نکاح کیا تھا»

ابن حزم کہتے ہیں کہ امام مالک کا یہ قول بڑا حیرت آفرین ہے اس میں امام موصوف سے متعدد غلطیاں صادر ہوئیں۔

پہلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے دانستہ صحابہ کے طرز عمل کی خلاف ورزی کی۔ حالانکہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ آج کل لوگوں کا تقابل اس دور کے خلاف ہے۔ آخر ان کے پاس اس امر کے جواز کی دلیل کیا تھی؟ پھر آپ کو تبدیلی کا علم کیوں کر ہوا؟ آخر اس دور میں بھی عورتیں مردوں سے نان و نفقہ اور مجامعت ہی کے لئے نکاح کرتی تھیں۔ اور آج کل بھی مقصد نکاح یہی ہے باقی رہا آپ کا یہ ارشاد کہ عورت نے خوشحالی کی امید کی بنا پر نکاح کیا تھا۔ اس ضمن میں آپ سے کہا جانے لگا کہ اس کی بنا پر صحابہ کے طرز عمل کو تبدیل کیونکر کیا جاسکتا ہے؟

بیوی کا اپنے خاوند پر خرچ کرنا۔ ابن حزم صرف یہی نہیں کہتے کہ خاوند تفریق جائز نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب خاوند تنگ دست اور عاجز من الکسب ہو اور بیوی غنی ہو، تو اس صورت میں خاوند کا نان و نفقہ بیوی پر واجب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیت "عَلَى الْمَوَارِيثِ مِثْلَ ذَالِكَ" کے پیش نظر خاوند کی وارث ہے۔ لہذا خاوند جب کا نہ سکتا ہو تو اس کا نفقہ بیوی پر واجب ہوگا نفقہ خواہ اقارب کا ہو یا خاوند کا اس کے عاجز عن الکسب کی صورت میں اس کا دار و مدار وجوداً و عدماً میراث پر ہے۔

ابن حزم کہتے ہیں۔

"اگر خاوند اپنے اخراجات پورے نہ کر سکتا ہو اور اس کی بیوی غنی ہو تو بیوی کو مجبور کیا جائے گا، کہ وہ خاوند پر خرچ کرے۔ اگر خاوند بعد میں خوشحال بھی ہو جائے تو بیوی اس سے یہ رقم وصول نہیں کر سکے گی۔ اگر خاوند غلام ہو تو اس کا نفقہ اس کے آقا پر ہوگا، اس کی بیوی پر نہیں۔ اس طرح جب آزاد آدمی کا کوئی باپ یا بیٹا ہو تو اس کا نفقہ اس کے باپ یا بیٹے پر ہوگا۔ الا یہ کہ دونوں محتاج ہوں۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ  
ابا پ پر ان کا کھانا اور لباس  
صوب دستور ضروری ہے  
(البقرہ - ۲۳۳)

مندرجہ بالا بیانات سے سابقاً ذکر کردہ حقیقت واضح ہوئی نیز معلوم ہوا کہ وجوب نفقہ میں بیٹا اور باپ بیوی سے مقدم ہوں۔ البتہ ان دونوں کے علاوہ بیوی دوسرے اقارب کی نسبت حق تقدم رکھتی ہے۔

یہ چند مسائل جن کا تعلق نکاح اور اس پر مترتب شدہ فقہ ابن حزم کے نمونے ہیں۔ اٹار سے بے نمونہ کے طور پر فقہ ابن حزم سے

پیش کئے گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں آپ ظاہری مسلک کے پابند ہیں اگرچہ ہم  
 قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ ابن حزم نا در حالات میں گاہے تغیل نصوص پر بھی عمل پیرا ہوتے  
 ہیں۔ ہم نے ایسے مقامات کی نشان دہی کرنے میں کوتاہی سے کام نہیں لیا۔ اب ہم ایسے مسائل  
 پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں جن میں آپ نے مذاہب اربعہ کی مخالفت کی ہے تاکہ تونہ کے ان  
 مسائل سے ان کا مسلک و منہاج کھل کر سامنے آجائے۔



## فقہ ظاہری اور مرض الموت کا مسئلہ

مریض مرض الموت کے تبرعات میں ائمہ کا اختلاف :- میں جو شخص مرض الموت

میں گرفتار ہے اس کے صدقات و تبرعات اور وہ تصرفات جن پر پردہ ڈالا گیا ہو اور دراصل وہ تبرعات کے قبیل سے ہوں، تندرست صحیح الجسم آدمی کے صدقات و خیرات کی طرح نہیں بلکہ ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وارث اپنے جائز حق سے محروم نہ رہیں۔

مریض مرض الموت وہ شخص ہے جو ایسے مرض میں مبتلا ہو جس سے موت واقع ہو جانے کا خدشہ ہو۔ پھر آدمی اس مرض میں موت کا شکار ہو جائے۔ ایسا شخص اگر دوران مرض کوئی صدقہ خیرات کرے یا ایسا کام کرے جو صدقہ کے حکم میں ہو یا صدقہ کا ظاہری احتمال رکھتا ہو تو ترکہ کو محفوظ رکھنے کے لئے اس صدقہ کو وصیت کے حکم میں سمجھا جائے گا۔ ائمہ اربعہ اس مسئلہ میں مختلف خیال ہیں کہ ایسے مریض کو کس حد تک تصرفات سے روک دیا جائے۔ البتہ ایک قاعدہ میں سب کا اتفاق ہے گویا ان کا اختلاف اصول و بنیادی قسم کا نہیں بلکہ فروعات میں ہے۔ سب سے زیادہ پابندی مریض پر امام ابوحنیفہ عابد کرتے ہیں۔ دیگر ائمہ کا مسلک بھی ان سے زیادہ بعید نہیں کیوں کہ اصل قاعدہ میں وہ آپ کے ہم خیال ہیں۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ چونکہ مریض مرض الموت کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہے لہذا اس حالت میں جو صدقات وغیرہ وہ کر رہا ہے، ممکن ہے کہ اس کا مقصد و رثاء کو نقصان پہنچانا ہو۔ یا بعض کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہو، اور بعض کے اس حصہ کو کم کرنا چاہتا ہو، جو خداوند کریم نے ورثہ میں سے اسے دیا۔ گویا مریض کے احکام کا تصور احکام میراث اور ان کی حمایت و تحفظ سے ماخوذ ہے۔ اور فقہاء نے اس کا سدباب کرنے کے لئے ان کو ملحوظ خاطر رکھا۔

مریض الموت کے بارے میں احناف کے نظریات :- امام ابوحنیفہ کا مسلک ہم بیان کر چکے ہیں کہ

اس ضمن میں سب سے زیادہ مبنی بر احتیاط ہے اس ضمن میں ہم ان کے بیان کردہ مسائل ذکر کرتے ہیں۔

امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ مریض جو صدقہ بھی کرتا ہے خواہ وارث کے لئے ہو یا کسی اور کے لئے وہ تمام مال کے ایک تہائی سے اسی صورت میں زائد ہو سکتا ہے۔ جب وارث اس کی اجازت دے دیں۔ ائمہ ثلاثہ اور جمہور فقہاء اس قول میں ان کے ہمنوا ہیں۔ امام ابوحنیفہ مزید فرماتے ہیں کہ متروکہ مال میں غبن فاحش پر مشتمل جو معاملہ بھی کیا جائے اسے غبن تصور کریں گے اور اسے تہائی مال میں محدود قرار دیں گے جس کی مریض کو اجازت ہے۔

امام ابوحنیفہ کے نزدیک متروکہ مال میں وارث سے جو معاملہ کیا جائے خواہ اس میں غبن مثل وصول کیا گیا ہو یا زیادہ ورثاء کی اجازت پر موقوف ہے کیوں کہ ہو سکتا ہے مریض وارث کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہو۔ اگر وارث قیمت ادا بھی کر دے تاہم یہ گمان باقی ہے۔ کیونکہ یہ معاملہ وارث سے کیا گیا ہے۔ کسی اور سے نہیں۔ لہذا یہ احتمال باقی ہے کہ مریض کسی ایک وارث کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہو۔

احناف یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مریض کسی وارث کے لئے قرض کا اقرار کر لے تو یہ ایسی صورت میں ثابت ہوگا۔ جب ورثاء اس کی تصدیق کریں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے مریض اس وارث کو تحفہ دینا چاہتا ہو۔

احناف کا قول ہے کہ قرض کا اقرار اس وارث کے لئے ہدیہ و تحفہ تصور کیا جائے گا۔ جس میں اقرار کرتے وقت وراثت کا سبب موجود ہو اور وہ بالفعل جیتے جی وارث ہو سکتا ہو۔ اقرار کرنے میں احتیاط کے لئے یہ کافی نہیں کہ وہ اقرار کے وقت بالفعل وارث ہو بلکہ وارث کے لئے احتیاط کا تقاضا یہ ہوگا کہ وراثت کا سبب اقرار کے وقت بھی قائم ہو۔

بلکہ علاوہ انہی احتیاط تصرفات سے تجاوز کر کے طلاق تک مریض الموت میں طلاق :- بھی پہنچ جاتی ہے۔ جب ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے

مرض الموت میں عورت کی رضامندی کے بغیر سے طلاق دی۔ حالانکہ وہ طلاق کے وقت سے لے کر وقت وفات تک وارث تھی اور وارث ہونے کا کوئی مانع موجود نہ تھا۔ تو یہ عورت

اس کی موت کے بعد عدت کے دوران اس کی وارث ہوگی۔ کیونکہ ورثہ اسے زوجیت کی بنا پر مل رہا ہے اور عدت گزر جانے کے بعد دونوں میں زوجیت کا رشتہ باقی نہیں رہتا۔ ہم مسئلہ زیر تبصرہ میں ائمہ اربعہ کے افکار و آراء ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کا مسلک ہم ذکر کر چکے ہیں۔

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:-

جب مرضی مرض الموت اپنی بیوی کو بائنتہ طلاق دے دے اور اس سے اس کا مقصد اسے ورثہ سے محروم کرنا ہو تو یہ عورت اس وقت تک وارث ہوگی جب تک کہ نکاح ثانی نہ کر لے خواہ اس کی عدت گزر چکی ہو۔ کیوں کہ مرضی ورثہ دینے سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے لہذا اس کی مخالفت کی جائے گی۔ نکاح ثانی کرنے کی صورت میں پہلے خاوند کی وراثت حاصل نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زوجیت کی بنا پر پہلے خاوند کی وارث قرار دی جاسکتی تھی اور اب دونوں کے درمیان ایک اور زوجیت حائل ہو چکی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بیک وقت دو آدمیوں کی بیوی ہو۔

امام مالک فرماتے ہیں:-

”طلاق دینے والا چونکہ وراثت دینے سے بھاگنا چاہتا ہے لہذا اس کی بیوی اگر کسی اور مرد سے نکاح کر لے اتنا ہم وہ پہلے خاوند کی وراثت ہوگی۔ کیونکہ خاوند اسے ورثہ سے محروم کرنا چاہتا تھا۔ اس کا یہ ارادہ گناہ کا موجب ہے۔ لہذا اس کے اس ارادہ کی مخالفت کی جائے گی۔ اور اس عورت کو نکاح ثانی کرنے کے باوجود اس کی وارث قرار دیا جائے گا۔“

امام شافعی مسئلہ زیر تبصرہ میں ائمہ ثلاثہ کی مخالفت کرتے ہیں اور مطلقہ ثلاثہ بائنتہ کو وارث نہیں ٹھہراتے۔

امام شافعی دراصل تصرفات میں عام پہلو کو لیتے ہیں اور ان کے اسباب و محرکات کو چنداں اہمیت نہیں دیتے مریض کے تصرفات کو وہ بھی محدود کرتے ہیں۔ کیونکہ تصرفات ورثہ کے حقوق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ البتہ طلاق کا ترکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو مالیات سے وابستہ نہیں ہے۔ طلاق کا مقصد صرف یہ ہے کہ خاوند کو عورت پر جو حقوق

حاصل تھے وہ اس نے ساقط کر دیئے۔ طلاق کا نذر کہ سے بڑا دور کا تعلق ہے۔

مریض مرض الموت کے بارے میں ابن حزم کا زاویہ نگاہ:۔  
یہ ہیں مرض الموت میں مبتلا ہونے والے

شخص کے بارے میں فقہاء کے نظریات اہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مقصد و غایت صرف ورثا اور موارث کی نگہداشت ہے۔ مریض کے بارے میں یہ حدود و قیود فتاویٰ صحابہ اور ان آثار سے ماخوذ ہیں۔ جن کو نبی کریم کی جانب منسوب کرنا محل نظر ہے۔

اصحاب فلواہر چونکہ تعلیل نصوص کو تسلیم نہیں کرتے نہ غایات و مقاصد کو دیکھتے ہیں اور نہ سبب الذرائع کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ لہذا وہ مرض الموت میں گرفتار ہونے والے شخص کے تصرفات کو ایک صحیح البدن آدمی کے تصرفات کی طرح درست تصور کرتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ عاقل و بالغ اور صحیح الخواس ہو۔ جو فقہاء مریض کے لئے خاص احکام مقرر کرتے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں۔ جس شخص کی موت واقع ہو جانے کا خطرہ ہو۔ وہ بھی مریض کے حکم میں ہے۔ مثلاً کوئی شخص خود اپنی ہلاکت کا سامان پیدا کر رہا ہو۔ یا اپنے سے قوی تر شخص کو دعوتِ مقابلہ دے رہا ہو۔ تو ایسا شخص بھی مریض مرض الموت کے حکم میں ہے۔ ابن حزم ایسے فقہاء کی علانیہ مخالفت کرتے ہیں۔ اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”جو شخص مرض الموت میں گرفتار ہو یا اسے قتل کرنے کے لئے کھڑا کیا گیا ہو۔

حاملہ عورت یا مسافر یہ لوگ ان احوال میں جو فعل انجام دیں مثلاً بیہ یا صدقہ

کریں، کسی کو ہدیہ دیں یا قرض کا اقرار کریں، یہ سب کچھ وارث کے لئے کریں یا

غیر وارث کے لئے، یا کسی وارث کے لئے قرض یا غلام آزاد کرنے کا اقرار

کریں، یا کسی قرض خواہ کا قرض ادا کریں جو خود بھی مقروض ہو یا نہ ہو۔ یہ سب معاملات

ان اشخاص کے مال میں اسی طرح درست ہیں جس طرح ایک تندرست باطن

مقیم آدمی کے معاملات۔ کسی بات میں بھی فرق نہیں ان کی وصیتیں بھی تندرست

آدمیوں کی طرح نافذ ہیں، قطعی طور پر کوئی فرق نہیں۔“

مسئلہ زیر نظر میں ابن حزم کے دلائل:۔ یہ ہے ابن حزم کا نقطہ نگاہ! شاید یہ مثال اصحاب

ظاہر کے فقہی مدک کو واضح کرنے کے لئے بڑی روشن مثال ہے۔ کیونکہ ان کا اعتماد صرف ظواہرِ نصوص پر ہوتا ہے۔ لہذا مناسب معلوم دیتا ہے کہ ہم اس ضمن میں اصحابِ ظاہر کے براہین و دلائل پر روشنی ڈالیں۔

ابن حزم مثلاً زیر تبصرہ میں عام آیات قرآنیہ و احادیث بنویہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کا حکم دیتے۔ صدقات کی ترغیب دلاتے اور خرید و فروخت کو حلال قرار دیتے ہیں۔ نیز فرماتے ہیں:-

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ (البقرہ ۲۳۷) (باہم مروت و حسن سلوک کو نہ بھولنے)

اعمالِ صالحہ کا حکم دینے میں اللہ تعالیٰ نے تندرست مریضی حاملہ غیر حاملہ با امن اور خائف مقیم اور مسافر سب کو یکساں قرار دیا ہے۔ اگر کسی کی تخصیص منظور ہوتی تو نبی کریم کے ذریعہ اس پر روشنی ڈال دیتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں۔ جب تخصیص مذکور نہیں تو ہم خدا کی شہادت کی بنا پر کہتے ہیں کہ اس نے کسی کو مخصوص نہیں کیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بلہ“

ابن حزم کا مندرجہ بالا بیان اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ آپ ظواہرِ نصوص پر پورا پورا اعتماد کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ صدقات و خیرات اور دیگر تبرعات کی ترغیب اپنے عموم پر باقی رہے گی کیوں کہ تخصیص کسی نص سے ثابت نہیں۔ مریض کو احکام سے اس وقت مختص کیا جائے گا۔ جب کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود ہو۔ ابن حزم اپنے مخالفین کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ جو سب کے سب صحابہ کے غیر اجماعی اقوال ہیں۔ جن میں ان کے یہاں اتفاق و اتحاد نہیں پایا جاتا احادیث بنویہ سے بھی ان اقوال کی تائید نہیں ہوتی۔

ابن حزم پھر صحابہ کے اقوال کا ثورہ نقل کرتے ہیں۔ جو سب کے سب اختلافی ہیں۔ بعض صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مریض تندرست آدمی کی طرح تصرفات میں آزاد ہے۔ تابعین جو علم صحابہ کے وارث تھے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مریض معاملات میں ایک تندرست آدمی کی طرح ہے۔ صحابہ میں سے حضرت

ابوموسیٰ اشعری، اسی کے قائل ہیں۔ تابعین میں سے مسروق اور شعبی کا یہی نظریہ ہے۔  
ابن حزم کہتے ہیں۔

» حضرت ابوموسیٰ اشعری کو یہی دیکھئے جس شخص کو موت کا یقین ہو آپ اس کے افعال کو جائز ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ اس کی حالت مریض سے بھی نازک تر ہوتی ہے۔ اسی طرح مسروق بردایت صحیحہ مریض کے تمام افعال کو اس کے مال میں نافذ قرار دیتے ہیں۔ امام شعبی کا میدان بھی اپنے فتویٰ میں اسی جانب ہے۔

جب اقوال صحابہ میں اختلاف کے آثار نمودار ہیں۔ تو ان کے بعض اقوال سے احتجاج کرنے والا اجماع سے خارج نہ ہوگا۔ بلکہ بقول ائمہ اربعہ وہ صحابہ کا اطاعت شعار ہوگا۔ ابن حزم صحابہ کے اقوال کو ناقابل استناد تصور کرنے کے علی الرغم ان کے اقوال کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ ابن حزم کے نزدیک صحابہ کے اقوال اس وقت حجت ہیں جب اجماعی ہوں۔

ابن حزم تبرعات مریض کو محدود کرنے والوں پر  
مخالفین کے دلائل پر نقد و نظر۔

انہیں گھائل کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہیں اپنے دلائل سے خاموش کر دیتے ہیں۔  
ابن حزم مخالفین پر پہلا حملہ یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ مختلف امراض میں فرق و امتیاز کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ فلاں مرض سے موت واقع ہوتی ہے اور فلاں سے نہیں؟ کسی نص قیاس یا قول صحابی سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔

ابن حزم رقمطراز ہیں۔

» امراض میں تفریق و تمیز کا قول کسی صحابی و تابعی اور کسی نص سے ثابت نہیں۔ لہذا ان کے قول کی کتاب و سنت قول صحابی یا نظر و قیاس سے تائید نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ لوگ مخالفت اجماع کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اس کا دعویٰ ان لوگوں کے دعویٰ کی نسبت اقرب الی الصواب ہوگا جو ایک اختلافی مسئلہ پر عمل کرنے والوں کو مخالفین اجماع قرار دیتے ہیں۔

ابن حزم کا یہ بیان دو لحاظ سے نقد و نظر پر مشتمل ہے۔

(۱) پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ جملہ امراض کو مساوی سمجھتے تھے اور ان میں فرق و امتیاز کے قائل نہ تھے۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ بعض صحابہ کی نگاہ معنی کی جانب ہوتی تھی جس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص ایسی حالت میں تصرفات کرتا، جب اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ مرض الموت میں مبتلا ہے۔ اسی بنا پر ان روایات کی نوبت آئی جو مریض مرض الموت کے تصرفات میں وارد ہوئیں اور ان کو تصرفات عند الموت سے تعبیر کیا گیا۔ گویا صحابہ مریض کے نفسانی خیالات پر نگاہ رکھتے تھے ذات مرض پلان کی نظر نہ تھی۔ وہ مریض کے اس حال کو معتبر سمجھتے تھے، جب وہ تبرعات کے پیش نظر کچھ معاملات انجام دیتا۔ اسی حالت سے اس کا مقصد واضح ہوتا تھا۔ اس کے برعکس فقہائے قیاس مرض کے ظاہری علامات کی بنا پر اسے مرض الموت قرار دیتے تھے اور اس طرح مختلف امراض میں فرق کرتے تھے۔

بجز مرض کو فقہائے قیاس نے مریض کے تصرفات کو تجدید تصرفات کی تردید۔ محدود کرنے کی اساس بنایا تھا اس پر حملہ آور ہونے کے بعد ابن حزم فقہاء کے اس قیاس کی تردید کرتے ہیں کہ مریض کے تصرفات وصیت کی مانند ہیں۔

اس قیاس کا ابطال کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”ان کے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم وصیت پر قیاس کرتے ہیں ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ قیاس کوئی بھی درست نہیں ہوتا۔ سب قیاسات باطل ہیں۔ اگر قیاس کی صحت تسلیم بھی کریں تو یہ قیاس جو اس موقع پر کیا جا رہا ہے، عین باطل ہے۔ وجہ بطلان یہ ہے کہ نذرست یومیہ مرض وصیت صرف ایک تہائی مال میں کی جاسکتی ہے۔ لہذا وصیت کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی یہی اصول پیش نظر ہونا چاہیے۔ خواہ ان تصرفات کا تعلق مریض سے ہو یا نذرست سے۔ یہ قیاس فقہاء کے قیاس کی نسبت صحیح تر ہے۔ فقہاء کہتے ہیں کہ مریض عورت کو ورثہ دینے سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، ہم کہیں گے کہ یہ تہمت اور ظن ہے۔“ والظن اکذب الحدیث

یہاں تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ وارث پہلے مر جائے اور مریض اس کا وارث ہو۔ تو پھر مریض پر یہ تہمت نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ ایک تندرست شخص کو بھی ثلث مال سے زیادہ میں تصرف کرنے سے روک دو۔ کیونکہ ورثہ سے فرار کی تہمت اس پر بھی عائد کی جاسکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مریض کی طرح مر جائے اور لوگ اس کے وارث ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے وارث مر جائے اور مریض ایک صحیح البدن آدمی کی طرح اس کا وارث ہو۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ بسا اوقات تندرست آدمی مریض سے پہلے مر جاتا ہے۔

جو بوڑھا شخص نوے سال کی عمر سے متجاوز ہے اسے بھی روک دو کہ ثلث مال سے زیادہ میں تصرف کر کے ورثہ دینے سے فرار اختیار نہ کرے۔ اگر تم یہ کہو کہ وہ کئی سال زندہ رہ سکتا ہے تو ہم کہیں گے مریض کے تندرست ہونے میں کونسا مانع ہے۔ وہ بھی دسیوں سال زندہ رہ سکتا ہے۔ مزید برآں ہم کہیں گے کہ اگر تہمت ہی لگانا ہے تو اس پر لگائیے جس کے وارث اس کے عصبیات ہوں نہ وہ جس کا بیٹا وارث ہو رہا ہو کیوں کہ مریض اپنے بیٹے کو محروم کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا) اگر فقہاء کہیں کہ یہ نص کے خلاف ہے تو ہم کہیں گے کہ تمہارا فعل ایسے تقربات خداوندی کے بارے میں خلاف نص ہے جو ایک شخص بطیب خاطر اپنے مال سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

أَنْفَقُوا مِمَّا ذَرَأْنَا لَكُمْ  
 دہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے  
 خرچ کیجئے

(البقرہ - ۲۵۴)

دوسری جگہ فرمایا۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا  
 تم ہرگز نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک اپنی محبوب  
 چیز خرچ نہ کرو

(ال عمران - ۹۲)

تُحِبُّونَ

مریض کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آنحضرت سے دریافت کیا گیا کہ افضل ترین صدقہ کونسا ہے۔ فرمایا تنگ دست آدمی اپنی محنت سے کائی ہوئی چیز جو خدا کی راہ میں دیتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔

اگر فقہاء یہ کہیں کہ نبی کریم سے افضل ترین صدقہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا



سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی کی حالت میں خیرات دو۔ جب کہ تم مال کے حریص ہو، فقر سے ڈرتے اور تو نگری کے امیدوار ہو۔ اس وقت نہیں جب روح حلق میں اٹک جائے تو آپ کہتے لگیں میں نے فلاں کو اتنا مال دیا اور فلاں کو اتنا حالانکہ وہ مال تو وارثوں کا ہو چکا ہے ہم کہیں گے یہ درست ہے اس حدیث میں صدقہ کی فضیلت واضح کی گئی ہے مگر آپ نے مریض کو ایک تھائی مال سے زائد میں تصرف کرنے سے منع نہیں کیا کسی نص و دلیل سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔

**ابن حزم کے نقطہ نظر پر بحث و نقد** - ابن حزم اس مفروضہ پر عمل کرتے ہیں تو فقہاء کا اعتماد مسئلہ زیر نظر میں صرف قیاس پر ہے۔ حالانکہ فقہاء کے نظریات اس ضمن میں احادیث نبویہ فتاویٰ صحابہ اور میراث یا وارث سے فرار اختیار کرنے کے موضوع پر مبنی ہیں۔ چونکہ فقہاء نے اس مسئلہ میں قیاس فقہی کو اپنے نقطہ نظر کا مبنی قرار نہیں دیا لہذا قیاس کے بارے میں ہم تنقید ابن حزم کو نظر انداز کرتے ہیں۔

ابن حزم فتاویٰ صحابہ سے ایک قدر مشترک نکالتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مریض تصرفات میں ایک تندرست آدمی کی طرح آزاد ہے اس کے برعکس فقہاء منع تصرفات میں صحابہ کے اقوال سے احتجاج کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بیان کردہ واقعہ تصرفات مریض کے عدم تقیید کی دلیل نہیں بن سکتا۔ کیوں کہ انہوں نے اس عورت کو مریضہ تصور ہی نہیں کیا۔ بلکہ اسے تندرست سمجھتے تھے فی الواقع بھی وہ بیمار نہ تھی۔

ابن حزم المحلي میں اس واقعہ پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں۔  
 "محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں ایک عورت نے خواب دیکھا کہ وہ تین روز تک مرجائے گی۔ چنانچہ قرآن کا جو حصہ اس نے قبل ازیں پڑھا نہ عقادہ پڑھ لیا اور اپنی زندگی میں ہی اپنا مال تقسیم کر دیا۔ تیسرے روز اپنی پڑوسن عورتوں کے پاس گئی اور ایک ایک کو اوداع کہا وہ کہنے لگیں ان شاء اللہ آج تجھے موت نہیں آئے گی۔ تاہم وہ مر گئی۔ اس کے خاوند نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے دریافت کیا تو انہوں نے پوچھا آپ کی بیوی کیسی تھی؟ وہ کہنے لگا میرے خیال میں شہداء کے سوا اس سے جنت کا

زیادہ حقدار اور کوئی نہیں البتہ اس نے اپنی زندگی میں اپنا مال تقسیم کر دیا۔ ابو موسیٰ نے فرمایا تم بجا کہتے ہو اور اس کی تردید نہ کی جائے۔

یہ بیان اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ ابو موسیٰ اس عورت کو بیمار نہیں بلکہ تندرست سمجھتے تھے مگر ابن حزم اس سے اجماع صحابہ پر نقض وارد کرنے کے لئے احتجاج کرتے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے نزدیک مریض کے تصرفات تندرست آدمی کی طرح درست ہوتے ہیں۔ کیونکہ جس شخص کی موت کا یقین ہو اس کی حالت مریض سے بھی شدید تر ہوتی ہے۔ مگر ابن حزم کے اس دعویٰ پر نقض وارد کیا جاسکتا ہے کیوں کہ ان کا فتویٰ عورت کی صحت کی بنا پر تھا اور فتویٰ کی علت بھی یہی ہے۔ یہ امر موجب حیرت و استعجاب ہے کہ ابن حزم کے نزدیک متیقن الموت شخص کو تصرفات سے روکنا اولیٰ و افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کے نظریہ کو غلط معنی پہنا کر ان کو جمہور فقہاء کا مخالفت ظاہر کرتے ہیں۔ حالانکہ درحقیقت ایسا نہیں ہے وہ صریح الفاظ میں کہتے ہیں کہ والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد "وَلَا تَقْلُ لِهِنَّ اَوْثَانًا وَلَا تَنْهَرْنَهُمَا" مار پیٹ کی حرمت پر دلالت نہیں کرتا۔ بلکہ مار پیٹ کی حرمت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے جس میں ارشاد ہوا۔

وَالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا۔ (الاسراء: ۲۳) والدین سے اچھا سلوک کیجئے

مخالفین کے نقطہ نظر پر ابن حزم کے اعتراضات :- مریض مرض الموت کے بہترعات کو منع میراث

کی بنا پر روکنے کی تردید ابن حزم چار امور کی بنا پر کرتے ہیں۔

(۱) بدگمانی کی حیثیت دروغ گوئی سے زیادہ نہیں۔

(۲) فرار کا گمان تو تندرست آدمی کے متعلق بھی کیا جاسکتا ہے لہذا اسے بھی تصرفات سے

روک دینا چاہیے اور اسے صرف ثلث مال میں تصرف کی اجازت دینا چاہیے۔ نیز تصرفات جس طرح وارث کے لئے منع کئے گئے ہیں۔ جب غیر وارث کے لئے کئے جائیں تو ان سے بھی روک دینا چاہیے۔

(۳) جو بڑھاپہ میں پاؤں ٹکائے بیٹھا ہو اس سے فرار کی توقع مریض کے مقابلہ میں زیادہ کی جاسکتی ہے

لہذا اسے بھی مالی تصرفات کی اجازت نہیں دینا چاہیے۔

(۴) جب وارث مریض کی اولاد نہ ہو۔ کوئی اور ہو تو فرار کی توقع کی جا سکتی ہے۔ البتہ

اولاد کی صورت میں یہ خطرہ لاحق نہیں۔

یہ ہیں ابن حزم کے تصرفات فقہاء کے نظریہ ظن فرار کے بارے میں جن پر فقہائے صحابہ

تابعین وائمہ دین نے مریض کے تحدید و تقیید تبرعات کی بنیاد رکھی تھی۔

ابن حزم کے اعتراضات اربعہ

ابن حزم کے مناقضات اربعہ کا جواب ہے۔ میں سے پہلا اعتراض نگاہ اولین ہی

میں دوران کار معلوم دیتا ہے۔ اس لئے کہ کذب الحدیث وہ ظن ہے جو کسی دلیل پر مبنی نہ

ہو۔ مگر وارث کو محروم کرنے کا خیال یہاں ہرگز بے بنیاد نہیں اور نہ وہم ہے۔ اس لئے کہ مریض

کی یہ حالت کہ وہ ہر لمحہ موت کا منتظر ہے لوگوں میں اس بدگمانی کو پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنی موت

کے بعد ورثاء کو وہ حقوق نہیں دینا چاہتا جو خدا نے انہیں اپنی کتاب عزیز میں دئے ہیں۔ یا ان

کے حصہ کو کم کر کے دوسرے لوگوں کو دینے کا خواہاں ہے جو اسے عزیز تر ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ظن بے بنیاد

نہیں۔ بشرط میں اس ظن پر عمل بھی کیا جاتا ہے مثلاً شہادت ہی کو دیکھئے کہ بھوٹ کا احتمال ہونے کے باوجود

ان کے مطابق فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ عدل و انصاف بھی جیسا کہ ابن حزم کا دعویٰ ہے کذب بیانی سے محفوظ نہیں۔

اسی طرح ابن حزم کے اعتراض ثانی کو بھی رد کیا جا سکتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اسی ظن کی

بنیاد پر تندرست آدمی کے تبرعات کو بھی روک دیا جائے، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ ابن حزم

کو قیاس سے اتنی شدید نفرت تھی کہ وہ اچھی طرح اسے سمجھ بھی نہ پائے۔ مسئلہ زیر نظر اس اساس

پر قائم تھا کہ مریض اپنے مال میں دست درازی کر کے بعد از وفات ورثاء کو محروم کر دے۔

اس کے علامات بھی موجود ہیں (کیونکہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہے) کیونکہ وہ عند الموت تصرفات

انجام دے رہا ہے۔ ایک چنگے بھلے شخص میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی۔

کیوں کہ وہ تندرست و توانا ہے اور بالفعل وہ موت کا منتظر نہیں ورنہ سارے اعمال حیات

ختم ہو کر رہ جائیں۔

امثال کا تعلق بڑھاپے سے ہے جو ایک غیر محدود چیز ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کب

شروع ہوتا ہے۔ بلاشبہ پیرائے سالی میں بھی ایسے تصرفات کئے جا سکتے ہیں جو بعد از موت

مالی معاملات پر اثر انداز ہوں۔ مگر اس میں موت کے علامات اتنے واضح نہیں ہوتے، جتنے مرض الموت

میں۔ اس کے برعکس پیرانہ لی کا زمانہ بڑا طویل ہوتا ہے اور اس کے نقطہ آغاز کی نشان دہی نہیں کی جاسکتی، مرض ایک عارض ہونے والی حالت کا نام ہے جو اس سے مختلف ہے۔ بذات خود اس میں یہ صورت حال پیدا نہیں ہوتی۔ البتہ اس عمر میں جب آدمی شدت سے دوچار ہو اور اس کی حالت قریب الموت ہو جائے۔ تو الگ بات ہے۔

مزید برآں مریض کے تصرفات پر بعد از موت غور کیا جاتا ہے کہ آغاز مرض میں اس نے کونسے معاملات انجام دیئے۔ آغاز مرض کا پتہ چلانا کچھ مشکل نہیں، مگر ان عوارض کو پیرانہ سالی پر تطبیق دینا ممکن نہیں، کیونکہ اس کا آغاز معلوم نہیں، اور اگر معلوم ہو بھی تاہم اس میں کئی سال شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اتنے طویل عرصہ کے تصرفات کی نشان دہی آسان کام نہیں، یہ بدگمانی بھی درست نہیں، عرصہ میں وہ اپنے ورثاء کو محروم کرنے کے درپے تھا یا بعض پر تزییح دے رہا تھا، یہ خیال بھی درست نہیں کہ وہ جلد موت کی امید میں یہ سارے معاملات انجام دیتا رہا۔ علاوہ ازیں جن فقہاء نے مریض کے تصرفات کو محدود کرنے کا فتویٰ دیا ہے وہ رائے پر عمل نہیں کرے۔ بلکہ صحابی کی پیروی کا دم بھرتے ہیں اور صحابہ نے پیرانہ سالی کو مرض الموت کے حکم میں داخل نہیں کیا۔ ابن حزم کے چوتھے اعتراض کا انا لہ بھی اسی طرح ممکن ہے کہ صحابہ نے ورثاء میں فرق و امتیاز سے کام نہیں لیا، نیز اس لئے کہ اکثر اوقات باپ اور اولاد کے تعلقات باہم خوشگوار نہیں ہوتے، اور بعض کو بعض کے مقابلہ میں تزییح دے دی جاتی ہے۔ خصوصاً جب کہ وہ علاقہ دین کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ، بھائی ہوں۔ اس کا مظاہرہ آج کل بکثرت دیکھنے میں آتا ہے جب کہ مریض کا آخری وقت قریب آتا ہے یہ اس حد تک وقوع میں آتا ہے کہ اولاد کے علاوہ عصبیات کو بھی محروم ہونا پڑتا ہے۔ لہذا ابن حزم کا یہ قول درست نہیں کہ ورثاء جب متوفی کی اولاد ہوں تو ان کی حق تلفی کا خطرہ نہیں، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں خطرہ محسوس کیا جاتا ہے۔

**منع تصرفات پر ابن حزم کے دیگر اعتراضات**۔ ابن حزم انہی اعتراضات پر اکتفا نہیں کرتے جنہیں

ہم نے پیش کیا اور ان کا جواب دیا۔ بلکہ اس قاعدہ کو بھی اپنے اعتراضات کا نشانہ بناتے ہیں کہ مرض الموت میں مریض کے تبرعات ورثاء کی اجازت پر موقوف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ اصول مقررہ کے خلاف ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کا مالک ہے وہ اپنی ملکیت میں

آزاد ہے۔ ظاہر ہے کہ مریض کی ملکیت ثابت ہے یہ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مالک بھی ہو اور اپنے مال میں تصرفات بھی نہ کر سکے۔

ابن حزم مکتھتے ہیں۔

”پھر ہم مخالفین سے دریافت کریں گے کہ مریض کے مال کا مالک کون ہے؟ کیا وہ خود مالک ہے یا اس کے وارث؟ اگر جواب دیں کہ مریض اسی طرح اپنے مال کا مالک ہے جیسے صحت کی حالت میں تھا۔ تو ہم ان سے کہیں گے کہ جب صحت میں تم اسے نہیں روکتے تھے، تو اب کیوں روکتے ہو؟ یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اگر کہیں کہ یہ وارثوں کا مال ہے، تو ان کا یہ قول باطل ہے۔ کیونکہ وارث اگر مریض کے مال سے کچھ لے لے تو اسے واپس کرنے کے لئے کہا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو مریض اور اس کے متعلقین اس مال سے اپنے نان و نفقہ کے لئے بھی خرچ نہ کر سکتے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ مریض کو کھانے پہننے اور اپنے ٹونڈی غلاموں پر دل کھول کر خرچ کرنے کی اجازت تو دیتے ہیں خواہ اس کا سارا مال ختم ہو جائے مگر صدقات و خیرات کے لئے تہائی مال کی پابندی لگاتے ہیں یہ ایک ایسی عجیب بات جس کی نظیر نہیں ملتی۔“

ابن حزم کے اعتراض کا جواب :- ہے کہ ایک شخص مالک تو ہو مگر اسے تصرفات

کی اجازت نہ دی جائے۔ تصرفات کا مالک ہونا ملکیت کا سب سے واضح ثمرہ ہے۔ پھر مالک ہو کر تصرفات سے عاری کیونکر ہو جائے؟ جمہور فقہاء دروجویات کی بنا پر اس کی تردید کرتے ہیں۔ ۱۔ وجہ اول یہ ہے کہ اگر مرض الموت کا تحقق ہو جائے اور وہ یوں کہ اس کی موت کی توقع ہو اور اس مرض میں اس کی موت واقع بھی ہو جائے۔ تو مریض کو اپنے مال کی ملکیت حاصل نہ ہوگی۔ فقہاء اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ موت سے ایک ثابت شدہ حقیقت نمایاں ہوگئی اور وہ یہ کہ دو تہائی مال کی ملکیت اسے حاصل نہیں۔ اور جب اس کی ملکیت زائد نہ ہو تو من حیث المعنی اس کے وارث بیت کے ورثاء ہوں گے۔ یہ بعض فقہاء کی توجیہ ہے۔ بعض فقہاء کا قول ہے کہ موت

ملکیت کو واضح نہیں کرتی بلکہ وراثت کے لئے ملکیت کو ثابت کرتی ہے ثبوت ملکیت کے بعد اس کی نسبت اس زمانہ کی جانب کی جائے گی جب موت جسم پر واقع ہوئی۔

ظاہر ہے کہ موت کا نزول پہلے پہل اس وقت ہوا جب اس کا سبب پیدا ہوا اور وہ مرض الموت ہے۔ اس لئے کہ جب کوئی مرض جسم کو لاحق ہوتا ہے تو تدریجی طور پر قوی ضعیف ہوتے چلے جاتے ہیں نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ قوت کی آخری جز بھی رخصت ہو جاتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً کسی شخص کو ہیبت سے زخم لگیں اور وہ رفتہ رفتہ کمزور ہوتا جائے وفات کے قریب ایک اور زخم لگے اور وہ موت کا باعث ہو۔ باوجودیکہ وہ زخم بے حد معمولی قسم کا ہو مگر وہ ایسے وقت لگا جب سابقہ زخم اپنا کام کر چکے ہوتے۔

ابن حزم کے اعتراض کا یہ پہلا جواب ہے۔ یہ متقدمین فقہائے احناف کا خیال ہے۔ متاخرین فقہائے احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وراثت کو دو تہائی مال کا جو حق حاصل ہے وہ متوفی کی رعایت کی بنا پر ہے۔ یہ حق تبرعات مریض کو محدود کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ تاکہ یہ دو تہائی مال محفوظ رہے۔ چونکہ وراثت کا حق مریض کے حق سے متاخر ہے۔ لہذا مریض اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے اور اپنے متعلقین پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ حقوق وراثت کے حقوق کی نسبت مال میں مقدم ہیں۔

ان بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ مریض کے اپنے مال سے کھانے کے متعلق ابن حزم کا اعتراض بے اثر ہے۔ اس لئے کہ وراثت کا حق دو تہائی مال میں مریض کے حق سے متاخر ہے۔ منع صرف یہ چیز ہے کہ مریض وراثت کا حق لے کر صدقہ کے طور پر کسی کو دے دے۔ کیونکہ وراثت کا حق مریض کے مال سے اسی طرح وابستہ ہے جیسے مرہن قرض خواہ کا حق مرہن چیز سے متعلق ہوتا ہے کہ وہ مرہن چیز کی قیمت وصول کرنے کے لئے صدقہ نہیں کر سکتا۔ اس سے قرض بھی ادا کر سکتا ہے البتہ اتنی بات ہے کہ وارثوں کو دو تہائی مال میں جو حق حاصل ہے اس کا اندازہ اسی وقت کیا جاسکے گا جب مریض کی وہ تمام ضروریات پوری کر دی جائیں جن کا تعلق مریض کی زندگی سے ہو یا بعد از موت اس کی تہیز و تکفین سے۔

یہ ابن حزم کے اعتراضات اور ان کے جوابات منع تصرفات میں فقہاء کے دلائل۔

تھے اب یہ امر باقی رہا کہ تبرعات مریض کو محدود کرنے میں فقہاء نے کن دلائل پر اعتماد کیا ہے۔ ہم قبل ازیں اس کی جانب اشارہ کر چکے ہیں۔ اولاً یہ دلائل فتاویٰ صحابہ پر مبنی ہیں، جو تقریباً اجماعی ہیں۔ ابن حزم نے انہیں ذکر کیا ہے مگر

سند پر جرح نہیں کی۔ ان میں ایک قول بھی ایسا نہیں جو ابن حزم کا موید ہو۔ ابو موسیٰ اشعری کے قول سے ابن حزم کے احتجاج کی حیثیت ہم قبل ازیں واضح کر چکے ہیں۔

۲۔ ثانیاً فقہاء کا اعتماد تحفظِ موارثت پر ہے اس لئے کہ موارثت کی تقسیم خداوند کریم نے کی ہے۔ جو شخص ان میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہو یا صاحبِ حق کو روک دینا چاہے تو اس کے ارادہ کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عادلانہ تقسیم کے ہوتے ہوئے اس کے ارادہ کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔

۳۔ ثالثاً فقہاء کا اعتماد اس ضمن میں وارد شدہ احادیث پر ہے۔ مثلاً حضرت قتادہ کی یہ روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی شخص کو نہ پاؤں کہ وہ امر خداوندی میں خلل ڈالتا ہو، جب موت کا وقت آئے تو اپنے مال کو ادھر ادھر تقسیم کرنے لگے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری عمر کے آخری حصہ میں تمہارے مال کا ایک تہائی حصہ تم پر صدقہ کر دیا ہے۔ تاکہ تم اپنے نیک اعمال میں اضافہ کر سکو۔ تم جہاں چاہو اسے خرچ کر سکتے ہو۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے تمہارے اعمال میں اضافہ کرنے کے لئے ایک تہائی مال کو تمہارے لئے مباح کر دیا۔

ابن حزم ان احادیث کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قتادہ کی روایت کردہ حدیث مرسل ہے کیوں کہ انہوں نے اس صحابی کا نام ذکر نہیں کیا جس سے انہوں نے یہ حدیث روایت کی۔ دوسری دونوں روایات میں ضعیف اور ناقابلِ احتجاج راوی پائے جاتے ہیں۔ اس لئے وہ قابلِ استناد نہیں۔

پہلی حدیث کو رد کر کے ابن حزم نے اپنے مسلمہ قاعدہ کو توڑ دیا۔ کیونکہ مرسل حدیث جب مقبول عام ہو چکی ہو اور اس کی قبولیت پر اجماع قائم ہو گیا ہو تو وہ اسے قبول کرتے ہیں۔ مثلاً حدیث "لا وصیۃ لیلہ" قتادہ کی روایت کردہ حدیث پر صحابہ کا اجماع ہے مگر ابن حزم اپنی بات کو منوانے کے لئے اجماع تک سے انکار کر رہے ہیں۔

دوسری روایت من حیث المعنی صحابہ میں شہرت پذیر ہو چکی تھی۔ جیسا کہ ان کے فتاویٰ اس کی شہادت دیتے ہیں۔ لہذا اس سے ان کے ضعف کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ ان میں ضعف کے پایا جاتا ہو۔

یہ فقہاء کے دلائل اور ابن حزم کے اعتراضات تھے جن سے ہم تلخیص مسلک فریقین - فارغ ہو چکے۔ بناء اختلاف در اصل دلائل کا قوی یا ضعیف ہونا ہے

کیوں کہ ابن حزم تو ایسی احادیث و اخبار سے بھی اخذ و احتجاج کر چکے ہیں جو ان سے بھی کم درجہ ہیں۔

محلّ نزاع صرف یہ ہے کہ آیا بنا بر اکتیاط اور وراثاء کے حقوق کے تحفظ و حمایت کے پیش نظر باب الذرائع پر عمل کرتے ہوئے مریض کے تصرفات پر پابندی عائد کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ابن حزم اس پر عمل نہیں کرتے اور نہ اس ضمن میں وارد ہونے والے اقوال صحابہ کو محبت قرار دیتے ہیں چنانچہ وہ مریض پر ایسے احکام عائد نہیں کرتے جو حالتِ صحت میں نہیں کرتے تھے۔ اس کے برعکس جمہور فقہاء فتاویٰ صحابہ سے استناد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تبرقات مریض کو محدود کر دیا جائے۔ بعض اصحاب فقہ سدّ الذرائع کے قاعدہ پر عمل کرتے ہیں۔

یہ ہے نقطہ اختلاف مشہور تبصرہ میں فقہ جمہور اور فقہ ظاہری کے درمیان!

**مریض مریض الموت کی طلاق :-** ابن حزم مریض کی طلاق بائن کو اس بات میں ایک تندرست آدمی کی طلاق کی طرح سمجھتے ہیں کہ مطلقہ عورت

ورثہ نہیں لے سکتی۔ خواہ خاوند کی فوتیگی کے وقت وہ ابھی اپنی عدت گزار رہی ہو۔ ان کے یہاں طلاق ہونے پر عورت اپنی عدت میں بھی میراث کی مستحق نہیں ہوتی۔ اس میں مریض اور تندرست کی طلاق کا ایک ہی حکم ہے۔ ابن حزم لکھتے ہیں۔

”مریض کی طلاق تندرست آدمی کی طرح ہوتی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں مریض اگر بہن طلاق دے یا تین میں سے آخری طلاق یا مجامعت سے قبل مریض فوت ہو جائے یا عورت عدت پوری کرنے کے بعد مر جائے تو ان تمام صورتوں میں عورت وارث نہیں ہوگی اور نہ مرد عورت کا وارث ہو سکے گا۔ تندرست آدمی کی مریض عورت کو طلاق اور مریض شخص کی مریض عورت کو طلاق دینے کا بھی یہی حکم ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔“

یہ ابن حزم کی رائے ہے۔ امام شافعی کا مسلک بھی یہی ہے۔ مگر ائمہ ثلاثہ اس ضمن میں جداگانہ مسلک رکھتے ہیں۔ مریض الموت کے مسئلہ کے آغاز میں ہم ان کے افکار و آراء کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا خاوند اس کی عدت میں فوت ہو تو عورت وارث ہوگی۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ عورت عدت کے بعد بھی وارث ہو سکتی ہے،



جب تک کہ نکاحِ ثانی نہ کرے۔ امام مالک نکاحِ ثانی کے بعد بھی اسے وراثہ دلاتے ہیں۔ ابن ہزم امام مالک کا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عورت دس خاوندوں سے نکاح کرے وہ تب بھی وارث ہوگی۔

احکامات اس مسئلہ میں بعض صحابہ  
طلاقِ مریض میں ائمہ دین کے مذاہب و مسالک کے فتاویٰ کو اصل قرار دیتے

ہیں۔ جنابہ و مالکینہ کا اعتماد فتاویٰ صحابہ کے علاوہ سداذرائع کے قاعدہ پر ہے۔ اس مسئلہ میں حضرت عثمان و علی اور زید کے فتاویٰ زیادہ مشہور ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مرض الموت میں اپنی بیوی کو بائٹہ طلاق دے دی تو حضرت عثمان نے اس کو وراثہ دینے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بیوی کو نقصان پہنچانے اور خدا کے حکم سے راہ فرار اختیار کرنے کے لئے طلاق نہیں دی تھی؟ تو حضرت عثمان نے جواباً فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ لوگ اسے حکم خداوندی سے بھاگنے کا ذریعہ بنا لیں۔

مروی ہے کہ ایک انصاری جن کا اسم گرامی جبان بن منقذ تھا ہند بنت ربیعہ سے شادی شدہ تھے وہ سحت بیمار پڑے جس میں ان کی موت کا خطرہ تھا۔ اس بیماری میں انہوں نے اپنی ایک انصاری بیوی کو طلاق دے دی۔ حضرت عثمان نے اس ضمن میں حضرت علی اور زید بن ثابت سے مشورہ کیا۔ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کی موت کے بعد وہ انصاری عورت وارث ہوگی چنانچہ حضرت عثمان نے ان کی دونوں بیویوں کو وراثہ میں شریک ٹھہرایا۔ ہاشمی بیوی سے کہا مطلقہ بیوی کو وارث ٹھہرانے کی وجہ سے تمہارا حصہ گھٹ گیا۔ یہ فتویٰ تمہارے چچا زاد بھائی حضرت علی نے دیا ہے۔

ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک شافعی اور احمد بن حنبل کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو شخص دورانِ مرض طلاق دے کہ میراث دینے سے بھاگنا چاہتا ہو اس کے ارادہ کی مخالفت کی جائے گی۔ لہذا اس کی بیوی بعد از موت وارث ہوگی۔ جیسا کہ قبل ازیں ہم اپنے موقع پر بیان کر چکے۔ ابن حزم ان کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ائمہ کرام میراث سے فرار اختیار کرنے والے کی مخالفت کرتے ہیں مگر خود

کتاب اللہ کے احکام کی تعمیل سے گریز کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ مریض بیوی کو طلاق دے کر ایک مباح کام کرتا ہے اور مباح کرنے میں اسے کوئی گناہ نہیں، خصوصاً جبکہ نہ وہ شائع کی خلاف ورزی کرتا ہے نہ اس کے احکام سے عناد رکھتا ہے  
ابن حزم لکھتے ہیں۔

”صحیح بات یہ ہے کہ جس عورت کو دورانِ مرض طلاقِ کبۃ دی گئی ہو، یا وہ غیر مدخولہ ہو، اور اس کو مرض میں طلاق دے دی جائے۔ ان دونوں عورتوں کو وراثہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح وہ عورت جسے مریض نے زحعی طلاق دی ہو، اور رجوع سے قبل وہ فوت ہو گیا تو اسے بھی وراثہ نہیں ملے گا۔ اگرچہ مریض اعلانِ کبۃ ہو کہ اس نے عورت کو وراثہ سے محروم کرنے کے لئے طلاق دی تھی۔ اس میں مریض پر کوئی حرج نہیں اس لئے کہ طلاق کا نفل خدا نے اس کے لئے مباح کیا ہوا ہے اس سے وراثت کا انقطاع ہو جاتا ہے اور حقوقِ زوجیت باقی نہیں رہتے۔ اگر کسی شخص کو قتل کرنے یا سنگسار کرنے کے لئے جائز یا ناجائز طور پر کھڑا کیا گیا ہو اور وہ اس حالت میں طلاق دے دے تو اس کی بیوی بھی وارث نہ ہوگی۔ اس لئے کہ کسی نص سے ان کی طلاق اور دوسروں کی طلاق کے مابین فرق و امتیاز واضح نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں وارد شدہ فتاویٰ صحابہ کے بارے میں ابن حزم فرماتے ہیں۔

”جن صحابہ نے اس ضمن میں فتویٰ دیا ہے وہ ہر حال میں مستحقِ اجر و ثواب ہیں خواہ حاملِ صدق و صواب ہوں یا غلطی پر گنہ گار تو وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے بعض اجتہادات کی تقلید کرتے اور بعض کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہ ایک باطل بنیاد پر حکم فی الدین ہے وباللہ التوفیق“

یہ ہیں ابن حزم کے انکار و آراء طلاقِ مریض  
ابن حزم کے نقطہ نگاہ کی وضاحت :- کے بارے میں ان سے واضح ہوتا ہے

کہ آپ مسکذیر تبصرہ میں بھی ظاہری مسلک کے پابند تھے۔ اور بیوی کو وارث قرار دینے سے متعلق فتاویٰ صحابہ کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ فقہاء کی یہ دلیل بھی ان کے یہاں ناقابلِ التفات ہے

کہ طلاق درثہ سے محروم کرنے کی بنا پر دی گئی ہے۔ کیوں کہ یہ رائے فی الدین ہے، جو دین میں کسی طرح بھی جائز نہیں۔ آخر آسمان سے نازل شدہ شریعت بندے کی رائے کے تابع کیونکر ہو سکتی ہے۔

ابن حزم مزید کہتے ہیں کہ مسئلہ متنازعہ دو حال سے خالی نہیں (۱) مریض کو طلاق دینے کی شرعاً اجازت ہوگی۔ اور بنا بر اجازت شرعیہ وہ طلاق دے گا۔ جب طلاق وقوع پذیر ہو جائے گی تو اس کے تمام آثار شرعیہ از خود مرتب ہو جائیں گے۔ اس کا وارث نہ ہونا بھی انہیں آثار میں سے ایک ہے (۲) اگر طلاق بباح نہیں بلکہ ممنوع ہے تو واقع بھی نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان کی طرف بھی طلاق کے عدم وقوع کی نسبت کی گئی ہے۔ کہ آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کی مطلقہ کو اس لئے وارث قرار دیا تھا کہ ان کے خیال میں اس پر طلاق واقع نہیں ہوئی تھی۔ مگر حضرت عثمان کے فعل کی یہ توجہ محل نظر و تامل ہے۔ بہر کیفیت ابن حزم کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اور مطلقہ ورثہ حاصل نہیں کر سکتی۔

## وصایا ترکات و مواریث

اصحاب ظاہر نے تقسیم ترکہ اور اس سے متعلق مسائل کے بارے میں اپنے وصایا انکار و آراء کا اظہار کیا ہے، جن کا تعلق زیادہ تر وصایا سے ہے۔ فقہ ظاہری پر تبصرہ کرتے ہوئے ان تمام ابواب کی تشریح و توضیح ہمارے لئے ممکن نہیں۔ اگر ورثہ کے احکام کی تفصیلات ہی پر روشنی ڈالی جائے تو اس کے لئے ایک جلد درکار ہے۔ البتہ ہم چیدہ چیدہ مسائل پر گفتگو کریں گے جس سے واضح ہو گا کہ تقسیم میراث سے متعلق مسائل میں ان کا طرز فکر و نظر کیا ہے اور وہ کس طرح نصوص سے احکام اخذ کرتے ہیں۔ فقہ ظاہری کی بعض فروعیات پر روشنی ڈالتے سے ہمارا مقصد قطعی طور پر اس کی تکمیل و تفصیل نہیں بلکہ ہم چند نمونے ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ظواہر نصوص سے کس حد تک تمسک کرتے ہیں۔ نیز یہ کہ ابن حزم اس ضمن میں کس طرح مخالفین کے آراء و مذاہب ذکر کرتے اور پھر اپنا مسلک و منہاج واضح کرتے ہیں۔

ہم وصیت کے بعض فروعیات سے آغاز سخن کرتے اور خاص طور سے وجوب وصیت کے مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کیونکہ مصری قانون میں فقہ ابن حزم سے وجوب وصیت کے مسئلہ کو اخذ کیا گیا ہے ہم دیکھنا چاہتے کہ بعض وصایا کے وجوب پر ابن حزم کا مصدر و ماخذ کیا ہے۔

فرضیت وصیت۔ ابن حزم مندرجہ ذیل آیت کریمہ کے پیش نظر وصیت کو فرض قرار دیتے ہیں۔

کَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدًا كُمْ الْمَوْتِ  
 إِنْ تَرَكَوْا خَيْرًا لِوَصِيَّةٍ لِلْوَالِدَيْنِ  
 وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
 الْمُتَّقِينَ - (البقرہ - ۱۸۰)

جب تم میں سے کسی پر آخری وقت آجائے اور وہ مالدار ہو تو اس پر وصیت لکھی گئی ہے والدین اور اقارب کے لئے حسب دستور یہ ان لوگوں پر حق ہے جو تقویٰ سے بہرہ ور ہیں

یہ آیت کریمہ بظاہر اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ وصیت فرض ہے۔ کیونکہ دوسری آیت اس کی ناسخ بھی نہیں۔ آیت وصیت اور تقسیم ورثہ جات پر مشتمل آیات کے درمیان جمع و تطبیق طبری آسان

ہے کیونکہ ان میں سرے سے کوئی مخالفت پائی ہی نہیں جاتی۔ مزید برآں کثرت سے آثارِ صحیحہ وارد ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وصیت فرض ہے۔ لہذا کسی مومن کے لئے اس کا ترک کرنا جائز نہیں۔

ابن حزم رقمطراز ہیں :-

«جو شخص بھی مال چھوڑے اس پر وصیت کرنا فرض ہے۔ اس کی دلیل وہ روایت ہے جو ہم نے بطریق امام مالک انہوں نے نافع اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی چیز میں وصیت کرنا چاہتا ہو۔ اور روایتیں گزرنے کے باوجود وہ وصیت نہ کرے بجز اس کے کہ وصیت اس نے لکھ کر رکھی ہو»

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی وصیت لکھے بغیر ایک رات بھی بسر نہ کی۔ فقہاء ظاہر کے شیخ ابوسلمان داؤد بن خلصت کی بھی یہی رائے ہے۔ جملہ اصحابِ ظاہر بھی اسی کے قائل ہیں۔ پھر جمہور فقہاء کے اختلاف پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں۔

«ایک جماعت کا خیال ہے کہ وصیت لکھنا فرض نہیں ہے۔ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ آنحضرت نے وصیت نہیں فرمائی۔ نیز حدیث کے راوی حاطب بن ابی یلتعہ نے بھی وصیت نہیں کی۔ صحابہ نے بھی یہ فتویٰ نہ دیا کہ مال کی موجودگی میں وصیت واجب ہے۔ جس شخص کے پاس سات صد درہم سے لے کر نو صد درہم تک ہوں۔ حضرت علیؑ نے اسے وصیت سے روکا۔ حضرت ابن عباس نے آٹھ صد درہم کے مالک کو وصیت سے منع کیا»

وصیت کو فرض تصور نہ کرنے والوں کے دو فریق ہیں :-

فریق اول :- ایک فریق یہ کہتا ہے کہ مال کم ہو یا زیادہ کسی میں بھی وصیت لکھنا ضروری نہیں کیوں کہ اس کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے۔

فریق ثانی :- دوسرے فریق کا قول ہے کہ فرضیت مال کثیر میں ہے، قلیل میں نہیں۔

اس مسئلہ میں ایک تیسرا گروہ بھی ہے۔ جو کہتا ہے کہ وصیت اور غیر وارث اقرباء کے لئے وصیت فرض ہے۔

مسئلہ وصیت میں فقہاء پر ابن حزم کی تنقید: ابن حزم ان لوگوں پر سخت تنقید کرتے ہیں جن کا قول ہے کہ وصیت فرض نہیں یا مال کثیر میں فرض ہے اور قلیل میں نہیں۔ یا تنگ دست اور غیر وارث اقارب کے لئے وصیت فرض ہے یا اقارب کے لئے بلا قید فقر و افلاس وصیت ضروری ہے، وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں، کہ حدیث مطلقاً وارد ہوئی ہے اور مال کثیر و غیرہ کی بشرط اس میں مذکور نہیں۔ باقی رہا راوی حدیث کا وصیت نہ کرنا تو اس سے وصیت کا عدم وجوب ثابت نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس قابل وصیت مال نہ ہو۔ نبی کریم کے وصیت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے عام وصیت فرمادی تھی کہ ان کا سب مال صدقہ ہے اور یہ کہ انبیاء کا متروکہ مال صدقہ ہوتا ہے۔

ابن حزم فرماتے ہیں۔

«فقہاء کا یہ قول کہ نبی کریم نے وصیت نہیں فرمائی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اپنی وصیت میں سارے مال کو صدقہ کے طور پر دے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے جو مال ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ آپ کی یہ وصیت بلاشبہ درست ہے کیوں کہ آپ نے فرمادیا تھا کہ بعد از موت ان کا سب مال صدقہ ہوگا»

ابن حزم کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ مال کثیر ہو یا قلیل ہر حال میں ابن حزم کے دلائل: وصیت فرض ہے۔ کیوں کہ نص کی عمومیت قلیل و کثیر مال میں وجوب وصیت کی متقاضی ہے۔ فرضیت وصیت پر ابن حزم کا یہ نظریہ مبنی ہے کہ جب کوئی شخص وصیت کئے بغیر فوت ہو جائے تو جتنا مال ہو سکے صدقہ کر دیا جائے۔ کیوں کہ وصیت ایک حتمی فریضہ ہے اور ہر حال میں واجب الادا ہے۔

ابن حزم رقمطراز ہیں۔

”جو شخص بلا وصیت فوت ہو جائے تو جس قدر ممکن ہو اس کی جانب سے صدقہ کر دینا چاہئے۔ کیونکہ وصیت ضروری ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ لہذا یہ بات صحیح ہے کہ بعد از موت اس کے مال میں سے کچھ نکالنا واجب ہے۔ جب صورت حال یہ ہے تو جس قدر مال کا اس کی ملکیت میں سے نکالنا واجب ہے، اس کی ملک نہیں رہے گا۔ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اتنا مال صدقہ کیا جاسکتا ہے جس کے متعلق وراثہ اور وصیت کنندہ کا یہ خیال ہو کہ اس کے دینے سے وراثہ پر ظلم نہیں ہوگا۔ سلف کے ایک گروہ کا یہی خیال ہے۔“

حضرت عائشہ کی روایت کردہ ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اگر وہ بولتی تو ضرور صدقہ کرتی۔ کیا میں اس کی جانب سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں! صدقہ کر دیجئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وصیت نہ کرنے والے پر صدقہ واجب ہے اور آپ کا حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے۔“

اس کے بعد ابن حزم اپنے نظریہ کی تائید میں احادیث پیش کرتے اور ان سے وجوب استدلال کرتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ایک عورت وصیت کے بغیر فوت ہو گئی تھی۔ یحییٰ نے اس کی جانب سے ایک نونڈی آزاد کر دی اور جس قدر صدقہ کرنے کی ضرورت تھی وہ اپنے کر دیا۔“

ابن حزم جہاں حدیث نبوی کی غیر وارث اقارب کے لئے فرضیت و وصیت۔ ظاہری نص سے وجوب وصیت استدلال کرتے ہیں، وہاں ایک وصیت کو مخصوصی طور سے واجب قرار دیتے ہیں، اور وہ غیر وارث اقارب کو وصیت کرنا ہے۔ وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا أَحَضَرَكُمْ الْمَوْتُ  
 أَنْ تَرَكَوا خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ  
 وَالْأَقْرَبِينَ - (البقرہ - ۱۸۰)

وتم میں سے جب کسی کا آخری وقت آئے  
 اور وہ والدین اور اقارب کے  
 لئے اس پر وصیت فرض ہے

ابن حزم کہتے ہیں:-

”اپنے غیر وارث اقارب کے لئے وصیت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ان کے  
 وارث نہ ہونے کی وجہ خواہ غلامی ہو یا کفر ہو۔ یا میراث لینے سے کوئی وارث  
 انہیں روک رہا ہو۔ چونکہ وہ وارث ہو رہے، لہذا وہ اپنی رضا مندی سے ان  
 کے لئے کچھ وصیت کر جائے۔ وصیت کی کوئی طے شدہ حد نہیں۔ اگر وہ وصیت  
 نہ کرے تو ورثاء یا وصیت کنندہ کے حسب مرضی اقارب کو کچھ دے دیا  
 جائے گا۔ اگر اس کے والدین یا دونوں میں سے ایک کافر یا غلام ہو تو ان  
 کے لئے بھی وصیت کرنا فرض ہے۔ اگر وہ خود وصیت نہ کرے تو پھر بھی  
 ان دونوں میں سے ایک کو کچھ مال دینا ناگزیر ہے،

بعد ازاں ابن حزم فرماتے ہیں:-

”اس کی دلیل یہ آیت قرآنی ہے۔

الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
 بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - (البقرہ - ۱۸۰)

والدین اور اقارب کے لئے حسب دستور  
 وصیت کرنا متقیوں کے لئے حق ہے

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ وصیت فرض ہے۔ پھر والدین اور وارث ہونے  
 والے اقارب وصیت سے نکل گئے۔ اور غیر وارث اقارب کے لئے وصیت  
 کافر فیضہ باقی رہا۔ جب وصیت واجب ہے۔ تو اس کے مال سے اس کی ادائیگی  
 مستحقین کے لئے ضروری ہوگی۔ اگر وہ ظلم کرے اور اس کے نکالنے کا حکم نہ دے  
 تو بھی یہ رقم نکال دی جائے گی جن کو وصیت کرنے کا حکم اسے دیا گیا ہے اگر  
 وہ ان کو وصیت کرے اور غریبوں کو وصیت کرنے سے منع نہ کرے، تو اس نے اپنے  
 فریضہ کو ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو چاہے وصیت کرے۔

ابن حزم کے نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ غیر وارث اقارب کے لئے وصیت فرض ہے۔  
 و اس ضمن میں تذکرۃ الصدقات سے استدلال کرتے ہیں۔ وصیت نہ کرنے کی صورت میں وہ یہ فیصلہ



صادر کرتے ہیں کہ چونکہ اس نے ظلم و تعدی سے کام لیا۔ لہذا جس رقم کی ادائیگی اس پر ضروری ہے وہ اس کے مال میں سے نکال دی جائے گی اس کی وفات کے بعد اس کے ترکہ کی تقسیم میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ جن لوگوں کے حقوق اس کے مال سے وابستہ ہو چکے تھے اولیاء پر ان کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ اگر وصیت کنندہ وصیت کر دے کہ میری موت کے بعد اس قدر مال نکال نکال کر دیا جائے تو اس سے دوسروں کو وصیت کرنے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی صرف اتنی بات ہے کہ وصیت ایک تہائی مال سے زیادہ میں نہیں ہونی چاہیے۔

ابن حزم مسئلہ زیر نظر میں  
اقارب کے لئے وصیت اور اس کے دلائل و براہین۔ متذکرۃ الصدر آیت

کریمہ کی روشنی میں کہتے ہیں کہ موصی (وصیت کرنے والا) پر وصیت واجب ہے۔ اگر وہ وصیت نہ کرے تو قاضی پر وصیت کرنا ضروری ہے۔ ابن حزم اس ضمن میں اقوال سلف سے بھی اپنے نظریہ کی تائید کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ بعض اسلاف کا نقطہ نگاہ ہے۔ بعد ازاں طاؤس سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے فرمایا جس شخص نے نام لے کر ایک قوم کے لئے وصیت کی اور اپنے ضرورت مند اقارب کو ترک کر دیا۔ تو ان سے پھین کر وہ مال اس کے اقارب کو دیا جائے گا۔ اگر اقارب محتاج نہ ہوں۔ تو فقراء میں بانٹ دیا جائے گا۔ اسی طرح سالم بن یسار اور عطاء بن زید سے منقول ہے کہ ان سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا۔

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ - (البقرہ - ۱۸۰)

راہوں نے قرآن کریم منگوا یا اور کہا کہ یہ اقارب کے لئے ہے۔

ابن حزم اسی بات پر اکتفا نہیں کرتے کہ غیر وارث اقارب کے لئے وصیت واجب ہے ان کی تعداد جو بھی ہو بشرطیکہ تین سے کم نہ ہوں۔ بلکہ ائمہ اربعہ پر تنقید بھی کرتے ہیں جو اقارب کے لئے وصیت کو واجب قرار نہیں دیتے۔ ائمہ اربعہ آیت کو وارث یا غیر وارث سب کے حق میں منسوخ تصور کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ احکام تورات کے نزول سے قبل یہ آیت معمول بہا تھی۔ ابن حزم ان الفاظ میں اس کی تردید کرتے ہیں۔

”ہم اس امر میں ائمہ کرام کی مخالفت نہیں کرتے کہ آیت وصیت کے نزول سے

قبل لوگ جسے چاہتے وصیت کر دیتے اب یہ بات یقینی طور پر بلاشبہ منسوخ قرار دی جا چکی ہے یہ آیت ناسخ و محکم ہے جو شخص بلا دلیل کسی ناسخ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا یا منسوخ ناسخ ہو گیا تو اس کا یہ قول باطل ہے اور اس نے وہ بات کسی جو اسے معلوم نہیں۔ نیز اس نے خدا پر بھوٹ باندھا۔ ایک یقینی بات کو نظر انداز کر کے ظن پر عمل کیا جو بدلیل قرآن حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں وارد ہے

تَبَيَّنَّا لَكُلِّ شَيْءٍ (النحل - ۸۹) قرآن ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے،

ہم پورے وثوق و اعتماد سے یہ بات کہتے ہیں کہ ناسخ کو بلا دلیل منسوخ ٹھہرانے اور منسوخ کے حکم کو رد کر دینے کی کوئی وجہ نہیں۔

اگر معاملہ برعکس ہوتا تو دین اسلام پر پردہ پڑا رہتا اور ہمیں احکام خداوندی کا نہم و شعور حاصل نہ ہوتا نہ اس کے محرمات کی کچھ خبر ہوتی۔

«وَكَاشًا لِلَّهِ مِنْ ذَاكَ»

یہ ہیں وصیت کے مسئلہ میں ابن حزم

**مسئلہ وصیت میں افکار ابن حزم کا خلاصہ :-** کے بعض آراء! ان کا خلاصہ یہ ہے

کہ آپ مسئلہ بر نظر میں دو اصولوں کو اساس قرار دیتے ہیں۔

اصل اول :- وصیت فی وارث اقارب کے لئے فرض ہے۔ وصیت کنندہ کو چاہیے کہ اتنے مال میں وصیت کر دے جس سے اسے ثابت شدہ فریضہ کی تکمیل ہو جائے۔ آیت کُنِبْ عَلَيْكُمْ کی تکمیل کے پیش نظر غیر وارث اقارب کے لئے وصیت کرنا ضروری ہے۔ آیت میں اس بات پر روشنی نہیں ڈالی گئی کہ وصیت کس قدر مال میں کی جائے لہذا سے عموم پر باقی رکھا جائے۔ جتنا مال اس کے لئے مناسب ہو اور جتنے اشخاص کو دینے سے اس فریضہ کی تکمیل ہو جاتی ہو بس وہی موزوں ہے۔

اصل دوم :- راہل اسلام کے امیر اور حاکم پر متوفی شخص کی وصیت کا نافذ کرنا ضروری ہے اگر متوفی شخص وصیت نہ کرے یا غیر وارث اقارب کو وصیت میں نظر انداز کر دے۔ تو حاکم کو اس کو اس وصیت کی تنقیذ کر دینا چاہیے۔ اس لئے کہ جن کے حق میں وصیت کی گئی ہے ان کا حق مرحوم کے مال میں

ثابت ہو چکا ہے۔ حاکم کا فرض ہے کہ اس حق کی وصولی میں ان کی مدد کرے۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کے باہمی امور کا محافظ و نگہبان ہے اور لوگوں کے مالوں میں خدا کے فرائض کی تنفیذ اور دفع مظالم اس کے فرائض میں داخل ہے۔ وصیت واجبہ کا ترک کرنا بھی مظالم میں سے ایک ہے لہذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ وصیت کو نافذ کیا جائے اگرچہ مرحوم اسے نافذ کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔

وجوب وصیت کے بارے

**وجوب وصیت کے ضمن میں موجودہ مصری قانون ہے۔** میں مصری قانون انہی دو قواعد

کی روشنی میں بنا یا گیا ہے ایک شخص جب فوت ہو جائے اس کے والدین میں سے ایک بقید حیات ہو۔ تو اس کے بیٹے کے لئے وصیت واجب ہے۔ چونکہ ظاہری فقہ میں مقدار واجب کی وضاحت نہیں کی گئی۔ نہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کن اقارب کے لئے وصیت فروری ہے، لہذا یہ اختیار حاکم کو سونپ دیا گیا ہے۔ حکام مصر کی رائے ہے کہ وصیت اتنے مال میں ہونی چاہیے جتنا مرحوم بیٹے کا حصہ تھا۔ بشرطیکہ وہ ایک تہائی مال سے زیادہ نہ ہو۔ مرحوم بیٹے کی اولاد کو وصیت ان قواعد کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ جو قانون نمبر ۱۹۴۶ء کی دفعات ۷۶ تا ۷۹ میں مذکور ہے۔

مصری قانون کا تقابلی جب اٹلی کے بیانات سے کیا جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابن حزم کے بیان کردہ قواعد دستور کی ان دفعات کی اصل قرار دیے جاسکتے ہیں۔ کیوں کہ مقدار وصیت کی تعیین کا کام ابن حزم نے بھی حاکم یا قاضی کے سپرد کیا ہے ہم نے اپنی کتاب "شرح قانون الوصیۃ" میں اس قانون کی تشریح کر دی ہے۔

۱۵ ان دفعات کی تشریح مصنف نے بڑے پیچیدہ انداز میں کی ہے جو اردو دان طبقہ کے لئے دلچسپی کی موجب نہیں۔ نیز مصری دستور کی ان دفعات کی تشریح غیر ضروری ہے لہذا اسے قلم زد کیا گیا۔

(غلام احمد حریری)

## ترکہ میں محقوق خداوندی

ترکہ سے متعلقہ حقوق میں ترتیب :- جائے گا جس سے ابن حزم کے ظواہر نصوص سے اخذ و احتجاج کرنے پر روشنی پڑتی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ تقسیم میراث کے مسائل میں ابن حزم کا مسلک قرین حق و صواب ہے۔ ہم ابن حزم اور دیگر فقہاء کا تقابلی ذکر کریں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ضمن میں فقہاء اور ابن حزم کے نظریات میں چنداں بعد نہیں پایا جاتا۔ میت کے ترکہ میں جتنے حقوق وابستہ ہیں۔ ابن حزم ان پر حقوق اللہ مثلاً زکوٰۃ حج اور کفارہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ حقوق خداوندی قرضہ بلکہ میت کی تجہیز و تکفین سے بھی مقدم ہیں۔

ابن حزم ارقام فرماتے ہیں :-

«اگر میت نے قلیل یا کثیر مال چھوڑا ہو۔ تو نسب سے پہلے اس میں سے حقوق اللہ مثلاً حج و زکوٰۃ و کفارات وغیرہ ادا کئے جائیں۔ ان کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے اس میں سے قرض خواہوں کا قرض ادا کیا جائے۔ پھر جو مال بچ رہے اسے میت کی تجہیز و تکفین پر خرچ کیا جائے۔ اگر تکفین کے لئے زائد مال نہ ہو تو قرض خواہوں اور دیگر حاضرین پر اس کی تکفین ضروری ہے۔ اگر تکفین کے بعد کچھ مال بچ رہے تو باقی ماندہ مال کے ایک تہائی میں سے میت کی وصیت پوری کی جائے۔ وصیت پوری کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔»

ابن حزم کا یہ بیان اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ حقوق اللہ و حقوق العباد کے مقابلہ میں مقدم ہیں۔ اسی طرح حقوق العباد، میت کے ذاتی حقوق مثلاً تجہیز و تکفین کے مقابلہ میں قابل

ترجیح میں بچھیر و تکفین کے بعد وصیت نافذ کی جائے گی اور پھر ورثاء میں ورثہ کو تقسیم کیا جائے گا۔  
ابن حزم زکوٰۃ کو ترکہ سے متعلق ہر قرض پر ترجیح دیتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”ہم نے اپنی تصنیف کے کتاب الحج اور کتاب التظلیس میں تحریر کیا ہے کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس سے زکوٰۃ حج عمرہ نذریا ظہار قتل اور قسم کے کفارات یا دورانِ رمضان و حج دانستہ مجامعت کرنے کی بنا پر اداء کفارہ میں کوتاہی سے کام لیا ہو، تو یہ تمام واجبات اس کے مترادف مال میں سے ادا کئے جائیں گے۔  
حقوقِ خداوندی کی ادائیگی سے پیشتر قرض خواہوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ ان واجبات کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا، وہ قرض خواہوں کو ملے گا۔ پھر میت کی وصیت پوری کی جائے گی۔ پھر باقی ماندہ مال ورثاء میں بانٹ دیا جائے گا۔“

اگر میت کے ذمہ حج واجب الادا ہو تو اس کے مال سے اتنا روپیہ لے کر کسی شخص کو دیا جائے گا جس سے وہ حج کر کے واپس آسکے۔

جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے اس میں سب حقوق مساوی ہیں۔ لہذا نہ زکوٰۃ کو حج سے مقدم کیا جاسکتا ہے اور نہ حج کو کفارات سے، سب عبادات مساوی ہیں۔

ابن حزم حقوقِ خداوندی کی تقدیم کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقسیمِ موارثت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں :-

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُؤْضَىٰ بِهَا آذَانِيْنَ . (وصیت اور قرض کے بعد)  
(النساء ۱۲)

مذکرۃ الصدرایت میں تفسیر کی گئی ہے کہ حقوق اللہ کو موارثت پر مقدم کیا جائے۔ نبی کریم نے فرمایا: ”خدا کے حقوق کو ادا کرو، کیوں کہ وہ احق بالوفا ہیں اور اس کے قرض کا ادا کرنا مقابلت“ زیادہ ضروری ہے! آیت سے موارثت کے مقابلہ میں قرض کی تقدیم ثابت ہوئی۔ اور حدیث نبوی سے ثابت ہوا کہ خدا کا قرض دوسرے لوگوں کے قرض کے مقابلہ میں محقق تقدیم ہے۔  
ابن حزم صرف انہی دلائل پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ صحابہ و تابعین کے فتاویٰ سے بھی دلچسپی لیتے ہیں

حضرت حسن بصری اور طاؤس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا حج اور زکوٰۃ بمنزلہ قرض ہیں۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ میت کے راس المال میں سے لی جائے گی اور دیگر واجبات تمام مال میں سے صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ میت کی جانب سے حج اور نذر اور کئے جائیں۔

ابن حزم حقوق اللہ  
اداء حقوق اللہ کے لئے وصیت کی عدم ضرورت ہے۔ کی ادائیگی کی تاکید

کرتے ہوئے اس بات میں فرق نہیں کرتے کہ میت نے عند الموت ان واجبات کی ادائیگی کی وصیت کی یا نہیں۔ اس لئے کہ یہ فقراء کے حقوق ہیں جو مال سے منعلق ہیں۔ اگر میت سے اس ضمن میں کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا رد عمل یہ ہے کہ انہیں ادا کر دیا جائے۔ لہذا میت کا وصیت کرنا ضروری نہیں۔ یہ بندوں کے قرض سے مقدم ہیں۔ کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کا قرض ادا کئے جانے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ حدیث میں وارد شدہ "احق" کا لفظ فعل التفضیل ہے۔ جس سے حقوق اللہ کی افضلیت واضح ہوتی ہے۔ لیکن ادائیگی کے لئے ان حقوق کا جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ ان حقوق کا علم حاصل کئے بغیر ان کی ادائیگی ممکن نہیں۔ لہذا کفارات اور نذر وغیرہ قسم کی عبادات کی ادائیگی ضروری ہے۔ جو میت نے اپنی ذات پر خود واجب کر رکھی ہوں۔

یہ ابن حزم کا نظریہ مقام شوافع اور  
وصیت کے مسئلہ میں احناف کا نقطہ نگاہ ہے۔  
خابلہ کا مسلک بھی اس کے قریب

قریب ہے۔ احناف اس کے خلاف ہیں۔ مالکیہ کا نقطہ نظر ان دونوں کے درمیان ہے۔ احناف کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ جو قرض ترکہ سے متعلق ہو۔ اس کی ادائیگی وصیت سے پہلے کی جائے۔ جہاں تک موارثت کا تعلق ہے وہ بندوں کے حقوق ہیں جو واجب الاداء ہیں اس کے برعکس حقوق خداوندی فقراء کے لئے واجب الاداء ہیں۔ اور کھیتی کی زکوٰۃ کی طرح ان کی مقدار متعین نہیں نہ لوگوں میں کسی خاص شخص کو ان کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے، مثلاً کفاسے یا نذریں ان کی حیثیت اس قرض کی نہیں جو بعد از وفات ترکہ سے متعلق ہو۔ انہیں وصایا اور موارثت سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ ان کو ترکہ میں سے اسی صورت ادا کیا جائے گا، جب میت نے ان کی وصیت کی ہو۔ انہیں صورت یہ وصیت کی حیثیت اختیار کریں گے۔ یعنی ان کی ادائیگی قرض کے بعد اور تقسیم

میراث سے پہلے کی جائے گی۔ حقوقِ خداوندی ایک تہائی مال سے زیادہ میں سے اسی وقت ادا کئے جائیں گے جب وراثت اس کی اجازت دے دیں۔ گویا ہر لحاظ سے ان کا حکم وصیت کا ہوگا اور یہ بعد از وفات اسی صورت میں واجب الادا ہوں گے۔

اگرچہ جس شخص پر بھی ان حقوق میں سے کوئی حق لازم ہوا ہے وصیت کرنا ضروری ہے۔ مگر اس وجہ کی حیثیت ایک دینی فریضہ کی ہے جو صرف بندہ اور حق تعالیٰ کے درمیان ہے۔ لہذا وصیت نہ کرنے کی صورت میں قانونی اور فقہی اعتبار سے ان کی ادائیگی ضروری نہیں۔

یہ حنفیہ کی رائے ہے جو ابن حزم کے نظریہ کی ضد ہے۔ اسی لئے ابن حزم کہتے ہیں کہ حنفیہ کا قول ان کے قیاسات سے ہم آہنگ نہیں ہے، لہذا مبنی برخطا ہے۔ ابن حزم اپنے مخالف فقہان کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں جن میں حنفیہ بھی داخل ہیں۔

”ان اقوال میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لئے پند و موعظت کا سامان موجود ہے اور غور و فکر کرنے والوں کے لئے ایک نشانی ہے۔ البتہ امام ابوحنیفہ کے قول میں بہت کم تناقض پایا جاتا ہے“

امام ابوحنیفہ کا یہ قول

**مسئد وصیت میں دیگر ائمہ کے مسالک و مذاہب**۔ جمہور فقہاء کے خلاف ہے

ائمہ ثلاثہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حقوقِ خداوندی ترکہ سے وابستہ ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی وصایا اور موارثت سے قبل ضروری ہے۔ اگر میت ان کے ادا کرنے کی وصیت کر دے تو ان کی ادائیگی صرف ایک تہائی مال تک محدود نہیں۔ دوسرے وصایا ان سے متصادم نہ ہو سکیں گے کیوں کہ یہ ان کے مقابلہ میں مقدم ہیں۔ حقوقِ خداوندی کی وصیت کرنا اسی طرح ہے۔ جیسے اداءِ قرض کی وصیت کہ اس کا وجوب صرف وصیت کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے بغیر بھی ضروری ہے۔ وصیت صرف اس لئے کی جاتی ہے کہ ادائیگی ہو کہ ہو جائے اور وجوب کا پتہ چل جائے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص قرض کا اقرار کرے۔ اور اس کی ادائیگی کی وصیت کر دے۔ اس کے برعکس اخاف یہ کہتے ہیں کہ ترکہ سے قرض کی ادائیگی صرف وصیت کی صورت میں ہی کی جاتی ہے۔ گویا وصیت سے اثباتِ حق ہوتا ہے، صرف اس کا اظہار ہی نہیں ہوتا۔ یہی

وجہ ہے کہ فقہ حنفی میں قرض کی ادائیگی کے بعد اثباتِ وجوب ہوتا ہے۔

ائمہ ثلاثہ امام مالک شافعی اور احمد بن حنبل اگرچہ اس امر میں متحد الخيال ہیں کہ حقوق اللہ ترکہ میں سے واجب الادا ہیں اور ان کا ترکہ سے وابستہ ہونا وصایا و موارثت سے مقدم ہے۔ بائیں ہمہ اتحاد خیال امام مالک دو باتوں میں ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔

اولیٰ: حقوق خداوندی اس صورت میں ادا کئے جائیں گے جب میت نے خود شہادت دی ہو کہ اس نے انہیں ادا نہیں کیا۔

دوم: حقوق اللہ بندوں کے قرض سے بوقت ادائیگی متاخر ہوں گے۔

امام مالک کی رائے ہے کہ یہ حقوق اس صورت میں واجب الادا ہوں گے جب متوفی نے خود شہادت دی ہو کہ اس

نے یہ واجبات ادا نہیں کئے۔ یہ شہادت دینا صرف بتلانے کے لئے ہے وصیت کرنے کے لئے نہیں۔ ان حقوق کے واجب ہونے کے بعد ان کو اس وقت ادا کیا جائے گا جب بندوں کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اس کی اساس فقہاء کا بیان کردہ یہ قاعدہ ہے کہ حقوق العباد ادائیگی کے زیادہ لائق ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ مزید برآں، حقوق العباد میں دو باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو بندوں کے حقوق اور دوسرا خدا کا حکم کہ انہیں ادا کیجئے۔ خلاصہ کلام حقوق العباد ایسے حقوق نہیں ہیں جو ایسی دینی ترغیب سے عاری ہوں۔ جن کا مخالفت گنہگار ہو جاتا ہے۔ بلکہ ان میں بندوں کے حق کے ساتھ خدا کا حکم بھی شامل ہو جاتا ہے۔ بخلاف ان میں حقوق اللہ کا تعلق صرف خدا کے حکم سے ہے اور اس!

یہ امام مالک کا مسلک۔ و مذہب تھا۔ شوافع کہتے ہیں

امام شافعی کا طرز و منہاج: کہ اگر موت سے پہلے زکوٰۃ کا نصاب قائم ہونے خود ہلاک

ہو اور نہ عدا سے ضائع کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو، وہ بدستور قائم ہو تو اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی دوسرے تمام حقوق سے مقدم ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اس مال کا ایک جزو ہے اور متوفی اس پر قابض تھا۔ اس مال کا ایک حصہ غیر مفہوم ہے جس میں فقراء و مساکین بھی حصہ دار ہیں۔ لہذا متوفی کا مال دراصل وہ ہے جو فقراء کا حق نکالنے کے بعد باقی رہے زکوٰۃ کا اس مال سے تعلق اس سے زیادہ قوی ہے جتنا کہ مرتبہ کا تعلق مرہونہ چیز سے ہوتا ہے۔



جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اگر وہ موجود نہ ہو بلکہ برباد ہو گیا یا کر دیا گیا ہو تو قرض اس شخص کے ذمہ کی طرف منتقل ہو جائے گا، جس پر حق واجب ہے۔ مثلاً کفار سے یا نذریں نفقہ شافعی میں اس کے دو طریقے ہیں۔

وجہ اول :- اس کی ادائیگی بندوں کے قرض سے متاثر ہوگی۔ جیسے کہ مالکیہ کا سابقہ قول اس لئے کہ افراد انسانی کے مطالبہ میں اتنی قوت پائی جاتی ہے، جو حقوقِ خداوندی میں نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ یہ حقوقِ ذمہ سے متعلق ہوتے ہیں اشیاء سے نہیں۔

وجہ ثانی :- دوسرا طریق یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں برابر ہیں۔ اس لئے کہ اگر بندوں کے حقوق مطالبہ کی بنا پر قوی ہو جاتے ہیں، جس کے باعث ان کے خلاف ثالثی چارہ جوئی کی جاتی ہے، تو حقوقِ خداوندی و امور کی بنا پر قوی ہوں گے۔ (۱) حقوق اللہ کے قوی ہونے کی پہلی وجہ آنحضرتؐ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کا قرض ادائیگی کے بہت لائق ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ خدا کا قرض ادا کئے جانے کا اولین استحقاق رکھتا ہے۔

(۲) حقوقِ خداوندی کے قوی ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ان حقوق کا مطالبہ کرنا خدا کا کام ہے، مگر دراصل یہ فقراء و مساکین کے حقوق ہیں۔ اس اعتبار سے گویا یہ بھی بندوں کے حقوق میں شامل ہیں۔ اگرچہ ان کی ادائیگی کا مطالبہ ذاتِ باری تعالیٰ کرتی ہے جب ان دو امور کی اساس پر خدا کا حق قوی ہوا تو یہ بھی حقوق العباد کے مساوی ٹھہرا۔ لہذا ان میں سے کسی کو بھی ایک دوسرے سے مقدم مؤخر نہیں کیا جاسکتا، بلکہ دونوں کی حیثیت مساوی ہے۔

خوابلہ کا طریقہ فکر و نظر یہ حیثیت حاصل ہے، جو لوگوں کے ان عام قرضوں کی ہوتی ہے، جن کا تعلق کسی معین مال سے نہیں ہوتا۔ بجز اس کے کہ وہ اصل مال موجود ہو جس کے ساتھ قرض وابستہ ہے۔ اگر ترکہ سے ان تمام قرضوں کی ادائیگی ممکن نہ ہو تو دوسرے قرضوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہر قرض کے لئے ایک خاص حصہ مقرر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوابلہ کے یہاں وہ قرض مقدم ہے جس کا تعلق ایک معین مال سے ہو۔ اگر وہ قرض جو حقوقِ خداوندی سے متعلق ہے مطلق ہو اور کسی خاص مال سے متعلق نہ ہو تو وہ عام قرضوں کی طرح ہوگا۔

اس بیان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حقوق خداوندی جس مال میں واجب ہوں  
 اگر وہ موجود ہو تو یہ اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ اس صورت میں یہ عام قرض کی طرح نہ ہوں گے  
 اور نہ ان حقوق العباد کی طرح ہوں گے جو بلا قید ہوتے ہیں۔ بلکہ اس قرض کی مانند ہوں گے  
 جو عین ترکہ سے متعلق ہو۔ اس لئے کہ جو مال موجود ہے اس کا یہ جزو ہیں بلکہ بالفعل ترکہ کا ایک  
 جزو ہونے کے اعتبار سے یہ اس قرض سے بھی قوی تر ہیں جو ترکہ سے متعلق ہوتا ہے۔

### نظریہ ابن حزم کی تشریح و توضیح

یہ ائمہ کرام کے افکار و نظریات تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن حزم ان سب کے خلاف  
 ہیں۔ وہ حقوق اللہ کو علی الاطلاق حقوق العباد پر ترجیح دیتے ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ جس  
 مال کے ساتھ حق کا تعلق ہے وہ عند الوفا قائم ہو یا تباہ ہو چکا ہو یا کر دیا گیا ہو اور  
 پلاکت مال کے باعث وجوب اداء کا تعلق اب کسی چیز کے بجائے صرف ذمہ سے وابستہ  
 ہو گیا ہو۔ جملہ احوال میں ابن حزم ابتداء انہی امور سے کرتے ہیں جن میں میت سے تغافل  
 شعاری ہوئی ہو۔ مثلاً زکوٰۃ، کفارہ، نذر اور حج وغیرہ۔ اگر مال سے ان سب کی ادائیگی ممکن نہ ہو  
 تو بقدر حصہ ترکہ سے ان کو ادا کیا جائے گا۔ ان جملہ احکام کا مبنی یہ صریح حدیث ہے۔  
 دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ - (خدا کا قرض ادا کئے جانے کا بہت حق

رکھتا ہے)

ابن حزم اس حدیث کی تاویل نہیں کرتے بلکہ اس کے ظاہری مفہوم پر عمل کرتے ہیں۔  
 ابن حزم کا مسلک و منہج مسئلہ زیر نظر میں چونکہ جمیع ائمہ سے  
 انکارِ ائمہ پر نقد و نظر۔ مختلف ہے اس لئے وہ ان کے اقوال پر نقد و تبصرہ کا  
 بیڑا اٹھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور مالک کو خصوصی تنقید کی آماجگاہ بناتے ہیں۔ امام شافعی  
 کا مسلک ان کے قریب قریب ہے۔ امام ابو حنیفہ پر انہوں نے امام مالک کے مقابلہ  
 میں ہلکی تنقید کی ہے۔ کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ قیاس مطرد کی پیروی کرتے ہیں  
 اگرچہ وہ خطا ہے۔ امام مالک کے نقطہ نظر کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”جہاں تک امام مالک کے قول کا تعلق ہے وہ فساد و تناقض میں سب  
 سے بڑھا ہوا ہے۔ آپ نے بعض فرائض کو تو بعض پر مقدم کیا ہی تھا۔ حیرت انگیز بات  
 یہ ہے کہ لوائل کو بھی فرائض کے مقابلہ میں ترجیح دی (یعنی یہ کہا کہ وصیت بالعتق کی

تعمیل اور زکوٰۃ سے قبل ہونی چاہیے اور لطف یہ ہے کہ ان کے یہاں سرے سے کوئی دلیل موجود ہی نہیں اور نہ کسی نے خدا کی مخلوقات میں سے آج تک ایسی بات کہی۔

ہم ایسے تیز و تند لہجہ میں امام مالک پر تنقید کرنے اور اس کے نقل کرنے پر ابن حزم کے لئے اور خود اپنے لئے بارگاہِ ایزدی سے معافی کے خواستگار ہیں۔ ہم امام مالک کے قول کی توصیح میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ زیر نظر میں تعمیل احکام اور ان کی غرض و غایت معلوم کرنے کے طریقہ پر چلتے ہیں۔ ایک شخص جب اپنے مال میں سے غلام آزاد کرنے کی وصیت کر جائے، تو اس کی موت کے بعد یہ غلام آزاد ہو جائے اور اگر وہ کسی طرح بھی شمار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شارع غلام آزاد کرنے کی ترغیب دیتے اور اس پر کوئی پابندی نہیں عائد کرتے۔ اندر میں صورت اگر امام مالک غلام آزاد کرنے کو ایک نفعی عبادت ہونے کے باوجود زکوٰۃ سے مقدم کرتے ہیں تو ان کا یہ طرز فکر روح اسلام کی ترجمانی کرتا ہے لہذا نہ تو ان کا یہ نظریہ اسلام سے بیگانہ ہے اور نہ فقہی احکام سے متصادم ہے۔

ابن حزم اپنا نقطہ نظر اور دیگر فقہاء امام مالک پر ابن حزم کے اعتراضات۔ کے نظریات بیان کرنے کے بعد یہ

اعتراض وارد کرتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کی آڑ لے کر اگر کوئی شخص اپنے ورثاء کو محروم کرنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے اور وہ یوں کہ کہے میت کے ذمہ میت سے دینی حقوق مثلاً زکوٰۃ، کفارہ، حج اور نذریں وغیرہ واجب الادماء ہیں۔ اس طرح اس کے وارث محروم ہو کر رہ جائیں گے۔ بلکہ میت کا قرض بھی ادا نہیں ہو سکے گا۔

ابن حزم اعتراض کی یوں تو جیبہ کرتے ہیں۔

”اگر کوئی معترض یوں کہے کہ تمہارے نظریہ پر عمل کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ورثاء کو محروم کر دے اور وہ یوں کہ پہلے دانستہ فرائض کی ادائیگی میں قاصر رہے۔ عند الموت ان کی وصیت کر دے اور اپنا مال تکمیل فرائض میں صرف کرے ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اگر وہ دانستہ ایسا کرتا ہے تو گنہگار ہوگا اور خدا کی نافرمانی اس سے ساقط نہ ہوگی۔ کیوں کہ خدا نے اس طرح اپنے احکام ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا۔“

## وَرثاء میں ترکہ کی تقسیم

علماء کے یہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ فقہاء ذوی الارحام کی عدم توریت کے ماہین میراث کے مسائل میں صرف جزوی

اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایتہ شیعہ امامیہ اہل سنت سے جوہری و بنیادی اختلاف رکھتے ہیں۔ شیعہ امامیہ میت کی اولاد کی موجودگی میں اس کے بھائیوں اور چچوں کو وارث قرار نہیں دیتے۔ اگرچہ میت کے فروع ذوی الارحام میں سے ہوں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم میراث میں ابن حزم نے چند جوہری مسائل میں فقہائے اربعہ سے اختلاف کیا ہے۔ بعض مسائل میں انہوں نے فقہائے اربعہ سے وہ اقوال لے لئے جو قیاس سے خالی مگر ظواہر نصوص سے ہم آہنگ تھے۔ آپ شوافع اور مالکیہ کی طرح ذوی الارحام کو وارث تصور نہیں کرتے۔ متقدمین مالکیہ اور شافعیہ ان کی توریت کے قائل نہیں بلکہ چوتھی صدی ہجری میں متاخرین نے فساد بیت المال کی وجہ سے مجبوراً ذوی الارحام کی توریت کا نظریہ اختیار کیا۔ اور اس ضمن میں امام ابوحنیفہ اور احمد کی پیروی اختیار کی جو ذوی الارحام کو وارث ٹھہراتے ہیں۔

اسی طرح ابن حزم امام شافعی کی طرح رو کے بھی قائل نہیں۔ کیوں کہ امام شافعی کی رائے میں یہ زیادت علی النقص ہے اس لئے کہ قرآن کریم بیٹی کو نصف دلاتا ہے۔ اگر رو کی بنا پر بیٹی نصف لے لے تو یہ زیادت علی النقص ہوگی۔ ابن حزم نے یہ نظریہ اس لئے اختیار کیا کہ یہ نقص سے میل کھاتا ہے۔ اور وہ کوئی ایسا حکم صادر نہیں کرتے جو نصوص میں مذکور نہ ہو۔

ابن حزم اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کے ہمنا ہیں کہ وا داہین بھائیوں کو حصہ لینے سے روک دیتا ہے۔ کیوں کہ باپ کی عدم موجودگی میں امام ابوحنیفہ وا وا کو بمنزلہ والد تصور کرتے ہیں۔

اختلافی مسائل :- بن حزم ان مسائل میں بعض ائمہ کے ہمنوا ہیں۔ وہ اکثر مسائل توریث میں دوسرے ائمہ کے ساتھ متفق ہیں۔ مگر مختلف مسائل میں ان سے اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ ہم اختلافی مسائل میں سے صرف چار کا انتخاب کرتے ہیں جن کو ہم بحال اختصار بیان کریں گے۔ اور طوالت سے امکانی حد تک اجتناب کریں گے۔ وہ متنازع مسائل یہ ہیں :-

(۲) دادی کی میراث۔

(۱) مسئلہ غزاویہ

(۴) اقارب اور تہائی کو عطیہ دینے کا وجوب۔

(۳) مسئلہ عول

ہر وارث اپنے حصہ میں سے حسب مرضی جو چاہے ان کو دے دے۔

اس امر پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ جب زوجین میں سے ایک اور والد

مسئلہ غزاویہ :- اور والدہ وارث ہو رہے ہوں، بھائی بہنوں میں سے کوئی وارث نہ ہو، اولاد بھی موجود نہ ہو تو اندر میں صورت خاوند بیوی میں سے جو موجود ہو گا وہ اپنا حصہ لے گا۔ اس کے بعد جو باقی بچے گا والدہ اس کا ایک تہائی لے گی اور باقی والد لے گا۔ اس مسئلہ میں فقہاء کا اعتقاد تین امور پر ہے۔

(۱) فتاویٰ صحابہ

(۳) اگر والدہ سارے ترکہ کا ایک تہائی لے لے تو وہ خاوند کی موجودگی کی صورت میں باپ سے زیادہ حصہ لے گی۔ کیونکہ والد باقی ماندہ سارا مال لے گا۔ خاوند نصف لے گا اور ماں ایک تہائی لے گی۔ لہذا والد کا حصہ والدہ سے نصف ہو گا۔ حالانکہ احکام میراث میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ مرد و عورت ایک ہی درجہ میں ہوں اور عورت مرد سے دگنا لے رہی ہو۔

۱۲۱ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

«فَاتِّمَّتْ يَكْفُ كَهْ وَوَلَدٌ وَوَشَّهْ»

اگر میت کی اولاد نہ ہو اور والدین اس کا ورثہ لے رہے ہوں تو اس کی والدہ کو ایک تہائی ورثہ ملے گا۔

أَبَوَاكَ نِسَابًا مِّنْهُ النَّثْتُ :-

(النساء - ۱۱)

اس آیت کریمہ میں مرد و عورت کے حصص کی تعیین کر دی گئی ہے۔ ماں کے لئے ایک ثلث مقرر کیا گیا اور باپ کے لئے دو ثلث اس تحدید کا تقاضا ہے کہ بہن بھائیوں اور اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں والدہ والد سے نصف حصہ لے گی۔ اس مسئلہ کو شہرت کی بنا پر غزاویہ کہتے ہیں۔

یہ ائمہ اربعہ کا زاویہ نگاہ تھا۔ ابن حزم  
 مسند غزالیہ میں ابن حزم کا نقطہ نگاہ :-  
 ظواہر نصوص سے استدلال کرتے اور  
 والدہ کو سارے ترکہ کا ثلث دلاتے ہیں۔ خواہ کسی صورت میں یہ والد کے حصہ سے بھی  
 بڑھ جائے وہ ظواہر نصوص سے احتجاج کرتے ہیں اور علیٰ کو نہیں دیکھتے۔  
 فرماتے ہیں۔

”اگر میت نے خاوند اور والدین چھوڑنے ہوں یا ایک عورت فوت ہو جائے  
 اور اس کا خاوند اور والدین زندہ ہوں، تو خاوند کو نصف ملے گا۔ زوجہ کو  
 چوتھائی اور ماں کو تمام ترکہ کا ایک تہائی اور بیٹے سے ایک تہائی اور تہائی  
 کا یہ یعنی جو باقی بچ رہے اور وہ  $\frac{5}{12}$  ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی اور معاذ بن جبل سے یہی روایت منقول ہے  
 ابن حزم اس آیت سے احتجاج کرتے ہیں: ”وَرِثَہٗ اَبَوَاہُ فِی الْاٰثْمَہِ الْاٰثْمَہِ“ نص  
 کا ظاہری مفہوم یہی ہے کہ والدہ کو ثلث ملے گا۔ ابن حزم اس نص کو حجت تصور کرتے  
 ہیں۔ جب کہ ائمہ اربعہ اس سے احتجاج نہیں کرتے۔ ائمہ اربعہ یہ کہتے ہیں کہ والدہ کے  
 ثلث لینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ والد سے دگنا لے گی۔ ابن حزم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ  
 آیت سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔  
 فرماتے ہیں۔

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا قول حجت نہیں۔ والدہ کے والد  
 سے زیادہ حصہ لینے پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم سے منقول  
 ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت سے سوال کیا کہ کون حسن سلوک کا زیادہ  
 استحقاق رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے  
 فرمایا تیری ماں! اس نے پھر پوچھا اور کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے  
 پوچھی مرتبہ کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ اس حدیث میں نبی کریم نے والدہ کو والد کے مقابلہ  
 میں تزییح دی اور زیادہ حسن سلوک کی نصیحت فرمائی ہمارا اور دیگر فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ حجت

کی اولاد موجود ہو تو والد اور والدہ تقسیم میراث میں مساوی ہوں گے۔

قرآن میں فرمایا

وَالَّذِينَ يُولُوا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
 (والدین میں سے ہر ایک کو ۱/۶ ملے گا)  
 (النساء - ۱۱)

جب نص سے ثابت ہوتا ہو کہ والدہ زیادہ حصہ لے تو فقہاء کیوں کر روک سکتے ہیں۔

دادی کی میراث :- اس مسئلہ پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ دادی ۱/۶ سے زیادہ ورثہ نہیں پائے گی اور اگر دادیاں متعدد ہوں تو وہ سب ۱/۶ میں شریک ہوں گی اور اگر ایک ہو تو وہ تنہا یہ حصہ لے گی۔ مثلاً زیر نظر ہیں فقہاء کا اعتماد معززہ بن شعبہ کی روایت کردہ حدیث پر ہے کہ انہوں نے دادی کو چھٹا حصہ دیا۔ حضرت عمر اور متعدد صحابہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ دادیاں ۱/۶ میں شریک ہوں گی۔

یہ ائمہ اربعہ کا نقطہ نظر ہے جس میں وہ سب یک زبان ہیں۔ ابن حزم اس کے خلاف ہیں۔ جب والدہ بقید حیات نہ ہو تو ابن حزم دادی کو والدہ قرار دیتے اور اسے اسی طرح وارث تصور کرتے ہیں جیسے دادی کی عدم موجودگی کے وقت ماں کو وارث ٹھہراتے ہیں۔ جب اولاد یا بھائی وارث ہوں تو ابن حزم اسے چھٹا حصہ دلاتے ہیں۔ بھائی بہنوں اور اولاد کی عدم موجودگی کی صورت میں اسے ترکہ کا ایک تہائی ملے گا۔

ابن حزم ارقام فرماتے ہیں :-

”جب میت کی ماں نہ ہو تو دادی کو وہاں ایک تہائی حصہ ملے گا۔ جہاں ماں کو ۱/۶ ملتا ہے وہاں دادی کو بھی یہی ملے گا۔ بشرطیکہ میت کی ماں نہ ہو۔ جب میت کا باپ یعنی دادی کا بیٹا زندہ ہو تو دادی اسی طرح وارث ہوگی جیسے اس کی وفات کی صورت میں۔ جب ماں یا کوئی زیادہ قریبی دادی نہ ہو تو ہر جیدہ وارث ہوگی۔ اگر دادیاں درجہ میں مساوی ہوں تو میراث مذکور میں باہم شریک ہوں گی۔“

ہم دیکھتے ہیں کہ ابن حزم ماں کی عدم موجودگی کی صورت میں ہی دادی کو وارث قرار نہیں دیتے۔ بلکہ تمام صورتوں میں اسے ماں کی طرح سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ میت کا باپ بھی ابن حزم کے نزدیک اسے وارث ہونے سے مانع نہیں، حالانکہ اسی کی بنا پر وہ ورثہ پا رہی ہے۔ اگر میت کا باپ اور ماں باپ اور خاوند موجود ہوں تو بیوی نصت لے گی۔ باپ کی ماں سارے ترکہ کا ثلث لے گی اور باپ باقی ماندہ یعنی ۱/۲ یعنی ماں سے نصت لے گا اگر میت سے والدہ کا تعلق اسی کے توسط سے ہے۔

ابن حزم ایتارِ نصوص کے زعم میں اس قاعدہ کی پروا نہیں کرتے کہ جس شخص کا تعلق میت سے کسی وارث کے ذریعہ سے ہو تو اس وارث کی موجودگی میں وہ ورثہ نہیں پاسکتا۔ جدت کو میراث سے روکنے والی صرف ماں ہے۔ ابن حزم نے یہ نظریہ اس لئے اختیار کیا کہ جو نصوص ماں کی تواریث کے بارے میں وارد ہوئی ہیں ان سب کا اطلاق دادی پر ہوتا ہے اس کے دلائل ذکر کرتے ہوئے ابن حزم فرماتے ہیں۔

اس کی دلیل یہ آیت ہے۔

فَلِذَٰلِكَ نَصَبْنَا لَهَا الْوَارِثَاتِ الْثَلَاثَ (النساء-۱۱) اس کی ماں کے لئے ایک تہائی ہے نیز فرمایا۔

كَمَا أَخْرَجَ أَبُو بَكْرٍ مِّنَ الْجَنَّةِ (الاعراف-۲۷) جس طرح تمہارے والدین کو جنت سے نکالا

اس آیت میں حضرت آدم اور حوا کو والدین کہا گیا ہے۔ یہ قرآن کی نص ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں دروغ گوئی کی جبارت کی ہے اور اس بات پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ دادی کو ۱/۲ ملتا ہے یہ عظیم جبارت ہے۔ پھر ابن عباس کی یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ ماں کی عدم موجودگی کی صورت میں دادی بمنزلہ والدہ ہوتی ہے بلکہ

اہل فرائض کی اصطلاح میں عول کے معنی یہ ہیں کہ حصص کی تعداد اصل مسئلہ سے بڑھ جائے۔ اور وہ یوں کہ اصحاب فرائض چند حصص کے مستحق ہوں جن کا مجموعہ عدد صحیح سے بڑھ جاتا ہو۔ مثلاً ایک عورت فوت ہو جائے اور اس کے بعد اس کا خاوند حقیقی بہن اور والدہ موجود ہوں



اندریں صورت خاوند منحص قرآنی نصت لے گا۔ حقیقی بہن بھی نصت کی حقدار ہوگی اور ماں متروکہ مال کا ۱/۲ لے گی۔ بلاشبہ ۱/۲ + ۱/۲ + ۱/۲ کا مجموعہ ایک صحیح عدد سے زائد ہے۔ اس صورت میں اصل مسئلہ ۶ کے عدد سے بنتا ہے اس میں سے ۳ خاوند لے گا۔ بہن بھی تین لے گی۔ ماں دو لے گی۔ ان کا مجموعہ (۳ + ۳ + ۲ = ۸) آٹھ ہو جائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وراثہ کے حصص اصل مسئلہ یعنی ۶ سے بڑھ گئے۔ اسی کو عول کہتے ہیں۔ اندر میں مسئلہ ائمہ اربعہ کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ وراثہ اپنا اپنا حصہ پورا نہیں لیں گے۔ بلکہ اس اضافہ کے حساب سے ان کے حصہ میں کمی کر دی جائے گی۔ نقصان میں تمام وراثہ کو مشترک کرنے کے لئے ائمہ نے عول کے طریقہ کا استخراج کیا۔ صورت مذکورہ میں اصل مسئلہ ۶ سے بنتا تھا۔ اب بصورت عول ترکہ ۸ حصص کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ترکہ ۷۲ روپیہ ہو تو وہ ۶ حصص کے بجائے ۸ حصص کی بنا پر تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں سے خاوند کو ۹ × ۳ = ۲۷ ماں کو ۹ × ۲ = ۱۸ اور بہن کو ۹ × ۳ = ۲۷ ملیں گے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس اضافہ کے لحاظ سے ہر وارث کا حصہ کم کر دیا گیا ہے اور کسی وارث کو بھی نقصان پہنچا نہ اس کے حصہ سے زیادہ ملا۔

یہ ائمہ اربعہ کی رائے تھی۔ اس صورت میں جب کہ وراثہ **مسئلہ عول اور ابن حزم** کے حصص صورت مسئلہ سے بڑھ جائیں یعنی وہ کسریں جو اصحاب الفروض کے حصص پر دلالت کرتی ہوں ایک عدد صحیح سے بڑھ جائیں۔ ایک لحاظ سے اس کی اساس اقوال صحابہ پر رکھی گئی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک صاحب حق کے مقابلہ میں ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ مفاضلہ نہ کسی نص سے ثابت ہوتا ہے نہ قیاس سے۔ ایک صاحب حق کو اگر زیادہ دے دیا جائے تو دوسرے کو کم دینے کی کوئی دلیل نہ ہوگی۔ لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سب اصحاب فرائض کو اس اضافہ کے پیش نظر کم حصہ دیا جائے۔ بخلاف ازیں ابن حزم عول کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور اسے بنیاد قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”تقسیم میراث میں عول نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تقسیم میراث میں عول کی کوئی دلیل نہیں۔ عقبہ بن مسعود فرماتے ہیں جس ذات خداوندی نے وادی علاج کی ریت کے ذرات تک گن رکھے ہیں۔ اس نے مال میں ۱/۲ + ۱/۲ + ۱/۲ کیونکر

کر دیا۔ اس نے تو صرف یونہی کیا ہے کہ دو نصف ہوں گے جن سے مل کر ایک عدد کامل بنتا ہے یا تین ثلث یا چار رُبع اور ان سے بھی پورا ایک عدد بن جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدد صحیح دو نصف اور ایک ثلث ہو۔ لہذا ایک عدد صحیح دو نصف یا تین ثلث یا چار رُبع ہوگا، اور دو ثلث اور دو نصف نہیں ہو سکتا۔

ابن عباس کا مقصد اس سے یہ واضح کرنا ہے کہ جس ذاتِ خداوندی نے فرائض کو تقسیم کیا وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ ایک عدد دو نصف تین ثلث اور چار رُبع سے زائد نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے فرائض کو مشروع کیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اصحابِ فرائض تین ہوں۔ بنا بریں ابن عباس بعض اصحابِ فروع کو ساقط کر دیتے یا ان کے حصہ کو کم کر دیتے ہیں تاکہ ان کے حصہ جات عدد صحیح سے بڑھ نہ جائیں۔

متذکرۃ الصدر بیان اس بات کا شاہد عدل ہے کہ

**ابن حزم کے دلائل :-** ابن حزم حضرت ابن عباس کے قول سے احتجاج کرتے ہیں۔ ابن عباس کا یہ قول دو امور پر مبنی ہے۔

اول :- امر اول یہ ہے کہ بعض فرائض دوسروں کے مقابلہ میں اقویٰ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض فرائض کو ساقط کر سکتے ہیں اور بعض کو نہیں۔ بلاشبہ قابلِ سقوط فرائض کے مقابلہ میں غیر قابلِ سقوط قابلِ ترجیح ہوں گے۔ کیونکہ یہ اپنی قوت کی وجہ ہی سے ثابت ہے۔ بنا بریں جس امر پر قول کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ دھڑام سے گر جاتی ہے۔ قول کا مبنی یہ تھا کہ فرائض مساوی ہیں۔ لہذا یہ معلوم نہیں کہ کسے کم کیا جائے اور کسے باقی رکھا جائے۔

دوم :- دوسری بات یہ ہے کہ زیادتِ فرائض کو عصبیات کی حالت پر قیاس کیا جائے۔ عصبہ بالغیر ہونے کی صورت میں صاحبِ فرض عورت اس حصہ سے کم لے گی۔ جب کہ وہ شخص موجود نہ ہوتا جو اسے عصبہ بنا رہا ہے۔ جن مسائل میں فرائض کے درمیان تعارض پیدا ہوتا ہے۔ اگر بعض اصحابِ فروع پر ان اقدار کا اضافہ کر دیا جائے جو اس کی وجہ سے عصبہ بن جاتے ہیں، تو کوئی نزاع بالکل باقی ہی نہیں رہتا۔ مثلاً میت کے ورثاء جب والدہ خاتون اور حقیقی بہنیں ہوں اگر اس مسئلہ میں حقیقی بھائی کو بھی شامل کر دیا جائے، تو فرائض میں کوئی نزاع باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ اندریں صورت والدہ پانے گی۔ خاوند نصف اور حقیقی بہن بھائی باقی ماندہ مال۔ بنا بریں مستقر معلوم ہوتا ہے، کہ جس مسئلہ میں بھی حصص بڑھ جائیں وہاں کوئی ایسا صاحبِ فرض

ضرور ہو گا۔ جو عصبہ بالغیر بن سکے گا۔ بنا بریں اسے یوں فرض کیا جائے گا۔ جیسے کوئی اور صاحب حق موجود ہو۔ چنانچہ وہ صاحب فرض جو فرائض میں تصادم پیدا ہونے کے وقت کسی کو عصبہ بنا سکتا ہے، جو باقی ماندہ مال ہو گا وہ لے لے گا۔ اگر مال باقی نہ بچا ہو تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔

ابن عباس ہر اس صاحب فرض کا حصہ ساقط کر

مسئلہ عول اور حضرت ابن عباس دیتے ہیں جس کا عصبہ ہونا ممکن ہو۔ وہ اسے عصبہ

فرض کرتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فرائض کے متصادم ہونے کے وقت وہ باقی ماندہ مال لے گا۔ زخر بن ادس نے جب ابن عباس سے پوچھا کہ عول کے مسئلہ کو سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا تو انہوں نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب نے۔ آپ کے عہد میں جب وراثت کے حصص مل جُل گئے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ آپ بڑے متقی آدمی تھے، فرماتے لگے میں نہیں جانتا کسے مقدم کروں اور کسے موخر۔ میرے نزدیک کھلی کھلی بات یہ ہے کہ میں یہ مال تمہارے حصص کے مطابق تقسیم کروں اور اس میں عول کو داخل کروں۔ ابن عباس نے فرمایا اگر حضرت عمران اہل فرائض کو مقدم کرتے جنہیں خدا نے مقدم کیا ہے، تو عول کی ضرورت پیش نہ آتی۔ زخر نے پوچھا خدا نے کسے مقدم کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا۔ خدا نے جس فریضہ کو بھی ساقط کیا ہے اسے اور فریضہ دے دیا ہے یہ تو مقدم ہوا۔ اور موخر وہ حصہ ہے کہ جب وہ ادا نہ کیا جائے اور اپنی جگہ سے زائل ہو جائے تو اسے وہی ملے گا جو باقی بچا۔

اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ ابن عباس کی رائے میں جب فرائض متصادم ہوں اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو عصبہ بالغیر بن سکتے ہوں تو انہیں ساقط کر دیا جائے گا اور وہ باقی ماندہ مال لیں گے۔ بشرطیکہ کوئی شخص انہیں عصبہ بنا دے۔ ابن شہاب زہری نے بھی اس کی تائید کی ہے۔

فرماتے ہیں۔

”اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ابن عباس سے پہلے ایک امام عادل (حضرت عمر) گزر چکے تھے۔ انہوں نے اپنا حکم جاری کر دیا تھا اور آپ بڑے متقی بھی تھے۔ تو ابن عباس سے دو صاحب علم کبھی اختلاف نہ کرتے۔“

ابن حزم نے مسئلہ زیر تبصرہ میں ابن عباس کی رائے پر عمل کیا۔ اب سوال

یہ ہے کہ انہوں نے کس چیز پر اعتماد کیا؟ کیا نص پر یا اجازت پر؟ ابن حزم کے نزدیک دلیل صرف نص ہوتی ہے، قول صحابی ان کے یہاں حجت نہیں۔ پھر اس کا کیا جواز کہ انہوں نے حضرت عمرؓ ایسے امام کے مسلک کے خلاف ابن عباس کے نظریہ پر عمل کیا؟

ابن حزم خود قول ابن عباس کی وجہ تریح ذکر کرتے ہیں۔

”ہر عقل مند شخص اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث میں ان حصص کی ادائیگی کا حکم نہیں دیا جن کو مال نہ سما سکتا ہو۔ ہمارے پاس تین زبردست دلائل موجود ہیں جن سے حضرت ابن عباس کے قول کی صحت معلوم ہوتی ہے۔

اول: دلیل اول ہم قبل ازیں ذکر کر چکے ہیں کہ جو اقارب اپنے حصص سے کبھی محروم نہیں کئے جاتے ان رشتہ داروں سے مقدم ہوں گے۔ جو اپنے حصص سے محروم ہو کر بعض اوقات صرف بچا کچھا مال لیتے ہیں۔

دوم: عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو اقارب ہر حال میں وارث ہوتے ہیں اور جب وہ اور میت ادا اور ایک ہی دین پر ہوں تو کوئی رشتہ دار ان کو ورثہ پانے سے روک نہیں سکتا۔ ایسے درمیان اصحاب الفروض کے مقابلہ میں مقدم ہوں گے، جو کبھی ورثہ پاتے اور کبھی نہیں پاتے۔ اس لئے کہ جو رشتہ دار ہر حال میں وارث ہوتا ہوا سے ورثہ سے محروم کرنا ناروا ہے۔ بخلاف ازیں جو رشتہ دار کبھی وارث ہوتا اور کبھی نہیں ہوتا عقل و ہدایت کا تقاضا ہے کہ وہ دوسروں کے بعد وارث ہو گا، ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اور زوجهیں ہر حال میں وارث ہوتے ہیں اس کے مقابلہ میں بہنیں کبھی وارث ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتیں۔ اسی طرح بیٹیاں گاہے دوسروں کے بعد وارث ہوتی ہیں

سوم: صحت قول ابن عباس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ ہم مذکورہ اقارب کے بارے میں غور و فکر سے کام لیں گے۔ اگر معلوم ہوا کہ مال میں تمام حصص ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے تو ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا کہ خداوند تعالیٰ نے انہیں ورثہ دلانا چاہا ہے اور اگر مال میں اتنی وسعت نہ ہوتی تو ہم سب رشتہ داروں پر ایک ایک کر کے غور کریں گے

جس کے متعلق ہمیں معلوم ہو گا کہ تمام اہل اسلام قطعی طور پر اس کو حصہ نہ دلانے پر متفق ہیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ قرآن میں اس کا حصہ مذکور ہی نہیں۔ اندریں صورت ہم اسے وہی کچھ دیں گے جس پر اتفاق ہو چکا ہو۔ اگر کسی چیز پر بھی اتفاق نہ ہوا ہو ہم اسے کچھ بھی نہیں دیں گے۔ کیوں کہ اس بات کی صحت ثابت ہو چکی ہے کہ نصوص قرآنیہ میں اس کا حصہ مذکور نہیں۔

جس رشتہ دار کے بارے میں اہل اسلام کے یہاں اختلاف ہو۔ ایک فریق کہتا ہو کہ اسے وہی ملے گا جو قرآن میں مذکور ہے۔ دوسرے کا خیال ہے کہ قرآن میں مقرر کردہ حصہ میں سے کچھ حصہ اسے ملے گا تو اس کے بارے میں نصوص قرآنی کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔ جو شخص نصوص کی خلاف ورزی کرتا ہو اس کا قول ناقابل التفات ہوگا کیونکہ وہ اپنے دعویٰ کے اثبات میں دلیل پیش کرنے سے قاصر رہا۔ یہ ہے مسئلہ کی پوری پوری وضاحت و صراحت۔ ان تفصیلات سے کوئی مسئلہ بھی خارج نہیں رہا ہے۔

مسئلہ زیر تبصرہ پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالنے سے قاری پر یہ قول ابن حزم پر نقد و نظر:- حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ ابن حزم اس مسئلہ میں بھی اپنے مسلک و منہج کی حدود و قیود سے باہر نہیں نکلتے۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ نص اجماع اور دلیل کی پیروی کرتے ہیں۔ چونکہ مسئلہ زیر بحث میں نہ کوئی نص ہے نہ اجماع اور نہ وہ جسے ابن حزم دلیل کے نام سے موسوم کرتے ہیں، لہذا وہ قیاس کرتے ہیں۔ ان کی توجیہات اقرب الی القیاس ہیں۔ وہ ان اصحاب الفروض کے حال کو جن کے فرائض نصوص میں مذکور ہیں اس حالت پر قیاس کرتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی عصبہ بھی ہو اور اسے باقی ماندہ مال دیتے ہیں۔ جیسا کہ عصبہ ہونے کی صورت میں اسے باقی ماندہ مال دیا جاتا ہے۔ یہ بعینہ قیاس ہے مگر اپنے عمل پر نہیں کیوں کہ یہ قیاس مع النص ہے جس سے حضرت عمرؓ جیسے متقی شخص نے احتراز کیا تھا اور ان کا ورع و تقویٰ قیاس سے احتراز و اجتناب کا موجب ہوا۔

بظاہر یونہی معلوم دیتا ہے، مگر ابن حزم جس بعید از قیاس بات کی نقی کرتے ہیں اسے خود اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ دونوں سابقاً ذکر کردہ وجوہات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ عقل اس بات

کا تقاضا کرتی ہے کہ جس وارث کے حصہ کو کبھی کم نہ کیا جاتا ہو، وہ ان اقارب کے مقابلہ میں قابل تر ترجیح ہے جو باقی ماندہ مال لیتے ہیں۔ عقل انسانی اس امر کی بھی مقتضی ہے کہ جس وارث کو کبھی ورثہ سے محروم نہ کیا جاتا ہو وہ کبھی کبھی ورثہ پانے والے اقارب سے مقدم ہے۔ ابن حزم اسے عقلی ضرورت قرار دیتے ہیں۔ نصوص کے الفاظ کو بھی عقلی ضروریات کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ ابن حزم اس مسئلہ میں بھی اپنے طرز و انداز پر گامزن ہیں یہ ان کی اصطلاح میں اقل ما قبل کے نام سے موسوم ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر اصحاب الفروض میں تصادم پیدا ہو جائے جیسا کہ سابقاً ذکر کر وہ صورت میں جب ورثاء میں خاوند ماں اور حقیقی بہنیں ہوں۔ اندریں صورت بہن کے بارے میں اہل اسلام کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اسے بنا پر عدل اٹھ حصص میں سے تین دلاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نصف اور ثلث کے بعد پانچ حصص چھتے ہیں اور وہی اس کو ملے گا یہ ابن عباس کا نظریہ ہے۔ لہذا بہن کو اقل ما قبل کے قاعدہ کے تحت جملہ اقوال میں سے جو کم حصہ ہے وہ ملے گا۔ کیوں کہ اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ خاوند کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آٹھ میں سے تین لے گا ابن عباس کا قول ہے کہ چھ میں سے تین لے گا۔ لہذا اسے بھی جملہ اقوال میں سے کم ملے گا کیوں کہ وہ محل اجماع ہے۔

ابن حزم اس کے برخلاف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خاوند کا حصہ قرآن میں نصف بیان کیا گیا ہے جو قابل سقوط نہیں۔ لہذا دیگر اقوال ناقابل التفات ہوں گے۔ اگر کہا جائے کہ قرآن میں تو بہن کا حصہ بھی نصف بتلایا گیا ہے لہذا اس کے پھوڑ دینے سے نص قرآنی کا ترک کرنا لازم آتا ہے ابن حزم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن نے بعض صورتوں میں بہن کے حصہ کو ساقط کر دیا ہے۔ لہذا دوسرے اقارب اس سے مقدم ہوں گے۔ بنا بریں قول ابن عباس پر عمل کرنا پڑے گا کہ زوجین اور ماں کے فرائض دوسروں کی نسبت اقویٰ ہیں۔

حق بات یہ ہے کہ ابن حزم نے اگرچہ حضرت ابن عباس کے خلاصہ مباحث سابقہ پر قول پر عمل کیا ہے تاہم ان کا مطمح نظر یہ ہے کہ ان کے نظریہ کی صحت نصوص سے ثابت ہو جائے۔ مگر نصوص سے ابن عباس کے قول کی اتنی سی تائید ہوتی ہے جتنی حضرت عمر کے ارشاد کی جنہوں نے غول کے نظریہ پر عمل کیا اور جمہور اہل اسلام نے آپ کی رائے کی پیروی کی۔ قرآن کریم نے آیات محکمہ میں فرمایا ہے، کہ خاوند کو نصف، ماں کو ثلث اور بہن کو

نصف ملے گا۔ ائبارِ نص کا تقاضا ہے کہ مذکورہ حصص ان اقارب کو دئے جائیں۔ ہم اس ضمن میں ابن حزم اور ان کے پیش رو حضرت ابن عباس کے ارشاد سے اظہارِ اتفاق کرتے ہیں کہ خدائے علیم و جمیر نے یہ حصص مقرر فرمائے۔ انہیں بخوبی علم تھا کہ ایسے حالات رونما ہوں گے جبکہ یہ فروض باہم متعارض ہوں گے۔ اس کی گرہ کشائی کے لئے علماء کے یہاں ایسے طرزِ عمل پائے جاتے ہیں جن میں کوئی ایک طریقہ بھی دوسرے کے مقابلہ میں ارجح نہیں ہے۔

۱۔ ایک طریق کار یہ ہے کہ سب اصحابِ فرائض کو ان کے حصص کے اضافہ کے پیش نظر ہر ایک کے حصہ کو کم کر دیا جائے یہ طرزِ عمل حضرت نے اپنے ورع و تقویٰ کے پیش نظر اختیار کیا۔

۲۔ دوسرا طریق کار یہ ہے کہ بعض اصحابِ فروض کو بعض سے مقدم کیا جائے۔ ان کی تقسیم دلائلِ قاطعہ کی روشنی میں ہونی چاہئے کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اقارب کو ورثہ سے محروم ہونا پڑتا ہے حالانکہ طائرانہ نظریں ان کا مستحق ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جہاں تک بلا دلیل بنا برتن بعض اقارب کو مقدم کرنے کا تعلق ہے اس کے متعلق بارہا ابن حزم یہ فتاویٰ سنا چکے ہیں کہ "اِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيثِ" لہذا یہ ناروا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ابن حزم جن وجوہات کی بنا پر بعض اقارب کو بعض سے مقدم کرتے ہیں ان کی حیثیت بھی ظن سے زیادہ نہیں۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ کسی قطعی دلیل کے بغیر بعض اقارب کو ورثہ سے محروم کر دیا جائے۔

بہر کیفیت فریقین کو اصحابِ الفروض کے حصہ جات میں کمی کرنا پڑی۔ ابن عباس بعض کے حصہ کو کم کرتے اور بعض کو بیکسٹور رہنے دیتے ہیں۔ ان کے قول کے پیش نظر اکثر نصوص معمول بہا ٹھیکری ہیں اور بعض متروک ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروقؓ سب اصحابِ الفروض کے حصہ جات کو کم کر دیتے تھے اور اس طرح مساوات کے طریقہ پر عمل کرتے اور اس سے کسی نص کا چھوڑنا لازم نہیں آتا۔ بلاشبہ احتیاط و ورع کو ملحوظ رکھا جائے تو حضرت فاروق کا طریق کار زیادہ قرین صدق و صواب نظر آتا ہے۔

تقسیمِ ورثہ کے وقت اقاربِ بیٹامی کو کچھ دینے کا وجوب۔ مظاہر میں سے ایک

مظہر ہے جن کا اعتماد ظواہرِ نصوص پر ہے۔ اصحابِ ظاہر کا قول ہے کہ امرِ وجوب کے لئے ہے۔ یہاں تک کہ نص کی کوئی دلیل اس کے خلاف قائم ہو جائے کہ ورثہ تقسیم کرتے وقت جب اقارب

یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں کچھ دے دینا چاہئے۔ آیت ہذا کی تعمیل کے پیش نظر وراثہ اپنے حصص میں سے ان کو کچھ دے دیں۔

ابن حزم فرماتے ہیں۔

”جب یتیم کا وراثہ تقسیم کیا جا رہا ہو اس موقع پر یتیم یا وراثہ کے اقارب

بھی حاضر ہو جائیں یا یتیم اور مسکین موجود ہوں تو بالغ و نابالغ وارثوں کے قبیل نیز

غیر موجود وارث کے وکیل پر لازم ہے کہ ان کے حاضرین کو اپنے حصہ میں سے کچھ

مال دے دیں مگر وہ اتنا نہ ہو جس سے وراثہ کو زیادہ نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔“

ابن حزم کی رائے میں یہ عطیہ دینا اختیاری نہیں کہ ان کی مرضی پر موقوف ہو کہ دیں یا

نہ دیں اور نہ دینے کی صورت میں وہ گنہگار ہوں۔ بلکہ ان کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ اگر وہ از خود

ایسا نہ کریں تو حاکم ایسا کرنے پر ان کو مجبور کرے۔

ابن حزم کہتے ہیں۔

”اگر وراثہ دینے سے انکار کریں تو حاکم ان سے جبراً دلائے۔“

ابن حزم اس آیت کریمہ سے

استدلال کرتے ہیں۔

وَجِبَ عَطَاءُ الْيَتَامَىٰ وَالسَّرَّاءِ مِمَّا رَزَقُوا مِنْهُ

جب وراثہ تقسیم کرتے وقت اقرباء یتیم اور

مسکین حاضر ہوں تو ان کو وراثہ میں سے

کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالسَّرَّاءُ فَأَنْزِلُوا قَوْلَهُمْ مِّنْهُ وَفَوَّادُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا (النساء - ۸)

بعض علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ ابن حزم واضح کرتے ہیں کہ یہ منسوخ

نہیں کیوں کہ صحابہ کی ایک کثیر جماعت اس پر عمل کرتی تھی۔

ابن حزم رقمطراز ہیں۔

”خدا کا امر ایک ایسا فریضہ ہے جس کی خلاف ورزی درست نہیں۔ حطان بن

عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعریؓ نے تقسیم وراثت کے وقت مجھے عطیہ

دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔

خدا کی قسم یہ منسوخ نہیں ہوئی البتہ لوگ اس پر عمل پیرا ہونے میں تغافل شعاری

کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اقارب و قسم کے ہیں ایک وہ جو وراثہ لیتے اور اس میں



سے کچھ دے دیتے ہیں۔ دوسرے وہ جو ورثہ نہیں پاتے اور مناسب انداز میں بات کرتے ہیں۔

عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عطیہ دینا واجب ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے!

ابن حزم اسی طرح وجوب عطیہ پر اقوال صحابہ سے احتجاج کرتے ہیں جو آیت کے بیاق سے اس پر استدلال کرتے تھے۔ صحابہ اہل زبان تھے اور فصاحت و بلاغت سے بہرہ ور تھے۔ ان کی زبان میں ان کو مخاطب کیا لہذا وہ قرآن کے سب سے بڑے رازدان تھے۔

ابن حزم اپنی تائید میں اقوال صحابہ پیش کرنے پر قائلین عدم وجوب کے دلائل۔ ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ ائمہ اربعہ پر بھی تنقید کرتے ہیں جو وجوب کے قائل نہیں۔ ان کا یہ قول دو امور پر مبنی ہے۔

۱۔ تذکرۃ الصدرا آیت منسوخ ہے

۲۔ اس آیت میں امر وجوب کے لئے نہیں بلکہ مذہب یا استحسان کے لئے ہے۔ ابن حزم اس پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امر ہمیشہ وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ الا یہ کہ کسی دلیل سے عدم وجوب ثابت ہو جائے۔ بلا دلیل امر کو عدم وجوب کے لئے قرار دینا خلاف ظاہر بلکہ حکم فی النص ہے۔ نسخ کا دعویٰ بھی دلیل پر مبنی نہیں۔ نسخ و ہال ہوتا ہے جہاں ناسخ و منسوخ کے درمیان جمع و تطبیق کا امکان نہ ہو۔ اس صورت میں جو حکم متاخر زمانا ہوتا ہے وہ متقدم کا ناسخ ہوتا ہے۔ ابن حزم وجوب کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”قائلین عدم وجوب کے پاس قطعی طور پر کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ یہ مجرد دعویٰ

ہے۔ جہاں امر کا صیغہ وارد ہو اس سے کوئی شخص بھی یہ مفہوم نہیں سمجھتا کہ اگر تو چاہے

تو نہ کہ قرآن کریم میں آیات منسوخہ یا مخصوصہ یا امر مذہب ہونے کے یہ معنی ہیں کہ بلا دلیل

کسی آیت کو مذہب کے لئے قرار دیا جائے یا یہ کہا جائے کہ یہ آیت منسوخہ یا مخصوصہ

ہے۔ یہ قول باطل ہے جمہور سلف اس کے خلاف ہیں وباللہ التوفیق۔“

عطیہ جات کی عدم سختی۔ یہ ابن حزم کا نظریہ تھا! ہم دیکھتے ہیں کہ ابن حزم وراثہ کے

عطیہ کی تحدید و تعیین نہیں کرنے۔ بلکہ اسے وارث کی مرضی پر چھوڑتے ہیں۔ وہ اس قدر عطیہ دے جس سے اسے نقصان پہنچنے کا احتمال نہ ہو، یہ عطیہ گویا محدود نہیں اسے وارث کی مرضی پر چھوڑتے ہیں۔ وہ اس قدر عطیہ دے جس سے اسے نقصان پہنچنے کا احتمال نہ ہو۔ یہ عطیہ گویا محدود نہیں۔ جب وارث بطیب خاطر نہ دینا چاہے تو حاکم اسے مجبور کرے۔ عطیہ جات کا اندازہ بھی حاکم کی رائے کے تابع ہے۔ حاکم اس کو اتنا عطیہ دلوئے جس سے نہ وارث پر ظلم ہو اور نہ محتاج لوگوں پر ظلم و تعدی ہو۔

اب سوال یہ ہے کہ جب لوگ اس کی ادائیگی میں غفلت سے کام لے رہے ہوں جیسا کہ آج کل رواج ہے تو کیا اس زمانہ میں حاکم ترکہ کی قلت و کثرت کے پیش نظر عطیہ کی ایک خاص مقدار متعین کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اس میں وارث کے حصص کی قلت و کثرت بھی ملحوظ ہوگی یا نہیں؟

جواب یہ ہے کہ حاکم وقت کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ مال کی قلت و کثرت اور وراثت کے حصص کی نسبت سے کم و بیش عطا یا مقرر کر دے۔ مال جتنا زیادہ ہوگا یہ بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ یہ عطیہ جات فقرو مسکین لوگوں کو دئے جائیں گے۔ اس کا آغاز متوفی اور وراثت کے اقارب سے کیا جائے گا بشرطیکہ ان میں فقراء اور یتیم و مسکین پائے جاتے ہوں۔

بنابریں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہ ظاہری کو مصر میں جاری شدہ ایک ٹیکس کا مبنی قرار دیا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس محصول کو فقراء و مساکین و یتامیٰ پر صرف کیا جاتا ہو اور اس میں بھی متوفی اور وراثت کے اقارب میں سے جو فقراء ہوں ان کو ترجیح دی جائے۔

## بعض معاملات کی تشریح و توضیح

ابن حزم اور ظواہر نصوص کا التزام ہم نکاح تصرفات مریض احکام و صایا اور مسائل میراث کے بارے میں فقہ ظاہری کے نظریات و افکار کا ذکر کر چکے ہیں۔ قصداً ان مسائل کا انتخاب کیا جس سے فقہ ظاہری پر عموماً اور فقہ ابن حزم خصوصاً روشنی پڑتی تھی۔ ابن حزم نے جن مسائل میں ائمہ اربعہ کی مخالفت کی تھی ہم نے وہ بھی بیان کر دیے تاکہ جدید فقہ کا طرز و انداز اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔

ہمارے انتخاب کردہ مسائل سے ہمارا مطمح نظر ثری حد تک پورا ہو جاتا ہے۔ تاہم معاملات میں آپ کے اختیار کردہ نظریات کی تشریح ناگزیر ہے۔ معاملات میں بھی آپ کا طرز فکر و نظر ظاہری مسلک کا ترجمان تھا۔ ہم تین مسائل کا انتخاب کرتے ہیں جن سے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گی کہ احکام عبادات و عائلی مسائل کی طرح معاملات میں بھی ان کا نقطہ نظر ظواہر نصوص پر مبنی ہے وہ تین مسائل یہ ہیں :-

۱۔ بیع میں گواہ بنانا۔

۲۔ خیار شرط سے عام طور پر منع کرنا۔

۳۔ مزدور و اراضی کو اجارہ پر دینا۔

اشہاد فی البیع ابن حزم کی رائے میں اشہاد فی البیع (بیع میں گواہ بنانا) لازمی فریضہ ہے اور اس کا تارک گنہگار ہوتا ہے۔ شہادت دو عادل اشخاص یا ایک مرد اور دو عورتوں کی ہونی چاہئے اگر عادل گواہ دستیاب نہ ہوں تو شہادت کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص دو عادل گواہ بنا سکتا ہو مگر دانستہ بنائے تو وہ گنہگار ہوگا۔ مگر بیع کا معاملہ مکمل ہو جائے گا۔ اگرچہ قیمت نقد نہ ہو۔ اگر ممکن ہو تو شہادت کے ساتھ اس معاملہ کا لکھ لینا بھی ضروری ہے۔ اگر کتابت کا امکان نہ ہو اور کتابت دستیاب نہ ہو تو کتابت کا فریضہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کتابت پر قادر ہو مگر نہ لکھوائے تو بیع صحیح ہو جائے گی مگر وہ گنہگار ہوگا۔

ابن حزم لکھتے ہیں :-

» بائع و مشتری پر لازم ہے کہ خرید و فروخت کرتے وقت دو آدمیوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنالیں خواہ بیع کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر عادل گواہ نہ مل سکیں تو شہادت کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر قدرت کے باوجود گواہ نہ بنائیں تو وہ گتہ گار ٹھہریں گے مگر بیع مکمل ہو جائے گی۔ اگر خرید و فروخت میں قیمت نقدا نہ کی گئی ہو تو شہادت کے ساتھ ساتھ اس معاملہ کو لکھ لینا بھی ضروری ہے۔ اگر نہیں لکھیں گے تو گتہ گار ہوں گے اور بیع منعقد ہو جائے گی۔ اگر بائع و مشتری لکھنے پر قادر نہ ہوں تو کتابت کا فریضہ ساقط ہو جائے گا۔«

ابن حزم کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ حسبِ

ابن حزم کے دلائل :- ذیل ہے :-

دائے ایمان والو! جب کسی مدت متعین تک قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اور لازم ہے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ پس چاہئے کہ وہ لکھ دے اور چاہئے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہے اور چاہئے کہ وہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرتا ہے اور اس میں کچھ بھی کم نہ کرے پھر اگر وہ جس کے ذمہ حق واجب ہے عقل کا کوتاہ ہو یا کمزور ہو اور لکھوانے کے قابل نہ ہو تو لازم ہے کہ اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک لکھوائے اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ کر لیا کرو۔ پھر اگر دونوں مرد نہ ہوں تو ایک فرد اور دو عورتیں ہوں ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ تاکہ ان دو عورتوں میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے اگر کوئی ایک ان دو میں سے مجھول جائے۔ گواہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں اور اس معاملہ کو خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک لکھنے سے اکتا نہ جاؤ یہ کتابت اللہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ قرین عدل ہے اور شہادت کو درست تر رکھنے والی ہے اور اس لائق ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو۔ بجز اس کے کہ کوئی سودا دست بدست ہو جسے تم باہم لیتے ہی رہتے ہو پس تم پر اس میں کوئی الزام نہیں کہ تم اسے

نہ لکھو۔ اور جب خرید و فروخت کرتے ہو تب بھی گواہ کر لیا کرو اور کسی کا تب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے حق میں ایک گناہ شمار ہوگا اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کا تب نہ پاؤ تو رہن رکھنے کی چیزیں ہی قبضہ میں دے دی جائیں۔ (سورۃ بقرہ آیت ۲۸۲-۲۸۳)

ابن حزم متذکرۃ الصدر آیت سے وجوب شہادت اور بیع مؤجل ہونے کی صورت میں وجوب کتابت پر استدلال کرتے ہیں۔ البتہ یہ وجوب صحت بیع پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ ایک دینی وجوب ہے جس کا تارک گناہ ہوتا ہے اور اسے ترک کرنے کے باوجود بھی بیع صحیح ہو جاتی ہے۔ آیت کے دال علی الوجوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ احکام بڑے مؤکد ہیں اور ان کی تعمیل ہر حال میں ضروری ہے۔

ابن حزم لکھتے ہیں:-

”یہ تاکید احکام ہیں جن میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں۔ بیع مؤجل میں کتابت کا اور نقد بیع میں شہادت کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ گواہی سے انکار نہ کریں پھر بڑی تاکید شدید کے ساتھ فرمایا کہ لکھتے سے اکتانازیا نہیں معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اس کے ساتھ اس کی مصلحت پر روشنی ڈالی کہ یہ یعنی بر عدل و انصاف اور شہادت کے لئے بہت درست ہے۔ دست بدست تجارت میں دستاویز نہ لکھنے کی اجازت دی اور فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ مگر بیع مؤجل میں کتابت کو ضروری قرار دیا اور عدم کتابت کو گناہ کا موجب قرار دیا۔“

پھر ابن حزم احادیث سے استنباط کرتے اور اپنی تائید میں فتاویٰ صحابہ ذکر کرتے ہیں۔

مشکل شہادت میں دیگر فقہاء کا زاویہ نگاہ ہے۔ جمہور فقہاء بیع میں شہادت کو فرض نہیں تصور کرتے، نہ بیع مؤجل اور قرض میں کتابت کو فرض مانتے ہیں۔ اس لئے کہ آیت میں مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ انہیں شہادت و کتابت کا مکلف و نامور نہیں ٹھہرایا گیا۔

لہذا اس آیت میں امر و جوب کے لئے نہیں بلکہ ارشاد کے لئے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت خرید و فروخت کے معاملات انجام دئے اور ان میں کسی کو گواہ نہ بنایا۔ اگر گواہ بنانا ضروری ہوتا اور اس کو ترک کرنے والا گناہ کا موجب ٹھہرتا تو آپ ضرور گواہ بناتے۔ آنحضرتؐ نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خریدا اور کسی کو گواہ نہ بنایا۔ یہاں تک کہ جب بعض لوگوں نے اسے زیادہ قیمت کی پیشکش کی تو اس نے سوا سے ہی انکار کر دیا۔ اسی طرح آنحضرتؐ نے حضرت عمرؓ سے ایک اونٹ خریدا وہاں گواہ کا کوئی ذکر نہیں آپ نے حضرت جابرؓ سے بھی ایک اونٹ خریدا تھا۔ اسی طرح خرید و فروخت کے دیگر معاملات۔

ابن حزم اس کی تردید میں کہتے ہیں کہ اعرابی کا واقعہ صحیح سند سے مذکور نہیں۔ اگر اس کی صحت تسلیم کر لی جائے تو ہو سکتا ہے یہ نزول آیت سے قبل کا واقعہ ہو۔ علاوہ انہیں یہ حدیث و جوب شہادت پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ اگر گواہ موجود ہوتا تو اعرابی کو جرأت انکار نہ ہوتی۔ جہاں تک آنحضرتؐ کے دیگر معاملات بیع و شراہ کا تعلق ہے ان میں گواہ نہ بنانے کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا لہذا شہادت کے عدم ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ فی الواقع بھی کوئی گواہ موجود نہ تھا۔ اس حدیث میں تو قیمت کا بھی ذکر نہیں کیا گیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بیع بلا قیمت ہوئی ہوگی۔

خلاصۃ القول ہم دیکھتے ہیں کہ ابن حزم علی تلاش کئے بغیر ظاہر الفاظ سے استدلال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر چھوٹی بڑی بیع میں آپ شہادت کو ضروری تصور کرتے ہیں۔ البتہ عدم شہادت ان کی رائے میں صحیح بیع میں اثر انداز نہیں ہوتا۔ کیونکہ دلیل سے صرف شہادت کا لزوم ثابت ہوتا ہے۔ بیع کا بطلان واضح نہیں ہوتا۔

## خیارِ شرط اور ابنِ حزم

خیارِ شرط میں دیگر علماء کے مذاہب اور مسلک ابنِ حزم: مراد یہ ہے کہ ایک خاص مدت تک بائع اور مشتری کو بیع فسخ کرنے کا اختیار ہو۔ خیارِ شرط ان تمام معاملات میں پایا جا سکتا ہے جو بعد از انعقاد فسخ کئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً بیع اجارہ اور دیگر معاملات جو قابل فسخ ہوں۔ خیارِ شرط کے جواز پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ البتہ اس کی مدت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

۱۔ امام مالک کے نزدیک دو دن تک بیع فسخ کی جاسکتی ہے۔

۲۔ امام شافعی اور ابوحنیفہ کے نزدیک مدتِ خیار تین دن ہے۔

۳۔ اصحابِ ابوحنیفہ میں سے ابو یوسف اور محمد غیر محدود مدت تک بیع فسخ کرنے کی اجازت

دیتے ہیں بشرطیکہ مدت معلوم نہ ہو جہول ہو۔ ثبوتِ اختیار کی دلیل یہ حدیث ہے کہ جابن

بن مثنقذ تجارت میں دھوکا کھا جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا سودا کرتے وقت تین

دن تک سودا واپس کرنے کی شرط لگایا کرو اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کرو کہ "سودا میں دھوکا نہ ہو"

اس سے واضح ہوا کہ ائمہ اربعہ خیارِ شرط کو صحیح تصور کرتے ہیں۔ ابنِ حزم اس کے خلاف ہیں۔

ان کا قول ہے کہ خیارِ شرط میں جو مدت بھی مقرر کی جائے اس سے بیع باطل ہو جاتی ہے۔

فرماتے ہیں:-

"ہر خرید و فروخت جس میں خیارِ شرط کی وضاحت کر دی گئی ہو خواہ یہ اختیار بائع

کے لئے ہو یا مشتری کے لئے یا کسی اور کے لئے اس کی مدت خواہ ایک گھنٹہ ہو یا ایک دن یا

تین دن یا اس سے کم و بیش تو وہ بیع باطل ہے۔ خواہ نفاذ بیع کو پسند کیا جائے

یا نہ کیا جائے۔"

ائمہ اربعہ پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”جملہ اقوال نہ کتاب اللہ سے چیل کھاتے ہیں نہ صحیح و سقیم احادیث سے ان کی تائید ہوتی ہے اور نہ قیاس و رائے سے ان کا اثبات ہوتا ہے۔“

ایسے معلوم دیتا ہے کہ حدیث جہان ابن حزم کی نگاہ میں ان کی خاص دلیل ہے اور ان کا حکم ان سے متجاوز نہیں ہوتا۔ کیونکہ نہ ابن حزم نے اس کی سند پر کوئی اعتراض کیا اور نہ خیار شرط کے جواز کا فتویٰ دیا۔

ابن حزم کی رائے میں خیار شرط کے بطلان کا مبنیٰ یہ ہے کہ یہ شرط کتاب و سنت میں مذکور نہیں ان کے نزدیک اصل یہ ہے کہ وہی ثمر و واجب الوفاء ہوتی ہیں جن کا ایفاء نصوص کے پیش نظر فروری ہو۔ مگر خیار شرط کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شرط کتاب اللہ میں مذکور نہ ہو وہ باطل ہے خواہ سو شرطیں ہی کیوں نہ ہوں۔“

حق بات یہ ہے کہ خیار شرط کو رد کر دینا ابن حزم کے ظاہری مسلک سے ہم آہنگ نہیں۔ ابن حزم حدیث جہان کی تاویل کرتے ہیں جب کہ دیگر فقہاء کا ماخذ و مصدر وہی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمہور فقہاء کا مسلک خیار شرط کے مسئلہ میں ابن حزم کے قول کی نسبت اقرب الی السنن ہے۔



## مزروعہ اراضی کی اجارہ داری

ابن حزم اس موضوع بحث کو فقہ اسلامی کے زرعی اراضی کو اجارہ پر دینے کا عدم جواز۔ اندر شامل کرنے میں منفرد ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ مزروعہ اراضی کو اجارہ پر دینا کسی حالت میں بھی جائز نہیں۔ اگر مزروعہ اراضی کو اجارہ پر دیا جائے تو یہ معاملہ باطل ہوگا۔ زرعی اراضی کے متعلق ابن حزم اپنے مخصوص تیز و تند انداز میں فرماتے ہیں: "زمین کو کسی حالت میں بھی اجارہ پر دینا جائز نہیں نہ کھیتی باڑی کے لئے نہ باغ لگانے کے لئے نہ مکان کی تعمیر کے لئے نہ کسی اور مقصد کے لئے۔ خواہ تھوڑی مدت کے لئے ہو یا زیادہ کے لئے یا بلا تعین مدت۔ یہ اجارہ داری نہ درہم و دینار کے عوض درست ہے اور نہ کسی اور چیز کے عوض۔ اگر زمین اجارہ پر دے دی جائے تو اسے فسخ کر دیا جائے گا۔ زمین کو کھیتی باڑی یا باغبانی کے لئے کر اس کی بٹائی لینا جائز ہے۔ اگر زمین میں چھوٹی بڑی کوئی عمارت موجود ہو تو اسے کرایہ پر دے سکتے ہیں۔ عمارت جس زمین پر مشتمل ہے وہ اجارہ میں ہرگز شامل نہ ہوگی۔" ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:-

"زمین کو نہ درہم و دینار کے عوض کرایہ پر دے سکتے ہیں نہ سامان و طعام کے عوض اور نہ کسی اور چیز کے بدلہ میں۔"

گویا اراضی ابن حزم کے نزدیک سرے سے اجارہ داری کی محل ہی نہیں۔ لہذا ان پر عقد اجارہ وارد نہیں ہوتا۔ البتہ مکانات کو کرایہ پر دے سکتے ہیں۔ اس لئے کہ کرایہ پر صرف عمارت کو دیا جاتا ہے زمین عمارت کے تابع ہے۔ جیسا کہ قبل ازیں بیان ہوا۔

ارضی کو بٹائی پر دینا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب زمین کو اجارہ پر دینا منع ہے تو اراضی کا

مالک ان سے کیونکر فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ابن حزم کے نزدیک اراضی سے انتفاع صرف دو صورتوں میں محصور ہے۔

(۱) زمین کو خود کاشت کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔

(۲) دوسروں کو مزارعت کے طور پر دے دے مگر اسے ٹھیکہ پر نہ دے۔

ابن حزم ارقام فرماتے ہیں:-

”زمین کے کاشت کرنے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔

(۱) اپنے آلات و اعوان اور حیوانات سے خود کاشت کرے۔ اور بیج ڈالے۔

(۲) دوسروں کو مزارعت کے لئے بلا معاوضہ دے دے۔ اگر مالک و مزارع حیوانات و آلات و

اعوان اور بیج میں شریک ہوں مگر زمین کا مالک اس کا کچھ وصول نہ کرے تو اچھلے۔

(۳) اپنی زمین مزارع کو دے دے اور مزارع اپنے آلات و اعوان کی مدد سے خود کاشت

کرے اور بیج ڈالے۔ زمین کا مالک اس میں سے پیداوار کا مقرر حصہ مثلاً نصف

حصہ یا ربع یا اس سے کم و بیش لے لے۔ زمین کے مالک پر اور کوئی شرط نہ لگائے

جو بیج رہے وہ ضرورت سے کم ہو یا زیادہ۔ اگر زمین میں کچھ بھی پیدا نہ ہو تو مزارع

نہ کچھ دے گا نہ لے گا۔

یہ تمام طریقے جائز ہیں۔ اراضی کا مالک اگر ان میں سے کسی طریقہ کو بھی پسند نہ کرے تو اپنی

زمین واپس لے لے۔“

بلاشبہ ابن حزم کا موقف

ارضی کو اجارہ پر نہ دینے میں ابن حزم کے دلائل :- بڑا خطرناک ہے مگر ان

کا بیان ہے کہ یہ اصل نصوص صریحہ سے ماخوذ ہے۔ اس میں نبی کریم کے وہ اقوال بھی شامل

ہیں جو آپ نے اس کی ممانعت میں ارشاد فرمائے۔ بعض میں آپ کی ممانعت روایتاً بیان کی

گئی۔ بعض فعلی احادیث نقل کی ہیں۔

۱۔ انہی دلائل میں انھنوں کا وہ قول ہے جو بروایت امام اوزاعی منقول ہے۔ آپ نے فرمایا

جس کے پاس زمین ہو اسے خود کاشت کرے یا کسی کو کاشت کے لئے دے دے اگر

ایسا کرنا چاہیے تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زمین سے فائدہ حاصل کرنے کے صرف دو طریقے ہیں۔

(۱) خود کاشت کرے (۲) کسی کو کاشت کے لئے دے دے۔

۲۔ رافع بن خدیج روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے زمین کا کرایہ وصول کرنے سے منع فرمایا یہ حدیث ممانعت کرایہ میں نص صریح ہے۔

۳۔ مسلم جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے زمین کی اجرت یا حصہ لینے سے منع فرمایا۔ یہ بھی نص صریح ہے۔

۴۔ مسلم ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو اس سے خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے ورنہ اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔ اس حدیث

سے امام اوزاعی کی روایت کردہ حدیث کی طرح طریق انتفاع کا حصر معلوم ہوتا ہے۔

۵۔ اسی طرح ابن حزم وہ احادیث نبویہ نقل کئے جاتے ہیں جن سے طرق انتفاع کا محدود محدود ہونا اور کرایہ لینے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

”یہ نقول متواترہ ہیں جو یقینی علم کی موجب ہیں“

ابن حزم اسی نقل و

اراضی کے اجارہ میں نبی کریم اور صحابہ کرام کا تعامل :- روایت پر اکتفاء نہیں

کرتے بلکہ آنحضرت کا تعامل بھی بیان کرتے ہیں۔

۱۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے یہود کو خیبر کی زمینیں دے دیں اور ان سے فرمایا کہ ان میں کھیتی باڑی کریں اور انہیں نصف پیداوار ملے گی۔

۲۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ آپ نے یہود خیبر کو ان کی اراضی اور کھجوریں اس شرط پر دے دیں کہ آپ نصف پیداوار لیں گے۔

۳۔ امام مسلم نے روایت کی ہے کہ جب نبی کریم نے خیبر فتح کیا تو یہود کو وہاں سے جلا وطن کرنا چاہا۔ یہود نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ انہیں خیبر میں رہنے دیا جائے وہ زمینوں کو خود کاشت کریں گے اور آپ

کو نصف پیداوار دیں گے۔ آپ نے فرمایا جب تک ہم چاہیں گے تمہیں رہنے دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر کے زمانہ تک وہ خیبر میں مقیم رہے۔ پھر انہوں نے یہود کو وہاں سے نکال دیا۔ حضرت

ابوبکر و عمر اور جمیع صحابہ کا یہی طرز عمل رہا۔

لے یہ دلائل المحلل ج ۸ ص ۲۱۱ تا ۲۱۴ سے ماخوذ ہیں۔

مگر بعض اقوال و آثار میں ہر قسم کا معاوضہ لینے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس میں پیداوار کا حصہ لینے کی بھی شامل ہے حالانکہ احادیث سے اراضی کو بٹائی پر دینے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ ابن حزم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ بٹائی پر دینے کی صورت میں عام نہیں منسوخ سمجھی جائے گی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خیبر میں آپ کے تعامل سے بٹائی کا جواز ثابت نہ ہوتا تو ہم کہتے کہ کوئی معاوضہ لینا بھی جائز نہیں۔

ابن حزم کہتے ہیں :-

«اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آنحضرت کی وفات اسی تعامل پر ہوتی تو ہم نسخ کے قائل نہ ہوتے۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ بٹائی پر دینا آپ کا آخری عمل ہے۔ لہذا اس کا نسخ ہونا ایک صحیح اور یقینی امر ہے۔ اجارہ کے دیگر اقسام کی ممانعت بدستور رہی کیونکہ ان کا منسوخ ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں نہ تخصیص کی کوئی دلیل ہے۔ کوئی شخص اگر دروغ گوئی اور ظن و گمان سے کام لے تو الگ بات ہے۔ دین اسلام میں ظن و کذب کے لئے کوئی جگہ نہیں!»

ابن حزم اس نظریہ میں منفرد ہیں اور جمیع فقہاء یہاں تک کہ اصحابِ طاہر کے شیخ ابوسلمان واؤد کے بھی خلاف ہیں۔

فرماتے ہیں :-

«امام ابوحنیفہ، مالک، شافعی ابویوسف محمد زفر اور ابوسلمان زمین کے کرایہ کو بالاتفاق جائز قرار دیتے ہیں»

ابن حزم مجوزین اجارہ کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے ثابت بن سخاک کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے بٹائی سے منع کیا۔ زمین کا کرایہ وصول کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ جمہور فقہاء کا قول ہے کہ جن احادیث میں زمین کا کرایہ وصول کرنے کی ممانعت کی گئی ہے وہ ایک خاص واقعہ میں وارد ہوئی ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ زمین کے کرایہ میں لوگ بھگڑا کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا جب تمہاری یہ حالت ہے تو زمین کو کرایہ پر نہ دیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نہی صرف حالت نزاع کے ساتھ مختص ہے۔ اس سے عام طور پر اراضی کو کرایہ پر دینے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ اراضی بھی دیگر مملوکہ اشیاء کی طرح ہیں کہ ان سے خود بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کرایہ پر بھی دے دیا جاتا ہے۔ جہاں تک کہ نزاع کا تعلق ہے وہ بٹائی میں اجارہ کی نسبت کثرت سے وقوع میں

آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اراضی کو سونے چاندی کے عوض کرایہ پر دینے کی اجازت مرحمت فرمائی۔  
ابن حزم ان احادیث و آثار پر تنقید کرتے ہیں۔ بعض کی سندیں ضعف ثابت کرتے اور بعض کو دوسرے معنی پہناتے ہیں۔

ابن حزم کا یہ نظریہ اشتراکی نقطہ نظر کی **ابن حزم کے زاویہ نگاہ کی توضیح :-** ترجمانی کرتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ زمین کا فائدہ وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو اس میں کام کرے یا اس کے نفع نقصان کا ذمہ دار ہو۔ اجارہ داری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مالک ٹھیکہ وصول کر لیتا ہے خواہ زمین میں کچھ پیدا ہو یا نہ ہو۔ عقد اجارہ کی ادائیگی ایک ضروری چیز ہے اور وہ حسب معاہدہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ ابن حزم جہاں اجارہ سے منع کرتے ہیں وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ جیب زمین میں کچھ پیدا نہ ہو تو مالک کو بھی کچھ نہیں لینا چاہیے۔

ابن حزم کی رائے میں اراضی سے انتفاع صرف دو ہی طریقہ سے ممکن ہے۔ تیسرا کوئی طریقہ نہیں۔

(۱) خود کاشت کرے اور اس کے نفع نقصان کا ذمہ دار ہو۔

(۲) کسی دوسرے شخص کو بٹائی پر دے دے۔ اگر پیداوار زیادہ ہوگی یا کم ہوگی تو دونوں تقسیم کر لیں گے اگر کچھ بھی پیدا نہ ہوگا تو مالک کچھ نہ لے گا۔ دونوں کو برابر نقصان پہنچے گا۔ مالک کو زمین کے بنے کار دہنے کا اور مزارع کو سعی و جہاد اور کاوش کے ضائع ہونے کا۔ یہ تقسیم بینی بر عدل و انصاف ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس نظریہ سے متاثر تھے۔ اگرچہ امام احمد کی طرح وہ اجارہ کی اجازت دیتے تھے۔ مگر ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ جب فصل کو نقصان پہنچ جائے یا کسی آفت کی وجہ سے پھل گر جائے تو اجارہ بھی نہیں لینا چاہیے۔ اس کی ادائیگی اس صورت میں واجب بھی نہیں۔ بلاشبہ ابن تیمیہ ابن حزم سے مسئلہ زیر نظر میں متاثر ہوئے تھے۔

یہ ہیں فقہ ظاہری کے افکار و آراء عموماً اور فقہ ابن حزم کے خصوصاً۔ ہم نے ثبوتی نوٹ از خردارے کے طو سے **فقہ ظاہری کی کشاوت و امانی :-**

صرف چند مسائل ذکر کئے ہیں تاکہ قاری کریم یہ اندازہ لگا سکے کہ ابن حزم نے اپنے وضع کردہ قواعد کی کس حد تک پیروی کی۔ نیز یہ حقیقت منظر عام پر آجائے کہ نصوص سے تمسک کرنے اور مناہج استنباط و استخراج کے محدود ہونے کے باوصف فقہ ظاہری کے دامن میں کس قدر وسعت پائی جاتی ہے۔

ہم نے ذکر کردہ مسائل کے عملی پہلو پر روشنی ڈالی اور مقصداً ان کا وہ رخ متعین کیا جس میں وہ ائمہ اربعہ کے مسلک سے الگ ہیں۔ ہمارا مقصد اس سے یہ تھا کہ فقہ ابن حزم کے امتیازی خدو خال اجاگر ہو جائیں اور ان کا کوئی پیلو تاریخی میں نہ رہے۔

(وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ تَعَالٰی هُوَ الْمَعِيْنُ، وَهُوَ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ)

## ابن حزم کے بعد ظاہری فقہ کے احوال و آثار

**چراغِ ملے اندھیرا**۔ ابن حزم جب تک بقید حیات رہے ظاہری فقہ کے مخالفین کا مقابلہ کرتے رہے۔ فقہ ظاہری کی مدافعت میں لا تعداد حوادث روزگار سے دوچار ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے اہل زمانہ میں بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے اور جفا پیشہ لوگوں کے مقابلہ میں سینہ سپر ہونے پر مجبور ہوئے۔ آپ یہ محسوس کرتے تھے کہ اہل اندلس میں آپ ایک گویہز تابدار ہیں جو بے قدر لوگوں کے ہاتھ آ گیا ہو اور انہیں معلوم نہ ہو کہ آیا وہ ایک بیش بہا موتی ہے یا پتھر کا ایک ٹکڑا۔ اہل اندلس کے مابین قیام پذیر ہونے کے متعلق شاید بلیغ ترین مضمون وہ ہے جو آپ نے اپنے رسالۃ العلماء سے تحریر کیا۔ جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہ تحریر آپ نے اس ضمن میں سپرد قلم کی ہے کہ ایک فاضل اجل جب بے قدر لوگوں کے درمیان بود و باش رکھتا ہو تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔

ابن حزم رسالہ مذکورہ میں ارقام فرماتے ہیں۔

”ہماری حالت مشہور ضرب المثل کی مصداق ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر لوگ

اپنے یہاں کے عالم کے قدر شناس نہیں ہوتے۔ میں نے انجیل میں حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقولہ پڑھا ”اپنے شہر میں پیغمبر کا احترام نہیں کیا جاتا۔“

بنی کریم کو قریش سے جو ذہیت پہنچی اس سے ہمیں اس مقولہ کا یقین آ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بڑے زہرک اور دیدہ ور تھے۔ مکہ جیسے شہر میں سکونت پذیر تھے جو افضل البلاد تھا اور آب شیریں پیتے تھے۔ قریش کی بے رخی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اوس و خزرج کے قبائل کو اس نعمت عظمیٰ سے نوازا **كَاللّٰهُ يُؤْتِيْ فَضْلَهٗ مَنْ يَّشَاءُ**

سرزمین اندلس اپنے یہاں کے علماء و فضلاء کے خلافت حد و بغض رکھنے ان کے اوصاف جلیبہ سے صرف نظر کرنے اور ان کے عیوب کی انگشت نمائی میں اپنی مثال آپ تھے۔ علماء کی زندگی میں یہ منافرت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر عالم کوئی اچھی بات لکھتا یا کہتا ہے تو اسے چوراہ

جھوٹا دعویٰ دار کہا جاتا ہے۔ اگر وہ متوسط درجہ کا اہل علم ہو تو اسے افسردہ مزاج اور کمزور کہہ کر طال دیا جاتا ہے۔ اگر وہ عالم علم و فضل میں سبقت و بہارت کے بھنڈے گاڑ دے تو کہا جاتا ہے یہ کہاں پیدا ہوا؟ اس نے کہاں اور کب تعلیم حاصل کی؟ اس کے بعد اگر اسے جینے کی کچھ مہلت ملے تو اس کے پیش نظر دو طریق کار ہوتے ہیں۔ یا تو وہ اندھا دھند ان کی پیروی کرنے لگ جئے یا جدا گانہ راہ پر گامزن ہو۔ دوسری صورت میں اس کے خلاف جنگ آزمائی کا آغاز ہوتا ہے۔ لوگ اسے طرح طرح کے اقوال و انکار کی آماجگاہ بنا لیتے ہیں۔ زبان درازی سے کام لیتے اور سب و شتم سے بھی گریز نہیں کرتے تھے بعض اوقات ناگفتہ اقوال کو اس کی جانب منسوب کر دیا جاتا ہے اور وہ چیزیں اس کے گلے کا بار ہو جاتی ہیں جنہیں وہ تسلیم بھی نہیں کرتے۔ جن باتوں پر اس کا اعتقاد نہیں ہوتا ان کی نسبت اس کی طرف کر دی جاتی ہے۔

ایسا عالم لوگوں پر فائق ہونے کے باوجود اگر تقریب سلطانی سے بہرہ ور نہ ہو تو نہ نقصان سے بچ سکتا ہے اور نہ مخالفین سے سلامت رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے تو طعن و تشنیع کا نشانہ بنتا اور ظلم و تعدی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کی رائی کو پہاڑ بنا دیا جاتا اور اس کی آنکھ کا تنکا شہیر نظر آتا ہے۔ اس کے اوصاف پر پردہ ڈال دیا جاتا اور اس کی لغزشوں کا بیان گل دہل اشتہار دے دیا جاتا ہے۔ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ افسردہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ سرزمین اندلس میں شعراء و علماء کا بھی یہی حشر ہوتا ہے۔ شاذ و نادر ہی کوئی شخص ان آلام و محن کے چکر سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے!

اپنے شہر میں عالم کی یہی حالت ہوتی ہے۔ ابن حزم  
فقہ ابن حزم اور سرزمین اندلس

اندلس کے ساتھ اپنے معاملہ کو تقدیر کی سپور نہ کیا۔ بلکہ بڑے تیز و تند لہجہ میں ان پر تنقید کی اور بڑی جرأت سے ان کے خلاف نبرد آزما ہوئے۔ اہل اندلس نے ان کے خلاف حکام وقت کو بھڑکایا۔ ان کی تصانیف نذر آتش کر دیں۔ ابن حزم اور ابان میان اندلس کے مابین حرب و پیکار کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ وہ علماء سے لڑ چھگڑ کر اپنے وطن مالوت میں آکر اپنی جاگیر میں خاتم نشین ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس مسلک کی مدافعت کا بیڑا ابن حزم نے اٹھایا تھا ان کے حرب و پیکار نے اس پر کیا اثر ڈالا؟ بلاشبہ ظاہری مسلک کو ابن حزم کی نبرد آزمائی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔



ظاہری فقہ مشرق میں تقریباً ناپید ہو چکی تھی۔ ابن حزم نے مغرب میں اسے حیات نو بخشی۔ مگر باہم حرب و پیکار اور جنگ و جدل کے باعث ابن حزم ایسا یگانہ روزگارِ فاضلِ علوم سے کا حصہ اندلس میں رائج نہ کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جیتے ہی اور بعد از وفات اندلس میں فقہ ظاہری کو قبولِ عام حاصل نہ ہوا۔ البتہ دو باتوں سے ظاہری فقہ کو بڑا فائدہ پہنچا۔

**امراول:** ابن حزم جس دورانِ تادہ مکان میں اقامت گزین تھے وہاں طلبہ علم و فضل کی تلاش میں ان کے یہاں آتے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ اسی دورانِ قیام میں انہوں نے آپ سے حدیث و فقہ اور دیگر علوم اسلامیہ کی تعلیم حاصل کی۔ یہ تلامذہ اگرچہ تعداد میں زیادہ نہ تھے اور اس کے باوصف کم سن بھی تھے تاہم ان میں جس درجہ کا اخلاص پایا جاتا تھا۔ وہ کثرتِ تعداد سے بے نیاز کر دیتا تھا۔

**امریثانی:** دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے ظاہری فقہ کے دیگر مذاہب و مذاہب کے مقابل کر کے اسے مدون کیا۔ اس کے اصول مرتب کئے اور اس کی اس حد تک مدافعت کی کہ وہ ایک زندہ فقہ نظر آنے لگی۔ جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا وہ اس سے فیض یاب ہوتا۔ فقہ ظاہری کی مقبولیت کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ مصر و شام کے حکام نے دستور سازی میں وجوبِ وصیت اور دیگر مسائل میں اس سے استفادہ کیا۔

ابن حزم کی وفات سے

**ابن حزم کی تصانیف کی نشر و اشاعت:** فقہ ظاہری کرۂ ارضی سے معدوم نہیں ہوئی بلکہ آپ کے اصحاب و تلامذہ نے ان کی تصانیف کی نشر و اشاعت کے بل بوتے پر اسے زندہ رکھا۔ اگرچہ بلادِ اسلامیہ میں آپ کے تلامذہ موجود نہ تھے تاہم علماء آپ کی کتب سے استفادہ کرتے تھے۔ سرزمینِ مشرق میں جس شخص نے سب سے پہلے ابن حزم کے علم کو پھیلایا۔ وہ آپ کے تلمیذ الحمیدی تھے۔ جنہوں نے بخاری و مسلم کو یکجا کیا۔ وفات ابن حزم کے بعد الحمیدی بھاگ کر مشرق پہنچے اور وہاں تصانیف ابن حزم کے ذریعہ ان کی فقہ کی نشر و اشاعت کی۔

الحمیدی کا پورا نام محمد بن ابی نصر ہے ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ یہ ۲۸۶ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۸۸ھ میں وفات پائی۔ یہ بڑے مؤرخ، محدث اور حافظِ احادیث تھے۔ اکثر

علوم ابن حزم سے سکھے۔ ابن حزم سے ان کی تصانیف پڑھیں اور انہیں مشرق میں رواج دیا۔ ابن حزم کی تصانیف ان کا مصدر و ماخذ اور علمی گنجینہ تھیں جن میں تمام مسائل پوری شرح و بسط سے مذکور تھے۔ الحمیدی نے یہ کتب تصنیف کیں۔

(۱) الجمع بین الصحیحین (علم حدیث)

(۲) کتاب جذوة المقتبس (تاریخ)

(۳) کتاب الامانی الصادقة (تاریخ)

آخری دو کتب میں اندلس کے احوال و اخبار درج ہیں یہ کتب بعد میں آنے والے مورخین کا بڑا ماخذ ہیں۔

ابن حزم کے تلامذہ اور ان کی تصانیف کی **جذو ظاہری فقہاء کی خدمات جلیلہ** نشر و اشاعت کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ ہر زمانہ میں کوئی جید ظاہری فقیہ ضرور ہوا کرتا تھا جو ظاہری فقہ کی طرف دعوت دیتا اور اس کی پشت پناہی کرتا تھا۔ چنانچہ الحمیدی کے تلامذہ میں سے ابوالفضل محمد بن طاہر المقدسی ہوئے۔ انہوں نے الحمیدی سے ظاہری فقہ کا درس لیا اور مشرق میں اس کی خوب نشر و اشاعت کی۔

سزین اندلس کسی دور میں بھی فقہاء ظاہر سے خالی نہ رہی۔ چنانچہ حافظ ابوالخطاب مجدالین بن عمر بن حسن ان علماء میں سے ایک تھے۔ آپ ابوالخطاب بن وحیہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ نے پورے اندلس کا چکر لگایا اور مختلف شہروں و اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ پھر بلا د مغرب سے نقل مکانی کر کے خلفاء الیویہ کے عہد میں مصر روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ ۶۳۳ھ میں بمقام قاہرہ خالق حقیقی سے جا ملے اور المقطم میں مدفون ہوئے۔

مورخ المقرئی ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”آپ نے مغرب و مصر و شام اور عراق و عجم میں حدیث کی روایت کی۔ طلب حدیث میں مختلف دیار و اقصاء کی خاک چھانی، کتابیں جمع کیں اور لوگوں کو حدیث بنوی کا درس دیا۔ متعدد بیش قیمت مفید کتب تصنیف کیں۔ ان میں سے کتاب التتویر فی السراج المینر بھی ہے۔ یہ کتاب آپ نے اس وقت تصنیف کی۔ جب آپ لکھنؤ میں خراسان جاتے ہوئے اربل کے شہر میں سے گزرے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان اربل مظفر الدین کوکبری میلاد الینبی سے بڑی چٹھی رکھتے اور ہر سال ربیع الاول میں اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، تو انہوں نے سلطان کے لئے

یہ کتاب تصنیف کی اسے مکمل کیا اور بہ نفس نفیس سلطان کو پڑھ کر سنایا۔  
 آپ نے ایک کتاب "الآیات البینات" نامی بھی تصنیف کی۔ اسی طرح متعدد  
 کتب تصنیف کیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ یہ ظاہری المذہب تھے۔  
 اسی عرصہ و عہد میں سلطان ابو یوسف، یعقوب بن یوسف بن عبدالمومن نے جو سلطنت  
 موحدین کے تیسرے سلطان تھے، دیارِ اندلس و مغرب میں فقہ ظاہری کی طرف دعوت دی جیسا  
 کہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔

**مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَرَبِيِّ وَأُورْفَةُ ظَاهِرِيَّةٌ**  
 محی الدین ابن عربی اور فقہ ظاہری تھے۔ جنہوں نے فکرِ اسلامی پر بڑا اثر ڈالا

آپ بھی ظاہری المسلک تھے اور عبادات و فروعاً میں ظاہری مسلک کے پابند تھے۔  
 آپ ابو الخطاب بن وحیہ کے معاصر تھے۔ ابن عربی ۵۶۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۳۸ھ میں  
 وفات پائی۔ ہم ان کے علوم و فنون اور طرزِ فکر و نظر پر بحث نہیں کرنا چاہتے۔ صرف یہ بتانا  
 مقصود ہے کہ فروعاً میں آپ ظاہری المسلک تھے۔ ابن عربی نے ابن حزم کی تصانیف  
 پڑھیں، پھر ان کے تلامذہ نے ان سے یہ کتب روایت کیں۔  
 المقرئ ابن عربی کے بارے میں لکھتے ہیں۔

"آپ عبادات میں ظاہری مسلک کے پابند تھے اور اعتقادات میں باطنی  
 نقطہ نظر کے حامل تھے۔ آپ بروز جمعہ جبلِ قیسون میں مدفون ہوئے۔"

ابن عربی بھی سلاطین موحدین کے عہد و عصر میں ہوئے جنہوں نے فقہ ظاہری کو اندلس اور دیارِ  
 مغرب میں رواج دیا۔

یہ بات کہنا قرینِ صدق و  
**سلطنتِ موحدین میں فقہ ظاہری کا ظہور و شیوع**۔ صواب ہے کہ چھٹی صدی  
 ہجری کے اواخر اور ساتویں صدی کے اوائل میں ظاہری فقہ خوب پھیلی پھولی۔ سلطان یعقوب بن  
 عبدالمومن جو ۵۸۱ھ سے ۵۹۵ھ تک سربراہانِ سلطنت رہا انہوں نے تمام شمالی افریقہ اور بلادِ اندلس  
 میں حکماً فقہ ظاہری کو رائج کیا۔ اس کے بعد انے والے سلاطین بھی اس کے نقش قدم پر چلے۔

(المعجب فی تدریص اخبار المغرب) کا مصنف لکھتا ہے کہ سلطان مذکور نے حدیث نبوی کی طرف دعوت دی۔ وہ صرف کتاب وسنت سے اخذ و احتجاج کی تلقین کرتا تھا یہاں تک کہ اس نے فقہ مالکی پر مشتمل تمام کتب کو نذر آتش کر دیا۔  
المعجب کا مصنف لکھتا ہے۔

«سلطان یعقوب کے زمانہ میں علم فقہ کا خاتمہ ہو گیا۔ فقہاء پورے لگے۔ سلطان نے حکم دیا کہ احادیث نبویہ و آیات قرآنیہ کو الگ کرنے کے بعد فقہ مالکی کی کتب کو نذر آتش کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام بلاد اسلامیہ میں سے مالکی کتب جلا دی گئیں جن میں یہ کتب شامل تھیں۔

(۱) مدونہ سخنون۔

(۲) کتاب ابن یونس۔

(۳) نوادر ابن ابی زید۔

(۴) مختصر ابن ابی زید۔

(۵) کتاب التہذیب از بردعی۔

(۶) واضحہ ابن حبیب

اور اس قسم کی دیگر کتب جو مالکی فقہ پر مشتمل تھیں۔ میں ان دنوں "فاس" کے شہر میں سکونت گزین تھا میری موجودگی میں علمی کتب لائی جاتی اور انہیں نذر آتش کر دیا جاتا۔

اس دور میں مالکی

**عصر مؤرخین میں کتاب وسنت کی نشر و اشاعت**

جلا دیا گیا، جس طرح عصر ابن حزم میں فقہ ظاہری کی کتب کو نذر آتش کر دیا گیا تھا۔ شرعی و اخلاقی جواز نہ مالکی کتب کے جلانے کا تھا، اور نہ ظاہری فقہ کی تصانیف کا۔ سلطان یعقوب فقہی کتب کو جلانے کے بعد ترک رائے اور کتاب وسنت سے اخذ و احتجاج کی دعوت دینے لگا۔ المعجب کا مصنف لکھتا ہے:

«سلطان یعقوب نے لوگوں کو فقہ سے روگردانی کا حکم دیا اور اس پر بڑی بڑی

سزائیں دینے کی دھمکی دی۔ جو محدثین و علماء ان کے عہد میں موجود تھے۔ انہیں کتب عشرہ سے ناز اور اس کے متعلقات کے بارے میں حدیثیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ کتب عشرہ یہ ہیں:-

(۱) بخاری (۲) ترمذی (۳) مسلم (۴) موطا (۵) سنن ابی داؤد (۶) سنن نسائی (۷) سنن بزار (۸) مسند ابی شیبہ (۹) سنن الدارقطنی (۱۰) سنن البیہقی۔  
قبل ازیں محمد بن توہرت نے طہارت سے متعلقہ احادیث کو یکجا کر دیا تھا۔ علماء نے حکم کی تعمیل کی اور ناز کے مسائل ایک مجموعہ میں جمع کر دیے۔ احکام ناز کا یہ مجموعہ دیارِ مغرب میں خوب پھیلنا اور عام و خاص نے اسے حفظ کر لیا۔ سلطان اس کے حافظ کو بڑا انعام و اکرام اور خلعت دیا کرتا تھا۔ وہ بہ یک جنبش قلم مالکی مذہب کو بلادِ مغرب سے نیست و نابود کر کے کتاب و سنت کو راجح کرتا چاہتا تھا۔

سلطان یعقوب

**عصرِ موحّدین میں علمائے حدیث پر انعامات کی بارش**۔ نے اسی پر پس

نہ کی بلکہ طلبہ کی ایک جماعت کو فقہِ ظاہری کی نشر و اشاعت پر مامور کر دیا۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسلک اٹیندہ نسلوں تک پہنچ جائے۔ چنانچہ اس نے علمِ حدیث کے طلبہ کی جانب توجہ مبذول کر کے ان پر انعامات کی بارش شروع کر دی۔

المعجب کے مصنف لکھتے ہیں:-

”سلطان یعقوب کے زمانہ میں علمِ حدیث کے طلبہ عنایاتِ خصوصیہ کا مورد ہوئے۔

یہ انعام و اکرام ان پر یعقوب کے باپ اور دادا کے زمانہ میں بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جب سلطان کو پتہ چلا کہ اس کے بعض اقارب طلبہ کو حصر و رقابت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا ”اے گروہ

۲۷۹ ص المعجب۔

محمد بن توہرت سلطنتِ موحّدین کا بانی تھا۔ یہ چھٹی صدی ہجری کے دوسرے عشرہ میں بقید حیات تھا۔ یہ ظاہری فقہ کا پابند تھا۔

موحّدین تمہارے عزیز و اقارب موجود ہیں جب کسی کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو اپنے قبیلہ میں پناہ گزین ہوتا ہے۔ ان طلبہ کا میرے سوا کوئی قبیلہ نہیں۔ انہیں بھی تکلیف پہنچے گی تو ان کا سہارا اور جائے پناہ میں ہوں۔ اس روز سے سلطان کے اقارب طلبہ کی بہت عزت افزائی کرنے لگے۔

خلاصہ کلام یہ کہ سلطان یعقوب کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی جماعت کا وجود بنا کر یہ ہے جو ظواہر کتاب و سنت کی پابند ہو اور ان مذاہب میں محدود و مقید نہ ہو جو رائے کا التزام کرتے ہیں۔ تاکہ آئندہ نسلوں میں فقہ ظاہری کی تحفظ و بقا کی ضمانت حاصل ہو جائے اور یہ مذہب مستقبل میں خوب پھلے پھولے۔

حقیقت یہ ہے کہ سلطان یعقوب بن

**فقہ ابن حزم کی جبری اشاعت :-** یوسف سے قبل بھی سلطنت موحّدین کے

اراکین و سلاطین پر اتباع کتاب و سنت کا نظریہ غالب تھا۔ سلطان کے والد اور دادا بلکہ سلطنت موحّدین کا داعی اور بانی محمد بن توہرت بھی یہی مسلک رکھتا تھا۔ اتنا فرق ہے کہ سلطان یعقوب نے علانیہ اس کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور جبراً لوگوں کو اس کا پابند بنایا ابن حزم فرمایا کرتے تھے کہ وندہب اقتدار کے بل بوتے پر پھیلے۔ مشرق میں حنفی فقہ اور دیار مغرب میں فقہ مالک۔ اگر وہ سلطان یعقوب کے زمانہ تک بقید حیات ہوتے اور اس کے رویہ کو دیکھتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان کی فقہ سلطان کے اثر و سرخ سے ہی نہیں پھیلی تھی بلکہ جبراً لوگوں کو اس کا پابند بنایا گیا تھا اور دیگر مذاہب و مسالک یا بالفاظ موزوں ترقہ مالکی پر مشتمل کتب نذر آتش کر دی گئی تھیں۔

**سلطنت موحّدین کے آغاز ہی میں اتباع کتاب و سنت :-** ہم قبل انہیں بیان کر چکے ہیں

کہ سلطان یعقوب کے باپ دادا کا مسلک بھی یہی تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت موحّدین کے سلاطین آغاز کار ہی سے اسی طریقہ فکر و نظر کے حامل تھے۔ اس کی دو دلیلیں ہیں :-

پہلی دلیل: اس کی پہلی دلیل کتاب المعجب کے مصنف کا یہ بیان ہے کہ نماز کے متعلق ہوا دلیں رسالہ تخریر کیا گیا وہ اس رسالہ کی طرح تھا جو محمد بن توہرت نے طہارت کے مسائل پر لکھا۔ محمد بن توہرت جس نے مرابطن کی سلطنت کا خاتمہ کر کے سلطنت موحدین کی بنیاد ڈالی فقہ ابن حزم کا اولین داعی تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فردعی مسائل کے استخراج کے لئے نصوص کتاب و سنت کی طرف میلان و رجحان سلطنت موحدین کے سلاطین کا ابتدائی مسلک تھا جو انہوں نے آغاز سلطنت میں اختیار کیا۔ اس کو اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا داعی محمد بن توہرت اس مسلک کا حامل تھا۔

دوسری دلیل: کتاب المعجب کا مصنف سلطان یعقوب بن عبدالمومن کے متعلق لکھتا ہے:-

”حافظ ابوبکر بیان کرتے ہیں کہ جب وہ پہلی مرتبہ امیر المومنین یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے پاس ابن یونس کی کتاب دیکھی۔ امیر المومنین نے کہا ابوبکر! دین اسلام میں طرح طرح کے اقوال رائج کئے گئے ہیں۔ کسی مسئلہ میں چار اقوال ہیں، کسی میں پانچ اور کسی میں اس سے بھی زیادہ۔ بتائیے ان میں سے کونسا قول حق ہے؟ اور مقلد کس قول پر عمل کرے؟ میں نے جواب دیتے ہوئے ان مشکلات کی گرہ کشائی کی۔ امیر المومنین نے قطع کلامی کر کے ہوئے کہا ابوبکر! قابل تعجب چیزیں تو صرف یہ ہیں۔ پہلے قرآن کریم کی طرف اشارہ کیا، پھر دائیں طرف سنن ابی داؤد کی طرف اشارہ کیا اور اگر ان کی پیروی نہ کی جائے تو پھر تلوار ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب نے جس بات کا اظہار کیا اس کے والد اور دادا کی نیت یہی پناہ مناسب وقت پر انہوں نے اس کا اظہار کر دیا۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ فقہ ظاہری اقتدار کے زیر سایہ **حزم موحدین کی نگاہ میں** پر دان پڑھی اور اس طرح ابن حزم کا خواب شرمندہ جس کے لئے انہوں نے بڑی مشقت اٹھائی۔

بھی کہا جاتا ہے کہ موحدین خانوادہ کے سلاطین کتاب و سنت پر عامل تھے، پھر سوال پیدا ہوتا ان کا ظاہری فقہ سے کیا تعلق تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ ظاہری اتباع کتاب و سنت ہی

سے عبارت ہے: دونوں میں کوئی فرق نہیں اس لئے کہ ظاہری فقہ ہی وہ مسلک ہے جو کتاب و سنت کا داعی ہے اور تقلید سے باز رکھنا ہے۔ ابن حزم ان سلاطین کے نزدیک بڑی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ سلطان یعقوب جب واد و اندلس ہوا تو ابن حزم کی قبر پر سے گذرا اور کہا یہ دیار مغرب کے سب سے بڑے عالم کی قبر ہے۔ مومنین نے فقہ ظاہری کو حیاتِ نوبختی اور لوگوں کو دیگر مذاہب و مسلک کی پیروی کرنے سے روک دیا۔

خلاصہ کلام ابن حزم ایسے عالم جلیل لے اس طرح حیات جاوید پائی اور علماء اسلام میں ابدال آباد تک آپ کا نام نامی زندہ پایندہ و تابندہ رہا۔ گویا اندلس کا فردوس گم گشتہ اور ابن حزم باہم لازم و ملزوم اور ایک دوسرے کا جز و لاینفک ہیں۔

و عا ہے کہ خداوند کریم اسلام کا بول بالا کرے اور اسے پھر وہی شوکت رفتہ عطا کرے۔  
بعونہ تعالیٰ اس کتاب کی تسوید و تحریر سے بروز جمعرات چھ رجب ۱۳۷۳ ہجری مطابق گیارہ مارچ ۱۹۵۳ء

فارغ ہوا۔

هُوَ بِنِعْمَةِ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَةِ النَّصِيرِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا  
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ - وَهُوَ وَكِيلُ الْكَافِرِيْنَ -



# حیاتِ امام ابنِ عمر

سیرت و سوانح ❖ عصر و عہد ❖ افکار و آراء ❖ آثار

تصنیف  
ایشیخ محمد البوزہرہ

ترجمہ و تفسیر  
پروفیسر غلام احمد قریری